

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

فتاوى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولانا مفتي شبير احمد القاسمي

خادم الافتاء و الحديث جامعه قاسميه
مدرسه شاهي مرادآباد، الهند

(جلد ۲۱)

المجلد الحادى والعشرون

الديون، الوديعة، الامانة

الضمان، الهبة، الجارة

۹۳۵ ————— ۹۷۳۵

ناشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

فتاویٰ قاسمیہ

صاحب فتاویٰ
حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

094 12552294 بخت صاحب فتاویٰ شبیر احمد القاسمی

09358001571 بخت مالک مکتبہ اشرفیہ دیوبند

08810383186 01336-223082

محرم الحرام ۱۴۳۷ھ پہلا ایڈیشن

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، ضلع سہارنپور، الہند

01336-223082

ASHRAFI BOOK DEPOT

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571-08810383186

مكمل اجمالى فهرست ايك نظر مين

رقم المسأله	عنوانات
المجلد الأول	١ ١٧٢ مقدمة التحقيق، الإيمان والعقائد إلى باب ما يتعلق بالارواح.
المجلد الثاني	١٧٣ ٥٥٧ بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر، إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب، التاريخ والسير، البدعات والرسوم.
المجلد الثالث	٥٥٨ ١٠٠٥ بقية البدعات والرسوم من باب رسومات جنائز إلى رسومات نكاح، كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.
المجلد الرابع	١٠٠٦ ١٤١٥ بقية كتاب العلم من كتابة القرآن إلى باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار.
المجلد الخامس	١٤١٦ ١٩٣٥ الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.
المجلد السادس	١٩٣٦ ٢٤٥٧ الجماعة، المساجد، الإمامة.
المجلد السابع	٢٤٥٨ ٢٩٦٤ بقية الصلوة من تسوية الصفوف إلى سجود التلاوة.
المجلد الثامن	٢٩٦٥ ٣٤٢٣ بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والتوافل، التراويح، صلوة المسافر.

المجلد التاسع	٣٤٢٤	٣٨٩٣	بقية الصلوة، صلوة المريض، الجمعة، العيدين، الجنائز إلي حمل الجنازة.
المجلد العاشر	٣٨٩٤	٤٤٠٤	بقية الجنائز من صلوة الجنائز إلي باب الشهيد، كتاب الزكوة.
المجلد الحادي عشر	٤٤٠٥	٤٨٧٣	بقية الزكوة، كتاب الصدقات، الصوم، بتمام أبوابها إلي صدقة الفطر.
المجلد الثاني عشر	٤٨٧٤	٥٣٤٨	كتاب الحج بتمام أبوابها، النكاح إلي باب نكاح المكره.
المجلد الثالث عشر	٥٣٤٩	٥٩٤٣	بقية النكاح إلي باب المهر.
المجلد الرابع عشر	٥٩٤٤	٦٤٦٢	الرضاع، الطلاق إلي باب الكناية.
المجلد الخامس عشر	٦٤٦٣	٦٩٠٢	بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالكتابة، الطلاق الثلاث، الشهادة في الطلاق، الحلالة.
المجلد السادس عشر	٦٩٠٣	٧٤٠٢	بقية الطلاق، تعليق الطلاق، التفويض، الفسخ والتفريق، الظهار، الإيلاء، الخلع، الطلاق على المال، العدة، النفقة، ثبوت النسب، الحضانة.
المجلد السابع عشر	٧٤٠٣	٧٨٦٧	الأيمان والنذور، الحدود، الجهاد، السلقطة، الامارة والسياسة، القضاء، الوقف إلي باب المساجد.
المجلد الثامن عشر	٧٨٦٨	٨٤٠٨	بقية الوقف من الفصل الثالث، المسجد القديم إلي مصلى العيد، والمقبرة. (قبرستان)

المجلد التاسع عشر	٨٤٠٩	٨٨٥٦	بقية الوقف، باب المدارس، كتاب البيوع، البيع الصحيح، الفاسد، المرابحة، الصرف، السلم، الوفاء، الشفعة، المزارعة.
المجلد العشرون	٨٨٥٧	٩٣٥٠	الشركة، المضاربة، الربوا بتمام أنواعها.
المجلد الحادي والعشرون	٩٣٥١	٩٧٣٥	الديون، الوديعة، الأمانة، الضمان، الهبة، الإجارة.
المجلد الثاني والعشرون	٩٧٣٦	١٠٢٤٥	الغصب، الرهن، الصيد، الذبائح بتمام أنواعها، الأضحية بتمام أنواعها، العقيقة، الحقوق، بأكثر أبوابها إلي باب حقوق الأقارب.
المجلد الثالث والعشرون	١٠٢٤٦	١٠٧٠٥	بقية الحقوق، الرؤيا، الطب والرقي بتمام أنواعها، كتاب الحظر والإباحة إلي باب السابع، ما يتعلق باللحية.
المجلد الرابع والعشرون	١٠٧٠٦	١١٢٠٥	بقية الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب، الانتفاع بالحيوانات، الخمر، الدخان، الهدايا، الموالاة مع الكفار، المال الحرام، الأدب، الهوى، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاوير.
المجلد الخامس والعشرون	١١٢٠٦	١١٦٠٠	الوصية، الفرائض بتمام أبوابها.
المجلد السادس والعشرون	١	١١٦٠٠	فهارس المسائل





فہرست مضامین

۲۷ / بقية كتاب الربوا

□	۱۱ / باب القرض	□
صفحہ نمبر		مسئلہ نمبر
۳۱ کتنی ضرورت میں سودی قرض لینے کی گنجائش ہے؟	۹۲۹۵
۳۲ سخت مجبوری کی حالت میں سودی قرض لینے کا حکم	۹۲۹۶
۳۳ مجبوری کی حالت میں سودی قرض لینا	۹۲۹۷
۳۵ لون کا معاملہ کرنا کیسا ہے؟	۹۲۹۸
۳۶ ہندوستان کو دارالحرہ خیال کر کے بینک سے لون لینا	۹۲۹۹
۳۸ بلا سودی قرض لے کر اس سے انتفاع	۹۳۰۰
۴۰ حکومت سے جتنا قرض لیں اتنا ہی ادا کریں تو کیسا ہے؟	۹۳۰۱
۴۱ سبسڈی اور کم شرح سود کے ساتھ سرکاری قرض	۹۳۰۲
۴۲ اقلیتی طبقہ کو ملنے والی سبسڈی کے ساتھ قرض لینے کا حکم	۹۳۰۳
۴۳ قرض کی وجہ سے کرایہ نہ لینا	۹۳۰۴
۴۴ سودی قرض	۹۳۰۵
۴۶ سود پر قرض دینا	۹۳۰۶
۴۷ بینک سے سودی قرض لینا	۹۳۰۷

۴۸	سودی قرض کا لین دین	۹۳۰۸
۴۹	سودی قرض لینے کا حکم	۹۳۰۹
۵۱	بینک سے سود لینا	۹۳۱۰
۵۳	بینک سے منافع (انٹریسٹ) اور مسلم معاشرہ	○
۵۷	قرض پر سود لینا اور دینا کیسا ہے؟	۹۳۱۱
۵۹	بینک سے سودی قرض لینے کی مختلف شکلیں	۹۳۱۲
۶۱	قرض سے زائد رقم وصول کرنا	۹۳۱۳
۶۲	قرض پر ہر ماہ نفع لینا سود	۹۳۱۴
۶۴	نفع لے کر ادھار روپے دینا	۹۳۱۵
۶۵	قرض کے بدلے نفع حاصل کرنا	۹۳۱۶
۶۶	فیصد فائدہ پر قرض دینا	۹۳۱۷
۶۷	فائنس کے نام سے ۱۰ ہزار قرض لے کر ایک ماہ بعد ۱۲ ہزار ادا کرنا	۹۳۱۸
۶۹	تجارت کے لئے تین ہزار دے کر چار ہزار واپس لینا	۹۳۱۹
۷۰	اضافہ کی شرط کے ساتھ قرضہ	۹۳۲۰
۷۰	قرض دے کر قرض گیرندہ کی زمین سے انتفاع کرنا	۹۳۲۱
۷۱	پیشگی گندم دے کر فصل پر زیادہ لینا	۹۳۲۲
۷۳	قرض کی رقم باقی رکھ کر چاول وصول کرنا	۹۳۲۳
۷۳	قرض کے عوض میں ملنے والے گیہوں کا حکم	۹۳۲۴
۷۴	قرض پر نفع حاصل کرنا	۹۳۲۵
۷۶	پانچ من دھان لینے کی شرط پر قرض دینا	۹۳۲۶
۷۷	تعلیمی لون	۹۳۲۷

- ۹۳۲۸ بینک سے قرض لے کر مکان کی تعمیر ۷۸
- ۹۳۲۹ سودی قرض لے کر مکان بنانا ۷۹
- ۹۳۳۰ ہوم لون ۸۰
- ۹۳۳۱ ہوم لون کا شرعی حکم ۸۲
- ۹۳۳۲ نقصان سے بچنے کے لئے لون لینے کا حکم ۸۳
- ۹۳۳۳ جلب منفعت کے لئے بینک سے لون لینا ۸۳
- ۹۳۳۴ قرض کی ایک اسکیم کا حکم ۸۴
- ۹۳۳۵ ٹیکس سے بچنے کے لئے سودی قرض لے کر تجارت کرنے کا حکم ۸۵
- ۹۳۳۶ سودی قرض لے کر فیکٹری چلانا ۸۶
- ۹۳۳۷ حکومت سے راس مل کے لئے سودی قرض لینا ۸۸
- ۹۳۳۸ بینک یا بلاک سے لون پر روپیہ لینا ۸۸
- ۹۳۳۹ بینک سے سودی قرض لے کر تجارت کرنا ۸۹
- ۹۳۴۰ تجارت کو فروغ دینے کے لئے سودی قرض لینا ۹۰
- ۹۳۴۱ کاروبار کے لئے گورنمنٹ سے لون لینا ۹۱
- ۹۳۴۲ تجارت کو فروغ دینے کے لئے حکومت سے سودی قرض لینا ۹۳
- ۹۳۴۳ سرکار سے قرض لے کر تجارت کرنا ۹۴
- ۹۳۴۴ سخت مجبوری میں کیا لون لے کر تجارت کر سکتے ہیں؟ ۹۶
- ۹۳۴۵ تجارت کو فروغ دینے کے لئے بینک سے سودی قرض لینا ۹۷
- ۹۳۴۶ تجارت کے لئے لئے گئے سودی قرض سے خانگی ضرورت ۹۸
- ۹۳۴۷ پوری کرنے کا حکم ۹۹
- ۹۳۴۷ روزگار یोजना کے نام سے لون لے کر حج کرنے اور زکاۃ دینے کا حکم ۱۰۰

۱۰۲	نرسنگ ہوم کھولنے کے لئے سودی قرض لینا	۹۳۴۸
۱۰۳	مستحق زکوٰۃ مقروض کا سودی رقم سے قرض ادا کرنا	۹۳۴۹
۱۰۴	سودی رقم قرض میں دینے کا شرعی حکم	۹۳۵۰

۲۸ / کتاب الدیون

۱۰۶	قرض دار کی روح معلق رہتی ہے	۹۳۵۱
۱۰۷	قرض لینے کی شرط پر قرض دینا	۹۳۵۲
۱۰۹	تاجیر کی بنا پر اصل رقم سے زائد رقم لینا	۹۳۵۳
۱۱۰	دائن کا مدیون کی دعوت قبول کرنا یا ہدیہ لینا	۹۳۵۴
۱۱۰	سبسڈی کا شرعی حکم	۹۳۵۵
		حکومت کی گرفت سے بچنے کے لئے بینک سے قرض لینے سے متعلق چند	۹۳۵۶
۱۱۱	سوالات کے جوابات	
۱۱۴	دسواں وغیرہ منانے کے لئے قرض لینے کا شرعی حکم	۹۳۵۷
۱۱۶	قرض دینے والا غائب ہو جائے تو قرض کیسے ادا کریں؟	۹۳۵۸
۱۱۷	کیا بلا وصیت بھی میت کا قرض ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا؟	۹۳۵۹
		قرض کی ادائے گی کی غرض سے تجارت میں انہماک اور نمازوں سے	۹۳۶۰
۱۱۸	دوری کا شرعی حکم	
۱۱۹	قرض کی ادائے گی میں قیمت کے تفاوت کا حکم	۹۳۶۱
۱۱۹	قرض کا مطالبہ مقروض کے علاوہ سے کرنے کا حکم	۹۳۶۲
۱۲۱	قرض کی ادائے گی کا مطالبہ مقروض کے گھر والوں سے کرنا	۹۳۶۳
۱۲۲	قرض کی ادائے گی کا ذمہ لینے والے پر قرض ادا کرنا لازم ہے	۹۳۶۴

- ۹۳۶۵ مرض الوفات میں اقرار شدہ قرض کی ادائے گی کی ذمہ داری لینے والے
- پراس کا ادا کرنا لازم ہے ۱۲۶
- ۹۳۶۶ مدت مکمل ہونے پر دائن کے لئے قرض کی ادائیگی کا سخت مطالبہ کرنا .. ۱۲۷
- ۹۳۶۷ قرض کی وصولیابی تک مدیون کا جنازہ روکنے کا حکم ۱۲۹
- ۹۳۶۸ قرض لے کر واپس نہ کرنے پر قانونی کارروائی کرنا ۱۳۰
- ۹۳۶۹ قرض کی ادائے گی میں ٹال مٹول کرنا ۱۳۱
- ۹۳۷۰ قرض کی ادائے گی میں ٹال مٹول کرنے کا شرعی حکم ۱۳۳
- ۹۳۷۱ مقرض سے مقدمہ اور سفر خرچ کا مطالبہ ۱۳۴
- ۹۳۷۲ قرض کے بدلے لفصل پر گیہوں لینا ۱۳۶
- ۹۳۷۳ متعینہ مدت کے لئے چاول ادھار پر دینا ۱۳۶
- ۹۳۷۴ کھلے کرنے کے لئے دئے گئے ۵۰۰ میں سے ۳۰۰ فوراً وصول کرنا بقیہ بعد میں ۱۳۷
- ۹۳۷۵ بیس ہزار روپے قرض میں فریقین کا جھگڑا اور فیصلہ ۱۳۸
- ۹۳۷۶ امریکی ڈالر قرض دے کر ہندوستانی رقم لینا ۱۳۹
- ۹۳۷۷ تقسیم جائیداد سے پہلے قرض کی ادائے گی کا حکم ۱۴۱
- ۹۳۷۸ دائن کے انتقال کی صورت میں قرض کس کو دیا جائے؟ ۱۴۲

۲۹ / کتاب الودیعة والأمانة والضمان

- ۹۳۷۹ امانت میں تصرف کرنے کا شرعی حکم ۱۴۳
- ۹۳۸۰ امانت اجازت لے کر استعمال کرنے کا حکم ۱۴۵
- ۹۳۸۱ امانت رکھے ہوئے زیورات بلا اجازت امانت رکھنے والے بیٹے کو دینے کا حکم ۱۴۷
- ۹۳۸۲ امانت میں تصرف کرنے کے بعد ہلاکت کی صورت میں ضمان کا حکم .. ۱۴۹

- ۹۳۸۳ امانت کی رقم اپنی رقم کے ساتھ مخلوط کرنے کے بعد ہلاک ہونے پر ضمان کا حکم ۱۵۰
- ۹۳۸۴ امانت کے ساتھ حاجی کا بیگ ”بیت الخلاء“ میں رہ گیا ۱۵۱
- ۹۳۸۵ مالک سے امانت کے چوری شدہ پیسہ کے مطالبہ کا حکم ۱۵۲
- ۹۳۸۶ ادارے کا تجارت کے لئے روپے دینے پر نقصان کی صورت میں ضمان کا مسئلہ ۱۵۴
- ۹۳۸۷ دوران سفر امانت کی رقم چوری ہونے کا شرعی حکم ۱۵۵
- ۹۳۸۸ امانت کی رقم چوری ہوگئی تو کیا حکم ہے؟ ۱۵۷
- ۹۳۸۹ کمرے سے بیگ چوری ہونے کا حکم ۱۵۸
- ۹۳۹۰ کیا امانت کی رقم ضائع ہونے پر تاوان لازم ہے؟ ۱۶۰
- ۹۳۹۱ کوتاہی کی بنا پر امانت کے ضائع ہونے کا شرعی حکم ۱۶۲
- ۹۳۹۲ امانت کو ضائع کرنے کا شرعی حکم ۱۶۳
- ۹۳۹۳ بلا تعدی امانت کے ضائع ہونے کا شرعی حکم ۱۶۵
- ۹۳۹۴ بلا تعدی امانت کی رقم ضائع ہونے کا شرعی حکم ۱۶۸
- ۹۳۹۵ ناظم مدرسہ کے پاس رکھی ہوئی امانت چوری ہو جائے تو کون ضامن ہوگا؟ ۱۶۹
- ۹۳۹۶ عاریت پر لی گئی سائیکل گم ہو جائے تو ضامن کون؟ ۱۷۰
- ۹۳۹۷ ملازم سے سائیکل چوری ہوگئی، تو کیا حکم ہے ۱۷۲
- ۹۳۹۸ کھیت میں لگائی گئی آگ دوسرے کے کھیت کو جلا دے تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۳
- ۹۳۹۹ موچی کے پاس سے چپل گم ہوگئی تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۴
- ۹۴۰۰ دوسرے کی دیوار پر اپنی چھت کو ٹینے کا شرعی حکم ۱۷۵
- ۹۴۰۱ فروخت شدہ بکرا واپس مالک کے پاس آجائے تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۶

۱۷۸	۱ / باب شرائط الہبۃ	□
-----	---------------------	---

۱۷۸ ”ہبہ“ شرعاً کب معتبر ہے؟	۹۴۰۲
۱۷۹ ہبہ میں محض نیت کافی نہیں	۹۴۰۳
۱۸۱ کیا ایجاب و قبول سے ہبہ منعقد ہو جاتا ہے؟	۹۴۰۴
۱۸۳ زبانی ہبہ	۹۴۰۵
۱۸۴ زبانی ہبہ کا شرعی حکم	۹۴۰۶
۱۸۷ زبانی ہبہ کے لئے شرعی ثبوت لازم	۹۴۰۷
۱۸۸ زبانی ہبہ بغیر شہادت کے معتبر نہیں	۹۴۰۸
۱۸۹ زبانی ہبہ کرنے کے بعد تحریر لکھنے کا شرعی حکم	۹۴۰۹
۱۹۰ زبانی و تحریری ہبہ نامہ کے بعد قبضہ دینے کی شرعی حیثیت	۹۴۱۰
۱۹۴ ہبہ میں قبضہ کی شرعی حیثیت	۹۴۱۱
۱۹۵ ہبہ میں قبضہ کا شرعی حکم	۹۴۱۲
۱۹۶ کیا ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے؟	۹۴۱۳
۲۰۰ کیا قبضہ دینے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے؟	۹۴۱۴
۲۰۲ ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے	۹۴۱۵
۲۰۵ کیا الگ الگ کمروں میں رہائش دینے سے ہبہ مکمل ہو جاتا ہے؟	۹۴۱۶
۲۰۷ دستخط شدہ سادہ کاغذ پر دستخط کنندہ کی مرضی کے خلاف لکھوانا	۹۴۱۷
۲۰۷ جس کا دماغی توازن درست نہ ہو اس سے ہبہ نامہ پر انگوٹھا لگوانا	۹۴۱۸
۲۰۸ شرعی ثبوت کے بغیر محض سول جج کے فیصلہ سے ملکیت ثابت نہ ہوگی	۹۴۱۹
۲۱۳ شرعی گواہوں کی شہادت یا ثبوت کے بغیر ہبہ کے دعویٰ کا اعتبار نہیں	۹۴۲۰
۲۱۵ جائیداد تقسیم ہونے سے قبل ہبہ کرنے کا شرعی حکم	۹۴۲۱

۲۱۷	والد کا اپنے کچھ لڑکوں کے نام سے زمین خریدنا	۹۴۲۲
۲۱۸	”ایف ڈی“ میں نام کرانے سے ہبہ کا ثبوت	۹۴۲۳
۲۲۰	موہوبہ مکان پر قبضہ کیا لیکن رجسٹری نہیں ہوئی	۹۴۲۴
۲۲۱	ہبہ صحیح ہونے کے لئے رجسٹری کی شرعی حیثیت	۹۴۲۵
۲۲۳	رجسٹری کے طور پر مکان ہبہ کرنا	۹۴۲۶
۲۲۵	کسی کے نام جائیداد رجسٹری کرانے سے ہبہ کا ثبوت	۹۴۲۷
۲۲۶	کسی کے نام رجسٹری کرانے سے کیا وہ مالک ہو جائے گا؟	۹۴۲۸
۲۲۷	کیا نام کرنے کے بعد رجسٹری بیع نامہ کرانے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے؟	۹۴۲۹
۲۲۹	مکان کا رجسٹری بیع نامہ کر کے دینے سے ہبہ کا ثبوت	۹۴۳۰
۲۳۰	موہوبہ لہ کے لئے ہبہ کے بعد ملکیت کا ثبوت	۹۴۳۱
۲۳۲	غیر شرعی طریقہ سے ہبہ کا نفاذ	۹۴۳۲

۲۳۳	۲ / باب ما یجوز من الهبة و ما لا یجوز	□
-----	---------------------------------------	---

۲۳۴	آدمی کو اپنی جائیداد میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے	۹۴۳۳
۲۳۵	کیا والد کو اپنی جائیداد ہر طرح تقسیم کرنے کا حق ہے؟	۹۴۳۴
۲۳۶	اپنا سارا سرمایہ ہبہ کر کے وارثین کو بے یار و مددگار چھوڑنا	۹۴۳۵
۲۳۸	کچہری میں پیشکار کو لوگوں کا ہدیہ دینا	۹۴۳۶
۲۳۹	بادشاہوں کی طرف سے قضاة کو دی گئی زمین فروخت کرنا	۹۴۳۷
۲۴۱	ہجڑے کا ہدیہ قبول کرنا	۹۴۳۸
۲۴۲	آبائی زمین بیچ کر لڑکوں کو رہائشی مکان تیار کر دینا	۹۴۳۹
۲۴۳	اپنی جائیداد بیوی کو ہبہ کر کے دخیل بنانا	۹۴۴۰
۲۴۵	ترکہ سے ملا ہوا حصہ بیوی کو ہبہ کرنا	۹۴۴۱

- ۲۴۶ دو بیوی میں سے لا ولد بیوی کو بطور ہبہ کوئی خاص چیز دینا ۹۴۴۲
- ۲۴۷ والدہ کا اپنی چھوٹی بیٹی کو زمین دینا ۹۴۴۳
- ۲۴۸ بحالت صحت مکان اپنی لڑکیوں کو ہبہ کرنا ۹۴۴۴
- ۲۵۰ بیوہ کا اپنی اکلوتی لڑکی کے نام مکمل جائیداد کرنا ۹۴۴۵
- ۲۵۱ والدہ کا اپنی بیٹی اور نواسی کے نام مکان ہبہ کرنا ۹۴۴۶
- ۲۵۲ والدہ کا دو بیٹوں سے قرض معاف کر کے بقیہ سے وصول کر کے دوسروں کو دینا ۹۴۴۷
- ۲۵۴ زندگی میں بحالت صحت اپنی اولاد کو کچھ دینا ۹۴۴۸
- ۲۵۵ کسی ایک وارث کے نام مکان ہبہ کرنا ۹۴۴۹
- ۲۵۷ والد کی جانب سے بیٹے کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا حکم ۹۴۵۰
- ۲۵۸ لڑکے کو بھائی بہنوں کی رضامندی سے مکان ہبہ کرنا ۹۴۵۱
- ۲۶۰ بڑے لڑکے کے نام بندوق منتقل کرنا ۹۴۵۲
- ۲۶۲ زندگی میں صرف ایک بیٹے کو جائیداد دینا ۹۴۵۳
- ۲۶۳ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کی دوکان کو بچتہ بنا کر رقم لینا ۹۴۵۴
- ۲۶۴ صرف ایک بھائی کی اولاد پر خرچ کرنے کا حکم ۹۴۵۵
- ۲۶۵ پوتی کو اپنی زندگی میں ہبہ کرنا ۹۴۵۶
- ۲۶۷ یتیم پوتے پوتیوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ۹۴۵۷
- ۲۶۸ متوفی لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو دینا ۹۴۵۸
- ۲۶۹ نانا کا تبرعاً نواسہ کو کچھ دینا ۹۴۵۹
- ۲۷۰ ماموں کا اپنے بھانجے کو زمین ہبہ کرنا ۹۴۶۰
- ۲۷۱ نکاح کے موقع پر دیا جانے والا کپڑا نکاح سے پہلے پہننا ۹۴۶۱

- ۹۴۶۲ ہبہ کی ایک صورت کا حکم ۲۷۲
- ۹۴۶۳ عرصہ دراز کے بعد مقبوضہ اراضی پر دعویٰ باطل ۲۷۴

۲۷۸	۳ / باب ہبۃ المشاع	□
-----	--------------------	---

- ۹۴۶۴ ہبہ مشاع ۲۷۸
- ۹۴۶۵ ہبہ مشاع اور اس میں تصرف کا حکم ۲۸۰
- ہبۃ المشاع ۲۸۸
- ناقابل تقسیم اشیاء کا ہبۃ المشاع ۲۸۸
- قابل قسمت اشیاء کا ہبہ مشاع ۲۹۰
- ائمہ ثلاثہ کے دلائل ۲۹۲
- ائمہ احناف کے یہاں ہبہ مشاع فاسد ہے یا نا تمام؟ ۲۹۸
- حنفیہ کے درمیان ہبہ مشاع کے جواز اور عدم جواز کا اختلاف ۲۹۹
- صاحبین کے درمیان اختلاف ۳۰۲
- ہبۃ المشاع کے جواز کی شکلیں ۳۰۵
- ہبۃ المشاع میں آپس میں مل کر تقسیم کا جواز ۳۰۶
- نزاع نہ ہو تو ہبہ مشاع کا جواز ۳۰۷
- مقالہ کا خلاصہ اور سوالات کے جوابات ۳۰۹
- شئی موہوب کے مقسوم میں ائمہ کا اختلاف ۳۰۹
- ہبہ میں قبضہ کی حیثیت ۳۱۰
- نابالغ کو ہبہ میں قبضہ جدید کی ضرورت نہیں ۳۱۱
- نابالغ کی طرف سے صحت قبضہ کی شرائط ۳۱۲
- نابالغ کو ہبہ مشاع ۳۱۳

۳۱۵	۴ / باب الرجوع في الهبة	□
-----	-------------------------	---

۳۱۵	شئی موہوب کو واپس لینا	۹۴۶۶
۳۱۶	موہوبہ مکان کو واپس لے کر وقف کرنے کا حکم	۹۴۶۷
۳۱۸	لڑکے کے انتقال کے بعد جائیداد واپس لینا	۹۴۶۸
۳۲۰	اولاد کو ہبہ کر کے واپس لینے کا حکم	۹۴۶۹
۳۲۱	ہدیہ کی واپسی کا مطالبہ کرنا	۹۴۷۰
۳۲۲	باپ کا اولاد کو چھت ہبہ کرنے کے بعد رجوع کرنا	۹۴۷۱

۳۲۵	۵/باب: زندگی میں تقسیم جائیداد	□
-----	--------------------------------	---

۳۲۵	زندگی میں تقسیم	۹۴۷۲
۳۲۶	زندگی میں تقسیم جائیداد	۹۴۷۳
۳۲۸	زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا	۹۴۷۴
۳۳۱	زندگی میں جائیداد کی تقسیم میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دینا	۹۴۷۵
۳۳۲	حالت حیات میں جائیداد تقسیم کرنا	۹۴۷۶
۳۳۳	زندگی میں تقسیم جائیداد کا حکم	۹۴۷۷
۳۳۵	زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا شرعی حکم	۹۴۷۸
۳۳۶	زندگی میں تقسیم جائیداد کی شرعی حیثیت	۹۴۷۹
۳۳۷	زندگی میں تقسیم کی دو صورتوں کا بیان	۹۴۸۰
۳۴۰	زندگی میں جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟	۹۴۸۱
۳۴۱	زندگی میں تقسیم جائیداد کا شرعی طریقہ	۹۴۸۲
۳۴۳	زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ	۹۴۸۳
۳۴۴	ایضاً	۹۴۸۴

۳۴۵ ایضاً	۹۴۸۵
۳۴۷ زندگی میں جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟	۹۴۸۶
۳۴۸ جھگڑے کے خوف سے زندگی میں میراث تقسیم کرنا	۹۴۸۷
۳۴۹ زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ	۹۴۸۸
۳۵۱ زندگی میں مکان تقسیم کرنا	۹۴۸۹
۳۵۲ زندگی میں ہی والدہ کا مکان تقسیم کرنا	۹۴۹۰
۳۵۳ زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے ہبہ کرنا	۹۴۹۱
۳۵۵ زندگی میں اپنی جائیداد متعلقین میں تقسیم کرنا	۹۴۹۲
۳۵۶ زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم ترکہ	۹۴۹۳
۳۵۸ زندگی میں اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم	۹۴۹۴
۳۵۹ زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم	۹۴۹۵
۳۶۱ زندگی میں اولاد کے مابین ترکہ کی تقسیم	۹۴۹۶
۳۶۲ اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم زندگی میں کرنے کا شرعی حکم	۹۴۹۷
۳۶۳ زندگی میں اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم کا طریقہ	۹۴۹۸
۳۶۵ زندگی میں کاروبار اور مکان تقسیم کرنا	۹۴۹۹
۳۶۶ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں والدہ کا اپنے لئے کچھ باقی رکھنا ...	۹۵۰۰
۳۶۷ والدین کا اپنی جائیداد بچوں کے درمیان تقسیم کرنا	۹۵۰۱
۳۶۸ زندگی میں ورثاء کے لئے وصیت اور ان کے درمیان تقسیم کا حکم	۹۵۰۲
۳۷۳ زندگی میں تمام اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا	۹۵۰۳
۳۷۵ زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں اولاد کے درمیان برابری	۹۵۰۴

۳۷۶ زندگی میں تقسیم کی صورت میں برابری کا حکم	۹۵۰۵
۳۷۸ زندگی میں تقسیم کرنے میں اولاد کے درمیان مساوات کرنے کا حکم	۹۵۰۶
۳۸۱ زندگی میں تقسیم کی صورت میں اولاد کے درمیان مساوات کرنا	۹۵۰۷
۳۸۲ زندگی میں تقسیم کی صورت میں اولاد کے درمیان مساوات کرنے کا حکم	۹۵۰۸
۳۸۴ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں برابری کرنے کا حکم	۹۵۰۹
۳۸۶ کیا زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کے لئے مساوات لازم ہے؟	۹۵۱۰
۳۸۷ زندگی میں تقسیم سے متعلق ایک سوال و جواب	۹۵۱۱
۳۹۲ زندگی میں شرعی ورثاء کے درمیان نقدی رقم تقسیم کرنا	۹۵۱۲
۳۹۳ اولاد کے مابین زندگی میں فروخت شدہ مکان کی قیمت تقسیم کرنا	۹۵۱۳
۳۹۴ زندگی میں ہی لڑکے لڑکیوں کا حصہ متعین کرنا	۹۵۱۴
۳۹۵ زندگی میں مکان تقسیم کرنا اور لڑکیوں کا حصہ	۹۵۱۵
۳۹۶ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا اور لڑکیوں کو محروم کرنا	۹۵۱۶
۳۹۸ لڑکی کو مکان مع دوکان دینا اور لڑکوں کو کھیت کی زمین	۹۵۱۷
۴۰۰ زندگی میں بیوی اور لڑکیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم	۹۵۱۸
۴۰۱ زندگی میں بیوی اور اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم	۹۵۱۹
۴۰۳ زندگی میں اولاد اور بیوی کے درمیان جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟	۹۵۲۰
۴۰۴ زندگی میں پوتے، نواسے اور نواسیوں کے درمیان مکان کی تقسیم	۹۵۲۱
۴۰۵ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی صورت میں پوتوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟	۹۵۲۲
۴۰۶ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی صورت میں پوتوں اور نواسوں کو دینا	۹۵۲۳
۴۰۷ زندگی میں بیٹے پوتے اور بہو کو کچھ دینا	۹۵۲۴

- ۹۵۲۵ زندگی میں جائیداد بھانجی بھانجیوں کو ہبہ کرنا ۴۰۹
- ۹۵۲۶ زندگی میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۴۱۲
- زندگی میں تقسیم میراث اور وراثہ کے حق میں وصیت کیسے ہو؟ ۴۱۵
- زندگی میں ترکہ تقسیم کرنا ۴۱۵
- (۱) ہبہ کی شکل: زندگی میں تقسیم کر کے مالک بنا دینا ۴۱۵
- پہلی بات: یہ حکم مستحب ہے یا واجب؟ ۴۱۶
- دوسری بات: زندگی میں اولاد کو ہبہ کرنے میں مساوات ۴۱۸
- مذکر و مؤنث کے درمیان مساوات ۴۲۰
- (۲) وصیت کی شکل: زندگی میں تقسیم کر کے وصیت کر دینا ۴۲۳
- مسلمان غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں؟ ۴۲۶
- وارث کے لئے دیگر وراثہ کی مرضی سے وصیت ۴۳۰
- موت کے بعد کی اجازت پر فقہاء کی وضاحت ۴۳۱
- وارث کے حق میں وصیت کے عدم جواز کی حکمت ۴۳۳
- بعض نے اجازت دی بعض نے نہیں دی ۴۳۵
- بیوہ کے لئے شوہر کی وصیت ۴۳۶
- وارث اور اجنبی کے حق میں ایک ساتھ وصیت ۴۳۸
- ایک تہائی سے زائد کی وصیت ۴۴۰
- ضروری وضاحت ۴۴۱
- مقالہ کا خلاصہ ۴۴۲

۴۴۴	موہوبہ مقبوضہ میں وراثت کا شرعی حکم	۹۵۲۷
۴۴۵	شیء موہوبہ میں وراثت کی شرعی حیثیت	۹۵۲۸
۴۴۷	شیء موہوبہ میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟	۹۵۲۹
۴۴۸	ہبہ مکمل ہونے کے بعد وہ ترکہ میں شامل نہ ہوگا	۹۵۳۰
۴۴۹	ہبہ تام میں وراثت جاری نہیں ہوتی	۹۵۳۱
۴۵۱	شیء موہوبہ میں موہوب لہ کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں	۹۵۳۲
۴۵۲	شیء موہوبہ پر قبضہ کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی	۹۵۳۳
۴۵۴	پوتے کے نام کردہ زمین میں وراثت کا حکم	۹۵۳۴
۴۵۶	بیوی کو ہبہ کئے گئے مکان میں لڑکے کا حصہ مانگنا	۹۵۳۵
۴۵۷	تکمیل ہبہ کے ثبوت سے قبل اپنے حصہ کا مطالبہ کرنا	۹۵۳۶
۴۵۸	ہبہ تام ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کا حصہ طلب کرنا	۹۵۳۷
۴۵۹	نابالغ کے ہبہ والی رقم میں تصرف کرنا	۹۵۳۸
۴۶۰	موہوبہ شیء میں حق کا دعویٰ کرنا	۹۵۳۹
۴۶۲	شیء موہوبہ کو واہب کے مقصد میں صرف کرنا	۹۵۴۰

۴۶۳	۷ / باب الہبۃ للصغیر	□
-----	----------------------	---

۴۶۳	خدمت گزار لڑکے کو جائیداد زیادہ دینا	۹۵۴۱
۴۶۴	خدمت گزار اولاد کو ہبہ میں زیادہ دینا	۹۵۴۲
۴۶۵	دارالافتاء نعیمیہ کا جواب	
۴۶۶	دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب	
۴۶۶	خدمت گزار اولاد کو زیادہ حصہ دینا	۹۵۴۳
۴۶۹	نافرمان بیٹے کو جائیداد نہ دے کر فرماں بردار لڑکے کو دینا	۹۵۴۴

- ۹۵۴۵ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بحالت صحت جائیداد بیوی کو ہبہ کرنا ۴۷۰
- ۹۵۴۶ لڑکا بدکردار ہو تو اپنی جائیداد لڑکی کو ہبہ کرنے کا حکم ۴۷۲
- ۹۵۴۷ زندگی میں ایک اولاد کو کل جائیداد کا مالک بنا کر بقیہ کو محروم کر دینا ۴۷۲
- ۹۵۴۸ اولاد کے درمیان ہبہ میں تفریق کا حکم ۴۷۴
- ۹۵۴۹ لڑکے کو الگ کرنے کی صورت میں جائیداد کی تقسیم ۴۷۶
- ۹۵۵۰ کیا والد کو نافرمان لڑکوں کو محروم کرنے کا حق ہے؟ ۴۷۷
- ۹۵۵۱ نافرمان اولاد کو محروم کرنے سے والدین گنہگار نہیں ہوں گے ۴۷۹
- ۹۵۵۲ نافرمان بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۸۰
- ۹۵۵۳ نافرمان بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنے کا شرعی حکم ۴۸۲
- ۹۵۵۴ نافرمان لڑکے کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۸۴
- ۹۵۵۵ نافرمان بچوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی شرعی حیثیت ۴۸۵
- ۹۵۵۶ نافرمان اولاد کو زندگی میں تقسیم جائیداد سے محروم کرنا ۴۸۷
- ۹۵۵۷ نافرمان اولاد کو محروم کرنے کا شرعی حکم ۴۸۸
- ۹۵۵۸ نافرمان اولاد کو محروم کرنے کی شرعی حیثیت ۴۹۰
- ۹۵۵۹ زندگی میں تقسیم کرنے پر نافرمان بیٹے کو محروم کرنا ۴۹۲
- ۹۵۶۰ زندگی میں نافرمان اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۹۴
- ۹۵۶۱ کلمات کفر بکنے والے کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۹۶
- ۹۵۶۲ زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکیوں کو نہ دینا ۴۹۸
- ۹۵۶۳ باپ کا لڑکیوں کو حصہ نہ دے کر صرف لڑکوں کو دینا ۵۰۰
- ۹۵۶۴ لڑکیوں کو محروم کر کے تمام جائیداد لڑکوں کے درمیان ہبہ کرنے کا حکم ۵۰۱

۹۵۶۵ لڑکیوں کو شادی میں جہیز دینے کی بنا پر جائیداد سے محروم کرنا ۵۰۳

۵۰۶	۸ / باب ہبۃ المریض	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------	--------------------------

۹۵۶۶ مرض الموت میں ہبہ کا حکم ۵۰۶

۹۵۶۷ حالت مرض میں وارث کو ہبہ ۵۰۹

۹۵۶۸ چند اولاد کو جائیداد دے کر بقیہ کو محروم کر کے مرض الموت میں ان کے لئے

وصیت کرنے کا حکم ۵۱۰

۳۱ / کتاب الإجارة

۵۱۲	۱ / باب الإجارة الصحيحة	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------	--------------------------

۹۵۶۹ اجیر خاص اور اجیر مشترک کا فرق ۵۱۲

۹۵۷۰ سرکاری و پرائیویٹ ملازمین اجیر خاص ہوتے ہیں یا اجیر مشترک ۵۱۳

۹۵۷۱ ٹھیکہ دار اجیر مشترک ہے یا خاص؟ ۵۱۴

۹۵۷۲ کیا ملازم پر اوقات کی پابندی لازم ہے؟ ۵۱۵

۹۵۷۳ مالک نماز نہ پڑھنے دے تو کیا حکم ہے؟ ۵۱۷

۹۵۷۴ کیا ملازم دوران ملازمت نوافل ادا کر سکتا ہے؟ ۵۱۸

۹۵۷۵ ملازمت کے وقت میں اپنا کاروبار کرنا ۵۱۹

۹۵۷۶ ملازم غلطی کی معافی منبج سے مانگے یا مالک سے؟ ۵۲۰

۹۵۷۷ کیا مالک کو یہ حق ہے کہ اپنی زمین جسے چاہے کرایہ پر دیدے؟ ۵۲۲

۹۵۷۸ مالک کو اختیار ہے جس کو چاہے دوکان کرایہ پر دے ۵۲۲

۹۵۷۹ شوہر کے کرایہ کی دوکان میں کس کا حصہ ہے خسر کا یا بیوی کا؟ ۵۲۴

۹۵۸۰	حکومت کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک میں تجارت کرنا	۵۲۶
۹۵۸۱	زمین کو بوقت ضرورت واپسی کی شرط پر کرائے پر دینا	۵۲۷
۹۵۸۲	مالک کا پانچ ہزار روپیہ پیشگی یا ستر لگوانے کی شرط لگانا	۵۲۸
۹۵۸۳	کرایہ پر مکان دے کر ہر سال دس فیصد بڑھانے کی شرط	۵۲۹
۹۵۸۴	کرایہ دار کب بجلی اور پانی کے بل کی ادائے گی کا ذمہ دار ہوگا؟	۵۳۱
۹۵۸۵	کرایہ دار کا مالک سے مرمت کا خرچ وصول کرنے کا حکم	۵۳۳
۹۵۸۶	مالک مکان کا کرایہ دار کا سامان فروخت کرنا	۵۳۴
۹۵۸۷	آپسی رضامندی کی بنا پر کاروبار کی دو جائز شکلیں	۵۳۶
۹۵۸۸	اجارہ مشترکہ کی صورت میں کچھ ضائع ہو جائے تو ضامن کون ہوگا؟	۵۳۸
۹۵۸۹	کرایہ پر لی ہوئی زمین پر مالک کی اجازت سے عمارت تعمیر کر لی تو	
	اب کیا کرے؟	۵۳۹
۹۵۹۰	جس شخص نے تنہا اپنی کمائی سے کاروبار بڑھایا اس میں دوسرے بھائی	
	کی حصہ داری نہ ہوگی	۵۴۰
۹۵۹۱	بونس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟	۵۴۲
۹۵۹۲	ملازم فسادات کے دوران کی تنخواہ کا مستحق ہے یا نہیں؟	۵۴۲
۹۵۹۳	کرفیو کے دوران بند مدرسوں اور کارخانوں کے ملازموں کی تنخواہ	۵۴۴
۹۵۹۴	سرکاری ملازمت جائز ہے یا ناجائز؟	۵۴۵
۹۵۹۵	سرکاری مدرس کا عذر کی بنا پر لڑکے کو نائب بنانا	۵۴۶
۹۵۹۶	ریلوے میں ملازم باپ کی جگہ متبنی کی نوکری کا حکم	۵۴۷
۹۵۹۷	ڈاکخانہ سے روپے لاکر لوگوں کو دینے کی اجرت لینا	۵۴۸
۹۵۹۸	خلاف شرع کام ہونے والے ہوٹل کی ملازمت کا حکم	۵۴۹
۹۵۹۹	کیمروں کے مرمت کی اجرت کا حکم	۵۵۱

۵۵۳	جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعہ نوکری کرنا	۹۶۰۰
۵۵۵	جھوٹ اور جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعہ نوکری حاصل کرنا	۹۶۰۱
۵۵۶	ٹھیکیدار کے پاس بچے ہوئے پیسے کے استعمال کا حکم	۹۶۰۲
۵۵۸	لڑکیوں کے لئے ہاف آستین اور چست کپڑے سل کر دینا	۹۶۰۳
۵۵۹	عورتوں کے نیم عریاں لباس تیار کرنے والی کمپنی میں کام کرنا	۹۶۰۴
۵۶۰	درزی کے پاس بچے ہوئے کپڑا کا حکم	۹۶۰۵
۵۶۱	تین ماہ بعد فونوگر کا کپڑے کو بیچ کر اپنی اجرت وصول کرنا	۹۶۰۶
۵۶۳	قالین بننے والے کا مقدار معین سے زائد بننے کی اجرت نہ لینا	۹۶۰۷
۵۶۴	مسلمانوں کا کرایہ پردینے کے لئے ”شادی ہال“ بنانا	۹۶۰۸
۵۶۵	سودی قرض لے کر کاروبار کرنے کی آمدنی کا حکم	۹۶۰۹
۵۶۶	وکیل کی کمائی کا حکم	۹۶۱۰
۵۶۷	وکیلوں کی کمائی سے انشعاع اور صدقہ و خیرات	۹۶۱۱
۵۶۸	ڈاکٹر اور وکیل کی فیس کا حکم	۹۶۱۲
۵۶۹	بیٹری بھرنے اور کرائے پردینے کا حکم	۹۶۱۳
۵۷۰	معصیت والے امور میں لاؤڈ اسپیکر کرائے پردینا	۹۶۱۴
۵۷۲	فلم کی شوٹنگ ہونے والے ہال کی چوکیداری کا حکم	۹۶۱۵
۵۷۳	مورتی اور مزار پر کپڑا چڑھانے کے لئے فروخت کرنا	۹۶۱۶
۵۷۵	مسلم ٹھیکیدار کا مندر تعمیر کرنا	۹۶۱۷
۵۷۶	کمپنی کا تصویر والا لیبل شائع کرنا	۹۶۱۸
۵۷۷	تمباکو گٹکا وغیرہ کی تجارت اور اس کی آمدنی	۹۶۱۹

۵۷۸ غیر مسلم کو نوٹو گرافی کے لئے کرائے پر مکان دینا	۹۶۲۰
۵۷۹ بینک کو مکان کرایہ پر دینا	۹۶۲۱
۵۸۰ بینک کو زمین کرائے پر دینا	۹۶۲۲
۵۸۲ بینک کو دوکان کرائے پر دینا	۹۶۲۳
۵۸۳ بینک کو مکان کرائے پر دینا جائز ہے یا ناجائز؟	۹۶۲۴
۵۸۳ بینک سے کرایہ لے کر اپنی ضروریات میں استعمال کرنا	۹۶۲۵
۵۸۴ بلڈنگ بینک کو کرایہ پر دینا	۹۶۲۶
۵۸۵ پوسٹ بکس رکھوانے کے عوض دوکان ٹیپ ٹاپ کروانا	۹۶۲۷
۵۸۷ اپنی دوکان میں کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھنے کا کرایہ وصول کرنا	۹۶۲۸
۵۸۸ ندی فروخت کرنا	۹۶۲۹
۵۸۹ ندی کو چند سالوں کے لئے کرایہ پر لینا	۹۶۳۰
۵۹۲ سمندر کا ایک مخصوص حصہ ٹھیکہ پر لینا	۹۶۳۱
۵۹۳ کافر کو شامیانہ اور کھانے کے برتن کرایہ پر دینا	۹۶۳۲
۵۹۴ زمین کو کرایہ پر دینا	۹۶۳۳
۵۹۶ خالی زمین کرایہ پر لینا	۹۶۳۴
۵۹۷ قرض لے کر زمین کرایہ پر دینا	۹۶۳۵
۵۹۸ باغ کو ٹھیکے پر دینا	۹۶۳۶
۵۹۹ ٹھیکے پر زمین دینا	۹۶۳۷
۶۰۱ درختوں کے ساتھ زمین کرایہ پر دینا	۹۶۳۸
۶۰۱ سالانہ دو من غلہ پر زمین کرایہ پر دینا	۹۶۳۹
۶۰۲ باغات کو فروخت کرنے کی جائز شکل	۹۶۴۰
۶۰۵ کھیت اور باغات کو ٹھیکہ پر دینا اور گروی رکھنا	۹۶۴۱

۶۰۶ عمارت بنانے کے لئے زمین کرایہ پر دینا	۹۶۴۲
۶۰۸ زمین کو کرایہ پر دینے کی چند شکلیں	۹۶۴۳
۶۰۹ ”کوٹو“ اور ”ڈیڑھا“ کا حکم	۹۶۴۴
۶۱۰ زمین کو ”کٹ بھرنے“ پر دینا	۹۶۴۵

۶۱۲	۲ / باب الإجارة الفاسدة	□
-----	-------------------------	---

۶۱۲ اجارہ میں اجرت کے مجہول ہونے کی شرعی حیثیت	۹۶۴۶
۶۱۳ بلا تعین اجرت اجیر کی مزدوری کا مسئلہ	۹۶۴۷
۶۱۶ کم کرایہ پر لے کر زیادہ کرایہ پر دینا	۹۶۴۸
۶۱۹ مزدوری متعین کئے بغیر ٹھیکہ پر کام کرنے کی اجرت کا حکم	۹۶۴۹
۶۲۰ مدت متعینہ تک کام مکمل نہ ہونے پر ہر ہفتہ پانچ سو روپے واپسی کی شرط کا حکم	۹۶۵۰
۶۲۱ تالاب کو کرائے پر دینا	۹۶۵۱
۶۲۳ گائے کا بچہ ادھیہ پر دینا	۹۶۵۲
۶۲۴ جانور کو ادھیہ پر دینا	۹۶۵۳
۶۲۵ ادھیہ پر جانور دینے کے ناجائز ہونے کی علت	۹۶۵۴
۶۲۷ ادھیہ پر دیئے گئے جانور کے جواز کی شکل	۹۶۵۵
۶۲۸ گابھن کرانے کی اجرت لینا	۹۶۵۶
۶۲۹ گائے پھینس جفتی کرانے کی اجرت لینا	۹۶۵۷
۶۳۰ کمپنی کا اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے ممبر درممبر بنانا	۹۶۵۸
۶۳۴ ”ایم وے“ کمپنی کی اسکیم کا حکم	۹۶۵۹
۶۳۶ ”ہیلوانڈیا“ کا ممبر بننا	۹۶۶۰

۹۶۶۱ ”گلینڈ ٹریڈنگ انڈیا“ کی ممبری کا شرعی حکم ۶۳۹

□	۳ / باب أجرة الدلال و السمسار	۶۴۲
---	-------------------------------	-----

۹۶۶۲ دلال مستحق اجرت کب ہوتا ہے؟ ۶۴۲

۹۶۶۳ کسی چیز کی دلالی پر اجرت لینے کا شرعی حکم ۶۴۵

۹۶۶۴ کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ ۶۴۶

۹۶۶۵ جانین سے دلالی کی اجرت کا حکم ۶۴۸

۹۶۶۶ کیا دلال بائع و مشتری دونوں سے دلالی وصول کر سکتا ہے؟ ۶۴۹

۹۶۶۷ ”بروکروی“ سے متعلق چند سوالات و جوابات ۶۵۰

۹۶۶۸ زمین خریدوانے کی دلالی لینا ۶۵۴

۹۶۶۹ زمین کی خرید و فروخت کرانے میں دلالی کی اجرت لینا ۶۵۷

۹۶۷۰ انجینئر کا ٹھیکیدار سے کمیشن لینا ۶۵۹

۹۶۷۱ ٹھیکیدار یا مستری وغیرہ کا کمیشن لینا ۶۶۰

۹۶۷۲ بولی لگانے کے درمیان آڑھت والے کا بیع میں سے کچھ نکال لینا ... ۶۶۲

۹۶۷۳ ہسپتال کا مریض بھیجنے والے ڈاکٹر کو تحفہ دینا ۶۶۳

۹۶۷۴ آنکھوں کے ڈاکٹروں کا چشموں کی دوکان والوں سے کمیشن لینا ۶۶۴

۹۶۷۵ ڈاکٹر کا خون یا پیشاب جانچ کرانے کے لئے بھیجنے کی اجرت لینے کا حکم ۶۶۵

۹۶۷۶ ڈاکٹر کا لٹراساؤنڈ اور ایکسرے والوں سے کمیشن لینا ۶۶۶

۹۶۷۷ ڈاکٹر کے پاس بھیجنے اور دو فروخت کرنے پر کمیشن لینے کی شرعی حیثیت ۶۶۸

۹۶۷۸ حج کا وکیل کے پاس مقدمہ بھیجنے پر اس سے رقم لینے کا حکم ۶۷۰

۹۶۷۹ اقامہ بنانے کی اجرت لینا ۶۷۲

۹۶۸۰ ہوٹل والوں کا رکشہ یا ٹیکسی ڈرائیور کو کمیشن دینا ۶۷۳

۶۷۵ رقم پہنچانے کے فی سیکڑہ پانچ سو روپے لینا	۹۶۸۱
۶۷۶ گراہک بڑھانے کی اجرت	۹۶۸۲
۶۷۷ کمپنی کا گراہک کو بڑھانے پر اجرت دینے کا حکم	۹۶۸۳
۶۷۹ ممبر سازی پر ملنے والا کمیشن جائز ہے یا ناجائز؟	۹۶۸۴
۶۸۲ کمپنی کا ممبر بنانے پر ملنے والی اجرت کا حکم	۹۶۸۵
۶۸۵ ’انڈیا روز‘ کمپنی کا ممبر بننا	۹۶۸۶
۶۸۶ دوسرے شخص کی ممبر سازی کا کمیشن لینا	۹۶۸۷
۶۸۸ ایجنٹ کے ذریعہ سے سرکاری دفاتر کا کام کرانا	۹۶۸۸
۶۹۰ دو فیصد پر پلاٹ بکوانے کے معاملہ کا حکم	۹۶۸۹
۶۹۱ ’تم میرے لئے کوئی زمین تلاش کرو‘ کہنے کا حکم	۹۶۹۰

۶۹۳	۴/ باب في فسخ الإجارة	□
-----	-----------------------	---

۶۹۳ بوقت ضرورت مالک کرایہ داری ختم کر سکتا ہے	۹۶۹۱
۶۹۴ کیا مالک کو کرایہ کی دوکان وقت سے پہلے لینے کا حق ہے؟	۹۶۹۲
۶۹۵ کرایہ داری کی مدت ختم ہونے سے قبل مالک کا دوکان خالی کرانا	۹۶۹۳
۶۹۶ اپنی ذاتی دوکان کرایہ دار سے جبراً خالی کرانا	۹۶۹۴
۶۹۷ کرایہ دار پر مدت کرایہ داری پوری ہونے پر دوکان خالی کرنا لازم ہے	۹۶۹۵
۶۹۹ مالک مکان کا بخوشی کرایہ دار کو دوسری جگہ انتظام کرنے کے لئے روپے دینا	۹۶۹۶
۷۰۱ کرایہ دار کا مکان میں لگایا ہوا پیسہ مکان مالک سے وصول کرنا	۹۶۹۷
۷۰۱ کیا کرایہ دار کے مرنے سے کرایہ داری ختم ہو جاتی ہے؟	۹۶۹۸
۷۰۳ کرایہ دار کا انتقال ہونے کی صورت میں کرایہ داری کا حکم	۹۶۹۹
۷۰۴ کیا کرایہ دار کے مرتے ہی معاملہ اجارہ فسخ ہو جاتا ہے	۹۷۰۰

۷۰۶	۵ / باب الاستئجار علی الطاعات	□
-----	-------------------------------	---

۷۰۶	اجرت لے کر دینی تعلیم دینا اور طلبہ کی غیر حاضری پر مالی جرمانہ وصول کرنا	۹۷۰۱
۷۰۷	امامت کی اجرت طے کرنا	۹۷۰۲
۷۰۸	ائمہ مساجد و مؤذنین کے لئے حکومت سے ملنی والی تنخواہ لینا کیسا ہے؟	۹۷۰۳
۷۰۹	آدمی کا لڑکیوں کو اور خاتون کا لڑکوں کو تعلیم دینا	۹۷۰۴
۷۱۰	ٹیوشن کی اجرت کا شرعی حکم	۹۷۰۵
۷۱۱	حرام کاروباری کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا	۹۷۰۶
۷۱۲	قبروں پر قرآن پڑھنے کے عوض جوڑا ہدیہ قبول کرنا	۹۷۰۷
۷۱۳	مقرر کا وعظ کے لئے رقم طے کرنا	۹۷۰۸
۷۱۵	مقررین حضرات کا تقریروں پر اجرت لینا	۹۷۰۹
۷۱۶	نعت و تقریر، قوالی اور تراویح کی اجرت کا حکم	۹۷۱۰
۷۱۸	فاتحہ خانی، تقریر بموقع عید میلاد النبی اور جھاڑ پھونک کی اجرت لینا	۹۷۱۱
۷۲۰	قبر کھودنے، کفن کی سلائی، میت کے غسل کی اجرت کا حکم	۹۷۱۲

۷۲۲	۶ / باب الاستئجار علی المعصیة	□
-----	-------------------------------	---

۷۲۲	شراب، مہیتہ وغیرہ کو ٹرک پر لادنے کی اجرت لینا	۹۷۱۳
۷۲۳	نائی کی کمائی کا حکم	۹۷۱۴
۷۲۴	مورتیوں کی تجارت کا حکم	۹۷۱۵
۷۲۶	لکڑی کے مندر بنا کر فروخت کرنا	۹۷۱۶
۷۲۷	خود نہ بنا کر غیر مسلم سے تصویر والے آرڈر بنوانے کی اجرت کا حکم	۹۷۱۷
۷۲۸	جاندار کی تصویر کی ڈھلائی کا آرڈر لینا	۹۷۱۸

۹۷۱۹	تصویریں اور مجسمے بنانا	۷۲۹
۹۷۲۰	فوٹو کھینچنے کی اجرت کا حکم	۷۳۱
۹۷۲۱	فوٹو گرائی اور اس کی اجرت	۷۳۲
۹۷۲۲	”فوٹو گرائی“ اور ”ویڈیو سازی“ کا حکم	۷۳۳
۹۷۲۳	فوٹو گرائی اور اس کے رول کا کاروبار کرنا	۷۳۵
۹۷۲۴	”ڈش انٹینا“ کا کاروبار کرنے کا حکم	۷۳۶
۹۷۲۵	حرام اور جائز پروگرام والے چینل کی آمدنی کا حکم	۷۳۸
۹۷۲۶	”ٹی وی“ مرمت کرنے کی اجرت	۷۴۰
۹۷۲۷	”ٹی وی“، ”وی سی آر“ کی فلمیں بنانا اور اس کی اجرت	۷۴۱
۹۷۲۸	”ٹی وی“، ”سی ڈی“ کی مرمت کی اجرت	۷۴۲
۹۷۲۹	ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کی مرمت اور اس کی اجرت	۷۴۴
۹۷۳۰	ٹی وی کی مرمت پر اجرت لینا اور اس کے استعمال کا حکم	۷۴۵
۹۷۳۱	مندرجہ کی تعمیر میں مزدوری کرنا	۷۴۶
۹۷۳۲	انشورنس کمپنی یا بینک کی ملازمت	۷۴۷
۹۷۳۳	پتنگ بنانے کی اجرت	۷۴۹
۹۷۳۴	”ویڈیو گیم“ کرایہ پر چلانا	۷۵۰
۹۷۳۵	چاول میں ملاوٹ کرنے والے مزدوروں کی مزدوری کا حکم	۷۵۱





بقیة کتاب الربوا

۱۱/ باب القرض

کتنی ضرورت میں سودی قرض لینے کی گنجائش ہے؟

سوال [۹۲۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی مسلم نے غیر مسلم سے سو روپے لئے اور انہوں نے یہ کہا کہ سو روپے کا ہم سو سو روپے لیں گے، یہ لینا کیسا ہے؟ غیر مسلم نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، لویا نہ لو، ہم تو سو سو روپے پی لیں گے اور روپے کی سخت ضرورت بھی ہے۔

المسفتی: قمر الدین، بریابی بازار، سہرسہ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حدیث میں آیا ہے۔

عن جابر قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، باب لعن آکل الربا، ومؤكله، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن الترمذی، باب ماجاء فی آکل الربا، النسخة الهندية ۱/۲۲۹، دار السلام رقم: ۱۲۰۶)

الاشاہ والنظار میں ہے۔

الضرورات تبیح المحظورات ومنثم جاز آکل الميتة عند

المخمصة. (الاشاہ والنظائر قدیم ۱/۱۴۰، قواعد الفقہ اشرفی ۸۹، رقم: ۱۷۰، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲/۱۶۲، ۲۸/۱۸۰، شرح المجله رستم ۱/۲۹، رقم المادة ۲۱)

ویجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. (الأشباہ والنظائر قدیم ۱۴۹، ۱)

الجوهرة الرائق، کتاب البیوع، باب الربا، زکریا ۱/۲۱۱، کوئٹہ ۶/۲۶۶)

حدیث شریف کا مطلب ہے کہ سود لینے والا دینے والا اس کا لکھنے والا، اس کی شہادت دینے والا سب برابر طریقہ سے مستحق لعنت ہیں آنحضرت ﷺ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔
الاشباہ کی عبارت نمبر ۱ کا مطلب ہے کہ بوقت شدت ضرورت حرام اور ناپاک و ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مردار سخت حرام اور ناپاک ہے، مگر حالت منحصہ میں کھانا جائز ہے اور کھانے سے گنہگار نہیں ہوگا۔

الاشباہ کی عبارت نمبر ۲ کا مطلب ہے کہ بوقت شدت ضرورت اور شدت احتیاج میں سود پر قرض لینا جائز ہے، اب اگر کوئی شخص اس حد تک محتاج ہے کہ خود اور بال بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں اور کوئی بلا سود کے قرض بھی نہیں دے رہا ہے، اور ان حالات میں اگر سود پر قرض نہ لیا جائے، تو خود اور بال بچوں کی جان کا خطرہ ہے، تو بقدر ضرورت سود پر قرض لے کر ضرورت پوری کرنے کی گنجائش ہے، انشاء اللہ لعنت کی حدیث میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر اتنی شدید ضرورت نہیں ہے یا اس سے زائد لیتا ہے، تو مستحق لعنت ہوگا، اس کے لئے ناجائز اور حرام ہوگا۔

اب مبتلا بہ خود اپنی حالت پر غور کر کے فیصلہ کر لے کہ اس کی ضرورت کس حد تک ہے، اس ضرورت کی وجہ سے سودی معاملہ کرنے میں لعنت سے بچ سکتا ہے یا نہیں؟ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۷۷۷)

سخت مجبوری کی حالت میں سودی قرض لینے کا حکم

سوال [۹۲۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید دہلی میں کاروبار کرتا ہے، ایک مکان کاروبار کے لئے اور ایک مکان فیملی کی رہائش کے لئے کرایہ پر لئے ہوئے ہے، جس کا مجموعی کرایہ ماہانہ سترہ ہزار پانچ سو روپے

دینا پڑتا ہے، زید نے اپنا سرمایہ لگا کر کسی طرح ایک پلاٹ خرید لیا ہے۔ اب اس کی تعمیر کا مسئلہ درپیش ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تعمیر کی جاسکے ایک صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک بینک بطور قرض مکان کی تعمیر کے لئے روپیہ دیتا ہے، جس کا انٹرسٹ بہت ہی معمولی ہے، سالانہ ایک لاکھ پر آٹھ سو پچاس روپیہ بینک لے گا۔

اب اگر زید اس بینک سے روپیہ لے کر مکان تعمیر کرے، تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک لاکھ پر سالانہ تیس ہزار روپیہ ٹیکس لے لیتی ہے، ماہانہ قسط کرایہ سترہ ہزار پانچ سو روپیہ مالک مکان کو دینا پڑتا ہے، مکان کی تعمیر کے بعد کاروبار اور فیملی کی رہائش تعمیر شدہ مکان میں منتقل ہو جائے گی، تو یہ مذکورہ کرایہ بھی بچ جائے گا، اس کو بچا کر جلد ہی لئے ہوئے قرض کی ادائے گی ہو جائے گی، زید کے پاس اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت فی الحال مکان کی تعمیر کے لئے نہیں ہے۔ بعض علماء نے بتایا؛ لیکن اطمینان قلب نہ ہونے کی وجہ سے استفسار کر رہا ہوں۔

المستفتی: اشتیاق احمد انصاری، ایس ایس اے پرائز، ڈبلیو 254 (دہلی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سخت ترین مجبوری اور اضطراری حالت میں سودی قرض لے کر ضرورت پوری کرنے کی شرعاً گنجائش ہے، اور سخت مجبوری اور اضطراری حالت نہ ہو، تو جائز نہیں؛ بلکہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ فرمائیں کہ آپ کی مجبوری کہاں تک ہے۔

نیز آپ اپنے حلال پیسہ سے سود دیں گے، آپ کے یہاں سود کا پیسہ نہیں آئے گا؛ لہذا اگر مجبوری میں سودی قرض لے لیا ہے، تو جلد ادا کر کے اللہ سے توبہ کر لینی چاہئے۔

يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، وتحتہ في الحموي: وذلك نحو أن يقرض عشرة دنانير مثلاً ويجعل لربها شيئاً معلوماً في كل يوم ربحاً.

(الأشباه والنظائر قديم ۱۴۹، وهكذا في البحر الرائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ۶/۲۱۱، كوثه ۶/۱۲۶)

عن جابر^{رض} قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، باب لعن آكل الربا، ومؤكله، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داود، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ شوال ۱۴۲۵ھ

(فتاویٰ نمبر: الف: ۸۵۵۸/۳۷)

مجبوری کی حالت میں سودی قرض لینا

سوال [۹۲۹۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض ناگزیر حالات میں سرکاری قرض لینا، جس پر سود کے ساتھ لوٹانا ہوتا ہے؛ ایسا قرض لینا کیسا ہے؛ جبکہ کہیں سے کوئی قرض نمل رہا ہو۔ نیز یہ بھی جواب ارسال فرمادیں کہ اب تک اگر لے لیا ہو، تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟

المستفتی: زوار احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سود کا لینا اور دینا قطعاً حرام اور ناجائز ہے، اگر قوت کی روٹی کا محتاج ہے، قرض بھی کوئی نہیں دے رہا ہے، اور اگر سودی قرض نہ لیا جائے، تو بھوکے مرنے کا خطرہ ہے، تو سود پر قرض لے کر ایسی اضطراری حالت میں ضرورت پوری کرنے کی گنجائش ہے، آپ کی ضرورت کس حد تک ہے آپ خود سوچ لیں۔ اگر ایسی ضرورت نہیں ہے، تو سود پر قرض لینے سے مستحق لعنت ہوں گے؛ لہذا آپ اپنی ضرورت کا اندازہ خود

لگائیں کہ آپ سودی قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر لینے سے اس لعنت سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، باب لعن آكل الربا، مؤكله، والنسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن ابن ماجه، التجارات التعليل في الربا، النسخة الهندية ۲/۱۶۵، دارالسلام رقم: ۲۲۷۷)

ويجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. (البرج الرائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ۶/۲۱۱، كوثه ۶/۱۲۶، الأشباه والنظائر قديم ۱۴۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹/رجب المرجب ۱۴۲۶ھ
۸۹۰۱/۳۸ الف (فتویٰ نمبر: الف)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۷/۱۹ھ

لون کا معاملہ کرنا کیسا ہے؟

سوال [۹۲۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لون کا معاملہ کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد اطہر بن عبد الجلیل، ارریہ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: لون کا معاملہ کرنا یعنی کوئی شخص بینک سے یا کسی دوسرے آدمی سے بطور قرض کچھ روپے لیتا ہے اور ایک متعین مدت کے بعد اصل رقم کے ساتھ کچھ زائد رقم بھی دینی پڑتی ہے، اور یہ زائد رقم سود کے طور پر دی جاتی ہے؛ لہذا اس طرح کا معاملہ کرنا (کل قرض جو نفعاً فہو حرام) کے تحت داخل ہو کر شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہوگا اور یہ معاملہ زمانہ جاہلیت کے سودی معاملہ کے مرادف ہے؛ اس لئے قطعاً جائز نہیں ہے۔

وہو رباً أهل الجاهلية، وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض . (أحكام القرآن للحصاص، سورة البقرة، باب البيع، زكريا ۵۶۹/۱، سهيل اكيڏمي لاهور ۴۶۹/۱)

والربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله، إنما كان قرض الدراهم، والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد، وإذا كان متفاضلاً من جنس واحد، هذا كان المتعارف المشهور بينهم، ولذلك قال الله تعالى: ”وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله“ فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة، إنما كانت رباً في المال العين؛ لأنه لا عوض لها من جهة المقرض . (أحكام القرآن للحصاص، من سورة البقره، باب الربا، زكريا ۵۶۳/۱، سهيل اكيڏمي لاهور ۴۶۵/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۶۱۵۷)

ہندوستان کو دارالحرب خیال کر کے بینک سے لون لینا

سوال [۹۲۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بینک سے ملنے والی سودی رقم کو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان چونکہ دارالحرب ہے؛ اس لئے یہاں پر سودی رقم لینا جائز ہے۔

نیز اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں اور موجودہ زمانہ میں اس سے بچنا ممکن نہیں ہے؛ اس لئے کہ بینک والے گورنمنٹ کو بینک کا پیسہ لون پر دیتے ہیں، پھر وہ اسی پیسہ کو عام انسانوں کے نفع کی خاطر استعمال کرتی ہے، جیسے سڑک وغیرہ بنانا؛ چنانچہ اسی پیسہ سے بنی

ہوئی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اس کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد دانش دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بینک سے جو سودی رقم ملتی ہے، اس کو بینک میں

چھوڑنا جائز نہیں؛ بلکہ اس کو لے لے؛ اس لئے کہ اگر سودی رقم نہ لی جائے، تو چونکہ بینک اس کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتی ہے، جو معصیت پر تعاون ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [سورة المائدة: ۲]

اور اس سودی رقم کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، نادار فقیروں کو بلا نیت ثواب دیدیا جائے، اسی طرح حکومت کے غیر شرعی ٹیکس مثلاً انکم ٹیکس، سیل ٹیکس وغیرہ کے عنوان سے دیدینا بھی جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۵۹/۸، جدید زکریا مطول ۱۱/۷۷، ۱۷/۸، جدید زکریا مطول ۱۱/۲۳۳، ایضاح النوادر ۱/۹۷)

صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالا بغير حق، إلى ما قال: لكن إن أخذه من غير عقد لم يملكه ويجب عليه أن يردّه على مالكة إن وجد المالک، إلى ما قال: وأما إذا كان عند رجل مال خبيث، فأما إن ملكه بعقد فاسد، أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكة، ويريد أن يدفع مظلّمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهران پور ۱/۳۷، دارالبشائر الإسلامية، ۱/۳۵۹، تحت رقم الحديث: ۵۹، هندية، زکریا قديم ۵/۵۴۹، جديد ۵/۴۰، شامي، زکریا ۹/۵۵۳، کراچی ۶/۳۸۵، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/۲۴۶، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۶/۲۷، زکریا ۷/۶۰، البحر الرائق، زکریا ۹/۳۶۹، کوئٹہ ۸/۲۰۱)

جن حضرات نے ہندوستان کو دارالحرب سمجھ کر یہاں کے غیر مسلم اور حکومت سے سود حاصل کرنا جائز اور حلال کہا ہے، ان کو فقہی عبارات کے سمجھنے میں دھوکہ ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک دارالحرب میں غیر مسلموں اور حکومت سے سود حاصل کرنا جو جائز کہا گیا ہے، اس میں ایک قید یہ بھی ہے کہ سود حاصل کرنے والا مسلمان خود اس ملک کا باشندہ نہ ہو؛ بلکہ کسی دوسرے ملک سے عارضی طور پر آیا ہو؛ لہذا ہندوستانی مسلمانوں کے لئے خود ہندوستان کے غیر مسلم اور حکومت سے سود حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا؛ اگرچہ ہندوستان کو وہ لوگ دارالحرب سمجھتے ہوں؛ البتہ امریکہ اور برطانیہ میں عارضی طور پر رہتا ہو تو اس عارضی رہائش کے زمانہ میں وہاں کے غیر مسلم اور حکومت سے سود حاصل کرنا ہندوستان مسلمانوں کے لئے جائز اور حلال ہے۔

ولا بین حربی و مسلم مستامن، ولو بعقد فاسد، أو قمار، ثمة لأن ماله ثمة مباح فیحل برضاه مطلقاً بلا عذر خلافاً للثانی والثالثة.

(شامی، کتاب البیوع، باب الربا، زکریا ۷/۴۲۲، کراچی ۱۸۶/۵)

اس عبارت میں مسلم مستامن سے مراد وہ مسلمان ہے جو عارضی طور پر دارالحرب میں

رہتا ہو۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۳۶/۷۹۷۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۳/۱۴ھ

بلا سودی قرض لے کر اس سے انتفاع

سوال [۹۳۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عمر ایک مکتب میں ملازم ہے، جس کو ۲۲۵ روپے ماہانہ نیز مسجد سے ۳۵۰ روپے ماہانہ ذمہ داران مسجد بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آمدنی کا کوئی ذریعہ

نہیں ہے؛ جبکہ عمر کثیر العیال ہے۔ نیز اسی ماہانہ میں ۱۰۰ روپیہ کرایہ مکان، نیز ۱۰۰ روپیہ ماہانہ کچھ کم و بیش بل بھی جمع کرنا ہوتا ہے، اپنا ذاتی مکان یا جگہ ابھی تک مہیا نہیں ہو سکی، اس دورگرانی کے باعث کچھ قرض بھی سر پہ ہے، ان شکستہ حالات کے پیش نظر کوئی اس کو رقم بطور قرض دینے کے لئے تیار نہیں ہے، بعد ازاں اس نے حکومت کی جملہ اسکیموں کی چھان بین کی؛ لیکن جملہ اسکیموں میں اس کو سود کی رقم نظر آرہی ہے اتفاقاً صرف اور صرف ایک اسکیم نگر پالیکا کی شناخت پر منحصر ہے، جس میں ایک فارم بلا عوض بھرا جاتا ہے، پھر نگر پالیکا کا عہدہ دار اس پر شناختی کارروائی کر کے اس پر منظوری کا نشان لگا دیتا ہے اور اس کو کسی بینک میں بھیج دیتا ہے، جہاں اس نگر پالیکا کا کھاتہ ہوتا ہے، وہ بینک اس نگر پالیکا کی نشاندہی کے مطابق ایک چیک بنا دیتا ہے، جس کی مختصر اور طویل المدت قسط ہوتی ہے، یہ قرض بلا سود کہ جتنا روپیہ بذریعہ چیک دیا جاتا ہے، وہی بعینہ بغیر کسی کمی زیادتی کے واپس کرنا ہوتا ہے، آیا یہ رقم لے کر کسی ضرورت حالیہ میں اس طرح استعمال کرے کہ اس کی ادائے گی بغیر کسی شش و پنج کے ہو سکے، آیا اس کی شرعاً گنجائش ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عمر زہنور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل کا بیان صحیح ہے، تو اس بلا سودی قرض کو

حاصل کر کے اس سے انتفاع بلا کسی کراہت کے جائز اور درست ہے۔ اور آیت کریمہ۔

قال اللہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ . [سورة البقرہ: ۲۸۲]

کے دائرہ میں داخل ہو کر یہ معاملہ بلاشبہ جائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ ذی الحجہ ۱۴۱۴ھ

۱۴۱۴/۱۲/۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۵۵۷)

حکومت سے جتنا قرض لیں اتنا ہی ادا کریں تو کیسا ہے؟

سوال [۹۳۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا بھٹہ کا کام ہے، اس سال اسمیں کافی نقصان ہو گیا۔ اب حکومت تمام بھٹہ والوں کو لون پر کچھ رقم دے دیتی ہے، تو شرعاً لون پر قرض لینا کیسا ہے؟

(۲) اگر ہم جتنا قرض لیں اتنا ہی ادا کریں تو کیسا ہے؟ مثلاً حکومت پانچ لاکھ قرض دیتی ہے اور اس پر ۲۵ فیصد چھوٹ دیتی ہے، تو جو چھوٹ ۲۵ فیصد ہوئی تھی، قرض پر سود بھی اتنا ہی ہوا اور ہمیں پانچ لاکھ ہی ادا کرنا پڑا تو یہ جائز ہو گا یا نہیں؟

المستفتی: شرف الدین، بیت پور جو یا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تجارت میں نقصان ہونے کی وجہ سے بھی حکومت سے لون قرض لینا شرعاً جائز نہیں ہے؛ کیونکہ یہ بھی سود ہے اور سود کی حرمت وقباحت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱/۱۲۷، فتاویٰ محمودیہ ۴/۲۰۵)

قال اللہ تعالیٰ: **وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**. [سورة البقرہ: ۲۷۵]

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، و كاتبه، و شاهدیه، و قال: هم سواء. (مسلم شریف، باب لعن آكل الربا، ومؤكله، و النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، باب في آكل الربا و مؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳)

(۲) آپ نے سوال میں جو صورت قرض لینے اور ادا کرنے کی ذکر کی ہے، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے، کہ برابر سرابرا معاملہ ہے، جتنا آپ نے لیا تھا، اتنا ہی دینا پڑ رہا ہے، لکھنے میں چاہے جتنا بھی طے ہو، تو نام کا سود ہے، مگر حقیقت میں سود کے دائرہ میں داخل نہیں ہے، اگر واقعتاً یہی شکل ہے، تو پھر یہ معاملہ جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۶/۲۶۶، ۲۶۵،

جدید زکریا دیوبند ۲۳/۹/۲۰۲۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۸۰۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۶/۱۴۲۱ھ

سبسڈی اور کم شرح سود کے ساتھ سرکاری قرض

سوال [۹۳۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کاشتکار اور معذورین کو منجانب حکومت قرض دیئے جاتے ہیں۔ ۵۰ یا ۳۵ فیصد سبسڈی بھی حکومت دیتی ہے، جس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے اور ماہیہ رقم کم شرح سود کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ کاشتکار اور معذورین کے ایسے قرض کو جس پر ۵۰ یا ۳۵

فیصد سبسڈی ہے اور شرح سود کم ہوتا ہے، ایسا قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: مفتی سیر صاحب، استاذ مدرسہ فلاح دارین، عثمان آباد (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس سرکاری قرضہ کا ذکر سوال نامہ میں کیا

گیا ہے، اگر اس قرضہ کی ادائے گی میں سبسڈی سمیت جتنا سرکار سے ملا ہے، اس سے زائد دینا نہیں پڑتا ہے، تو شرعی طور پر جائز ہے؛ اس لئے کہ اس قرض پر ایک پیسہ بھی سود نہیں دینا پڑا؛ لیکن اگر سبسڈی سمیت جتنا سرکار سے ملا ہے، اتنی ادائے گی کے ساتھ مزید اس کے اوپر زائد ادا کرنا پڑ جائے تو زائد رقم سود ہے، تو ایسی صورت میں سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے اس قرض کا لین دین شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا؛ لہذا سرکار سے قرض لینے والے خود دیکھ لیں کہ ان کو لی ہوئی رقم کے اوپر زائد دینا پڑے گا یا نہیں؟ اگر زائد دینا نہیں پڑے گا، تو لے لیں اور اگر زائد دینا پڑے گا تو نہ لیں۔

قال الله تعالى: 'وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [البقره: ۲۷۵]

عن جابر^{رض} قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، ومؤكله، وكتابه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، باب لعن أكل الربا، ومؤكله، والنسخة الهندية، ۲/ ۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن النسائي، الزينة الموشمات، النسخة الهندية ۲/ ۲۳۸، دارالسلام رقم: ۵۱۰۸، سنن أبي داؤد، باب في أكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/ ۴۷۳، دارالسلام رقم: ۳۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ

۱۵/۸/۱۴۳۵ھ

(فتاویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۱۶۴۰)

اقلیتی طبقہ کو ملنے والی سبسڈی کے ساتھ قرض لینے کا حکم

سوال [۹۳۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ بندہ ایک کاروباری ہے، بندے کے کاروبار کے لئے ایک مشینری کی ضرورت ہے مشینری کی قیمت بہت زیادہ ہے، بندہ اس کی قیمت کا متحمل نہیں ہے، حکومت ہند کی جانب سے اقلیتی طبقہ کے لئے کاروبار کی ضروری اشیاء خریدنے کے لئے ایک اسکیم جاری ہوئی ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ ہم اپنے کاروباری اشیاء سے متعلق جو کمپنی ہے، اس کمپنی کو اپنی ضرورت پیش کریں گے، کمپنی ہماری ضرورت کا تخمینہ بتائے گی کہ آپ کی ضرورت کی اشیاء کی یہ قیمت ہوگی، ہم اس تخمینہ کی تفصیل حکومت کے ایک ادارے کو پیش کریں گے، اس حکومتی ادارے والے ہمارے کاروبار کی پوری تحقیق کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں بینک سے رجوع ہوں، ہم اپنے پورے کاروبار کی تفصیل کے ساتھ متعینہ بینک سے رجوع ہوتے ہیں، وہ بینک ہمارے کاروبار کی تفصیل اور وہ خود ہمارے کاروبار کی تحقیق کے بعد حکومتی ادارے کے حکم پر ہمارے کاروباری اشیاء سے متعلق جو کمپنی ہے،

اس سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ مذکورہ تخمینہ کے مطابق مشینری اس کے کاروبار کے لئے حوالہ کریں اور ہم سے رجوع ہوتی ہے اور حکم کرتی ہے کہ آپ اقلیتی طبقہ میں ہونے کی وجہ سے تخمینہ کا پچیس فیصد رقم حکومتی ادارہ کو ادا کریں گے، بقیہ %75 فیصد رقم قسط وار بینک کو آپ ادا کریں گے؛ لہذا اس شکل میں حکومت ہند کی جانب سے اقلیتی طبقہ کو دی جانے والی اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہم اپنے کاروباری اشیاء خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی مسئلہ بتا کر ممنون فرمائیں عین کرم ہوگا۔

المستفتی: سید سلیم بن سید سردار، نمبر ۶۹، نزد بالین، مسجد کولار، کرناٹک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں درج کی ہوئی صورت سے

سرکاری تعاون حاصل کرنا شرعی طور پر جائز ہے، بشرطیکہ اسمیں کوئی سودی لین دین نہ ہو۔

قال الفقیہ أبو الیث اختلاف الناس فی أخذ الجائزة من

السلطان. قال بعضهم: يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام. قال

محمد: وبه نأخذ ما لم نعرف شيئاً حراماً بعينه وهو قول أبي حنيفة،

وأصحابه، كذا في الظهيرية: وفي شرح حيل الخصاص لشمس الأئمة،

أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة السلطان وكان

يستقرض لجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة يقضي بها ديونه والحيلة

في هذه المسائل أن يشتري نسيئة، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء. (هندية،

كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، جديد زكريا ۵/۳۹۶،

قديم ۵/۳۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۲/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۱۹۸۸)

قرض کی وجہ سے کرایہ نہ لینا

سوال [۹۳۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری ایک اراضی ہے جو کہ کرایہ پر دی ہوئی ہے، میں نے کرایہ دار سے کچھ رقم قرض لی ہے اور اس قرض کی وجہ سے میں نے کرایہ دار سے کہا کہ جب تک میں آپ کا قرض نہ ادا کر دوں میں کرایہ نہیں لوں گا، تو آپ فرمادیں کہ قرض کے بدلے کرایہ چھوڑ دینے سے سود تو نہیں ہو جائے گا؟ مہربانی ہوگی۔

المستفتی: محمد شکیل، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعاً وہ سودی معاملہ ہے، اس سے بچنا

لازم اور واجب ہے۔

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفكر ۸/۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲)

كل قرض جر نفعاً حرام، فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن. (الدرم مع الرد، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب كل قرض جر نفعاً حرام، زكريا ۷/۳۹۵، كراچي ۵/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ صفر المظفر ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۲۱۳۴)

سودی قرض

سوال [۹۳۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں نے بطور قرض پچاس ہزار روپے اپنے قریبی ملنے والے سے لیا، جس کی ادائے گی کی صورت یہ طے ہوئی کہ دو ہزار روپیہ ہر مہینے دینا ہوگا، اس طرح میں دو ہزار روپیہ ہر مہینے دیتا رہا، یہاں تک کہ چھالیس ہزار روپے تک ہو گیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے متعلقین مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دو ہزار روپے مہینہ ہمیں دو۔ اور اب تک جو رقم تم نے دیئے ہیں وہ بطور نفع کے تھے، اصل رقم اپنی جگہ پر برقرار ہے؛ جبکہ مرحوم کے بھائی بھتیجے موجود ہیں، ان کی طرف سے کوئی تقاضہ نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ مجھ کو کتنی رقم کی ادائے گی کرنی چاہئے اور کس کو کرنی چاہئے؟ ان کے بھائی بھتیجے کو یا متعلقین کو؟

المستفتی: حفظ الرحمن، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر پچاس ہزار روپیہ واقعہً اس شرط پر لیا تھا کہ پچاس ہزار روپیہ ہی ادا کرنا ہوگا اور ہر ماہ دو ہزار روپیہ دینا ہوگا، تو شرعی طور پر اس طرح کا قرض لینا دینا جائز اور درست ہے۔ اور جب اس میں سے چھالیس ہزار روپیہ ادا کر دیا گیا ہے، تو باقی صرف چار ہزار روپیہ واجب الاداء ہے اور یہ چار ہزار روپے ان کے حقیقی وارثین کو ادا کرنا چاہئے اور اگر پچاس ہزار کا قرض، اس شرط پر لیا تھا کہ ہر مہینہ دو ہزار ادا کرتے رہیں گے اور مزید اس پر سود بھی دیں گے، تو شرعی طور پر ایسا معاملہ ناجائز اور حرام ہے۔

لا يجوز أن يرد المقرض إلى المقرض إلا ما اقتضه منه،
أو مثله تبعاً للقاعدة الفقهية القائلة كل قرض جرنافعاً حرام أي إذا
كان مشروطاً. (فقه السنة ۳/۱۶۶)

فمن الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية، وهو
القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المقرض. (أحكام القرآن
للحصاص، سورة البقرة، باب البيع، زكريا ۱/۵۶۹، سهيل اكيڊمي لاهور ۱/۴۶۹)

عن علي قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. (كنز العمال الدين والسلم، دارالكتب العلمية بيروت ۶/۹۹، رقم: ۱۵۵۱۲، جامع الأحاديث الكبير للسيوطي ۶/۴۳۸، رقم: ۱۵۸۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۲/۷/۱۴۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/رجب المرجب ۱۴۲۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۹۶۶۹/۳۸)

سود پر قرض دینا

سوال [۹۳۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محلہ کے کئی آدمی نے مل کر ایک کمیٹی قائم کی اور کمیٹی والے مقرض کو ایک ہزار روپے دیتے ہیں اور مقرض سے ہر روز ۱۳ روپیہ کر کے لیتے ہیں تین مہینہ تک، تین مہینہ ختم معاملہ صاف ہو گیا۔ کیا یہ صورت جائز ہے؟ دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: سعید الرحمن، بھنگناری انچلک دینی تعلیم بورڈ (آسام)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ معاملہ میں ایک ہزار روپیہ قرض دے کر قسط وار روزانہ تین مہینہ تک ۱۳-۱۳ روپے وصول کرنے میں کل وصول شدہ رقم ۱۱۷۰ روپے بنتی ہے، جو اصل قرض کی رقم سے ۱۷۰ روپے زائد ہے؛ لہذا یہ صریح سودی معاملہ ہے، مسلمانوں کے لئے اس طرح قرض کا معاملہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: 'وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [سورة البقره: ۲۷۵]

عن علي مرفوعاً: كل قرض جر منفعة فهو ربا، أي في حكم الربا، فيكون حراماً، وعقد القرض باطل. (السراج المنير ۴/۲۰، تکملة فتح الملهم، اشرفية ۱/۵۶۸، اعلاء السنن بيروت ۱۴/۵۶۶، کراچی ۱/۴۹۸)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي،
كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفكر ۸/۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲)
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۰۸۵)

بینک سے سودی قرض لینا

سوال [۹۳۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل جو بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے، اس قرض کا ۳/۱ قرض معاف کر کے بقیہ رقم پر سود لگا کر قرض خواہ سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس طرح کا سودی لین دین درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: انجمن کمیٹی اصلاح المسلمین، سنسار پور، کبیر لکھنؤ پور
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آج کل کے زمانہ میں بینک سے جو سودی قرض لیا جاتا ہے، وہ ایسی اضطراری ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس وجہ سے سود جیسی حرام چیز کا اختیار کرنا مباح ہو جائے؛ لہذا اگر کوئی ایسا قرض لے لیتا ہے، اور ادائیگی میں ۳/۱ معاف کیا گیا ہے اور ۲/۳ جو واجب الاداء ہے، اس پر جو سود بڑھتا ہے، وہ اگر معاف شدہ ۳/۱ سے زائد ہو جاتا ہے، تو سود کے دائرہ میں داخل ہو کر حرام اور ناجائز ہوگا۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، باب لعن آكل الربا،

مؤکلہ، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، مسند أحمد بن حنبل ۱/۸۳، رقم: ۶۳۵، ۶۶۰، ۶۷۱، ۷۲۱، ۸۴۴، ۹۸۰، ۱۲۸۹، ۱۳۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۳/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۳۹۳۸)

سودی قرض کا لین دین

سوال [۹۳۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی مجبوری کے تحت ایک محترمہ سے پچیس ہزار روپے بطور قرض کاروبار کے لئے لئے پیسے دیتے وقت اس محترمہ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک وہ اس کا پیسہ واپس نہیں کرتا بطور فائدہ آٹھ سو روپیہ ماہوار مجھے ادا کرے گا، پانچ سال کے بعد اس شخص نے دس ہزار روپے ادا کر دیئے اور پندرہ ہزار روپیہ جلدی دینے کو کہا، کچھ دنوں بعد اس شخص نے کچھ معزز لوگوں سے اس سلسلہ میں بات کی تو انہوں نے اسے غلط بتایا، پندرہ ہزار روپیہ پر ۵۰۰/۵۰۰ روپیہ ماہوار اب بھی جاری ہے اور کل ملا کر لگ بھگ ۸۶۰۰۰ روپے محترمہ کو ادا کر چکا ہے۔ کیا اس محترمہ کا اس طرح پیسہ لینا جائز ہے اور اصل رقم سے زائد جو محترمہ کو پونچھا وہ شرعاً واپس اس شخص کو ملنا چاہئے یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: وسیم احمد، محلہ جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس معاملہ میں دونوں گنہگار ہیں اور یہ شرعاً

سودی معاملہ ہے، اس طرح ہر ماہ راس المال کے علاوہ متعین مقدار دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، پچیس ہزار سے جو زائد رقم محترمہ نے لیا ہے، وہ سب ان کے حق میں حرام ہے، واپس کر دینا لازم ہے۔

من اکتسب مالا بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، وتجب عليه أن يرده على مالكة إن وجد المالک. (بذل المجهود، کتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن پور ۱/۳۷، دارالبشائر الإسلامية، ۱/۳۵۹، تحت رقم الحديث: ۵۹، البحر الرائق زكريا ۹/۳۶۹، كوئٹہ ۱/۲۰، شامي زكريا ۹/۵۵۳، كراچي ۶/۳۸۵، تبیین الحقائق، امدایة ملتان ۶/۲۷، زكريا ۷/۶۰، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/۲۴۶، ہندیہ، زكريا قدیم ۵/۵۴۹، جدید ۵/۴۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۴ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۹۵)

سودی قرض لینے کا حکم

سوال [۹۳۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں برطانیہ میں رہائشی مکان کے تعلق سے خاص طور پر مسلمانوں کو بہت دشواریاں پیش آتی ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی شخص رہائش کے لئے کرایہ پر مکان لینا چاہے، تو متوسط سہولیات والے مکان کا ماہانہ کرایہ عام طور پر ہزار بارہ سو پاؤنڈ ہوتا ہے، اور اگر مکان خریدنا چاہتا ہے، تو چونکہ ایسے متوسط مکان کی قیمت دو ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کے قریب ہوتی ہے، اور معاشی حالت عام طور پر ایسی نہیں ہوتی کہ یکسخت اتنی رقم ادا کر کے مکان خرید سکے؛ اس لئے (Morgage) سودی قرض لینا پڑتا ہے، یعنی سودی قرض لے کر مکان خریدنا پڑتا ہے، پھر چند سالوں تک قسط وار سود کے ساتھ اس کی ادائے گی

ہوتی ہے، متوسط درجہ کے آدمی کو عام طور پر تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو پاؤنڈ یا جیسے بینک سے معاہدہ ہو، اس کے مطابق کم و بیش ماہانہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔

اس طرح کرایہ کے متوسط مکان کے ہزار بارہ سو پاؤنڈ ماہانہ کرایہ پر ہر سہا برس تک ادا کرنے کے باوجود آدمی مکان کا مالک نہیں ہوتا؛ جبکہ ماہانہ قسط وار (Morgage) سودی قرض چند سالوں تک ادا کرنے سے آدمی مکان کا مالک بن جاتا ہے، اور مملوکہ مکان نہ ہونے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک مملوکہ مکان نہ ہو، تب تک بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی نہیں کرتے اور شادی نہ کرنے سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مکانات چھوٹے ہونے کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ ایک کمرہ میں سوتے ہیں، جس سے ماں باپ کی خانگی زندگی تھل ہو جاتی ہے۔

نیز مرور زمانہ سے دن بدن کرایہ میں بڑھوتری ہوتی ہے اور پندرہ بیس سالوں میں جو سود دے گا، اس سے زیادہ کرایا ہوگا اور مزید بے مکان رہے گا، اگر اس طرح نہیں لے سکتے تو بظاہر عامۃً مسلمانوں کے لئے مکان کا مالک ہونا ایک خواب ہے۔

پس دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس معاشی پریشانی و مجبوری میں، نیز بے راہ روی سے بچنے کے لئے (Morgage) یعنی سودی قرض لے کر مکان خریدنے کی شرعاً اجازت ہوگی؟

خیال رہے کہ وہاں Islamic Morgage کی صورتیں بھی رائج ہیں، جن میں بظاہر سود نہیں ہوتا، مگر اس میں پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لینے میں مکان آدمی کو ڈیڑھ گنی یا دو گنی قیمت میں پڑتا ہے، یعنی وہ مکان جو پہلی صورت میں دو ڈھائی لاکھ پاؤنڈ میں ملتا، وہی مکان اس دوسری صورت میں تین چار لاکھ میں پڑتا ہے، اس صورت حال میں مسلمان کیا کریں؟ گزارش و امید ہے کہ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائیں گے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سودی قرض لینے میں مسلمان کے ہاتھ میں سود کا

پیسہ نہیں آتا ہے؛ بلکہ مسلمان اپنی حلال کمائی کے پیسہ کو سود میں دیتا ہے، اور سود کھانے والے پر دو طرح کی لعنت ہے: (۱) سود لینے کی لعنت۔ (۲) سود کھانے کی لعنت۔

سود دینے والے پر ایک قسم کی لعنت ہوتی ہے اور وہ سود دینے کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک سودی قرضہ ادا کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ سائل خود اپنے بارے میں غور کر لے کہ اس کو سودی قرض لینے کی جو ضرورت ہے، وہ کس درجہ کی شدید ضرورت ہے۔ کیا اس ضرورت کی وجہ سے سود دینے کی لعنت سے محفوظ ہو جائے گا؟ اس سلسلہ میں سائل خود اپنے بارے میں غور کر لے۔ حضور اکرم ﷺ نے سود دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، باب لعن آكل الربا، ومؤكله، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳، سنن الترمذی، باب ماجاء في آكل الربا، النسخة الهندية ۱/۲۲۹، دار السلام رقم: ۱۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۷/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/رجب المرجب ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۱۰۱۵۶/۳۹)

بینک سے سود لینا

سوال [۹۳۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ زید نے یکمشت پانچ سال کے لئے پانچ ہزار روپے سرکاری

بینک میں جمع کئے، جو کئے پانچ سال بینک میں رہیں گے، بعد میں دو گنا لوٹیں گے، یعنی پانچ ہزار کا دس ہزار روپیہ۔

(۲) بکر اپنی تھوڑی تھوڑی رقم پس انداز کر کے سرکاری بینک میں جمع کرتا ہے اور سال پورا ہونے پر بینک ایک معتدبہ رقم کا اس میں اضافہ کر دیتا ہے، شریعت کی نظر میں یہ اضافہ شدہ رقم اپنے صرفہ میں لانا زید اور بکر کے لئے مباح ہوگا یا نہیں یا یہ سود ہوگا؟

سبھی اہل مدارس دارالعلوم دیوبند و مظاہر العلوم سہارن پور وغیرہ حضرت مدنیؒ و حضرت تھانویؒ کے سلسلوں سے ہی منسلک ہیں۔ حضرت مدنیؒ و حضرت تھانویؒ کی تحریر اس سلسلہ میں ہمرشتہ ہے۔ حضرات مفتیان کرام اس تحریر کا بغور مطالعہ فرما کر جو بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا حل ہو، جواب باصواب سے نوازیں۔

المستفتی: عبدالواسع، افضل گڈھ، امام مسجد صغیر والی، بجنور،

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اخبار کا تراشہ اور سوال نامہ دونوں دیکھا گیا، اخبار کے تراشے میں لکھا ہوا ہے، کہ حضرت مدنیؒ نے حضرت تھانویؒ کی رائے کی تصدیق و توثیق فرمائی ہے۔

اب سنئے حضرت تھانویؒ کی رائے: حضرت تھانویؒ کی رائے یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جائے، تو خود ہندوستان کے باشندے اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے حکومت ہند اور غیر مسلموں سے سود لینا جائز نہیں ہے، یہ ایسا ہی سود ہے، جیسا کہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، ہاں البتہ ایسے مسلمان کے لئے جائز ہے، جو خود اس ملک کے رہنے والے نہ ہوں؛ بلکہ دوسرے ملک سے ویڑا اور امن لے کر کچھ دنوں کے لئے آئے ہوں یا نو مسلم ہوں؛ لہذا اگر ہندوستان کو بالفرض دارالحرب بھی تسلیم کر لیا جائے، تو بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ایف ڈی کے ذریعہ سے یا کسی اور ذریعہ سے سود حاصل کرنا

جائز نہ ہوگا اور وہ سود حلال نہ ہوگا، ہاں البتہ اگر پاکستان یا سعودی عرب سے کوئی مسلمان عارضی طور پر کچھ وقت کے لئے ہندوستان آجائے، تو اس کے لئے حکومت یا غیر مسلم سے سود حاصل کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانویؒ کے فتویٰ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

”معاملہ کرنے والا وہ مسلم ہو، جو دارالاسلام سے دارالحرب میں امن لے کر آیا ہو یا وہ مسلم ہو جو دارالحرب ہی میں اسلام لایا ہو، وہ مسلم اصلی نہ ہو جو خود دارالحرب میں رہتا ہو“
حضرت تھانویؒ کی یہ رائے اس عبارت کا مفہوم ہے۔

ولا بین حربی، و مسلم مستأمن، ولو بعقد فاسد، أو قمار ثمة.

(د مختار مع الشامی، کتاب البیوع، باب الربا، زکریا ۷/۴۲۲، کراچی ۵/۱۸۶)

دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کی رائے ہمیں معلوم ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ہندوستان کا سود جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۵۴۶)

بینک سے منافع (انٹریسٹ) اور مسلم معاشرہ

جناب عبدالواسع صاحب نے حضرت مدنیؒ اور حضرت تھانویؒ کے حوالہ سے اخبار کارا جو تراشہ منسلک فرمایا ہے وہ حسب ذیل ہے جو آگے عنوان کے تحت میں آ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ۱۷۷۷ء سے یہ مسئلہ کم فہمی کے باعث بے حد اہم اور انتہائی پریشان کن بنا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ان تمام ممالک کے مسلمانوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے، جہاں نہ اسلامی شریعت کے قوانین کی پابندی ہے اور نہ ہی شرعی قوانین نافذ ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی تنہا (بلا شرکت غیرے) حکومت ہے، مثلاً چین، نیپال، سری لنکا،

روس، امریکہ، یورپین ممالک، برطانیہ، کناڈا، جاپان، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا وغیرہ۔ میں نے پہلی ہی سطر میں کم نہی کا لفظ استعمال کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بعض اعلیٰ اکابرین و پائے کے اونچے علمائے کرام کو چھوڑ کر اکثر مولویان اور صرف سند یافتہ دینداروں نے اپنے ناقص علم اور کمزور مطالعہ کے باعث اعلیٰ اکابر دین سے استفادہ نہیں کیا؛ اس لئے اپنی اپنی آراء کو فوقیت دی اور خود ساختہ تقریروں کو چمکانے کی کوششیں کیں؛ اس لئے مسلم معاشرہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا، ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہندوستان میں مغلیہ دور میں اور اس سے قبل جو شرعی قوانین نافذ العمل رہے، وہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں نافذ العمل نہیں رہے؛ کیوں کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا تھا۔

مسلمانوں کے لئے مولانا اشرف علی تھانویؒ اور مولانا حسین احمد مدنیؒ کی تمام ایسی تحریریں اور آراء سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ مولانا مدنیؒ کی تحریر مشعل راہ ہے، جس میں انہوں نے مولانا تھانویؒ کی رائے کی تصدیق و توثیق فرمائی ہے۔ دیکھئے مکتوبات شیخ الاسلام ۷۲/۵ اور ۲۱۲۔ یہ مولانا حسین احمد مدنیؒ کی تحریر ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں: ’ہندوستان میں غدر اور خیانت (یعنی ڈکیتی اور چوری) کو چھوڑ کر باقی ہر طرح سے (قانون ملک کے مطابق) اموال حاصل کرنا مسلمانوں کے لئے مباح (جائز) ہے‘۔

دارالعلوم دیوبند کے ایک فتویٰ کے مطابق مباح کے معنی ہیں ایسا جائز کہ اس کے لینے میں کوئی گناہ نہیں اور اس کے نہ لینے میں کوئی ثواب نہیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ ملک کے قوانین کے تحت جو جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، یا حاصل ہو سکتی ہیں، وہ مسلمانوں کے لئے بھی لینا جائز اور مباح ہیں، اگر آپ ان منافع جات کو نہ لیں گے، تو کوئی ثواب نہیں۔ علمائے کرام اگر مجھے معاف فرمائیں تو تاریخی حقیقت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دین اور شریعت کے جو معاشرتی قانون و قاعدے مسلم اور مغلیہ حکمرانی کے زمانے میں بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیساتھ ملک میں رائج تھے، وہی قانون و قاعدے انگریزی غلامی

کے طویل زمانے میں بھی علماء نے رائج رکھے؛ جبکہ بقول حضرت تھانویؒ اور بقول حضرت مدنیؒ ہندوستان دارالہرب بن چکا تھا، اور جو ترمیمات اور اجتہادی اصلاحات قوانین شریعت کے مطابق ہونی چاہئے تھیں، وہ نہیں عمل میں لائی گئیں اور دارالہرب میں جو فوائد شریعت نے عطا کیے تھے، وہ انگریزوں کے طویل زمانے میں بھی امت مسلمہ حاصل نہ کر سکی۔ نتیجہ کے طور پر مسلمانوں میں غربت و افلاس عام ہوتا چلا گیا اور حضرت مدنیؒ کی تحریر کے مطابق جو لاکھوں کروڑوں روپے کی مسلمانوں کی رقمیں انگریزی بینک ہضم کرتے رہے اور جس سے عیسائی مشینریاں اسکول، عیسائی کالج، عیسائی اسپتال قائم کرتے رہے، دارالہرب ہوتے ہوئے مسلمان اس سے فیضیاب نہ ہو سکتے تھے؛ جبکہ علمائے کرام وہی احکامات بیان کرتے رہے جو دارالشریعت میں یعنی شریعت کے قوانین کی حکمرانی اور شرعی اسلامی حکومت کے اندر نافذ العمل ہوتے ہیں، گذشتہ تقریباً ڈھائی سو سال سے مسلمان اس کے نقصانات اٹھا رہے ہیں، حساب لگائیے تو یہ زبردست نقصان اربوں کھربوں روپے کا شمار ہوگا۔

1980 میں خادم نے دارالعلوم دیوبند کو لکھ کر مولانا مدنیؒ کی تحریر کے متعلق پوچھا تھا، تو ان کا جواب تھا کہ بینک سے ملنے والی اضافے کی رقم لینا قطعی درست اور مباح ہے، مگر اس کو لفظ 'سود' مت کہئے؛ بلکہ بینک کے منافع کہئے، اگلی ایک اور تحریر سے میں نے پھر استفسار کیا کہ مباح کی سند بتائے تو جواب آیا کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ (جو کہ امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد تھے) کے مسلک کے عین مطابق ہے۔ نتیجہ یہ کہ مذکورہ دو اماموں اور دو عظیم فقیہوں حضرت تھانویؒ اور حضرت مدنیؒ کے موقف کے عین مطابق ہے، ان کے برخلاف دوسرے علمائے کرام کے خیالات و بیانات قطعی بے وقعت، ناقابل یقین اور لائے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے کی ابتداء سے آج تک مسلمان اپنے ملک کے قانون اور قاعدوں پر چلنے کا پابند ہے اور یہاں اسلامی شریعت مطہرہ کا یہی قانون ہے کہ چوری اور ڈکیتی کے سوا، باقی ہر طرح سے قانونی فائدہ حاصل کرنا بھی مسلمانوں کے لئے مباح ہے، جس طرح مسلم اور غیر مسلم سب

کے لئے ملک کے تمام قوانین اور قاعدوں پر چلنا ضروری ہے، اسی طرح معاشی اور اقتصادی فائدے حاصل کرنا جو قانون کے تحت دستیاب ہوں انہیں حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔

یہ علمائے دین جو بلا تحقیق، بے سمجھے بوجھے احکامات صادر کرتے ہیں، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ دارالشریعت جہاں اسلامی قوانین چلتے ہیں وہاں کے قوانین ہندوستان، نپال، سری لنکا، روس، چین، امریکہ، آسٹریلیا، کناڈا، نیدر لینڈ اور دیگر یورپی ممالک میں نہیں لاگو کیے جاسکتے۔ یہ دارالشریعت و دارالاسلام نہیں ہیں۔ یہاں وہی قواعد و ضوابط چلیں گے، جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ محدود اور تشریح شدہ ہیں جیسا کہ مذکورہ بلند پایہ اکابر سے ثابت ہے اور جو کہ ملک کے اندر حکومت کے قانون سے اختلاف نہیں رکھتے۔ حکومت وقت کے قوانین اور ضوابط کی قدر و عزت کر کے ان کو پوری طرح مانتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

گذشتہ ڈھائی سو سال میں اگر تمام علمائے کرام اور اکابر ملت اور سب سربر آوردہ رہبران قوم باقاعدہ و باضابطہ طور پر زکوٰۃ، صدقات اور دیگر خیرات کا ایک مشترکہ فنڈ بنانے کا نظام قائم کر دیتے، تو اس سے کئی اقتصادی فائدے ملت اسلامیہ کو پہنچتے اور مسلم عوام کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کسمپرسی کے تنگدست حالات میں نہ ہوتے، تمام ملک میں صوبائی اور ضلعی اور شہری نظم کے ساتھ یہ ساری رقمیں ہر سال جمع ہوتیں اور اسی فنڈ سے اہل ضرورت لوگوں کو اور اہل ضرورت اسکولوں اور مدارس کو باقاعدگی کے ساتھ تعاون دیا جاتا، اس طرح کروڑوں خاندانوں کی امداد بھی ہو جایا کرتی اور ان لوگوں کو کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی، جو سالانہ زکوٰۃ و صدقات اور خیرات ادا کرتے ہیں، ایمانداری اور محنتی علمائے کرام اور دیگر اکابر کے لئے یہ ناممکن نہ تھا، اس فنڈ کی موجودگی اور تقسیم کار وغیرہ کے بہت سے کاموں میں ہزاروں غریبوں کو روزگار بھی ملتا اور غیر مستحق گداگروں کی مصیبت سے بھی ملک و ملت کو چھٹکارہ ملتا۔

یقینی بات ہے کہ اس عظیم کام سے مستحق لوگوں کی غربی اور مفلسی دور ہو جاتی اور ان کو صنعت و حرفت کا شتکاری، دست کاری، تعلیم و ہندگی اور متفرق اقسام کے کاروبار مثلاً دوکانداری وغیرہ میں لگایا جاتا۔ اس طرح مسلم معاشرہ بڑی حد تک اقتصادی طور سے خوش حال اور ملک کے خوشحال شہری ہونے کے ناطے اپنے ملک کے غیر مسلم بھائیوں کی بھی امداد و تعاون کرتا اور اس طرح ملک سے غربی اور بے روزگاری دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا۔ جہاں یہ صحیح ہے کہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک غربی اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کی دوسری بڑی اکثریتی یعنی مسلمان جب تک غربی اور افلاس و بے روزگاری میں پھنسا رہے گا، اس وقت تک ملک ترقی یافتہ نہیں بن سکتا۔

قرض پر سود لینا اور دینا کیسا ہے؟

سوال [۹۳۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید گھریلو اعتبار سے پریشان تھا، جس بناء پر ایک آدمی سے بیس ہزار روپیہ قرض لیا تھا، ان قرضوں پر ماہانہ بائیس سو روپیہ سود کا بھی بڑھ جاتا ہے، اب تک زید نے دس ہزار روپیہ ادا کر دیئے ہیں، مگر اصل قرضہ بیس ہزار اپنی جگہ بدستور باقی ہے، زید کے پاس ایک چھوٹی سی دوکان ہے، جس سے گھریلو خرچ تو باسانی چل جاتے ہیں، مگر اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ایک مہشت ادا کر کے قرضہ سے سبکدوش ہو جائے، جس سے مجبوراً تھوڑا تھوڑا قسطوار ادا کر رہا ہے، جس سے سود کی بڑھتی ہوئی رقم ہی ادا ہو پاتی ہے، مگر قرضہ علی حالہ باقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں یا سرمایہ نہیں ہے، جس سے قرضہ ادا کر سکے، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے اور اس طرح دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ بینوا و توجروا۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں قرضہ لینے کا جو طریقہ لکھا ہے یہی زمانہ جاہلیت میں سودی کاروبار کا طریقہ تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سخت وعید آئی ہے؛ اس لئے سود پر قرضہ لینا باعث لعنت ہے، جب تک سودی قرضہ سے چھٹکارا نہ ہوگا لعنت ہوتی رہے گی۔

نیز جس شخص سے بیس ہزار قرضہ سود پر لیا گیا ہے، اس شخص کے لئے بیس ہزار سے زیادہ وصول کرنا سود اور مال حرام ہوگا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا اور اس پر قرآنی حکم کے مطابق مسلسل لعنت ہوتی رہے گی؛ لہذا بیس ہزار روپیہ جو قرضہ پر دیا ہے، وہ وصول ہو جانے کے بعد زائد وصول کرنا قطعاً جائز نہیں ہے اور زید جو قرضہ لینے والا ہے، اس کے پاس دوکان ہے، جب تک دوکان میں مال ہے، اس وقت تک زکوٰۃ کا پیسہ لے کر قرضہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، پہلے دوکان کا سارا سرمایہ لے کر قرضہ ادا کرے اس کے بعد بھی قرضہ کی مقدار کچھ باقی رہ جائے، تو زکوٰۃ کی رقم وصول کر سکتا ہے۔ نیز زکوٰۃ دہندگان کو اپنی زکوٰۃ کی حفاظت کرنی چاہئے کہ سودی قرض میں اپنی زکوٰۃ برباد نہ کریں۔

قال اللہ تعالیٰ: **وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**. [سورة البقرہ: ۲۷۵]

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، باب لعن آكل الربا، ومؤكله، والنسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن ابن ماجه، التجارات التغليظ في الربا، النسخة الهندية ۲/۱۶۵، دار السلام رقم: ۲۲۷۷، سنن النسائي، الزينة الموشمات، النسخة الهندية ۲/۲۳۸، دار السلام رقم: ۵۱۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵ھ/۶/۱۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الآخرة ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۴۰۵)

بینک سے سودی قرض لینے کی مختلف شکلیں

سوال [۹۳۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں معماری کا کام کرتا ہوں؛ لیکن اس کام پر جانے میں اولاً تو میرے کمر وغیرہ میں درد ہوتا ہے، اور ضعف بھی معلوم ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کام میں اکثر نمازیں جماعت کیساتھ نہیں ہو پاتیں اور بسا اوقات نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں اور تبلیغی کام میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، ویسے میں بارہویں کلاس فیل ہوں اور مہاراشٹر گورنمنٹ دسویں بارہویں کلاس پڑھے ہوئے لوگوں کو قرض دیتی ہے، یہ قرض پانچ سال کی مدت میں قسط وار مع سود کے ادا کرنا پڑتا ہے، قرض کی مکمل ادائے گی پر کچھ رقم معاف بھی ہو جاتی ہے، مثلاً اگر پچاس ہزار روپے قرض لیا جائے، تو اسے پانچ سال کی مدت میں بہتر ہزار ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد ساڑھے سات ہزار روپیہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیے بندہ یہ رقم لے کر بینک سے ٹیکسی اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ معاش کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔

(۲) اگر بینک سے یہ رقم نہ لی جائے؛ بلکہ صرف چیک بنا کر کسی کمپنی سے ٹیکسی لی جائے یعنی جتنی رقم کی کمپنی میں ٹیکسی نقد فروخت ہوتی ہے، اتنی رقم کا چیک بنا کر کمپنی کے حوالہ کر دیا جائے اور کمپنی سے ٹیکسی لے لی جائے، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟؛ لیکن اس صورت میں بھی جو چیک بنوایا جائے گا، اس کا سود چیک والے کو ہی ادا کرنا ہوگا۔

(۳) تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ سے نہ رقم لی جائے، نہ چیک بلکہ کوئی مشینری یا سیٹنگ کا سامان لیا جائے، پھر اسے فروخت کر کے ٹیکسی لی جائے، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: عبدالسبحان، ہور کھٹر، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) بینک سے قرض لینے کی صورت میں واپسی میں سود دینا لازم آتا ہے؛ اس لئے بینک سے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ حکومت کچھ روپے معاف ہی کیوں نہ کر دیتی ہو؛ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، باب لعن آكل الربا، ومؤكله، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، مشکاة ۱/۲۴۴)

(۲) بینک سے چیک لینے کی صورت میں بھی سود دینا لازم آتا ہے؛ اس لئے یہ بھی شکل ناجائز ہے؛ کیونکہ یہ شکل کل قرض جرنفعا حرام کے تحت داخل ہو کر حرام ہو جاتی ہے، اس میں جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بینک اس شخص کو ٹیکسی خریدنے کے لئے اپنا وکیل بنا لے، پھر یہ شخص پچاس ہزار روپیہ کا چیک لے کر ٹیکسی خرید کر بینک کے حوالہ کر دے، پھر یہ شخص بینک سے پچپن ہزار روپیہ میں ٹیکسی خرید لے، اور بینک کے طے شدہ معاملہ کے مطابق قسط وار ۵۵ ہزار روپیہ ادا کرتا رہے، تو اس طرح یہ معاملہ جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۰۹)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفکر ۸/۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲)

(۳) اور بینک سے چیک یا رقم نہ لے کر؛ بلکہ مشنری یا سیٹنگ کا سامان لے کر اسے فروخت کر کے ٹیکسی لینے کا جواز اس وقت ہوگا؛ جبکہ اس مشنری اور سیٹنگ کا سامان خریدنے میں قیمت ادا کرتے وقت سود دینا لازم نہ آتا ہو، اور اگر سود دینا لازم آتا ہے، تو کل قرض جرنفعا حرام کے تحت داخل ہو کر یہ شکل بھی ناجائز ہوگی۔

عن علي قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. (کنز العمال الدین والسلم،

دارالکتب العلمیۃ بیروت ۶/۹۹، رقم: ۱۵۵۱۲، جامع الأحادیث الکبیر للسیوطی
۶/۴۳۸، رقم: ۱۵۸۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱/۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۲/۶۰۰۳)

قرض سے زائد رقم وصول کرنا

سوال [۹۳۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ صوبہ کرناٹک کے اندر سنگا کے نام سے جگہ جگہ ایک مہم چلاتے ہیں، جس کی شکل یہ ہے کہ کوئی مالدار مسلمان ہو یا کافر عامۃً تو یہ کفار لوگ ہی ہوتے ہیں، عورتوں میں سے کسی عورت کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں؛ جبکہ جس گھر میں جمع ہو رہی ہیں اس کا تعلق اس مالدار سے ہوتا ہے، وہ سب عورتوں کو جمع کرنے کے بعد اس کو بلاتی ہے، وہ آکر سب کے آدھار کارڈ، ووٹ کارڈ اور کوپن (سوٹی) کارڈ اسی طرح گھر کے کاغذ کا عکس لے کر مکان خاص ہے یا بھاڑے کا، اس کی چانچ کر لیتا ہے، پھر ایک رقم دیتا ہے، اس میں جو عورتیں جمع ہیں آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں، تو یہ آدمی ہر ایک عورت کے حصہ میں جتنا پیسہ ملتا ہے ہر ایک عورت کو ایک کارڈ میں مثلاً ۱۰ ہزار ملے، تو ۳ ہزار کی زائد رقم کے ساتھ ۱۳ ہزار لکھ کر دے دیتا ہے، ہر ہفتہ قسطوار ادا کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی عورت ایک قسط میں جمع نہ کرے تو وہ آدمی جس کے گھر میں عورت سنگا کی ذمہ دار تھی، اسے یا بقیہ شرکاء عورتوں سے جو عورت جمع نہیں کی، اس کی رقم لیتا ہے، تو کیا یہ شکل سود اور بے حیائی کے زمرہ میں ہو کر ناجائز ہوگی یا نہیں؟ یا پھر اس طرح آدھا قرض زائد رقم کے ساتھ دینا کیسا ہے؟ ضرورت مند عورتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، مثلاً لڑکی کی شادی اور دیگر ضروریات میں برائے مہربانی اس مسئلہ کا شرعی حکم بیان

کردیے ممنون ہوں گا مہربانی ہوگی۔

المستفتی: مفتی حسن قادری قاسمی، راجپوٹی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت صریح سود ہے؛ اس لئے کہ اس میں قرض دینے والا گھر وغیرہ کے کاغذات کو گروی رکھ کر جو رقم دیتا ہے، اس سے زائد قرضداروں سے وصول کرتا ہے؛ لہذا یہ کل قرض جرنفعا کے تحت داخل ہو کر ناجائز اور حرام ہوگا۔ بریں بنائے مسلمانوں کو اس طرح کے قرض لینے سے اجتناب لازم ہے۔

عن علي مرفوعاً: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (اعلاء السنن

کراچی ۱/۴۹۸، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۴/۵۶۶)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفکر ۸/۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۵/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۵۴)

قرض پر ہر ماہ نفع لینا سود

سوال [۹۳۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید نے خالد سے ایک کروڑ روپے قرض لیا اور یہ طے ہوا کہ جب تک ایک کروڑ یکمشت ادا نہیں کریگا، اس وقت تک زید ماہانہ خالد کو پانچ ہزار روپے دیا کرے گا، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک پورا قرض ادا نہ کر دے، یہ ماہانہ پانچ ہزار روپے

جو خالد لے رہا ہے، یہ نفع ہے یا سود ہے؟ شرع محمدی کے مطابق جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: محمد، گجراتی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرض پر جو ماہانہ پانچ ہزار روپے طے ہوا ہے، یہ معاملہ سود ہے جو ناجائز اور حرام ہے، جس سے احتراز کرنا لازم ہے، اس کو نفع کہنا غلط ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲۴/۴۰۴، ڈابھیل ۱۶/۳۴۲، انوار رحمت ۲۳۳)

کل قرض جر نفعاً حرام أي إذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر . (الدر مع الرد، کتاب البیوع، باب المرابحة والتولية، مطلب کل قرض جر نفعاً حرام، زکریا ۷/۳۹۵، کراچی ۱۶۶/۵)

أما ربا النسيئة، فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. (تفسير كبير للإمام الفخر الرازي تحت تفسير رقم الآية: ۲۷۵، من سورة البقرة ۹۱/۷، روح البيان ۲/۹۳)

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. (عناية على فتح القدير، کراچی ۶/۱۴۶، دارالفکر ۷/۳، المبسوط للسرخسي، دارالکتب العلمية بیروت ۲/۱۰۹، هداية اشرفي ۳/۷۸، ہندیہ، زکریا جدید ۳/۱۱۸، قدید ۳/۱۱۷)

عن علي أمير المؤمنين كل قرض جر منفعة، فهو ربا- وقال الموفق: كل قرض شرط فيه الزيادة، فهو حرام بلا خلاف. (إعلاء السنن، کراچی ۱۴/۴۹۸، دارالکتب العلمية بیروت ۱۴/۵۶۶)

لا يجوز أن يرد المقرض إلى المقرض إلا ما اقترضه، أو مثله تبعاً

للقاعدة الفقهية القائلة كل قرض جر نفعاً فهو ربا. (فقه السنة، بيروت ۱۶۵/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۴۰)

نفع لے کر ادھار روپے دینا

سوال [۹۳۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید بکر کو نفع لے کر روپیہ ادھار دیتا ہے، آیا یہ روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ نیز زید کے پاس کچھ روپے جائز طریقے کے ہیں اور کچھ روپے ناجائز طریقے کے دونوں کو اس نے ایک جگہ جمع کر دیا (ملا دیا) پھر اس روپیہ میں سے بکر شریعت کے مطابق روپے ادھار لیتا ہے؛ جبکہ بکر کو معلوم بھی ہے کہ اس کے اندر ناجائز روپے ملے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں بکر کے لئے روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اکرم صدیقی، ٹیلر ماسٹر، کربلا روڈ علی خاں، کاشی پور
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں زید کے لئے نفع لے کر روپیہ ادھار دینا کھلا ہوا سود ہے، جس کی قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں؛ اس لئے زید کے لئے نفع لے کر ادھار دینا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: 'وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [البقرہ: ۲۷۵]

عبد اللہ بن مسعودؓ، قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاهديه الحديث. (سنن أبي داؤد، باب في آكل الربا ومؤكله،

النسخة الهندية ۲/ ۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: كل قرض

جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفکر ۸/۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲)

نیز زید کے پاس اگر اکثر روپے حرام اور ناجائز آمدنی سے ہیں، تو ایسی صورت میں بکر کو ادھار لینے سے احتراز کرنا چاہئے، اور اگر اکثر روپے حلال اور جائز آمدنی سے ہیں، تو زید سے روپے ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں، یہی سمجھا جائے گا کہ بکر حلال آمدنی سے ادھار لے رہا ہے۔

وكاسب الحرام إذا كان غالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل وإن كان المال حلالاً فلا بأس به. (هندية، كتاب الكراهية والاستحسان، الباب الثاني عشري الهدايا والضيافات، زكريا قديم ۵/۳۴۳، جديد ۵/۳۹۷، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۴/۱۸۶-۱۸۶، مصري قديم ۲/۵۲۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۴۳۳۵)

قرض کے بدلے نفع حاصل کرنا

سوال [۹۳۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ضمیر عالم کے ماموں محمد یسین پیتل کا کام کرتے ہیں، محمد یسین کسی بھی دوکان سے سلی ادھار لیتے ہیں، ادھار نقد کے مقابلہ میں ۴ روپیہ مہنگی ملتی ہے، تو ضمیر عالم نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ مجھ سے روپے لے لیجئے اور دوکان سے نقد ۴ روپے سستی خرید لیجئے، مثلاً ایک سلی بازار میں نقد ۴۶ روپیہ میں ملتی ہے اور ادھار ۵۰ روپیہ میں ملے گی، تو ضمیر عالم نے اپنے ماموں محمد یسین کو روپیہ دے کر کہا کہ نقد خرید لیجئے اور ہمیں ۴ روپیہ پرافٹ دیدتجئے، تو شرعاً یہ تجارت صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ صورت جائز نہ ہو، تو کوئی جائز شکل تحریر فرمادیں۔

المستفتی: ضمیر عالم پکا باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ عقد شرعاً درست نہیں اور اس طرح کاروبار لینا شرعاً سود میں داخل ہے؛ کیونکہ دیئے ہوئے روپے قرض کے حکم میں ہیں اور قرض کے بدلے نفع حاصل کرنا سود ہے؛ لہذا اکل قرض جرنفعاً حرام کے تحت داخل ہو کر حرام ہوگا، اور اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: 'وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [البقرہ: ۲۷۵]

لہذا اس نفع کو مالک کے پاس لوٹانا لازم ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷/۲۱)

جواز کی شکل یہ ہے کہ ضمیر عالم خود سلی خرید کر پچاس روپیہ میں محمد یسین کے ہاتھ فروخت کر دیں اور دوسری شکل جواز کی یہ ہے کہ ضمیر عالم نے جو روپے دیئے ہیں، اس روپیہ کے نفع میں دونوں ثلث یا نصف کے حساب سے شریک ہو جائیں، تو یہ بھی جائز ہے۔
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۳/۱۴۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/ربیع الاول ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۴/۷۸۷۰۶)

فیصد فائدہ پر قرض دینا

سوال [۹۳۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مقام پر دس لوگ مل کر ایک کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دس لوگ آپس میں ہر ماہ بیس روپے جمع کرتے ہیں، ایک کے پاس کبھی واپس نہیں ملیں گے؛ بلکہ اس سے دو قسم کے فائدے ملتے ہیں۔

(۱) اگر ان دسوں میں سے کسی کو قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اس شرط پر قرض

ملتا ہے کہ اس کا فی سال سات فیصد فائدہ دینا پڑے گا؛ لیکن اگر قسط جمع کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگتا ہے، اور اگر زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، قرض کے لئے تو دوسری جگہ سے پیسے قرض لے کر دیئے جاتے ہیں؛ حالانکہ اس قرض کی رقم پر ان کو دس فیصد فائدہ اگلے کو دینا پڑتا ہے؛ لیکن یہ ممبران اپنوں میں سات فیصد ہی لگاتے ہیں، اس حال میں تیس فیصد کی کمی کو فائدہ کی رقم میں برابر کرتے ہیں۔

(۲) اب آپس میں قرض دینے سے جو منافع آتا ہے، اس کو دسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ فائدہ لینا یا اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
المستفتی: سجاد الرحمن، اڑیسہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فیصد فائدہ کی شرط پر قرض دینا سودی معاملہ

ہے؛ اس لئے یہ معاملہ شروع سے آخر تک ناجائز اور حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاہدیه، وقال: ہم سواہ. (مسلم شریف، باب لعن آکل الربا، ومؤكله، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۰/۱۰/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/شوال المکرم ۱۴۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۹۹۷)

فائنس کے نام سے ۱۰ ہزار قرض لے کر ایک ماہ بعد ۱۲ ہزار ادا کرنا

سوال [۹۳۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ آج کل بہت سے مسلمانوں میں بڑے زوروں سے ایک بات گھر کر گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فائنس کے نام سے دس ہزار روپیہ قرض دیتے ہیں اور اس کا ایک

ماہ بعد ۱۲ ہزار روپیہ لیتے ہیں، اسی طرح بڑی بڑی رقم موٹر، ٹریکٹر، موٹر سائیکل وغیرہ پر دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یا مہینہ مہینہ میں ان سے رقم وصول کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس کو بیاج نہیں مانتے۔ کیا ایسا کرنا یا روپیہ قرضدار سے زیادہ لینا جائز ہے؟ وہ لوگ پہلے ہی رقم زیادہ لینے کی بات کرتے ہیں۔

المستفتی: حاجی ماسٹر علی، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں مذکور دو جزئیات ہیں:

اول تو صراحۃً سود ہے، جو نص قرآنی سے قطعاً ناجائز و حرام ہے، اس کی نوعیت کے حرام ہونے کے بارے میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں بے شمار وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

(فتاویٰ محمودیہ ۲۰۴/۲-۲۱۸، فتاویٰ رحیمیہ ۲/۱۹۳، ایضاح النوادر ۱۵۳/۱)

قال اللہ تعالیٰ: **وَاحْلَ اللَّهُ التَّبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ○ **فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .** [البقرہ:

[۲۷۵-۲۷۸-۲۷۹]

عن عبد اللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: درهم ربا یا کله الرجل، وهو یعلم أشد من ستة وثلاثین زنیة.

(مسند أحمد بن حنبل ۵/۲۲۵، رقم: ۳/۲۲۳۰، مسند البزار، مكتبة العلوم والحکم

۳۰۹/۸، رقم: ۳۳۸۱، سنن الدارقطني، کتاب البيوع، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۱۳،

رقم: ۲۸۱۹-۲۸۲۱، مشکاة ۱/۲۴۶)

اور دوسرے جزئیہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ٹریکٹر یا موٹر سائیکل وغیرہ کے لئے بڑی بڑی رقم دے کر ماہانہ اور قسطوار رقم قرض کی مقدار تک وصول کیا جائے، تو یہ معاملہ درست ہے بیاج نہیں؛ لیکن اگر قرض سے زائد وصول کیا جائے، تو یہ سود ہے جو ناجائز و حرام ہے۔

(مستفاد: ایضاح النوادر ۱۳۹-۳۹۰، فتاویٰ محمودیہ ۱۳/۳۷۳)

ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زاد وافي الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. (تفسير كبير للإمام الفخر الرازي، تحت تفسير رقم الآية: ۲۷۵، من سورة البقرة ۷/۹۱، روح البيان ۲/۹۳، غرائب القرآن للنيسابوری ۲/۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۱/۳۶۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۷/۱۴۲۲ھ

تجارت کے لئے تین ہزار روئے کر چار ہزار واپس لینا

سوال [۹۳۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے بکر کو تین ہزار روپیہ اس شرط پر دیا کہ سال بھر اس روپیہ سے کوئی کام تجارت وغیرہ کرے، ایک سال کے بعد چار ہزار روپیہ واپس لوں گا، کیا یہ لین دین شرعاً درست ہے یا نہیں؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: حافظ رسول احمد، مدرس مدرسہ بحر العلوم، مکلا پور، ضلع: سیتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ بالکل صریح سود ہے قرآنی اعلان کے مطابق

تین ہزار پر چار ہزار لینا حرام اور ناجائز ہے اور خدا اور رسول کے ساتھ مقابلہ آرائی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

[البقرہ: ۲۷۹] فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۸۱۵/۲۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۶/۹/۱۴۱۲ھ

اضافہ کی شرط کے ساتھ قرضہ

سوال [۹۳۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے بکر سے پندرہ سو روپیہ قرض لئے چھ مہینہ کے لئے، بکر نے زید کو قرض اس شرط پر دیا کہ دو ہزار روپے دینے ہوں گے، زید نے اس شرط کو قبول کر لیا بکر کہتا ہے کہ پیسے سے پیسے کمایا جاتا ہے کیا اس کا کہنا جائز ہے؟

المستفتی: محمد شعیب میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرض پر اس طرح رقم لینے دینے کا معاملہ کرنا شرعاً کھلا سود ہے۔ نیز پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ کہہ کر بکر کا قرض دینا اور اس کے اوپر نفع حاصل کرنا شرعاً سود ہے پیسہ کمانے کا طریقہ اور تجارت نہیں ہے؛ اس لئے اس طرح کے معاملہ سے اجتناب ضروری ہے۔ (مستفاد: محمودیہ ۳۱۲/۱۱، جدید ڈائجسٹ ۱۶/۱۶-۳۲۳-۳۲۴، ۲۱۸/۶، ۲۹۳/۶، رحمیہ ۱۳۸/۶، جدید زکریا ۲۳۸/۹)

قال اللہ تعالیٰ: 'وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [سورة البقرہ: ۲۷۵]

کل قرض جر نفعاً حرام (در مختار) أي إذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر. (شامی، کتاب البیوع، باب المرابحة والتولية، مطلب کل قرض جر نفعاً حرام، زکریا ۷/۳۹۵، کراچی ۱/۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۵/۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵۶۶۵)

قرض دے کر قرض گیرندہ کی زمین سے انتفاع کرنا

سوال [۹۳۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے شخص کو دیدی اور کہا کہ ایک ہزار روپیہ مجھے دیدو اور میری زمین سے اس وقت تک فائدہ اٹھاتے رہو، جب تک کہ میں آپ کے روپے نہ واپس کر دوں، تو کیا یہ معاملہ شرعاً درست ہے۔

المستفتی: سعید الرحمن، آسامی متعلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں شخص مذکور قرض کی مجبوری کی

بنا پر اپنی زمین سے ادا قرض تک انتفاع کی اجازت دے رہا ہے؛ اس لئے یہ معاملہ

کل قرض جر منفعة، فہو ربا. (کنز العمال الدین والسلم، دارالکتب العلمیة

بیروت ۶/۹۹، رقم: ۱۵۵۱۲، جامع الأحادیث الكبير للسیوطي ۶/۴۳۸، رقم: ۱۵۸۲۱)

کے تحت داخل ہو کر ناجائز اور فاسد ہوگا اور قرض دے کر زمین سے انتفاع حاصل کر

نے والے کے لئے زمین کی پیداوار سود اور حرام ہوگی۔

إن من ارتهن شيئاً لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه،

وإن أذن له الراهن؛ لأنه إذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقي له

المنفعة التي استوفى فضلاً، فيكون رباً وهذا أمر عظيم. (مجمع الأنهر، كتاب

الرهن، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۲۷۳-۲۷۴، مصري قديم ۲/۵۸۸، شامي، مطلب

کل جر نفعاً حرام، زکریا ۷/۴۲۲، کراچی ۵/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/زی الحجۃ ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۲۲۷-۲۲۷)

پیشگی گندم دے کر فصل پر زیادہ لینا

سوال [۹۳۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ ایک شخص اپنے گاؤں میں لوگوں کو گندم یا چاول اس شرط پر دیتا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارا گندم یا دھان وغیرہ کٹ کر تیار ہو جائے گا، تو اس وقت تمہارے گندم یا دھان کی قیمت پانچ سو روپیہ کو نخل ہے اور تمہارے گندم یا دھان کے کٹتے وقت عام قیمت اگر ساڑھے چھ سو روپیہ کو نخل ہو جائے گی، تو میں پانچ سو روپیہ کو نخل ہی کے حساب سے لوں گا یا یہ کہا کہ ابھی تم چاول یا گندم لیجاؤ اور دو تین ماہ کے بعد جو عام قیمت رہتی ہے، اس قیمت کے حساب سے روپیہ یا گندم یا دھان لوں گا؛ حالانکہ دو یا تین ماہ کے بعد اس چاول یا گندم کی قیمت معاملہ کرنے کے وقت جو قیمت تھی اس سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شرع کے مطابق جواب مرحمت فرمادیں۔

المستفتی: علی مرتضیٰ کٹیہاری، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نمبر ۱ اور سوال نمبر ۲ میں جو صورت نقل کی

گئی ہے، وہ رہا ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز ہے، گندم یا چاول دینے والے کو اتنا ہی لینا چاہئے جتنا دیا ہے، اس سے زائد لینا یا اس کے لئے شرطیں لگانا یا قیمت کے اعتبار سے وہی چیز زائد لینا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل

قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع،

باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفكر ۸/۲۷۶، رقم: ۹۲، ۱۱۰)

الربوا محرم في كل مكيل، أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلاً.

(هداية، كتاب البيوع، باب الربا، اشرفی ۳/۷۷) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۸/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۳۱۱)

قرض کی رقم باقی رکھ کر چاول وصول کرنا

سوال [۹۳۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ ایک ہزار روپے دوسرے آدمی کو دیتے ہیں اور ایک مہینہ میں پانچ کلو چاول لیتے ہیں، اصل ایک ہزار روپے باقی رہ جاتے ہیں۔ کیا یہ صورت جائز ہے؟

المستفتی: محمد سعید الرحمن، بھنگنا ماری، انچلک دیہی تعلیمی، بورڈ آسام
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرض کی اصل رقم باقی رکھ کر ماہانہ پانچ کلو چاول وصول کرنا صریح سود ہے، جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؛ لہذا اس طرح معاملہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: 'وَاحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [سورة البقرہ: ۲۷۵]

کل قرض جر نفعاً حرام. (طحاوی، النسخة الہندیة، ۲/۲۹۷، کتاب البیوع، باب المرابحة والتولیة، مطلب کل قرض جر نفعاً حرام، زکریا ۷/۳۹۵، کراچی ۱۶۶/۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹۸۴۰۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۶/۱ھ

قرض کے عوض میں ملنے والے گیہوں کا حکم

سوال [۹۳۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کنٹرول والے غیر مسلم ہیں، وہ کسی مسلمان سے کچھ روپے قرض کہہ کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ کنٹرول والے مسلمان کو ہر ماہ روپے کے عوض میں کچھ گیہوں دیتے ہیں، سال

دو سال بعد قرض پورا واپس کر دیتے ہیں، تو وہ گیہوں کھانا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد صلاح الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کنٹرول والے قرض لینے کے بعد ہر ماہ روپے

کے عوض جو گیہوں دیتے ہیں وہ سود ہے؛ لہذا اس کا کھانا جائز نہیں۔

کل قرض جر نفعاً حرام. (شامی، زکریا ۷/۳۹۵، کراچی ۱۶۶/۶)
 عن عبد اللہ بن سلام عن بردة أئیت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام،
 فقال: ألتجئ فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت، ثم قال إنك
 بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن،
 أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ربا. (بخاري شريف، كتاب مناقب الانصار، باب
 مناقب عبد الله بن سلام ۱/۵۳۸، رقم: ۳۶۷۷، ف: ۳۸۱۴)

فانظر كيف جعل عبد الله بن سلام كل زيادة على أصل الدين ربا
 مع أنها لم تكن مشروطة في العقد؛ لكونها معروفة فيما بينهم والمعروف
 كالمشروط. (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا اشرفيه ديوبند
 ۱/۵۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۳/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۹۵۱۴/۳۸)

قرض پر نفع حاصل کرنا

سوال [۹۳۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ زید کو سامان کی ضرورت ہے؛ لیکن اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے اور سامان دس ہزار روپیہ کا ہے، عمر و زید سے کہتا ہے کہ تم سامان لے لو نقد رقم میں ادا

کردیتا ہوں اور تم یہ رقم مجھے ایک سال میں ادا کرنا اور اس پر مزید کچھ رقم مجھے نفع کے طور پر دے دینا تو کیا اس طرح کا معاملہ درست ہے؟

المستفتی: محمد زبیر، احمد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید کے پاس نقد رقم نہ ہونے کی صورت میں عمر و کا اس سے یہ کہنا کہ تم سامان لے لو رقم میں ادا کر دوں گا اور پھر ادائے گی کے وقت مزید کچھ رقم بطور نفع کے دینا، شرعاً یہ صورت سود کے دائرہ میں داخل ہے؛ اس لئے اس طرح کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے جواز کی متبادل شکل یہ ہے کہ عمرو یوں کہے کہ یہ سامان میں خرید رہا ہوں اور خرید کر کے پھر تمہارے ہاتھ میں ادھار بیچ رہا ہوں اور تم مجھے اتنی رقم اس کی قیمت کے طور پر بعد میں ادا کر دینا اور بعد میں جو ادا کرے گا، وہ مدت بھی متعین ہو جانی چاہئے۔

عن علي قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (كنز العمال الدين والسلم،

دارالکتب العلمیہ بیروت ۹۹/۶، رقم: ۱۵۵۱۲، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع،

باب كل قرض جر نفعاً فهو ربا، دارالفکر بیروت ۲۷۶/۸، رقم: ۱۱۰۹۲)

كل قرض جر منفعة فهو ربا. (شامي، كتاب البيوع، باب المراجعة، مطلب

كل قرض جر نفعاً حرام، كراچي ۱۶۶/۶، زكريا ۳۹۵/۷، إعلاء السنن، كراچي ۹۸/۱۴،

دارالکتب العلمیہ بیروت ۵۶۶/۱۴، قواعد الفقه اشرفي ديوبند ۱۰۲، رقم: ۲۳۰)

أما الأئمة الأربعة و جمهور الفقهاء والمحدثين، فقد أجازوا البيع

المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبين العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل

معلوم وبشمن، متفق عليه عند العقدة. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، أحكام البيع

بالتقسيم ص: ۷، بحواله محموديه ذابهيل ۱۵۵/۱۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/زی قعدہ ۱۴۲۷ھ

۱۴۲۷/۱۲/۱۳

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۱۴۸)

پانچ من دھان لینے کی شرط پر قرض دینا

سوال [۹۳۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبداللہ نے عبدالرحمن کو پانچ ہزار روپیہ دیا، ایک سال کے لئے اور پانچ ہزار کے بدلے میں پانچ من دھان لیتا ہے، اور سال کے آخر میں وہ پانچ ہزار روپے بھی واپس لیتا ہے، کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟

المستفتی: سعید الرحمن، بھنگنا ماری، انچلک دینی تعلیمی بورڈ (آسام)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پانچ ہزار روپے اس شرط پر قرض دینا کہ سال پورا ہونے کے بعد پانچ ہزار روپے واپس کرنے ہوں گے، اور مزید پانچ من دھان دینا ہوگا، صریح سودی معاملہ ہے اور شرعاً اس طرح معاملہ کرنا حرام ہے، مسلمانوں کو اس طرح کے سودی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا لازم ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: **وَاحْلَ اللّٰهُ النُّبُوعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**. [سورة البقرہ: ۲۷۵]

قال ابن المنذر: **إن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا.** (إعلاء السنن، كتاب الحوالة، باب كل قرض جر نفعاً فهو ربا، دارالكتب العلمية بيروت ۱/ ۵۶۶، ۱/ ۴، ۱/ ۴، ۱/ ۴، مثله في تكملة فتح الملهم، المساقاة والمزارعة، باب الربا، اشرفي ديوبند ۱/ ۵۶۸) **كل قرض جر منفعة، فهو ربا.** (طحاوي ۲/ ۲۲۹، كنز العمال، كتاب الدين والسلم،

دارالكتب العلمية بيروت ۶/ ۹۹، رقم: ۱۵۵۱۲، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر نفعاً فهو ربا، دارالفكر بيروت ۸/ ۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲) **فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۶/۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۰۸۵)

تعلیمی لون

سوال [۹۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل کے زمانہ میں تعلیمی اخراجات و فیس وغیرہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کیا ڈل کلاس لوگ بھی ان اخراجات کے برداشت کے قابل نہیں ہوتے، خاص طور پر (پروفیشنل کورس (Profeshnal Courses) جیسے میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ، گورنمنٹ کوٹا بہت کم ہوتا ہے، ایسے حالات میں اچھے ہونہار مسلم طلبہ داخلہ لینے کے لئے اگر لون اسکالرشپ (Loan Scholar Ship) ایجوکیشنل انشورنس پلان (Educational Insurance Plan) کے ذریعہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان سہولتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان ذرائع کو استعمال کرنے میں سود کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے، بینک بھی لون سود پر دیتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟

المستفتی: متیق الرحمن، کامٹی، ناگ پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سود کا لینا دینا دونوں باعث لعنت ہیں اور فقہاء نے سخت اضطرابی ضرورت کی بنا پر سودی قرض لینے کی گنجائش لکھی ہے، اور جن تعلیمی ضرورتوں کے لئے بینک سے سودی قرض لینے کا ذکر کیا گیا ہے، ان ضرورتوں کو صاحب معاملہ خود سمجھے، کیا ان ضرورتوں کی بنا پر سودی قرض لینے کی لعنت سے حفاظت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ خود ہی کریں۔

عن جابر^{رض} قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سوا. (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام

رقم: ۳۳۳۳، سنن الترمذی، باب ماجاء فی آکل الربا، النسخة الهندية ۲۲۹/۱،
دارالسلام رقم: ۱۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۱۰/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ شوال المکرم ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۴۹۸)

بینک سے قرض لے کر مکان کی تعمیر

سوال [۹۳۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بینک سے قرض لے کر مکان تعمیر کرا سکتا ہوں؟

المستفتی: ناصر رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سودی قرض لینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، مستحق لعنت ہے آپ خود سوچ لیں کہ جو سودی قرض لیا جا رہا ہے، اس کی لعنت اور اپنی ضرورت دونوں کو خود دیکھ لیں، کیا آپ ایسے ضرورت مند ہیں کہ جس کی وجہ سے لعنت سے بچ جائیں گے؟ اس لئے قرض لینا جائز نہیں ہے۔

کل قرض جر نفعاً فہو ربا. (طحاوی شریف، ۲/۲۲۹)

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاہديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، کتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دارالسلام رقم: ۳۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۸۷)

سودی قرض لے کر مکان بنانا

سوال [۹۳۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید سرکاری ملازم ہے، جنہیں دس ہزار سات سو سہتر روپیہ نقد تنخواہ ملتی ہے، باقی رقم کٹوتی میں جمع ہو جاتی ہے، کٹوتی میں ماہانہ جمع ہونے والی اس رقم کی سالانہ مقدار تقریباً پچاس ہزار تین سو چھتیس روپے سالانہ ہے، زید کے یہاں چار اولاد ہیں، دو لڑکے، دو لڑکیاں اور تقریباً سب ہی بالغ ہو چکے ہیں۔ زید کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں، دونوں میاں بیوی کرایہ کے مکان میں تقریباً بیس سال سے زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں زید کو مکان خریدنے یا بنانے کے لئے کئی ایجنسیاں لون دینے کی پیشکش کر رہی ہیں؛ لیکن یہ لون سود کے ساتھ دے رہی ہیں، مجموعی مندرجہ حالات میں رہبری فرمائیں کہ کیا اپنا رہائشی مکان خریدنے یا بنانے کے لئے مذکورہ ایجنسیوں سے یہ لون (سود) لیا جاسکتا ہے۔

المستفتی: محمد نسیم ولد محمد شکور، مادھیمک، بکشا پورڈ، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سودی لون لے کر مکان بنانا جائز نہیں ہے؛ اس لئے کوشش کر کے بلا سودی قرض لے کر مکان بنانا چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۹۳/۲، جدید زکریا ۳۳۸/۹)

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، و كاتبه، و شاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، كتاب المساقاة و المزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفكر ۲۷۶/۸، رقم: ۱۱۰۹۲، كنز العمال، دارالكتب العلمية بيروت ۹۹/۶، رقم: ۱۵۵۱۲)

كل قرض جر نفعاً حرام. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، كراچی ۱۶۶/۵، زكريا ۳۹۵/۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ شوال المکرم ۱۴۲۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۸۱۶۹/۳)

ہوم لون

سوال [۹۳۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید شیواجی نگر گوندی کے کوردہ جھونپڑی علاقے میں رہتا ہے، جہاں ہمیشہ پانی کی تکلیف رہتی ہے۔ نیز بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے یہ علاقہ قطعی سازگار نہیں ہے؛ کیونکہ ماحول بد سے بھی بدتر ہے۔ زید کے پاس دو قطعہ مکان روم ہے، ایک روم میں کارخانہ ہے اور دوسرے میں قیام۔ زید چاہتا ہے کہ موجودہ ناقص علاقہ چھوڑ کر قریب کے کسی ایک فلیٹ میں منتقل ہو جائے، جہاں ماحول اچھا اور تعلیمی ذرائع فراہم اور پانی وغیرہ کی سہولت میسر ہو؛ لیکن فلیٹ کی قیمت فی الحال بارہ لاکھ ہے؛ جبکہ زید کا موجودہ مکان بمشکل چار لاکھ میں فروخت ہو سکتا ہے، باقی ۸ لاکھ روپیہ بینک سے لون پر لینا پڑے گا، تب ہی فلیٹ خریدا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کی پرورش پر ادھت، تعلیم و تربیت اسلامی دائرے میں ہو سکے۔

واضح فرمایا جائے کہ از روئے شرع شریف بینک سے لون لے کر فلیٹ خریدا جائز ہے

یانا جائز؟ نیز یہ واضح رہے کہ قانونی طور پر (اگر کسی طرح کوئی شخص مطلوبہ رقم فراہم بھی کرے تو بلا لون لئے بارہ لاکھ رقم کے یکمشت ہونے پر انکم ٹیکس کی پیچیدگی میں الجھنا ہوگا۔

المستفتی: ریاض احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فلیٹ خریدنے کے لئے بینک سے سود پر قرض لینا شرعاً ناجائز ہے؛ اس لئے کہ سودی قرض لینے کی صورت میں اپنے اوپر قرض کے ساتھ ساتھ سود کی لعنت مسلط کرنا لازم آئے گا۔ نیز سودی لین دین موجب لعنت ہے، آپ اپنی ضرورت کو خود محسوس کریں۔ کیا آپ کی ضرورت اتنی سخت ضرورت ہے، جس کی وجہ سے سودی قرض لینے کی صورت میں قرض کی لعنت سے بچ سکیں گے، اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں اور قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے ایسا کیا جاسکتا ہے کہ اپنا پیسہ بینک میں رکھا جائے اور سودی قرض لے کر ضرورت پوری کر لی جائے اور اپنے پیسہ پر جو سود ملے گا وہی سود کا پیسہ لون کے سود میں مجرئی کر دیا جائے اور ایسی شکل اختیار کی جائے جس سے نہ آپ کا سود لینا لازم آئے اور نہ آپ کا سود لینا لازم آئے، معاملہ دونوں جانب سے برابر برابر ہو جائے، اگر اس طرح کیا جاسکتا ہے، تو کرنے کی گنجائش ہے ورنہ نہیں۔

عن جابر^{رضی} قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاھدیه، وقال: ہم سواہ. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، کتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۲۱۲)

ہوم لون کا شرعی حکم

سوال [۹۳۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سرکاری ملازم کا کوئی ذاتی مکان نہیں، حکومت یا بینک مکان بنانے یا کسی اور ضرورت کے لئے قرضہ دیتے ہیں وہ قرضہ تنخواہ سے ماہانہ قسط وار وصول کرتے ہیں، قرضہ مع سودا داکرنا پڑتا ہے، یہ قرضہ لے کر مکان بنانا یا اپنی ضرورت پر خرچ کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد عادل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: یہ صورت ناجائز اور ممنوع ہے، اس کے لئے یہ صورت نکالی جاسکتی ہے کہ سود کے ساتھ کل رقم کی ادائے گی کے وقت جو جمع ہو سکتا ہے، پورے مکان کی وہی قیمت لگائی جائے، پھر رقم کی ادائے گی عمل میں لائی جائے، اس صورت میں مکان کی قیمت تو زیادہ تسلیم کی جائے گی؛ لیکن سود لازم نہیں آئے گا، اور اگر یہ صورت نہ بن سکے تو مذکورہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔

لو باع عبداً علی أن یستخدمه البائع شهراً، أو داراً علی أن یسکنها، أو علی أن یقرضه المشتري درهماً، أو علی أن یهدی له هدیة؛ لأنه شرط لا یقتضیه العقد و فیہ منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه نہی عن بیع و سلف.

(هدایة، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد اشرفی دیوبند ۶۰/۳، مجمع الأنهر، دارالکتب

العلمیة بیروت ۹۱/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۷۱۴/۲۵)

نقصان سے بچنے کے لئے لون لینے کا حکم

سوال [۹۳۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک تالاب مچھلیوں کا ہماری ملکیت ہے، چند لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم دوائی کے ذریعہ مچھلیاں ختم کر دیں گے، اس سے پہلے بھی دوائی ڈالی جا چکی ہے؛ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ لون لے کر قسط ادا کرتے رہیں، اپنے مصرف میں نہ لائیں، لون کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو سرکار سے تلافی ہو جائے گی، اس نیت سے ہم لون لے سکتے ہیں کہ نہیں؟

المستفتی: حافظ محمد طاہر، گلگتہ، بجنور (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نقصان کی صورت میں حکومت اس کی تلافی

کرے گی، اس امید میں لون لینا جائز نہیں ہے، یہ سودی لین دین ہے جس پر سخت وعید آئی ہے۔

عن جابر قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا،

ومؤكله، وکاتبه، وشاہديه. الحدیث (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا،

النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، کتاب البيوع، باب في

آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱۱/۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۶۳۶۳)

جلب منفعت کے لئے بینک سے لون لینا

سوال [۹۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ سخت ضرورت کے تحت لون لینا کیسا ہے؟ ضرورت مندرجہ ذیل ہے۔

معاشی و اقتصادی طور پر کاروبار بند ہو جانا یا کاشتکار کے لئے فصلوں کا ضائع ہو جانا، مکان یا دوکان میں چوری وغیرہ ہو جانا یا رقم کا کھوجانا وغیرہ شکلوں میں روزی و معاشی حالات کی درستگی کے لئے سود یا لون کا لینا اس سے کاشت کرنا اور کاروبار کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عثمان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جلب منفعت یعنی معاش و اقتصادی طور پر کاروبار کو فروغ دینے یا کاشتکاری اور دوکان کو وسیع کرنے کے لئے لون لینا جائز نہیں ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۹۳/۲، جدید ذکر ۲۳۸/۹، ایضاح النوادر ۱۰۷)

عن جابر قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاہدیه. الحدیث (صحیح مسلم، کتاب المساقاة والمزارعة، باب فی الربا، النسخة الهندیة، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبی داؤد، کتاب البیوع، باب فی آکل الربا ومؤكله، النسخة الهندیة ۲/۴۷۳، دارالسلام رقم: ۳۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۳۰/۶۴۳)

قرض کی ایک اسکیم کا حکم

سوال [۹۳۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ”پردھان منتری روزگار یوجنا“، اسکیم کے تحت کم از کم میٹرک پاس نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لئے ایک لاکھ روپے تک قرض دیا جاتا ہے، جس میں سات ہزار روپیہ سبسڈی کے نام پر معاف ہوتا ہے، اور بیک کو اتنی ہی رقم یعنی سات ہزار سود کے نام پر دینا ہوتا ہے، اس اسکیم کے تحت قرض لینے والے کو فائدہ یہ ہے کہ چار سال میں وہ رقم لوٹاتا ہے،

جو کہ کاروبار کے جماؤ اور ترقی کے لئے ایک موقعہ دیا جاتا ہے اور جتنی رقم اس اسکیم کے تحت ملی اتنی ہی لوٹاتا ہے۔ صورت یہ ہے کہ کسی جگہ سے قرض ملنے کی امید نہیں ہے، کیا اس طرح سے قرض لینا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد خالد، جامع مسجد، دھنباہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر قرض کی ادائے گی میں برابر سر ابر دیتا ہے تو جائز ہے؛ لیکن اگر ادائے گی میں کچھ زائد رقم دینی پڑے تو یہ بلاشبہ ناجائز اور حرام ہے؛ کیونکہ یہ معاملہ سودی ہے اور سودی معاملہ کرنے والوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۶۵/۹)

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله. الحديث (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم: ۳۳۳۳، سنن الترمذي، باب ماجاء في آكل الربا، النسخة الهندية ۱/۲۲۹، دار السلام رقم: ۱۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/رجب المرجب ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۵۸۴۶۱۳۳)

ٹیکس سے بچنے کے لئے سودی قرض لے کر تجارت کرنے کا حکم

سوال [۹۳۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی پیسے سے تجارت کرتا ہے، تو سرکار اس کی تجارت اور حیثیت پر ٹیکس لگا دیتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر بینک سے قرض لے کر تجارت کی جاتی ہے،

تو ٹیکس کی بچت ہو جاتی ہے، تو کیا بینک سے قرض لے کر تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس قرضہ پر بینک سود بھی لیتا ہے۔ جواب سے مطلع کیجئے گا شکریہ۔

المستفتی: محمد عمران، شیرکوٹ محلہ، شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مذکورہ قرض پر سود دینا پڑتا ہے، تو جائز

نہیں ہے، اگرچہ اس سے ٹیکس کی بچت کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے سخت لعنت آئی ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۴/۳، جدید ڈا بھیل ۲۸۳/۱۶)

(۲۴۱/۳، جدید ڈا بھیل ۳۰۲/۱۶)

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا،

ومؤكله، وکاتبه، وشاہديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، کتاب

المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸،

سنن أبي داؤد، کتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳،

دارالسلام رقم: ۳۳۳۳، سنن الترمذي، باب ماجاء في آكل الربا، النسخة الهندية

۱/۲۲۹، دارالسلام رقم: ۱۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/صفر/مظفر ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۳۲۳)

سودی قرض لے کر فیکٹری چلانا

سوال [۹۳۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ صورت معاملہ یہ ہے کہ ہماری فیکٹری جو گجرات روڈ پر ہے، اس پر حکومت کالون ہے اور حکومت کی گرفت میں اور بھی جائیداد اس کے عوض میں ہے، فیکٹری

کو چلانے کے لئے مزید اور روپیہ کی ضرورت ہے، اگر ہم حکومت سے قرض نہ لیں اور فیکٹری نہ چلائیں تو ساری جائیداد کے ضبط ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں ایسی فیکٹری کو جائز طور پر محفوظ کرنے اور بچانے کے لئے حکومت سے قرض لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر فیکٹری چل گئی تو حکومت سے اپنی جائیداد کو بچا لیا جاسکتا ہے، حکومت کے علاوہ اور کوئی دینی بھائی قرض حسنہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دینے کو تیار ہے، اس کے علاوہ فیکٹری بچنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جس کے اوپر ابھی تک جتنا قرض ہے، اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہے، جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جاسکتا ہو۔ مذکورہ صورت کا دین کی روشنی میں آپ ہمیں شرعی حل سے مطلع فرما کر اجر عظیم کے مستحق ہوں۔

المستفتی: ظفر احمد، محلہ مانپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فیکٹری چلانے کے لئے سودی قرض لینا ناجائز

اور مستحق لعنت ہے۔ حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا،

ومؤكله، وکاتبه، وشاہديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، کتاب المساقاة

والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، سنن أبي داؤد،

کتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲/۴۷۳، دار السلام رقم:

۳۳۳۳، سنن الترمذی، باب ماجاء في آكل الربا، النسخة الهندية ۱/۲۲۹،

دار السلام رقم: ۱۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ صفر المظفر ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶۲۶۲۶)

حکومت سے رائس مل کے لئے سودی قرض لینا

سوال [۹۳۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سرمایہ داری یا غیر سرمایہ دار کے لئے رائس مل قائم کرنے کی غرض سے حکومت سے سودی قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب بڑے تشدد کیساتھ اس طرح سودی قرض لینے کو حرام کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا فاسق معین ہے، اس کی امامت مکروہ ہے۔ بحوالہ کتب جو اب مرحمت فرمائیں؛ کیونکہ بغیر سودی قرض ادا نہیں کیا جاتا ہے، اور سود لینا بھی حرام ہے کیا یہ تشدد درست ہے؟

المستفتی: محمد شفیع، رامپور ٹانڈہ، دوپوری، ٹانڈہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رائس مل وغیرہ کے لئے حکومت سے سودی قرض لینا شرعاً حرام اور مستحق لعنت ہے۔ مذکورہ مولوی صاحب کا کہنا صحیح ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سود لینے والے، دینے والے، شاہد بننے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے سب مستحق لعنت ہے۔ عن جابر قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله، وکاتبه، وشاھدیه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ شعبان المعظم ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۱۹۳۴)

بینک یا بلاک سے لون پر روپیہ لینا

سوال [۹۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ بینک یا بلاک سے لون پر روپیہ لینا کیسا ہے؟

المستفتی: قمر الدین، سہرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بینک یا بلاک سے بھی لون پر روپیہ لینا حرام

اور موجب وعید ہے۔

عن جابر^{رض} قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤكله،
وكتابه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا،
النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۶۷۸)

بینک سے سودی قرض لے کر تجارت کرنا

سوال [۹۳۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک آدمی انجن کی تجارت کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے انجن خریدتا ہے،
ان دونوں میں ایک انجن کی رقم طے ہو جاتی ہے؛ لیکن خریدار کے پاس فی الحال ادائے گی کے
لئے رقم نہیں ہے؛ اس لئے انجن بیچنے والا شخص اس کو بینک میں لیجا کر قرض کی رقم دلاتا ہے
اور وہ خود رقم لے کر وہ انجن خریدار کے سپرد کر دیتا ہے۔

اب اس صورت میں انجن فروخت کرنے والا سودی لین دین میں ملوث ہوا یا نہیں؟

یہ معاملہ درست ہوا یا نہیں؟

المستفتی: احمد نبی، ویر پور تھان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں جو صورت لکھی گئی ہے، اس سے

سودی معاملہ اور سودی لین دین میں ملوث ہو جانا لازم آجاتا ہے؛ اس لئے کہ بینک بغیر سود کے کوئی رقم قرض میں نہیں دیتا اور حدیث شریف میں سود لینے والا، دینے والا، اور اس کا حساب و کتاب کرنے والا، اس معاملہ میں گواہ بننے والا سب پر لعنت آئی ہے۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا،

النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/رجب المرجب ۱۴۱۷ھ

۷/۷/۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۲۹۴۰)

تجارت کو فروغ دینے کے لئے سودی قرض لینا

سوال [۹۳۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگ اپنے کاروبار میں سود بالکل نہیں لیتے ہیں؛ لیکن موجودہ زمانہ میں تجارت جاری رکھنے کے لئے بینک سے روپیہ لینے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور بینک سے روپیہ حاصل کئے بغیر کاروبار کو مزید فروغ دینا ہندوستان میں ممکن نہیں ہے اور جب تک مسلمان معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک یہاں کے نامساعد حالات سے دوچار ہوتا رہے گا؛ کیونکہ جب تک تجارت میں اضافہ نہ ہوگا، مسلمانوں میں ترقی کے مواقع پیدا نہیں ہو سکتے۔

آج ہندوستانی مسلمانوں کا اگر تجارتی میدان میں برادران وطن سے موازنہ کیا جائے، تو یہ حقیقت آشکارہ ہو جائے گی کہ شاید اچھے نمایا کاروباری لوگوں کی فہرست میں کبھی مسلمانوں کا کئی سوا فرد کے بعد ہی نام آجائے، ایسے ناگفتہ بہ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم تاجر اپنے کاروبار کو مزید فروغ دینے کے لئے بینک سے روپیہ سود پر حاصل کر سکتے ہیں؟

اور بینک کو سود دے سکتے ہیں؟ ایسا کرنا جائز ہے؟

المستفتی: عبید الرحمن، پرنس روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کاروبار و تجارت و فیکٹریوں کو فروغ دینے کے لئے سودی لین دین ہرگز جائز نہیں؛ اگرچہ برادران وطن کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مالی حالات کمزور کیوں نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تجارت کو فروغ دینے کے لئے سودی کاروبار کی سخت مذمت فرمائی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. [سورة البقر: ۲۷۶]

قال اللہ تعالیٰ: فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

[سورة البقرہ: ۲۷۹]

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله،

وكتابه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا،

النسخة الهندية، ۲۷/۲، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/رجب المرجب ۱۴۱۱ھ

۱۴/۷/۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۲۴۹۱)

کاروبار کے لئے گورنمنٹ سے لون لینا

سوال [۹۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ گورنمنٹ سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں موجودہ حالات کے پیش نظر

مسلمانوں کو لون وغیرہ لے کر کاروبار، گاڑی وغیرہ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) حکومت کا پیسہ جو بطور لون لیا گیا ہو اگر اس سے کاروبار، گاڑی وغیرہ خرید لی جائیں؛ لیکن جب تک پیسہ ادا نہ کر دیا جاوے سو دواور اصل اپنے استعمال میں نہ لایا جائے اور بعد ادا کیے گئے اپنے استعمال وغیرہ میں لایا جائے، تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بیٹو او تو جروا۔

المستفتی: محمد عمر قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) گورنمنٹ سے لون پر قرض لینا ایسا سودی

کاروبار ہے، جس کو قرآن کریم میں تاکید سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کی لعنت آئی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: **وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.** [سورة البقرہ: ۲۷۵]

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا،

ومؤكله، وکاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، ۲/۲۷)

اس لئے کاروبار و خریداری گاڑی وغیرہ کے لئے سودی قرض لینا ناجائز و موجب

لعنت ہے، جب تک کہ سودی قرض ادا ہوتا رہے گا، اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی۔

(۲) سودی قرض سے جو گاڑی وغیرہ خریدی گئی ہے، شرعاً خریدنے والا اس کا مالک

ہو جاتا ہے؛ کیونکہ اس میں سود کا پیسہ نہیں لگا ہے؛ بلکہ سود تو قرض لینے والا اپنی گاڑھی کمائی

سے دیتا ہے، اس کے حق میں صرف سود دینا حرام اور موجب لعنت ہے۔ نیز سودی قرض ادا

ہونے تک مسلسل لعنت ہوتی رہے گی۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا،

ومؤكله، وکاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواہ. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة،

باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸)

اور گاڑی کا استعمال و منافع اس کے حق میں جائز رہے گا سودی کاروبار کی لعنت کا حکم علیحدہ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۳۸۲)

تجارت کو فروغ دینے کے لئے حکومت سے سودی قرض لینا

سوال [۹۳۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک کام کرنا چاہتا ہے، جس میں حکومت کے روپے لگائے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے، زید کی ایک زمین شہر کے باہر ہے، اس زمین پر حکومت لون دے گی، اول تو زید کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، جو اتنا بڑا کام کر سکے اور اگر فیکٹری لگانے کے لئے ہوتا، تو انکم ٹیکس و دیگر حکومت کے آدمی زید کا پیچھا نہیں چھوڑتے؛ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی حکومت ہمارے حق میں نہیں ہے اور زید کا کام ایکسپورٹ کا بھی ہے جو کہ کئی سال سے نہیں چل رہا ہے، پچھلے سال آڈر آیا تھا روپے کی کمی کی وجہ سے بینک سے روپے لینا پڑا، مال جانے کے بعد اللہ نے ادائے گی کرا دی۔ اب یہ فیکٹری بھی جو مال بنائے گی، اس کا ایکسپورٹ بھی ہوگا اور ہندوستان میں بھی مال سپلائی ہوگا؛ لہذا اس بارے میں آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے برائے مہربانی بتائیں کہ حکومت کے بغیر تعاون کیسے کام ہو؟ میری رب العزت سے دعا ہے کہ اس کام کے بعد گورنمنٹ سے نہ لینا پڑے۔

المستفتی: اشتیاق احمد، محلہ پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حکومت سے لون پر قرض لینا ایک سودی

کاروبار ہے، اور فیکٹری لگانا اور ایکسپورٹ کرنا یہ تجارت کو فروغ دینا ہے اور تجارت کو فروغ

دینے کے لئے بیک وغیرہ سے سودی قرض لینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸)

اگر آپ سودی معاملہ سے محفوظ رہ کر تجارت کرنا چاہتے ہیں اور بڑی تجارت حکومت کی سودی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، تو چھوٹی تجارت کیجئے جس میں سودی قرض کی ضرورت نہ ہو اور اگر آپ نے سودی قرض لے کر فیکٹری لگالی ہے، تو جب تک سودی قرض ادا نہ ہوگا گناہ ہوتا رہے گا اور ادائے گی کے بعد گناہ کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے اور چونکہ سود آپ نے لیا نہیں؛ بلکہ اپنے جائز مال سے دیا ہے؛ اس لئے آپ کا موجودہ سارا مال پاک اور حلال ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۱۲/۱۴۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶/۱۲/۱۴۲۲ھ
(فتاویٰ نمبر: الف/۲۸/۲۹۴۰)

سرکار سے قرض لے کر تجارت کرنا

سوال [۹۳۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک اسلامیہ ہائی اسکول (پرائیویٹ) میں ملازمت کرتا ہے، اور ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے، جس کی کل آمدنی تقریباً ساڑھے چار ہزار روپیہ ماہانہ ہے، رہائش کے لئے منجانب مسجد ایک کمرہ ہے، جس میں مع تین بچوں کے انتہائی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایسی صورت میں ارادہ یہ ہے کہ اگر کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے تو تجارت کر لے اور پیسوں کے انتظام کی کہیں سے کوئی شکل نہیں ہے، سوائے ایک

اسکیم کے تحت گورنمنٹ سے ایک لاکھ قرض مل رہا ہے، جس میں تقریباً پندرہ فیصد چھوٹ ہے، اس کو لے کر تجارت کی جاسکتی ہے؟ کیا ان صورتوں میں گنجائش ہے کہ قرض لے کر پیشہ تجارت بھی کیا جاسکے تاکہ بفضلہ تعالیٰ کچھ پریشانیوں میں کمی واقع ہو۔

المستفتی: ظہیر الدین، قاسمی،

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آمدنی کی تنگی اور خرچ پورا نہ ہونے کی پریشانی

کی وجہ سے سوال نامہ میں ذکر کردہ اسکیم کے تحت گورنمنٹ سے قرض لے لیا جائے، تو اگر اس قرض پر پندرہ فیصد چھوٹ کی وجہ سے سود دینا نہ پڑے، تو بلاشبہ قرض لے کر تجارت کرنا جائز اور درست ہے؛ لیکن اگر اس قرض پر سود بھی دینا پڑ جائے تو حدیث پاک میں سود لینے والے، سود دینے والے، سودی معاہدہ لکھنے والے اور اس معاملہ کے گواہ بننے والے سب پر لعنت آئی ہے؛ لیکن سنگین ضرورت اور بال بچوں کے فاقہ کی وجہ سے مجبوراً سودی قرض لینا پڑ جائے اور بلا سود قرض نہ ملے، تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ ان شاء اللہ لعنت سے حفاظت ہوگی۔ اسی کو ’الاشباہ والنظائر‘ میں ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح . (الأشباہ والنظائر قديم مطبع ديوبند

۱/۱۴۹، جدید زکریا ۱/۲۶۷)

اور سودی قرض میں سود کھانا لازم نہیں آتا، صرف سود دینا لازم آتا ہے؛ لہذا آپ اپنی ضرورت کا خود جائزہ لے لیں کہ آپ کی ضرورت آپ کو کہاں تک مجبور کرتی ہے، جس سے لعنت سے حفاظت ہو سکے۔ ماشاء اللہ آپ خود عالم دین ہیں اپنی ضرورت کو خود سمجھیں۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ابھیل ۱۶/۳۰۲)

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔

عن جابرؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا،

و مؤکلہ، و کتابہ، و شاہدیہ، و قال: ہم سوا۔ (مسلم شریف، کتاب المساقاة و المزارعة،

باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۴ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۲۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۵۳۵۹)

سخت مجبوری میں کیا لون لے کر تجارت کر سکتے ہیں؟

سوال [۹۳۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ پچیس سال پہلے تک ہماری کافی زمین جائیداد تھی؛ لیکن ایک شیعہ پڑوسی سے کچھ نا اتفاقی ہونے پر اس نے ہم پر خطرناک جادو کر دیا، جس سے ہم بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس کے علاج کے لئے ہم بہت دور دور تک گئے اور اس کے لئے ہمیں اپنی جائیداد فروخت کرنی پڑی، اسی دوران میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور اسی رقم سے کاروبار بھی شروع کیا؛ لیکن اس جادو کی وجہ سے کاروبار میں زبر دست نقصان ہوا اور وہ ختم ہو گیا، اس طرح پچیس سال کے عرصہ میں ہماری تمام زمین جائیداد اور مکان سب فروخت ہو گیا اور مزید ستر اسی ہزار روپیہ کے قرض دار بھی ہو گئے ہیں، یعنی اس جادو نے ہمیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہمارے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؛ حالانکہ علاج کے بعد میری طبیعت میں کافی افاقہ ہوا ہے؛ لیکن میرے والد صاحب کی طبیعت ابھی بھی ناساز ہے، وہ اب نوکری کے بھی قابل نہیں ہیں، ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے فوراً آپریشن بتایا ہے؛ لیکن میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے اور نہ ہی رقم، مجھے اپنے قرض داروں کے قرض بھی ادا کرنے ہیں اور اپنی دیگر پریشانیوں کو بھی دیکھنا ہے؛ حالانکہ پریشانیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں؛ لیکن میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے؛ لہذا میں اپنی مارک شیٹ پر بینک سے

لون لے کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ان حالات میں بینک سے لون لینے کی شرع مجھے اجازت دیتی ہے؟

المستفتی: عبداللہ مجتہد تھانہ ٹین مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حسب تحریر سوال جبکہ آپ اس وقت لوگوں کے قرضے ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بینک سے سودی قرض حاصل کرنے کے بعد قرض اور مزید اس کے اوپر سے سود آپ کس طرح ادا کر سکیں گے اور بینک کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا ہے، ساری جائیداد کی قرقی بھی ہو سکتی ہے، قرض کی مصیبت کے ساتھ مزید اپنے اوپر سودی قرض کی لعنت مسلط کرنا لازم آئے گا؛ اس لئے ہم آپ کو مجبوری کی حالت میں بھی سودی قرض لینے کی بات نہیں بتلا سکتے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر کچھ جائیداد باقی ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ فروخت کر کے اپنا کام شروع کرنا چاہئے۔ آپ کی موجودہ صورت میں دنیا میں سودی قرض کا بار لازم آئے گا اور آخرت میں مستحق لعنت قرار دیئے جانے کا خطرہ ہے۔

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربوا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۳/۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶/ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۹۱۹۴/۳۸)

تجارت کو فروغ دینے کے لئے بینک سے سودی قرض لینا

سوال [۹۳۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص محض اپنے کاروبار کو بڑھانے کی غرض سے بینک سے لون لے کر مشین خریدتا ہے، اور ان پر کپڑا بنا کر بیچتا ہے، کاروبار سب حلال ہے، مگر بینک سے لون لے کر کارخانہ بنایا ہے؛ کیونکہ اتنا بڑا قرض کوئی دے نہیں سکتا معلوم یہ کرنا ہے، ایسے شخص کے گھر کا کھانا پینا یا ہدیہ تحفہ لینا یا مسجد مدرسہ کی امداد کرنا یہ شرعاً درست ہے اور کیا جو روپیہ بینک سے لیا ہے، اس روپیہ میں کوئی خبثت ہے یا اس شخص کا سود دینا ہی حرام ہے؟ شرعاً جو حکم ہو واضح فرمائیں۔
المستفتی: عبدالرشید، سیڈھا بجزور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس نے سرکار سے لون کے طور پر قرض لیا ہے، اور مدیون جو قرض میں پیسہ لیتا ہے، تو قرض کا رأس المال حلال ہوتا ہے؛ لہذا اس پیسہ سے مشین خریدنا اور اس مشین سے کپڑے بنا کر بیچنا، اس سے تجارتی نفع حاصل کرنا یہ سب جائز اور حلال ہے، اور اس حلال مال کے ذریعہ وہ شخص جو بھی سود اور بیاج کے نام سے سرکار کو قرض پر اضافی سود ادا کرے گا، وہ باعث لعنت ہے، تو معلوم ہوا کہ اس تجارت میں حرام مال شامل نہیں ہوا؛ بلکہ اپنی محنت کے حلال پیسہ سے سود ادا کیا ہے یا ادا کرے گا؛ لہذا اس کے گھر کا کھانا پینا حلال ہے اور اس کا ہدیہ، تحفہ بھی بلاشبہ حلال ہے؛ کیونکہ اس نے سود دیا ہے لیا نہیں ہے۔
(مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱۷۰۳)

رجل أهدى إلي رجل شيئاً، أو أضافه، إن كان غالب ماله الحلال

فلا بأس به. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، زكريا قديم ۳۴۲/۵، جديد ۳۹۶/۵، تاتارخانية، زكريا ۱۸/۱۷۵، رقم: ۲۸۴۰۵، المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ۷۳/۸، رقم: ۹۶۱۷، البناية، اشرفيه ديوبند ۲۰۹/۱۲، مجمع الأنهر مصري قديم ۵۲۹/۲، جديد دار الكتب العلمية بيروت ۱۸۶/۴-۱۸۷) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰/۱۲/۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۷۰۳/۱۱)

تجارت کے لئے لئے گئے سودی قرض سے خانگی ضرورت پوری کرنے کا حکم

سوال [۹۳۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اپنے کاروبار کو بینک کے روپیہ کے ذریعہ کرتا ہوں اور جملہ مصارف بھی اسی کاروبار سے پورا کرتا ہوں، مثلاً زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات وغیرہ۔ نیز خانگی ضروریات بھی اسی کاروبار سے وابستہ ہیں اور اسی بینک کا قرض دار بھی ہوں اور واپسی کی استطاعت بھی نہیں رکھتا ہوں۔

غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت حال میں ایک کاروبار سے مذکورہ جملہ مصارف کی ادائے گی شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اور ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اور میرا کاروبار پیتل کا ہے یعنی دوسرے سے آرڈر لے کر عدد تیار کر کے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں مزدوری بھی کرتا ہوں یعنی پیتل کے برتن پر پالش کرتا ہوں اور بینک کی نوعیت یہ ہے کہ جو روپیہ یعنی مثلاً ایک لاکھ روپیہ میں نے بینک سے لیا ہے، اس پر سالانہ بینک کو کم و بیش تقریباً بارہ ہزار روپیہ جمع کرتا ہوں۔ اب اس کو ٹیکس کہیں یا سود؟ یہ ہے بینک کی نوعیت۔

المستفتی: راحت جان، گلاب باڑی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال میں مذکورہ معاملہ سودی لین دین پر مشتمل

ہے کہ بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کیا جاتا ہے، جیسا کہ سوال نامہ کے آخر میں درج ہے اور سودی لین دین مسلمانوں کے لئے قطعاً حرام ہے؛ لہذا سود دینے کا فعل حرام ہے، جس پر سخت ترین وعید قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے؛ لہذا جب تک سود دینے کا سلسلہ باقی رہے گا لعنت بھی برابر رہے گی؛ لیکن چونکہ آپ سود لیتے نہیں ہیں؛ اس لئے آپ کا کاروبار اور نفع وغیرہ حرام نہیں ہے۔ آپ کا تمام مال اور کمائی حلال ہے، صرف سود لینے کا

معاملہ حرام ہے؛ اس لئے پوری پونجی پر زکوٰۃ دینا لازم ہے اور دیگر صدقات و خیرات کی ادائیگی اور اس پونجی سے کھانا وغیرہ سب حلال ہے، جہاں تک ہو سکے جلد از جلد بینک کو سودی قرضہ دینے کی ذمہ داری سے آپ کو سبکدوشی حاصل کر لینی چاہئے تاکہ لعنت سے جلد از جلد چھٹکارا مل سکے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۰۸/۱، محمودیہ قدیم ۲۲۱/۲، جدید ڈائجسٹ ۳۰۲/۱۶، امداد

الفتاویٰ ۱۷۰/۳، رجیمیہ قدیم ۱۳۶/۶، جدید زکریا ۲۳۷/۹)

قال الله تعالى: 'وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'. [سورة البقره: ۲۷۵]

قال الله تعالى: 'يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ'. [البقره: ۲۷۶]

عن جابر^{رض} قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، مشكوة شريف ۲۴۴)

(۲) زکوٰۃ آپ پر اس وقت لازم ہوگی؛ جبکہ بینک کا قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ

نصاب کامل کے مالک ہوں۔

وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي - تام - فارغ عن الدين.

(در مختار، كتاب الزكاة، زكريا ۳/۱۷۴، كراچي ۲/۲۵۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۵/۶۸۷)

روزگار یوجنا کے نام سے لون لے کر حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم

سوال [۹۳۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: زید اگر بینک سے ایسا لون لیتا ہے کہ جس کو سرکار نے روزگار یوجنا کے

نام جاری کیا ہے اور زید ضرورت مند بھی ہے، تو یہ لون لینا کیسا ہے؟ اور اس پیسے سے حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟

نیز یہ بھی بتلائیے کہ اس رقم کی زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں؟ اگر زید کو یہ لون مل جاتا ہے، تو وہ رقم بخوبی بہت آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے اور اس مال کو اپنے زکوٰۃ ادا کئے ہوئے مال میں ملا کر کاروبار کر سکتا ہے؟

المستفتی: محمد انس، مرآبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بلا شرعی و اضطراری ضرورت کے لون لینا شرعاً جائز نہیں، اس سے مسلمانوں کو احتراز و اجتناب لازم ہے؛ البتہ اگر کسی نے باوجود ممنوع ہونے کے لون لے لیا اور اس کو کاروبار میں لگا کر اتنا سرمایہ جمع کر لیا کہ جس پر حج و زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو اس سے حج کرنا بھی جائز اور زکوٰۃ دینا بھی درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لون پر جو فرض لیا جاتا ہے، اس میں سود کا پیسہ خود اپنے پاس نہیں آتا؛ بلکہ اپنی کمائی سے سود کے نام پر پیسہ جاتا ہے؛ لہذا سود دینے کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، سود کھانے کا نہیں؛ کیونکہ حدیث شریف میں دونوں سے ممانعت ہے۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۲۲۲/۲ - ۲۲۲/۳، جدید ڈائجیل ۳۰۲/۱۶، امداد الفتاویٰ ۱۷۰/۳)

عن جابر^{رض} قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤکلہ، وکاتبہ، وشاہدہ، وقال: ہم سواہ. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندیة، ۲/۲۷، بیت الأفكار رقم: ۱۵۹۸، مشکوٰۃ شریف ۲۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۵۵/۳۵)

نرسنگ ہوم کھولنے کے لئے سودی قرض لینا

سوال [۹۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں سرکار سے قرض یعنی لون لے رہا ہوں، جس پر مجھ کو سود بھی ادا کرنا ہوگا، اور جن ذرائع سے روپیہ قرض کا برآمد ہوگا ان کو رشوت بھی دینی ہوگی، یہ دونوں چیزیں درست ہوں گی یا نہیں؟ مجھ کو نرسنگ ہوم کھولنے کے لئے کافی سرمائے کی ضرورت ہوگی، اتنا بڑا سرمایہ خود میرے پاس موجود نہیں ہے؛ لہذا قرض کی ضرورت درپیش ہے۔

(۲) نرسنگ ہوم چلانے پر جو ڈاکٹر میرے ساتھ تعاون کریں گے، یعنی کسی کو آپریشن کے لئے یا ایکس رے کے لئے روانہ کریں گے، وہ کیش کے طالب ہوں گے، ان کو دینا درست ہوگا یا نہیں؟ شرعی فیصلہ چاہئے۔

(۳) نرسنگ ہوم چلانے پر پوری آمدنی اگر دکھاؤں گا، تو ٹیکس زیادہ لگے گا، آمدنی محیبت کے اعتبار سے کم ہو جائے گی، ایسی شکل میں کیا پوری آمدنی دکھانا ضروری ہے؛ جبکہ ہمارے لئے ہر طرح سے مشکلات سامنے ہیں، ملازمت میں ہم کو حصہ نہ دیا جائے، روزگار کریں گے تو قیمتیں اور مشکلات پیدا کی جائیں، اس سلسلہ میں مسئلہ شرعی کیا ہے؟ بیان فرمائیں تاکہ مجھ کو تسلی ہو اور اپنا کام شروع کروں۔

المستفتی: سید احمدا خان، ستیہ پریم نگر بارہ بکلی (پوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) نرسنگ ہوم کھولنے کے لئے سود پر قرض لینا

اور سودی قرض حاصل کرنے کے لئے افسران کو رشوت دینا ناجائز اور حرام ہے اور حدیث شریف میں سود دینے والے، سود لینے والے، سودی کاروبار میں گواہ بننے والے سودی حساب و کتاب کرنے والے سب پر لعنت کی گئی ہے؛ اس لئے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية، ۲/۲۷، بيت الأفكار رقم: ۱۵۹۸)

(۲) ان کو دینا آپ کے لئے جائز ہوگا اور ان کے لئے لینے کی بھی گنجائش ہے؛ اس لئے کہ یہ ایک قسم کی دلالی ہے اور دلالی کی اجرت کی فقہاء نے گنجائش لکھا ہے۔

سئل عن محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به. (شامی، کتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، زکریا ۹/۸۷، کراچی ۶/۶۳)

(۳) ٹیکس سے بچنے کے لئے اپنی آمدنی کو چھپانا جائز اور درست ہے، بس شرط یہ ہے کہ عزت کے خطرہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. [البقرہ: ۱۹۵]

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۴/۱۴۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ رجب الثانی ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۴۴۲)

مستحق زکوٰۃ مقروض کا سودی رقم سے قرض ادا کرنا

سوال [۹۳۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید صاحب نصاب تھا، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا؛ لیکن اب وہ تقریباً پندرہ بیس ہزار روپیہ کا مقروض ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، زید کے پاس سود کی رقم تقریباً دس ہزار روپے ہیں، کوئی مستحق زکوٰۃ نہ ملنے کی وجہ سے زید بلا نیت ثواب نہ دے پایا۔

اب زید خود مستحق زکوٰۃ بن گیا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا وہ سود کی رقم بلا نیت

ثواب خود استعمال کر سکتا ہے اور اپنا قرض ادا کر سکتا ہے؟

(۲) اور اگر اس رقم سے ہی قرض ادا کر دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ضیاء الرحمن بن امیر الدین، ساکن تبوکھر، پوسٹ: بارہاٹ، بانکا، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سود کی رقم بلا نیت ثواب فقراء پر تقسیم کر دینا لازم ہے، اس رقم کو اپنی ذات میں استعمال کرنا یا کسی ایسے کام میں استعمال کرنا جس کا نفع اسی شخص کو پہنچ رہا ہو جائز نہیں ہے؛ ہاں البتہ اگر یہ بات صحیح ہے، جو سوال نامہ میں زید نے اپنے فقیر اور محتاج ہونے کا اظہار کیا ہے اور اوپر سے مقروض ہونے کو ثابت کیا ہے، تو اگر واقعہ ایسا ہی ہے کہ زید خود مستحق زکوٰۃ بن گیا ہے اور اتنا قرضہ اس کے اوپر آچکا ہے، جس کی ادائیگی اپنی کمائی کے پیسہ سے دشوار کن ہے، تو مذکورہ سود کے پیسہ سے قرضہ ادا کرنے کی گنجائش ہے۔

والحيلة لمن ليس معه إلا مال حرام أو فيه شبهة أن يستدين للحج

من مال حلال ليس فيه شبهة ويحج به ثم ليقضى دينه من ماله. (غنية قديم / ۸،

جدید اشرفیہ دیوبند ۲۱، الخانیۃ علی ہامش الہندیۃ، کتاب الحج، فصل فی المقطعات،

زکریا جدید ۱/۱۹۱، وعلی ہامش الہندیۃ، زکریا ۱/۳۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۲۲۶)

سودی رقم قرض میں دینے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ مثلاً پانچ ہزار روپیہ بینک میں جمع کرا کے اس پانچ

ہزار پر جو سود ملے اس سود کو اپنے قرضہ میں دیتا رہے، تو یہ درست ہوگا؟

المستفتی: عبداللہ، مقبرہ دوئم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طریقہ سے ملے ہوئے سود سے اپنے قرض کی ادائیگی جائز نہیں۔ غریب و نادار پر بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا واجب اور ضروری ہے۔
أما إذا كانت عند رجل مال خبيث..... فليس له حيلة إلا أن يدفع الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، مصري ۱/ ۴۸، يحيى، سهارنپور ۱/ ۳۷، دار البشائر الإسلامية بيروت ۱/ ۳۵۹، تحت رقم الحديث ۵۹)

صرح الحنفية، بأنه إذا مات الرجل وكسبه خبيث..... فالأولى لورثته أن يرد المال إلى أربابه، فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۳۴/ ۲۴۶، شامی، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، كراچی ۶/ ۳۸۵، زکریا ۹/ ۵۵۳، البحر الرائق، كوئٹہ ۸/ ۲۰۱، زکریا ۹/ ۳۶۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۵/ ۵۴۹، جدید ۵/ ۴۰۴، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۶/ ۲۷، زکریا ۷/ ۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۳/۵/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۲۲۳۱)





۲۸ / کتاب الديون

قرض دار کی روح معلق رہتی ہے

سوال [۹۳۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: قرض دار کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا نہ ہونے کی صورت میں نہیں پڑھائی ہے، یہ بات روایات سے ثابت ہے، اس امر کی وضاحت کتاب اللہ اور سنت کی روشنی میں کر دیں کہ قرض دار کے انتقال کے بعد قرض ادا نہ ہونے کی صورت میں کیا اس کی روح معلق رہتی ہے، جو اب سے آگاہ فرمائیں؟

المستفتی: محمد حنیف نویداندر اچوک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ قرض دار کے انتقال کے بعد جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک اس کی روح کی نجات معلق رہتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ابن ماجه، باب التشديد في الدين، النسخة الهندية ۲ / ۱۷۴، دار السلام، رقم: ۲۴۱۳، سنن الترمذي، باب ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، النسخة

الہندیہ ۱/ ۲۰۶، دارالسلام، رقم: ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، مسند ابي داؤد الطيالسي، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/ ۷۰۹، رقم: ۲۵۱۲، مسند ابي يعلى الموصلي، دارالکتب العلمیہ بیروت ۵/ ۲۴۵، ۳۰۸، رقم: ۵۸۷۲، ۶۰۰۰)

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضي عنه. (مسند أحمد بن حنبل ۲/ ۵۰۸، رقم: ۱۰۶۰۷، ۴۴۰، رقم: ۹۶۷۷)

عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجناز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا - إلى قوله - والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، ثم عاش و عليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. (مسند أحمد ۵/ ۲۸۹، ۲۹۰، رقم: ۲۲۸۶۰، سنن النسائي، التعليل في الدين، النسخة الهنديه ۲/ ۲۰۲، دارالسلام، رقم: ۴۶۸۴، المستدرک للحاکم، کتاب البيوع، مكتبة نزار مصطفى الباز جديد ۳/ ۸۳۹، قديم ۲/ ۲۵، رقم: ۲۲۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۱۴)

قرض لینے کی شرط پر قرض دینا

سوال [۹۳۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے یہاں چند کپڑے کے تاجر ایسا کرتے ہیں کہ جب سورت سے ایک ساتھی مال لینے جاتا ہے، تو وہ اپنے دوسرے ساتھی سے ایک لاکھ روپے قرض لیتا ہے اور یہ دینے والا

ساتھی اس شرط کے ساتھ ایک لاکھ روپے قرض دیتا ہے کہ جب میں مال لینے جاؤں گا تو میرے اصلی روپے تو آپ کو دینا ہی ہے، ایک لاکھ روپے مجھے بھی قرض دینا ہے، دونوں اس طرح کے قرض کے لینے دینے پر رضامند ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس شرط پر قرض دینا کہ آپ بھی مجھے قرض دیں گے یہ صحیح ہے یا ”کل قرض جرنفعا“ کے تحت آئے گا؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی، سیڈھا بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس شرط کے ساتھ قرض دینا جائز نہیں ہے کہ قرض لینے والا بھی اس کو قرض دے گا، اس طرح کے معاملات سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

ذکر عبد اللہ بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهي عن سلف وبيع، قال: أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبيعه عليه بيعة يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء. (سنن الترمذي، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك، النسخة الهندية ۱/۲۳۳، دارالسلام، رقم: ۱۲۳۴)

قال الموفق في المغني: وكل قرض شرط فيه -إلى قوله- وإن شرط أن يوجر داره أو يبيعه شيئاً، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. (إعلاء السنن، كتاب الحوالة، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالكتب العلمية بيروت ۱۴/۵۶۶، کراچی ۱۴/۱۴)

۹۹، تحت رقم الحديث: ۸۵۸ (۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۵/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۰۹۹/۴۰)

تاخیر کی بنا پر اصل رقم سے زائد رقم لینا

سوال [۹۳۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حامد نے محمود سے ایک مہینے کی مدت کے وعدے پر پانچ ہزار روپے کا مال ادھار لیا؛ لیکن مقررہ مدت پر پیسے ادا نہیں کر سکا اور چار پانچ روز تاخیر سے محمود کے پاس گیا اور اس سے یوں کہا کہ میرا مال ابھی بکا نہیں؛ اس لئے تم مجھے اور ایک مہینے کی مدت تک مہلت دے دو میں تم کو پورے پورے پیسے ادا کر دوں گا، محمود نے کہا کہ ٹھیک ہے؛ لیکن میں نے جو تم کو پانچ ہزار روپے کا مال دیا ہے، اس پر میں نے تم سے تین سو روپے کما لیا ہے، اب اگر تم ایک مہینے کی مدت اور چاہتے ہو تو تم کو پانچ ہزار تین سو روپے دینا پڑے گا، اس بات کو حامد نے قبول بھی کر لیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ جو محمود حامد سے دوسرے مہینے کی مدت پر تین سو روپے لے رہا ہے، کیا وہ سود ہے؟

المستفتی: شیخ قاسم شیخ فرید مؤذن مبارک مسجد مقام ارنی، ضلع ایوت محل، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حامد کو اپنے وعدہ کے مطابق محمود کو پیسے ادا کر دینا چاہئے تھا؛ لیکن حامد جب وقت مقررہ پر رقم محمود کو نہ دے سکا تو محمود کو ایک مہینے کی تاخیر پر اصل رقم سے تین سو روپے زائد لینے کا حق نہیں ہے۔ اور نہ حامد کے لئے دینا جائز ہے؛ کیوں کہ یہ سود ہے، جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔

﴿وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. [البقرة: ۲۷]

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل

قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، البيوع، باب كل قرض جر نفعاً، دار الفكر ۸/ ۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲ھ/۶/۲۶

(الف فتویٰ نمبر: ۸۱۱۰/۳)

دائن کا مدیون کی دعوت قبول کرنا یا ہدیہ لینا

سوال [۹۳۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: قرض دینے والا شخص کا قرض دار کی کوئی چیز ہدیہ قبول کرنا یا ان کی دعوت پر کھانا پینا وغیرہ کرنا اس میں شرعاً کوئی ممانعت ہے یا جائز ہے؟

المستفتی: احقر مسیح الرحمن قاسمی غفرلہ جڑیاں بازار پنج، ۲۴/۲۴ پر گنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرض دینے والے شخص کو قرض دار سے ہدایا قبول کرنا اور اس کے یہاں کھانا، پینا جائز نہیں؛ لیکن اگر دونوں کے درمیان پہلے سے اسی طرح کے تعلقات تھے، تو حسب سابق اس طرح کھانے پینے اور لین دین کرنے کی گنجائش ہے۔

عن یحییٰ بن أبی إسحاق الہنائی، قال: سألت أنس بن مالک الرجل منا یقرض أحاه المال، فیہدی له؟ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا أقرض أحدکم قرضاً، فأهدی له، أو حملہ علی الدابة، فلا یرکبها، ولا یقبلہ، إلا أن یکون جرى بینہ و بینہ قبل ذلك. (سنن ابن ماجہ، الصدقات، باب القرض، النسخة

الہندیة ۲ / ۱۷۵، دار السلام، رقم: ۲۴۳۲، السنن الكبرى للبیہقی، البيوع، باب كل قرض

جر منفعة، فهو ربا۔ دار الفکر ۸ / ۲۷۷، رقم: ۱۱۰۹۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/رجب ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۹۱/۳۴)

سب سے ڈی کا شرعی حکم

سوال [۹۳۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: آج کل حکومت نے اقتصادی ترقی کے لئے جو نیر ہائی اسکول کی مارک شیٹ پر اقتصادی و معاشی سدھار اور عوام کی بے روزگاری اور پریشان حالی دور کرنے کے لئے یہ اسکیم نکالی ہے: کہ ایک یا دو لاکھ روپے سرکار سے لون کے طریقہ پر لو اور اس سے اپنا روزگار چلاؤ، اور جو رقم ہم سے لوگے تو ہم ایک لاکھ پر -/25,000 ہزار روپے کی سبسڈی دیں گے۔ تو اب اس صورت میں لون کی رقم اگر کسی شخص نے ایک لاکھ روپے کی لی اور اس پر -/25,000 ہزار روپے کا سود بنتا ہے اور -/25,000 ہزار روپے کی سبسڈی دے کر سرکار قسطوں میں باندھ کر پوری پوری رقم ادا کرالے اور جو رقم ایک لاکھ دی تھی اس سے نہ زیادہ ہونہ کم پوری پوری لے لے، تو کیا ایسی صورت میں جو نیر ہائی اسکول کی مارک شیٹ پر لون لے کر اپنے استعمال میں اور کاروبار میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ مفصل جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمد سلیم کاشی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق:- /25,000 ہزار روپے لون اور -/25,000 ہزار روپے ”سبسڈی“ دونوں مل کر برابر سرا برہو گیا اور بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس معاملہ میں نہ سود لیا جا رہا ہے اور نہ دیا جا رہا ہے؛ بلکہ حقیقت میں سرکار کو اتنا ہی واپس کرنا ہے، جتنا سرکار سے قرض لیا تھا؛ اس لئے اس کو سودی قرض کے دائرے میں داخل نہیں کیا جائے گا؛ لہذا ایسا قرض لینا درست اور جائز ہے اور یہ قرض حسنہ کے درجہ میں ہے۔ اور قرض حسنہ جائز ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۳۳/۹، جدید زکریا ۲۳۳/۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۴/۱۲/۲۳۳ھ

۱۱/۱۱/۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۸۱۹)

حکومت کی گرفت سے بچنے کے لئے بینک سے قرض لینے سے متعلق چند سوالات کے جوابات

سوال [۹۳۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: آج کل فی زمانہ کوئی بھی تاجر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کا واسطہ بینک سے ہوتا ہی ہے، بعض دفعہ اپنے پاس رقم ہونے کے باوجود بینک سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو حکومت کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ روپے کہاں سے آئے اب حساب پیش کرو جرمانہ ادا کرو؛ اس لئے اپنے پاس حسب ضرورت روپے ہوتے ہوئے حکومت کی گرفت سے بچنے کے لئے بینک سے قرض لیا جاتا ہے اور بینک نقد رقم کبھی نہیں دیتا؛ بلکہ وہ ہمارے نام پر اپنے پاس جمع رکھتا ہے، جس کو ”سی، سی“ کہتے ہیں، جب ہم اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے بدلہ چیک دیں گے، پھر وہ یعنی بینک حامل چیک کو نقد کی ضرورت ہو تو نقد ادا کرتا ہے یا اس کا بینک میں کھاتہ ہو وہیں رقم جمع بھی کر لیتا ہے، بہر حال حامل چیک کی مرضی کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے، مگر کسی بھی صورت میں مستقرض کو نقد رقم بینک نہیں دیتا اس میں چند دشواریاں پیش آتی ہیں، مثلاً زید کو ایک مشین خریدنی ہے وہ بازار سے نہیں خریدتا؛ بلکہ کسی شخص کی ذاتی مشین خریدتا ہے، بائع نقد روپے چاہتا ہے، چیک سے ادائے گی نہیں چاہتا ادھر بینک رقم مشتری کو نہیں دیتا ایسی صورت میں وہ کسی اور دوکاندار کے نام پر چیک دیتا ہے اور اس دوکاندار سے طے کیا جاتا ہے کہ چیک کیش کروا کر مجھے ادا کر دو تو اس عمل کے عوض میں دوکاندار ڈیڑھ فیصد وصول کرتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ مثلاً زید نے چیک بکر کے فرم کے نام دیا تو بکر چیک بینک میں داخل کر کے نقد حاصل کرتا ہے اور رقم لا کر اصل شخص کے حوالہ کرتا ہے، اس کے عوض میں ڈیڑھ فیصد یا ۲ فیصد لیتا ہے، بکر کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے فرم کا بل دینا ہے، اس کے عوض حکومت کو سیل ٹیکس دینا ہوتا ہے اور حساب و کتاب درست کرنا ہے، اس عمل کے عوض یہ رقم لی جاتی ہے کیا اس شخص کا یہ ڈیڑھ یا ۲ فیصد لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۱) بکر کا اس طرح ڈیڑھ یا ۲ فیصد لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) یہ عمل بینک کو دھوکہ دینا ہو یا نہیں؟

(۳) بعض دفعہ فرم کا بل پیش کیا جاتا ہے، مگر جوشی بل میں درج ہے وہ نہیں خریدی جاتی؛

بلکہ دوسری چیز خریدی جاتی ہے، بعض مصالح ذاتیہ کی بنا پر اصل شیء کا اظہار نہیں کیا جاتا، ایسا کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟

(۴) بعض دفعہ اپنی ہی رقم دوسروں کو دے کر واپس لی جاتی ہے، تاکہ وہ رقم حکومت کی نظر میں آجائے، جو اب تک حکومت کی نظر میں نہیں تھی، اگرچہ وہ شرعاً حرام کمائی نہیں ہے، مثلاً زید کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے حلال و پاک کمائی کے موجود ہیں، مگر حکومت اس رقم سے بے خبر ہے؛ اس لئے زید مذکورہ رقم کو بغیر حیلے کے اپنے بیوپار میں نہیں لگا سکتا ہے؛ اس لئے زید یہ حیلہ کرتا ہے کہ بکر سے اس کا کارخانہ خرید لیا جاتا ہے، حالانکہ درحقیقت خریدنا نہیں ہے؛ بلکہ اس طرح کا بہانا بنا کر ڈیڑھ لاکھ روپے بکر کو دیتا ہے، جس میں سے بکر ۲ فیصد کمیشن لے کر باقی رقم زید کو واپس کر دیتا ہے، اب وہ کارخانہ جو حقیقت میں بکر کا ہے، زید حکومت کو اپنا بتا کر اس میں بننے والی اشیاء کی فروخت پر نفع بتلا کر اپنی پوشیدہ رقم کو بازار میں لاتا ہے، گویا اپنی رقم کی زید تمییز کرتا ہے، جس کے عوض میں مبیض بکر کو کمیشن دینا ہوتا ہے، اگر بکر کو کمیشن نہ دیا جائے تو پوری رقم بھرتسوید ہی رہتی ہے، جس پر چھاپہ مار کر حکومت کسی بھی وقت اپنے قبضے میں لے سکتی ہے؛ اس لئے دونوں ایسا عمل کرنے پر مجبور ہیں، یہ عمل شرعاً درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مسلمانوں کے مال پر جبری قبضہ کا خطرہ ہو تو اس کو کسی بھی حیلہ سے حفاظت کرنے کی اجازت ہے؛ لہذا روپیوں کو نمبر ایک بنانے کے لئے سوال نامہ میں جو شکل لکھی گئی ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کے بعد وہ شکل شرعاً جائز ہو جائے گی کہ بکر کو سیل ٹیکس ادا کرنے کے لئے فیصد کا حساب لگا کر دینا تو جائز ہے؛ اس لئے کہ خود سیل ٹیکس فیصد کے حساب سے ہی ادا کیا جاتا ہے، مگر بکر کو جو اجرت دی جاتی ہے وہ فیصد کے حساب سے دینا جائز نہ ہوگا؛ بلکہ اجرت کے لئے ایک رقم پہلے ہی متعین کر لی جائے وہی رقم اجرت میں دی جائے تو جائز ہو سکتا ہے، اگر بکر فیصدی اجرت کے بغیر کسی طرح تیار نہیں ہے، تو بکر کے لئے فیصدی اجرت لینا جائز نہیں اور دینے والے کے لئے دینا جائز ہے۔

ما حرم أخذه حرم إعطاءه - إلى قوله - إلا في مسائل الرشوة لخوف

ماله أو نفسه أو ليسوى أمره عند سلطان أو أمير . (الأشباه، قديم ۲۲۹)

(۲) اپنے مال کی حفاظت کے لئے اس طرح حیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔

(۳) مال کی حفاظت کے لئے اس کی گنجائش ہے، مگر اس کا لحاظ رکھا جائے کہ کہیں حکومت کی

گرفت میں نہ آجائیں، اگر حکومت کی گرفت میں آنے کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ

نے قرآن کریم میں فرمایا:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. [البقرة: ۱۹۵]

(۴) اگر ایسا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، خطرہ ختم ہو جاتا ہے، تو صرف سیل ٹیکس

کی مقدار میں فیصد متعین کرنے کی گنجائش ہے اور اس سے زائد جو اس عمل کے کرنے والے کو

ملتا ہے اس میں فیصدی کا حساب جائز نہیں؛ بلکہ یکمشت متعین کرنا چاہئے کہ مثلاً آپ کو اتنی

رقم دوں گا اور یہ عمل آپ کو کرنا ہے، تب جائز ہو سکتا ہے؛ کیوں کہ اجارہ میں اجرت کا متعین

ہونا لازم ہوتا ہے۔

منها: أن تكون الأجرة معلومة. (ہندیہ، کتاب الإجارة، الباب الأول زکریا

جدید ۴ / ۴۱، قديم ۴ / ۴۱۱)

ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة. (هدایہ، کتاب

الإجارات، اشرفی ۳ / ۲۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۵۶۲/۳۴)

دسواں وغیرہ منانے کے لئے قرض لینے دینے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید اپنے والد صاحب کے انتقال پر تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں وغیرہ کرنا چاہتا

ہے، کیا یہ رسومات شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں؟ زید وسعت نہ رکھنے کی بنا پر یہ سب رسومات قرض لے کر ادا کرتا ہے، کیا قرض دینے والا قرض دینے کی بنا پر گنہگار ہوگا؟ تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں کرنے پر کونسا گناہ لازم آتا ہے؟

المستفتی: محمد ابراہیم، انوار القرآن شکار پور، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں یہ سب رسومات نہ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور نہ ہی تابعین و تبع تابعین میں سے کسی سے ثابت ہیں؛ بلکہ حضرات فقہاء کرام نے ان کو بدعت قبیحہ فرمایا ہے، ان کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۱۰/۳۹۴-۳۵۰، جدید زکریا ۲/۱۹۹-۲۰۲، فتاویٰ محمودیہ ۶/۱۴۵، جدید ڈائجیل ۳/۸۸، ۱۵/۲۰۸)

ویکروہ اتخاذ الطعام في اليوم الأول، والثالث، وبعد الأسبوع.

(طحطاوي مع المراقبي، قدیم ۳۳۹، دارالکتاب دیوبند جدید ۶۱۷)

ویکروہ الضیافۃ من أهل المیت؛ لأنها شرعت في السرور لا في

السرور، وهي بدعة مستقبحة. (مراقبي الفلاح علی الطحطاوي، قدیم ۳۳۹،

دارالکتاب دیوبند جدید ۶۱۷-۶۱۸، شامی، مطلب في كراهية الضیافۃ من أهل المیت، زکریا

۳/۴۸، ۱، کراچی ۲/۴۰، بزازیہ، زکریا جدید ۳/۲۱۶، وعلی هامش الہندیہ ۶/۳۷۹)

اور قرض لے کر اس طرح کی بدعات کو اختیار کرنا تو اور بڑا جرم ہے، ایسے مواقع پر قرض نہ دینا ہی بہتر ہے، تاکہ اعانت علی المعصیۃ لازم نہ آئے اور قرآن کریم میں اعانت علی المعصیۃ سے منع فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة: ۲]

تیجہ، دسواں، بیسواں وغیرہ چونکہ بدعت قبیحہ ہیں، ان کے ارتکاب سے گناہ کبیرہ لازم آتا ہے، چنانچہ مجالس ابراہر میں بدعت کی شاعت اور قباحت کے متعلق لکھا ہے:

البدعة شر من الفسق، فإن من يفعل البدعة فهو ينقض الرسول.

(مجالس الأبرار، مجلس نمبر: ۱۸، ص: ۱۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/رجب ۱۴۲۱ھ

۱۶/۷/۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۳۶/۳۵)

قرض دینے والا غائب ہو جائے تو قرض کیسے ادا کریں؟

سوال [۹۳۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید پاکستان کا رہنے والا ہے، تقسیم ہند و پاک سے قبل اس نے ایک ہندو سے کافی رقم قرض میں لیا تھا، تقسیم کے وقت وہ ہندو ہندوستان چلا آیا تھا، فی الحال وہ کہاں رہتا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وارث معلوم ہے۔ زید اس قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے، اب قرض کی ادائے گی کی کیا شکل ہوگی اور عدم ادائے گی کی صورت میں زید کا عند اللہ مواخذہ ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: حبیب اللہ، معلم دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں زید قرض کی مقدار فقراء کو قرض سے سبکدوشی کی نیت سے صدقہ کر دے تو انشاء اللہ اس طریقہ سے قرض کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جائے گا اور صدقہ نہ کرنے کی صورت میں عند اللہ بری نہ ہوگا۔

وعليه ديون ومظالم جهل أربابها، وأيس من عليه ذلك من معرفتهم، فعليه التصديق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله. (درمختار، کتاب اللقطة، مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها، زكريا ۶/۴۴۳،

کراچی ۴/ ۲۸۳، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/ ۵۳۱، مصری قدیم ۱/ ۷۰۹،

الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۶/ ۳۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ صفر ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۲/۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/ ۳۸۶۷)

کیا بلا وصیت بھی میت کا قرض ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا؟

سوال [۹۳۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مقرض اپنا قرض چھوڑ کر مر گیا یعنی ادا نہیں کیا نہ وصیت کی ورنہ قرض ادا کر دیا تو کیا عند اللہ وعند الناس قرض ادا ہو گیا یا نہیں؟ نیز نمازوں کا فدیہ کیسے ادا ہو؟

المستفتی: محمد یوسف قاسمی خادم جامعہ شمس العلوم کاشی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی عند اللہ وعند الناس قرض ادا ہو جائے گا، نیز اگر ورنہ اپنی خوشی سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں گے تو ادا ہونے کی امید ہے۔

ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، أي بعد التجهيز والتكفين.

(شريفية، ص: ۶، فتاویٰ رشیدیہ قدیم ۵۲۴، جدید، ص: ۵۰۲)

وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد رحمة الله عليه

في الزيادات: يجزيه إن شاء الله تعالى. (شامي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت،

مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت، زكريا ۲/ ۵۳۳، كراچی ۲/ ۷۲، المبسوط،

دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/ ۱۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

کیم ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/ ۹۹۶)

قرض کی ادائے گی کی غرض سے تجارت میں انہماک اور نمازوں سے دوری کا شرعی حکم

سوال [۹۳۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عمر متقی، پرہیزگار صاحب جائیداد کا شکار ہے اور دیگر ذرائع آمدنی اولاد کی طرف سے موجود ہیں؛ لیکن غیر منقسم جائیداد اور والد و بھائیوں کے مشترکہ ہونے اور گھریلو خرچ زائد ہونے کی بنا پر عمر کو کم و بیش ایک لاکھ روپے مقروض ہونے کا شکار ہونا پڑا، اب چونکہ اخراجات طویل اور مقروضیت اور لڑکے لڑکیوں کی شادی بیاہ کی فکر کے باعث اور عمر صاحب نصاب بھی نہیں اور حلال طیب پاک و صاف کاروبار کرنے کے باعث کاروباری عروج بھی نہیں ہے؛ اس لئے یہ نظریہ ہے کہ چونکہ حلال طیب پاک و صاف کاروبار آج کے دور میں بہت ہی مشکل اور ”جوئے شیر“ لانے کا مصداق ہے؛ اس لئے صرف نماز یا احکام خداوندی میں اس قسم کی تاخیر یا سستی اللہ رب العزت انشاء اللہ معاف ہی فرمادیں گے اور جان کر تاخیر کرتا ہے اور روزی اللہ کی طرف سے طے ہے، اس سے انکار تو نہیں؛ البتہ سبب بھی اختیار کرنے کا حکم آیا ہے اور اس طرح کافی دیر پہلے سے دوکان سے اٹھنا اور گراہوں کو پریشانی یا دوکان کا بند ہونا اچھا نہیں ہے، اس حالت اور سوچ میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: احمد حسن نمکین، معرفت حبیب الرحمن شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگرچہ قرض خواہوں کے قرض کی ادائے گی کی غرض سے تجارت میں اس قدر منہمک ہونا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳/۶۳)

و خوف علی مالہ، أي من لص و نحوہ إذا لم یمكنہ غلق الدکان أو

البیت مثلاً. (الدرمع الرد، الصلاة، باب الإمامة، زکریا ۲/۲۹۳، کراچی ۱/۵۵۶)

مگر یہ خدا پر یقین کے خلاف اور تقویٰ سے بہت دور کرنے والا عمل ہے؛ اس لئے خدا پر یقین رکھ کر جماعت میں سستی نہ کرنی چاہئے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸ ذی الحجۃ ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۱۲/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۷۸۰)

قرض کی ادائے گی میں قیمت کے تفاوت کا حکم

سوال [۹۳۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: یہ کہ بندہ کا مطالبہ اس وقت کا ہے جب کہ موجودہ گرانے کے حساب سے بعض چیزوں میں روپیہ ایک پرانے پیسے کا بھی نہیں ہے؛ لہذا مطالبہ کس حساب سے لینا جائز ہے؟

المستفتی: عبدالعزیز بازار برتن شاہی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ”الإقراض تقضى بأمثالها“ کے قاعدہ سے جس قسم کا روپیہ آپ نے قرض میں دیا تھا، اسی قسم کا روپے لے سکتے ہیں، تفاوت فی القیمت کا کوئی اعتبار نہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۱۶۵)

وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس، ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه. (شامي، كتاب البيوع، باب المراجعة والتولية، فصل في القرض، زكريا ۷/۳۹۰، كراچی ۵/۱۶۲، كوئٹہ ۴/۱۹۲، المبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۴/۳۰، و هكذا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر ۲/۱۳۳، ۲/۳۴۲، ۲/۳۴۴) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۶۹۵)

قرض کا مطالبہ مقروض کے علاوہ سے کرنے کا حکم

سوال [۹۳۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حاجی اشرف ایک آدمی کے ساتھ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، حاجی اسلام نے کہا: اگر

گنجائش ہو تو میرا بھی ایک شیئر ڈال دو، حاجی اشرف نے کہا کہ معلوم کر کے بتاؤں گا۔ اور حاجی اسلام کا بھی ایک شیئر پڑ گیا، اس میں حاجی اشرف کے ایک لاکھ روپے زیادہ تھے، مگر منافع تین جگہ تقسیم ہوتا تھا، ۵۰ روپے وہ لیا کرتا تھا اور ۲۵ روپے حاجی اشرف اور ۲۵ روپے حاجی اسلام۔ کاروبار چلتا رہا، کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی نیت خراب ہونے لگی، حاجی اسلام نے حاجی اشرف سے کہا: میرا شیئر نکال دو اور آپ بھی اپنا شیئر نکال لو۔ حاجی اشرف نے کہا کہ پہلے میں تمہارا شیئر نکال دیتا ہوں، بعد میں میں اپنا نکال لوں گا، غرض یہ حاجی اسلام نے اپنا شیئر نکال لیا اور رقم پوری لے لی۔ حاجی اشرف نے بھی کوشش کر کے اپنا شیئر نکال لیا، مگر حاجی اشرف کے ایک لاکھ روپے باقی رہ گئے، انہوں نے ایک لاکھ روپے لینے میں ڈھیل شروع کر دی، چونکہ ان کا مالوی نگر دہلی میں ایک ہسپتال تھا، جب وہ آدمی دہلی جاتا تو حاجی اشرف اس سے کہتے کہ مالوی نگر بھی ہوتے آنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ہسپتال کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ آتے جاتے ہیں، غرض یہ کہ مہینوں وہ آدمی اس ہسپتال کو دیکھا کرتا اور آتا جاتا۔ ایک مرتبہ حاجی اشرف نے اس آدمی سے کہا کہ میرا لڑکا دوہئی سے آ رہا ہے، اس کو ایئر پورٹ سے مراد آباد لے آنا، پھر ایک مرتبہ حاجی اشرف نے کہا: میرا لڑکا دوہئی جا رہا ہے، اس کو ایئر پورٹ چھوڑ دینا، اس کار میں حاجی اشرف بھی شاید ایئر پورٹ گئے تھے، چونکہ ایک لاکھ روپے اس آدمی پر دباؤ تھا، اس وجہ سے وہ ان کے کام کو انجام دیتا تھا، غرض یہ کہ اسی دوران اس آدمی کا دیوالہ نکل گیا، اب یہ اس آدمی سے اپنے روپے کا تقاضہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آج دوں گا کل دوں گا، مگر اس نے ابھی تک نہیں دئے۔ حاجی اشرف حاجی اسلام سے کہتے ہیں کہ آدھے پیسے تم دو، حاجی اسلام کا کہنا ہے کہ آپ کے لالچ کی وجہ سے یہ رقم نہیں ملی، ورنہ مل جاتی، اگر آپ اس آدمی سے اپنا کام نہ لیتے۔ دوسری بات حاجی اسلام نے یہ کہی کہ میں اس آدمی کا ضمانتی نہیں تھا، نہ میں اس شخص کو جانتا تھا، میرے کہنے پر آپ نے مجھے پارٹنر بنایا۔ اور میں اپنی مرضی سے الگ ہوا، اگر آپ کو لالچ نہ ہوتا، تو رقم جب ہی مل جاتی۔

نوٹ:- اگر حاجی اشرف کے ایک لاکھ روپے زیادہ لگے ہوئے تھے، تو حاجی اسلام کی محنت

حاجی اشرف کے مقابلہ بہت زیادہ تھی، بار بار جاتا تھا اور راتوں کو دو دو تین بجے واپسی ہوتی، مگر حاجی اشرف اڑے ہوئے ہیں کہ ایک لاکھ کا آدھا نقصان دو، حالانکہ وہ آدمی بار بار یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی رقم بہت جلد واپس کر دوں گا اور دینے سے انکار نہیں کرتا مہربانی فرما کر اس کا فتویٰ دین کی روشنی میں عنایت فرمادیں، عین نوازش ہوگی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب مقروض شخص اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں آپ کا پیسہ ادا کر دوں گا اور قرض دینے سے انکار نہیں کر رہا ہے اور حاجی اسلام نے ایسی کوئی ضمانت نہیں لی تھی کہ اگر اس شخص نے نہیں دیا تو میں آپ کی رقم دوں گا؛ اس لئے از روئے شرع حاجی اشرف کا حاجی اسلام سے ۱۵۰ ہزار کا مطالبہ درست نہیں ہے؛ کیوں کہ کوئی بھی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. [سورة الفاطر: ۱۸]

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.
(مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۴۲۵، رقم: ۲۴۰۰۳)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود، باب التعزير، زكريا ۶/ ۱۰۶، کراچی ۴/ ۶۱، ہندیہ، زكريا قديم ۲/ ۱۶۷، جديد ۲/ ۱۸۱، البحر الرائق، زكريا ۵/ ۶۸، كوئٹہ ۵/ ۴۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ یقعدہ ۱۴۳۲ھ

۱۱/۱۱/۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۸۶/۲۰)

قرض کی ادائے گی کا مطالبہ مقروض کے گھر والوں سے کرنا

سوال [۹۳۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: ایک شخص ہے جس کی بیوی اور تین بیٹے اور ایک بیٹی و داماد انتہائی پریشانی میں ہیں، اس شخص نے شادی کے بعد سے تقریباً ۳۸ سال سے اپنی بیوی کو کوئی سکھ نہیں دیا، جب کہ بیوی کے میکے سے بیوی کو مکان دوکان زیور اور گھر کا قیمتی سامان ملا، وہ شخص رفتہ رفتہ بیوی کا زیور سامان خاموشی سے فروخت کر کے جو اور سٹھ کھیلنے میں صرف کرتا رہا، بیوی شوہر کو بدنامی سے بچانے کے لئے خاموشی سے اس کی مدد اپنے والد سے بھی کراتی رہی، سسر نے دوکان کے لئے مال کے واسطے رقم بھی دی؛ لیکن اس شخص نے وہ بھی غلط کاموں میں پڑ کر ختم کر دی، آئے دن گھر میں تقاضہ کرنے والے کھڑے ہوتے رہے، بچے بڑے ہو کر یہ بات برداشت نہیں کر سکے، باپ سے اسی بات کو لے کر کہا سنی ہونے لگی، اس شخص کی جب گھر سے ضرورت حل ہونا بند ہو گئی، تو اس نے باہر کے لوگوں سے ادھار لینا شروع کر دیا، ادھار اس قدر بڑھ گیا کہ لوگوں کی دھمکیاں ملنے لگیں، تو بچے جان بچانے کے خوف سے نہال سے ملا ہوا مکان بھی فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے اور باپ کے قرض چکانے میں ساری رقم ختم ہو گئی۔ اور بیوی بچوں کو کرایہ کے مکان میں منتقل ہونا پڑا، رشتہ داروں، عزیزوں اور دیگر دیندار لوگوں نے بہت سمجھایا؛ لیکن وہ شخص آج تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، برے شوق اس قدر غالب ہیں کہ کسی کی سنتا ہی نہیں اور جھوٹی قسمیں کھانا قرآن اٹھانا اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بیوی بچوں نے اور بیٹی داماد نے تنگ آ کر گھر میں آنے کو منع کر دیا، اس شخص نے فی الحال اپنا ٹھکانہ اپنی بہن اور بہنوئی کے یہاں بنا لیا ہے، اس شخص نے مزاروں پر جانا بھی شروع کر دیا ہے، گھر والوں نے غصہ میں آ کر گھر میں آنے کی ممانعت تو کر دی؛ لیکن ان کو خدا کا خوف بھی غالب ہے، کہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو شوہر کے حقوق بیوی نے آج تک ادا کئے اور بچوں نے بھی والد کے حقوق کا احترام کیا؛ لیکن جب کچھ نہیں بچا تو مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا، وہ شخص اب بھی بازار سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو پٹی پڑھا کر قرض لے رہا ہے، بچے اس بات سے پھر خوف زدہ ہیں کہ اب تقاضہ کہاں سے پورا کریں گے؛ اس لئے وہ اخبار کے ذریعہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا ان سے کوئی

واسطہ نہیں ہے، ہم کسی طرح کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ برائے کرم شریعت کی رو سے اس گھر کے افراد کو کیا کرنا چاہئے؟ جواب تحریر فرما کر مشکور فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں، اگر یہ باتیں بیوی بچوں کی طرف سے درست ہیں اور قرض لے لے کر خرافات میں پیسوں اور املاک کی بربادی اس حد تک پہنچ چکی ہے جو سوال نامہ میں مذکور ہے تو ایسے حالات میں بیوی اور بچوں کی طرف سے ضابطہ کے طور پر اس بات کا اعلان اخبار میں کرنے کی گنجائش ہے کہ فلاں شخص مالی اعتبار سے قلاش ہے، وہ اگر کسی سے قرض لے تو وہ قرض ادا نہیں کر سکتا؛ اس لئے اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ان کو قرض نہ دے اور پھر بھی اگر کوئی قرض دے گا تو اس کے بیوی بچے اس کا قرض ادا کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے؛ بلکہ قرض دینے والے خود اس کے ذمہ دار ہوں گے؛ لہذا قرض کے مطالبہ کو لے کر کوئی بھی شخص ان کی بیوی بچوں کو پریشان نہ کرے، اس طرح کے اعلان کرنے میں بچوں کی طرف سے ان کی تدلیل مقصود نہیں ہے؛ بلکہ ایک اہم ترین نقصان سے ان کی حفاظت مقصود ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: لا ضرر

ولا ضرار. (سنن ابن ماجه، الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، النسخة

الهندية ۱/ ۱۶۹، دار السلام، رقم: ۲۳۴۱، مسند أحمد بن حنبل ۱/ ۳۱۳، رقم: ۲۸۶۷،

موطا إمام مالك، القضاء في المرفق، ص: ۳۱۱، رقم: ۲۷۵۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۲/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۵۸/۳۹)

قرض کی ادائے گی کا ذمہ لینے والے پر قرض ادا کرنا لازم ہے

سوال [۹۳۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ڈاکٹر ایم عزیز صاحب (جو حکومت مہاراشٹر کے ایم ایل سی رہ چکے ہیں) اورنگ آباد مہاراشٹر میں واقع اردو ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین اور میرے چچا خسر تھے، آپ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکومت مہاراشٹر کے توسط سے بہت سے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ میں (شیخ منصور مصطفیٰ) نے ۱۹۹۲ء میں ”الصباح ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی“ اورنگ آباد کی بنیاد ڈالی، جس کے ماتحت اورنگ آباد سے قریب ایک تحصیل (پھلممری) میں ڈگری کالج کے قیام کا منصوبہ تھا، جس کی کارروائیوں کے لئے میں نے دو لاکھ روپے بطور امانت ڈاکٹر صاحب کے پاس رکھے تھے، اسی طرح میرے مزید سترہ ہزار روپے ڈاکٹر صاحب کے پاس بطور قرض باقی تھے، مجموعی طور پر دو لاکھ سترہ ہزار روپے ان کے ذمہ باقی ہیں، اسی دوران ڈاکٹر صاحب کا ۸/ مئی ۲۰۰۹ء کو انتقال ہو گیا، انتقال کے فوراً بعد اپنی رقم کے سلسلے میں میں نے ان کے چھوٹے بھائی عبدالوحید صاحب (سکرٹری اردو ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد) سے رابطہ قائم کیا، تو عبدالوحید صاحب نے کہا کہ آپ رقم کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ سے بات نہ کریں، ہم اپنی سوسائٹی سے رقم دیں گے، اس بات کے گواہ مرزا سلیم بیگ اور محمد ایوب ہیں، اس وجہ سے میں نے کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، تین سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے میری رقم نہیں لوٹائی اور کہنے لگے کہ ہم یہ رقم نہیں دے سکتے، آپ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ سے مانگ لیں، اب اگر ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ سے مانگتا ہوں تو بلا وجہ شک و شبہات جنم لیتے ہیں، اس مرحلہ پر میرا کہنا یہی ہے کہ عبدالوحید صاحب کو اگر دینا نہیں تھا تو ذمہ داری کیوں قبول کی؟ آیا رقم کا مطالبہ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ سے ٹھیک بھی ہو گا یا نہیں؟۔

حل طلب مسئلہ یہی ہے کہ میرے روپیوں کی ادائے گی اس مرحلہ پر کس کے ذمہ ہوگی؟ امید کہ آپ جواب عنایت فرما کر مشکور فرمائیں گے۔

المستفتی: شیخ منصور مصطفیٰ لیکچرر ڈاکٹر ذاکر حسین جو نیہ کالج اورنگ آباد، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مسئلہ میں چوں کہ ڈاکٹر ایم عزیز صاحب کے بھائی

عبدالوحید نے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے لی اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ سے اس تعلق سے بات کرنے کو منع کر دیا تھا: اس لئے قرض ادا کرنا عبدالوحید ہی کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ اس قرض کی ادائے گی لازم ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے اور اس کی ادائے گی کے لئے اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہی ایک شخص کا جنازہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے قرض کی ادائے گی کی ذمہ داری لی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد مرحوم کا قرض ادا کرنے کے لئے جس نے بھی ذمہ داری لی ہو اس کے اوپر اس کی ذمہ داری لازم ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: كنا جلوسا عند النبي ﷺ إذا أتى بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنائير، فصل عليها، ثم أتى بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنائير، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلينا دينه، فصلى عليه. (بخاري، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، النسخة الهندية ۱/ ۳۰۵، رقم: ۲۲۳۴، ف: ۲۲۸۹، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي

۱/ ۳۱، رقم: ۶۲۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۹/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ذیقعدہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۰۸۳۹)

مرض الوفات میں اقرار شدہ قرض کی ادائے گی کی ذمہ داری لینے والے پراس کا ادا کرنا لازم ہے

سوال [۹۳۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک رائس مل میں زید منیم ہے، مالک مل نے زید کو ہر طرح کے اختیارات دے رکھے تھے؛ بلکہ زید کی حیثیت مالک کی طرح تھی، عمر نے زید کے بدست کچھ غلہ فروخت کیا مل کے لئے، زید نے غلہ کا حساب اپنے رجسٹر اور پیڈ پر بنا دیا اور عمر سے کہا کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، آپ شام کو یا صبح کو رقم لینا، جب مدرسہ جاؤ تو عمر کچھ عوارضات کی بنا پر شام کو گئے نہیں، صبح کو عمر کے جانے سے پہلے زید کی طبیعت خراب ہو گئی، تو زید کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ ہو تو بتاؤ، زید نے کہا کہ میرے ذمہ کسی کا قرض نہیں ہے؛ لیکن مل کا حساب ہے جو پیڈ پر لکھا ہے، وہ عمر کو جانا ہے۔ زید نے کہا کہ منشی کو مل سے بلا لو میں حساب لکھوا لوں گا، منشی اس وقت مل پر موجود نہیں تھا، زید مراد آباد چلے گئے ہسپتال میں علاج کے لئے، زید کی جیب میں کچھ رقم تھی، زید کو ہسپتال میں بے ہوشی ہو گئی، اس بے ہوشی میں زید کی جیب سے مل مالک نے رقم نکال لی، جب زید کو ہوش آیا تو کہا میری جیب سے رقم کس نے نکالی ہے؟ تو ان کے لڑکے نے کہا کہ مل مالک نے نکالی ہے، اس وقت مل مالک صاحب بھی موجود تھے، تو مالک صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ رقم میں نے نکالی ہے، تو زید نے کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے، مل مالک نے پوچھا کہ کس کی ہے؟ زید نے کہا کہ عمر کی، تو مل کے مالک نے کہا کہ چلی جائے گی اور ہم دے دیں گے تم فکر مت کرو، اس کے بعد زید کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو زید کے لڑکے نے پوچھا کہ کسی مسجد یا مدرسہ میں کچھ لینا دینا ہو تو بتاؤ، میں دے دوں گا، زید نے جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ دیا نہیں تو، تو کیوں؟ اس کے بعد مل مالک نے کہا میرے لئے کچھ حکم کر دیں کیا کروں؟ تو جواب دیا کہ ابھی وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس کے بعد زید کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد عمر نے مل مالک سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، تو مل کے مالک نے کہا کہ ہم دے دیں گے، جب آٹھ دس

دن ہو گئے، تو مل مالک نے رجسٹر اور پیڈر دیکھا اور عمر سے کہا کہ ہماری طرف آپ کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ان حالات میں عمر مل مالک سے رقم لینے کے حق دار ہے یا نہیں؟ از روئے شرع جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ فقط والسلام

المستفتی: عبدالغنی لال پورکلاں، ضلع رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کے درج شدہ حالات میں جب زید نے اپنے مرض الموت میں عمر کی رقم کا اقرار کیا ہے اور مل مالک نے ادائے گی کی ذمہ داری بھی لے لی ہے، تو مل مالک پر عمر کی رقم ادا کرنا واجب ہوگا۔ نیز اگر رجسٹر پر حساب صاف بھی ہے اور عمر حق دار کو رقم نہیں پہنچی ہے، تو بھی مل مالک پر عمر کی رقم ادا کرنا واجب ہوگا۔

إذا أقر الرجل في مرض موته بديون، وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروفة الأسباب مقدم - إلى قوله - لأن حق غرماء صحته تعلق بهذا المال استيفاء. (هداية، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، أشرفي ديوبند ۳/ ۲۴۱)

وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين. (هداية، كتاب الحوالة، أشرفي

ديوبند ۳/ ۱۲۹)

ولو أحوال المحال عليه المحتال على آخر جاز وبرى الأول
والمال على الآخر. (شامی، کتاب الحوالة، زکریا دیوبند ۸/ ۷، کراچی ۵/ ۳۴۲)
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ صفر ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۰/۱۰۹۷)

مدت مکمل ہونے پر دائن کے لئے قرض کی ادائیگی کا سخت مطالبہ کرنا

سوال [۹۳۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: میں نے کسی شخص سے کچھ رقم بطور قرض ایک معینہ مدت کے لئے لی مگر معینہ مدت پر وہ رقم حالات کی بنا پر ادا نہ کر سکا، تقاضہ اس پر سخت کیا جانے لگا، میں معاملہ داری جانتا ہوں، مگر حالات میرے موافق نہیں ہیں، مگر رقم دینے کا پابند بھی ہوں اور اقرار بھی کرتا ہوں، کہ رقم دینی ہے، تو کیا رقم کی واپسی کا سخت مطالبہ کرنا جائز ہے؟

المستفتی: قاری حسین احمد، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس شخص سے متعین مدت تک کے لئے بطور قرض رقم لی گئی ہے، مدت پوری ہو جانے کے بعد اس شخص کے لئے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا جائز اور درست ہے۔ اور مدت میں توسیع کرنا اس کے اختیار کی بات ہے، اگر آپ کے پاس مدت پوری ہونے پر دینے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس شخص سے آپسی رضامندی کے ذریعہ سے مدت میں مزید توسیع کی گنجائش ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ. [البقرة: ۲۸۰]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: اشتروه، فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. (صحيح البخاري، الاستقراض، باب استقراض الإبل، النسخة الهندية ۱/ ۳۲۱، رقم: ۲۳۲۸، ف: ۲۳۹۰، صحيح مسلم، المساقاة والمزارعة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفية خيرا مما عليه، النسخة الهندية ۲/ ۳۰، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۰۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵ صفر ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۲/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۸۲)

قرض کی وصولیابی تک مدیون کا جنازہ روکنے کا حکم

سوال [۹۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص کے ذمہ ہمارا تقریباً چودہ ہزار روپے قرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہم اس سے دباؤ کے ذریعہ وصول نہیں کر سکتے تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کا جنازہ روک لیں اور قرض وصول ہونے تک روکے رکھیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: غلام محمد پٹیل سائہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: باوجود حیثیت کے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے والا شرعاً بہت بڑا ظالم اور سخت وعید کا مستحق ہے۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: **مطل الغني**

ظلم. (صحيح البخاري، الحوالة، باب في الحوالة، النسخة الهندية ۱/ ۳۰۵، رقم: ۲۳۳۲، ف:

۲۲۸۷، صحيح مسلم، باب تحريم مطل الغني، النسخة الهندية ۲/ ۱۸، بيت الأفكار رقم: ۱۵۶۴)

اور صاحب حق اپنا قرض حاصل کرنے کا مطالبہ ہر وقت کر سکتا ہے، ابھی مقروض کی حیات میں اور اس کی موت کے بعد جنازہ قبرستان میں جانے سے پہلے اور بعد میں ہر حال میں مطالبہ کر کے وصول کرنے کا حق ہے؛ البتہ جنازہ روک لینے کی بات کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذری۔ اور قرض ادا کرنے سے گریز کرنے پر مقروض کو گرفتار بھی کیا جاسکتا ہے۔

لأن قضاء الدين فرض عليه يجبر على أدائه في حال حياته - إلى

قوله - لأنه يجبر على أداء الدين بالحبس. (شريفية، ص: ۶)

نیز جو آدمی قرض ادا کئے بغیر مر جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور لوگوں سے کہہ دیتے کہ تم لوگ پڑھ لو۔

عن عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه، أن النبي ﷺ أتى برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فإن عليه ديناً. (سنن الترمذي، باب ماجاء في الصلاة على المديون، النسخة الهندية ۱/ ۲۰۵، دار السلام، رقم: ۱۰۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۳۱/۲۹)

قرض لے کر واپس نہ کرنے پر قانونی کارروائی کرنا

سوال [۹۳۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کی کثیر رقم بکر کے ذمہ واجب ہے، جس کی شرعی طور پر یادداشت و تحریر بکر نے لکھ کر دی تھی، وہ زید کے پاس موجود ہے، چونکہ آپس میں بہت پرانے خاندانی تعلقات بھی تھے اور بکر بظاہر دیندار و ایماندار بھی معلوم ہوتا تھا؛ اس لئے زید نے عدالتی رجسٹری و پختگی کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، نیز آج کل عدالتی و قانونی پختگی کے باوجود عدالتی چارہ جوئی میں کثیر صرفہ و پریشانی کے علاوہ برسہا برس لگ جاتے ہیں، دیوانی عدالتوں میں بیس بیس سال تک فیصلے نہیں ہو پاتے؛ اس لئے بھی ظاہری قانونی پختگی کے بجائے شرعی تحریر کو کافی سمجھا تھا؛ لیکن اب بکر کے حالات بدل گئے اور دینداری کا ڈھونگ ختم کر کے بکر کسی طرح زید کا حق جو ایک لاکھ سے زیادہ ہے ادا نہیں کرتا۔ زید نے مقامی علماء کے سامنے بھی فیصلہ کرایا، ایک شرعی عدالت میں بھی مقدمہ پیش کیا؛ لیکن بکر نے فیصلہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، چونکہ شرعی عدالت کے پاس زبردستی کے اختیارات تو ہیں نہیں، زید کو چار سال ہو گئے انتظار کرتے اور کوشش کرتے ہوئے، اب کوئی امید باقی نہیں رہی کہ بکر شرعی فیصلہ کرے یا آسانی سے حق ادا کر دے، صرف ایک شکل یہی ہے کہ بکر کے خلاف کوئی ایسا سخت مقدمہ لگایا جائے اور پولیس کے ذریعہ کوشش کی جائے، جس سے وہ پریشان و مجبور ہو کر

فیصلہ پر آمادہ ہو سکے اور زید کا حق ادا کرنے پر مجبور ہو جائے؛ لہذا دریافت یہ کرنا ہے کہ ایسے حالات میں مجبور ہو کر زید کو اپنا حق وصول کرنے کے لئے بکر کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرنے کی شرعاً اجازت و گنجائش ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالستار خان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید کی رقم بکر پر واجب ہے اور بکر واجب الاءاء رقم پر قادر ہونے کے باوجود شرعی عدالت کے فیصلہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو زید اپنا حق حاصل کرنے کے لئے حکومت کی عدالت میں قانونی کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۳۷۷، ۱۲/۴۰۲، جدید ڈابھیل ۱۶/۲۱۶)

روی أن معاذًا كان يبدن فأتى غمراءه إلى النبي ﷺ فباع النبي ﷺ ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء. الحديث (مشکوٰۃ ۱/۲۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/زیقعدہ ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۳۰۸/۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۱۱/۱۴۲۲ھ

قرض کی ادائے گی میں ٹال میٹول کرنا

سوال [۹۳۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید بنگلی کے پٹکھے فروخت کرنے کا کام کرتا ہے، زید نے عمر سے چار پٹکھے ادھار لئے، ان چار میں سے عمر نے ایک پٹکھا بکر کو فروخت کر دیا، بکر کو یہ معلوم تھا کہ عمر نے یہ پٹکھے زید سے خریدے ہیں، بکر کا پٹکھا کچھ خراب ہوا تو بکر نے بجائے عمر کے (جس سے بکر نے خریدا تھا) زید کو ہی بلا کر پٹکھا دکھایا اور کہا کہ یہ تمہارا پٹکھا خراب ہے، زید نے یہ نہیں کہا کہ عمر سے کہو جس سے تم نے پٹکھا خریدا ہے؛ بلکہ یہ کہا کہ پٹکھا آپ میرے گھر بھیج دیں دوسرا بدل کر دے دوں گا، یا قیمت واپس کر دوں گا، یا اس پٹکھے کو درست کر دوں گا، یہ معاملہ زید نے بکر سے کیا، اب بکر نے زید کے کہنے کی وجہ سے وہ پٹکھا زید کے گھر بھیج دیا، تا کہ اپنے قول کے مطابق وہ

بدل دے یا قیمت واپس کر دے یا اس کو درست کر دے۔ اور زید کی نیت بھی یہی تھی، اب عمر نے جو زید سے پنکھا ادھار لئے تھے، عمر زید کی رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، زید کہتا ہے کہ میں بکر کا پنکھا نہیں دیتا، جب عمر میرے پیسہ نہیں دیتا، زید کا یہ کہنا کہ میں نے پنکھا زید کے پاس زید کے کہنے کی وجہ سے بھیجا ہے، اگر وہ زید کہتا ہے تو میں عمر سے ہی رجوع کرتا، تو کیا اس صورت میں زید بکر کو پنکھا یا اس کی قیمت واپس کرے جیسا کہ اس نے کہا تھا، یا بکر کا زید سے کوئی تعلق نہیں، اگر زید بکر کو پنکھا واپس نہیں کرتا یا اس کی قیمت اپنے قول کے مطابق ادا نہیں کرتا، تو زید کی طرف سے یہ بکر کو دھوکہ دینا ہوا یا نہیں؟ زید گنہگار ہے یا نہیں؟ زید کو بکر کا پنکھا یا اس کی قیمت یا ٹھیک کر کے اپنے قول و وعدہ کے مطابق واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ زید کو عمر کا پنکھا فروخت کرنے کے وقت بھی علم تھا کہ عمر ایک پنکھا بکر سے خرید رہا ہے۔

المستفتی: قاری عبدالرحمن شیر کوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں جب زید نے بکر سے وعدہ کر لیا کہ آپ میرے گھر پنکھا بھیج دیں دوسرا بدل کر دوں گا، یا قیمت واپس کر دوں گا یا درست کر دوں گا، تو زید کے لئے وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، وعدہ خلافی کرنا منافقت کی علامت ہے؛ لہذا عمر کے روئے نہ دینے کی وجہ سے بکر کے حق کو روکنے کا حق نہیں؛ بلکہ اپنے وعدہ کے مطابق پنکھا واپس کرنا ضروری ہے؛ البتہ زید کو اپنا روپیہ عمر سے لینا چاہئے اور عمر کے روئے دینے میں ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: **مطل الغني**

ظلم. (سنن الترمذي، باب ماجاء في مطل الغني أنه ظلم، النسخة الهندية ۱/ ۲۴۴، دارالسلام،

رقم: ۱۳۰۸، سنن الدارمي، دارالمغني ۳/ ۱۶۸۴، رقم: ۲۶۲۸، مسند أحمد بن حنبل ۲/ ۷۱،

رقم: ۵۳۹۵، ۲/ ۲۶۰، رقم: ۷۵۳۲، ۲/ ۳۱۵، رقم: ۸۱۶۰) **فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

الجواب صحیح:

کتبہ شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۶/۵ھ

۱۴۱۵/۶/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۶۶)

قرض کی ادائے گی میں ٹال مٹول کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص جو تجارت کرتا ہے اور تجارت کے قواعد و شرائط سے بخوبی واقف ہے، اس نے ہم سے تقریباً ۱۲ لاکھ روپے کا مال خریدا اور رقم کی ادائے گی کا ایک وقت مقرر تھا؛ لیکن اس نے مقررہ وقت کے نکلنے کے بعد بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک قرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی وعدہ کرتا ہے کہ فلاں تاریخ یا فلاں وقت رقم ادا کرے گا؛ بلکہ ٹال مٹول کر رہا ہے، جب کہ ہم یہاں تک تیار ہیں کہ ہمارا مال ہی واپس کر دو؛ لیکن وہ مال بھی واپس نہیں کرتا، ہم نے معتبر حضرات کے بیچ معاملہ رکھا، جس سے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور رقم ادا کرنے سے منکر ہوا۔ اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور مزید مال اور بھیجو تب پہلی رقم ادا کروں گا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ شریعت کا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ مقروض ہونے کی حالت میں مرجائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح جواب عنایت فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

المستفتی: محمدناصر خاں، دریا گنج دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں اگر وہ شخص ادائے گی قرض پر قادر ہے، پھر بھی ٹال مٹول اور ادائے گی میں کوتاہی کر رہا ہے، تو شریعت مطہرہ میں ایسے شخص کو ظالم اور خائن کہا گیا ہے۔ اور اگر قرض ادا کئے بغیر اس کا انتقال ہو جائے تو آخرت میں سخت عذاب کا مستحق ہوگا، یہاں تک کہ قرض دار کی نیکیاں قرض خواہ کو دے دی جائیں گی، پھر بھی اگر قرض کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا تو قرض خواہ کے گناہ قرض دار پر لا دئیے جائیں گے، نیز ایک حدیث شریف میں نہایت خوفناک عذاب کا ذکر آیا ہے، جس کی گردن پر لوگوں کے حقوق ہوں گے چاہے اس نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہو یا دھوکہ دے کر حاصل کیا ہو یا

ادھار لے کر پیسوں کی ادائے گی میں لا پرواہی کی ہو یا کسی کی جائیداد اور مال لے کر ہڑپ کر لیا ہو، یا قرض لے کر ادا نہ کیا ہو، اس کو عذاب یوں ہوگا کہ انگاروں کا ایک صندوق ہوگا، اس میں اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اس صندوق میں بند ہو کر بند گاڑیوں اور بند ہیلی کاپٹروں کی طرح جہنم کے طبقہ جمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور طبقہ حجیم یعنی دہکتی ہوئی آگ کے درمیان چیخ و پکار کے ساتھ ادھر ادھر مارا مارا پھرے گا، اس کے عذاب سے دوسرے طبقہ کے لوگ بھی پریشان ہوں گے۔

عن شفي بن ماتع الأصبحي - رضی اللہ عنہ - عن رسول اللہ ﷺ أنه قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والشبور، يقول: أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى - إلى قوله - فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد مات، وفي عنقه أموال إلى الناس، مانجد لها قضاء أو وفاء. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ۷/ ۳۱۰، رقم: ۷۲۲۶، مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية بيروت ۱/ ۲۰۸، رقم: ۱۰۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱/ ذیقعدہ ۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵/ ۱۱/ ۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/ ۸۶۰۰)

مقروض سے مقدمہ اور سفر خرچ کا مطالبہ

سوال [۹۳۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مراد آباد میں ایک حافظ صاحب کی کاروباری حالت خراب ہو گئی تھی، بندے نے ان کو روپے دئے کہ کام بن جائے، عرصہ تقریباً چالیس سال ہو گیا، مگر ان کی حالت درست نہ

ہوسکی اور وہ پاکستان چلے گئے، بندے نے جائیداد میں ان کا ترکہ حاصل کرنے کے لئے حکومت سے مقدمہ بازی کی، مگر مقدمہ میں رقم بہت خرچ ہوگئی؛ اس لئے بندہ تھک کر چھوڑ بیٹھا، چند سال میں اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب پر فضل فرمایا، حافظ صاحب مراد آباد آئے اور بندے سے فرمایا کہ پاکستان آجاؤ پیسے ادا کر دوں گا، جواباً بندے نے عرض کیا کہ پاکستان میں میرا کوئی کام تو ہے نہیں مگر قیامت کے دن اتمام حجت کے لئے پاکستان بھی آؤں گا، بندہ پاکستان گیا، اتفاق سے وہ کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے، ملاقات نہ ہوسکی، سفر خرچ بیکار رہا، میرے سفر کے آنے کے بعد بھی حافظ صاحب اور ان کے اہل و عیال مراد آباد آئے، مگر کسی نے بندہ کا مطالبہ ادا نہ کیا، اب حافظ صاحب کے ایک عزیز نے خبر دی ہے کہ حافظ صاحب مراد آباد آنے والے ہیں، مطالبہ ادا کریں گے، خدا کرے کہ ادا کر دیں؛ لہذا اس واقعہ سے حسب ذیل سوالات کے جوابات تحریر فرمادیں:

(۱) یہ کہ اصل رقم کے علاوہ خرچ مقدمہ و خرچ سفر و ہرجہ کا روبرو جب کہ وسعت ہوئے بھی تقریباً ۲۵ رسال ہو گئے، ان مطالبوں میں سے کون کون سا مطالبہ کرنا جائز ہے؟

المستفتی: عبدالعزیز برتن بازار شاہی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. [البقرة: ۲۸۰]

بوقت مقدمہ حافظ صاحب تنگ دست تھے؛ اس لئے اصل رقم کے علاوہ کسی قسم کا مطالبہ خرچ مقدمہ و ہرجہ کا روبرو خرچ سفر وغیرہ کا حق نہیں ہے؛ بلکہ مذکورہ آیت کے تحت ان کو تا وسعت مہلت دینی چاہئے تھی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۶۹۵)

قرض کے بدلے فصل پر گیہوں لینا

سوال [۹۳۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عبدالرحیم کے عبدالغفور پر سو روپے ہیں، وعدے پر عبدالرحیم نے طلب کئے عبدالغفور نے جواب دیا کہ بھائی پیسے تو نہیں ہیں، فصل میں ایک کو نخل گیہوں لے لینا۔ عبدالرحیم کا عبدالغفور سے ان روپیوں کے عوض ایک کو نخل گیہوں لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالمجید ہدایت پور، ضلع بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سو روپے کے عوض میں پیسہ نہ ہونے کی صورت میں عبدالرحیم کے لئے عبدالغفور سے ان روپیوں کے عوض میں ایک کو نخل گیہوں لینا جائز ہے۔

ففي الذخيرة: اشترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة دينار

جاز؛ لأنه دين عليه. (شامی، فصل في القرض، مطلب في شراء المستقرض من المقرض، زکریا ۷/۳۹۲-۳۹۳، کوئٹہ ۴/۱۹۳، کراچی ۵/۱۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ صفر ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۴۲/۲۳)

متعینہ مدت کے لئے چاول ادھار پر دینا

سوال [۹۳۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: چاول وغیرہ لگانا یعنی تم اس وقت مجھ سے چاول لے جاؤ اگھن کے ماہ میں جس بھاؤ سے ہو مجھے اس بھاؤ سے چاول دے دینا۔

المستفتی: محمد اطہر بن عبدالحلیل ارریہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال میں چاول وغیرہ لگانے کی جو شکل بیان کی گئی ہے کہ تم مجھ سے اس وقت چاول لے جاؤ اور جتنی مقدار چاول لے جاؤ گے اتنی ہی مقدار دینا ہے، تو یہ ادھار کی شکل ہے، جو شرعاً جائز اور درست ہے۔ اور اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ اور ادھار لینے والے پر مدت متعینہ کے اندر ان چاولوں کی ادائے کی ضروری ہے۔

ويستقرض الخبز وزنا وعددا عند محمد، وعليه الفتوى. (تحتہ في الشامية:) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم. (الدر مع الرد، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ۷/ ۴۲۱، كراچی ۵/ ۱۸۵)

وجوز محمد استقرار الخبز عددا ووزنا لحاجة الناس وتعارفهم
إياه، وإن لم يكن من ذوات الأمثال، وهذا هو المفتى به عند الحنفية؛
لتعامل الناس وحاجاتهم إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته، هدى انتر نیشنل ڈیو بند ۴/
۳۷۶، دارالفکر ۵/ ۳۶۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۴/۲۷ھ

۱۴۲۳/۴/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۱۵-۷)

کھلے کرنے کے لئے دئے گئے ۵۰۰/ میں سے ۳۰۰ فوراً وصول کرنا بقیہ بعد میں

سوال [۹۳۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: خالد نے زید کو پانچ سو روپے کھلے کرنے کے لئے دئے، زید نے خالد کو اسی مجلس میں تین سو روپے دے دیئے اور دوسو روپے بعد میں ادا کرنے کا وعدہ کیا، تو کیا اس طرح تبادلہ کرنا درست ہے؟ اور کیا یہ بیع صرف نسیئہ کی وجہ سے ناجائز تو نہیں؟

المستفتی: شاداب عالم، معلم درجہ ششم دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں تبادلہ کی جو شکل ذکر کی گئی ہے وہ جائز اور درست ہے، مجلس میں بدلیں پر قبضہ ضروری نہیں ہے؛ بلکہ احد البدلین پر قبضہ کافی ہے؛ لیکن تقاض ہرگز درست نہیں ہے اور اسے بیع نہیں کہا جائے گا؛ بلکہ قرض کہا جائے گا، جتنا دیا ہے اتنا ہی لینا ہے؛ اس لئے کہ بیع میں منفعہ مقصود ہوتی ہے اور قرض میں منفعہ مقصود نہیں ہوتی، بدل مقصود ہوتا ہے۔ اور یہاں بدل ہی مقصود ہے، منفعہ نہیں۔

وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى "نوت" أن المختار عندنا قول من يجعلها أثمانا اصطلاحية، وحينئذ تجرى عليها أحكام الفلوس النافقة سواء بسواء. (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة، والمزارعة حكم الأوراق النقدية، أشرفیہ دیوبند ۱/ ۵۸۸، ۵۹۰)

بيع الفلوس بمثلها، كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخر، وهذا إنما يجوز إذا تحقق القبض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان، فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئا فسد العقد. (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة حكم العملة الرائجة أشرفیہ ۱/ ۵۸۷)

وقيد بالنقدين؛ لأنه لو باع فضة بفلوس، فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما. (شامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ۷/ ۵۲۲، كراچی ۵/ ۲۵۹، البحر الرائق كوئٹہ ۶/ ۱۹۴، زكريا ۶/ ۳۲۴، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۱۰/ ۴۱۲، رقم: ۱۳۱۳۸-۱۳۱۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۸/۹۹۷)

بیس ہزار روپے قرض میں فریقین کا جھگڑا اور فیصلہ

سوال [۹۳۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید نے بکر کو بطور قرض یا بطور ادھار میں ہزار روپے ایک گواہ کے سامنے دئے، بکر صاف انکار کرتا ہے کہ زید نے بالکل ہی مجھے روپے نہیں دئے، جس گواہ کے سامنے دئے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب فریقین میں جھگڑا ہے، دونوں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہیں، مذکورہ صورت میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: ظہیر الدین شریف نگر، تحصیل ٹھا کر دوارہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں درج کردہ صورت میں زید مدعی اور بکر مدعی علیہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کی بات کے منکر ہیں، ایسی صورت میں جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اس پر شرعی گواہ پیش کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے پاس شرعی گواہ نہیں ہیں تو بکر سے قسم لی جائے گی، اگر بکر قسم سے منحرف ہو جائے تو زید کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر بکر قسم کھالے تو بکر ہی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبيّنات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، دارالفكر ۱۵ / ۳۹۳، رقم: ۲۱۸۰۵) فقط واللّه سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۵/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸ / ۹۲۷)

امریکی ڈالر قرض دے کر ہندوستانی رقم لینا

سوال [۹۳۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے بکر کو پانچ ماہ کے لئے قرض کے طور پر امریکی سو ڈالر دئے، جس کی قیمت اس

وقت ہندوستانی ۴۵۰۰ روپے تھی، پانچ ماہ کی مدت گزرنے کے بعد اسی سو ڈالر کی قیمت مزید دو سو روپے ہو گئی ہے، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا قرض کی ادائے گی میں وہی سو ڈالر دیا جائے یا ہندوستانی ۴۵۰۰ روپے دیا جائے؟ اور اگر سو ڈالر دیا جائے تو زید کے لئے مزید دو سو روپے 'کل قرض جرنفعا فہوربا' کی بنا پر سود میں داخل تو نہ ہوگا؟

المستفتی: محمد سہیل قاسمی، مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید و بکر کے درمیان معاملہ ڈالر پر ہوا ہے؛ اس لئے جس وقت بھی قرض ادا کرے گا ڈالر ہی ادا کرنا لازم ہوگا، اس کی قیمت چاہے گھٹ جائے چاہے بڑھ جائے۔ اور اگر ڈالر کی جگہ ہندوستانی روپے ادا کرے گا تو ادائے گی کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؛ لہذا پانچ ماہ کے بعد کرنسی میں جب دو سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کو دو سو روپے کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ سود نہ ہوگا۔

وكان عليه مثل ما قبض . (تنوير الأبصار مع الشامي، فصل في القرض، مطلب

في شراء المستقرض القرض من المقرض، زكريا ۷/ ۳۹۴، كراچی ۵/ ۱۶۵)

أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضا، وعليه الفتوى، كما في البزازية، والذخيرة، والخلاصة. (شامي، كتاب البيوع، باب المراجعة والتولية، فصل في القرض، زكريا ۷/ ۳۹۰، كراچی ۵/ ۱۶۳، بزازية زكريا جديد ۱/ ۳۹۹، وعلى هامش الهندية ۴/ ۵۱۰)

وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع القبض الخ وقوله: يوم وقع

القبض، أي في صورة القرض كما نبه عليه في النهي. (رسائل ابن عابدين، ثاقب

بك ڈپو دیوبند ۲/ ۶۰)

قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف.

(رسائل ابن عابدين، ثاقب بك ڈپو دیوبند ۲/ ۵۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ رجب ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۷/۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۸۲۵)

تقسیم جائیداد سے پہلے قرض کی ادائے گی کا حکم

سوال [۹۳۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مجھے ایک دوکان اپنے والد مرحوم سے وراثت میں ملی ہے، میری پہلی بیوی کی تین اولادیں ہیں، دو لڑکے ایک لڑکی، تینوں بچوں کی شادی کر چکا ہوں، بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی، جس سے چار لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں، دو لڑکوں کی شادی ہو چکی ہے، شادی شدہ چاروں لڑکے الگ ہیں، دو لڑکے اور دو لڑکیوں کی شادی کرنی باقی ہے، سب ہی اولادیں چاہتی ہیں کہ دوکان بیچ کر سب کو تقسیم کیا جائے، میرے حالات یہ ہیں کہ کمزوری کی بنا پر کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہوں، مثلاً چار بچوں کی شادی کا مسئلہ میرے سامنے ہے جس میں لڑکے تو خود کم کر اپنی شادی کر سکتے ہیں؛ لیکن لڑکیوں کی شادی کا فرض ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اخیر میں میں نے لڑکے کی شادی کی تو مجھ پر اسی ہزار روپے کا قرض ہو گیا، اس قرض کو کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے، ان حالات میں اسے بیچ کر قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جیب خرچ اور بیماری کا خرچ کہاں سے چلے ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: محمد یوسف بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ پر لازم ہے کہ تمام کاموں پر قرض خواہوں کے قرض کی ادائے گی کو مقدم رکھیں، اگر آپ دوکان بیچیں گے تو اس کے پیسہ سے پہلے قرض ادا کرنا لازم ہوگا، اس کے بعد جو بچے گا وہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کریں یا اولاد کے درمیان تقسیم کریں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمہ ۲۰۱/۳، جدید زکریا ۱۰/۲۷۰)

المالک هو المتصرف في ملكه كيف شاء. (تفسیر البیضاوی، مکتبہ

رشیدیہ، ص: ۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/رجب ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۷/۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۴۵/۳۵)

دائن کے انتقال کی صورت میں قرض کس کو دیا جائے؟

سوال [۹۳۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: صورت مسئلہ یہ ہے کہ راشد کسی شہر میں رہتا ہے، وہاں کسی ہوٹل والے کے یہاں چائے ناشتہ کیا کرتا تھا، راشد کے ذمہ تقریباً تیس روپے ہوٹل والے کے ہیں، اس دوران ہوٹل والے کا انتقال ہو گیا، ان کے لڑکوں کے بارے میں علم نہیں ہے؛ البتہ ان کے بھائی کو جانتا ہے، راشد پیسے ادا کرنا چاہتا ہے، مگر صاحب حق کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ لالہ جی ہیں، اب راشد ان تیس روپیوں کا کیا کرے؟ کیا اسی کے نام صدقہ کر دے؛ حالانکہ وہ ہندو ہے، یا اس کے بھائی کو پہنچادے یا کوئی اور راستہ خلاصی کا ہو؟

المستفتی: احسن الہدیٰ دیناج پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ مذکورہ میں ہوٹل والے کے بھائی کو جب آپ جانتے ہیں تو اس کے توسط سے ہوٹل والے کے وارث کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں؛ اس لئے وہ رقم اس کے وارثین ہی کو دینا لازم ہے۔

رجل باع اثوابا، فمات قبل استيفاء الديون، ولم يدع وارثا ظاهرا، فأخذ السلطان ديونه من الغرماء، ثم ظهر له وارث كان على الغرماء أداء الديون إلى الوارث ثانيا لأنه لما ظهر الوارث ظهر أنه لم يكن للسلطان حق الأخذ. (فتاویٰ قاضیخان، کتاب الغصب، فصل فی براءة الغاصب والمدیون، زکریا جدید ۱۷۶/۳، وعلی ہامش الہندیہ ۲۵۷/۳، ہندیہ زکریا قدیم ۱۵۸/۵، جدید ۱۸۵/۵)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۴/۴ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۷۰۶)



۲۹ / کتاب الودیعة والأمانة والضمان

امانت میں تصرف کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محی الاسلام نے اپنے بھتیجے محمد فرقان کو ۷۷۰۰ روپے بطور امانت دیئے۔ اور دیتے وقت یہ صراحت کی کہ جب حج کا موقع آئے گا تو میں آپ سے لے لوں گا اس کے بعد جب حج کا موقع آیا تو محی الاسلام نے اس رقم کا مطالبہ کیا، تو اس پر محمد فرقان نے کہا کہ میں تو وہ رقم آپ کو ادا کر چکا ہوں، اس کے بعد برابر دونوں میں نوک جھوک ہوتی رہی، تو کسی وقت محمد فرقان نے کہا کہ اچھا اس رقم سے میں نے جو نفع حاصل کیا ہے وہ موجود ہے، وہ آپ لے لیجئے، تو محی الاسلام نے کہا کہ مجھ کو تو اپنی اصل رقم چاہئے، اس کے بعد بات چیت برابر چلتی رہی، حتیٰ کہ حلف اٹھانے کی بات آئی محمد فرقان نے کہا کہ رقم ادھار میں پھنسی ہوئی ہے، جب وہاں سے وصول ہو جائے گی تو دے دوں گا یا یہ کہ میں ان کا پتہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وصول کر لیجئے، اس میں معلوم یہ کرنا ہے کہ شرعاً اس رقم کے حصول کے لئے کیا طریقہ ہے؟ اگر محمد فرقان انکار کرتا ہے، تو حلف اور قسم کس کے لئے ہے؟ شرعی مسئلہ سے آگاہ فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: محی الاسلام محلہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محی الاسلام کی امانت جو محمد فرقان کے پاس رکھی گئی ہے،

اس میں تصرف کرنا فرقان کے لئے کسی طرح جائز نہیں تھا، یہ امانت میں خیانت ہے، پھر اس کے بعد امانت طلب کرتے وقت اس کا انکار کرنا یا اس کے دینے میں ادھر ادھر ٹال مٹول کرنا حرام اور ناجائز ہے، محمد فرقان کے اوپر لازم ہے کہ فوری طور پر محی الاسلام کی امانت واپس کر دے، نیز اس امانت کا جو بھی حصہ فرقان دے رہا ہے محی الاسلام کے لئے اس کا لینا جائز ہے، اگر فرقان امانت کی ادائے گی میں لاپرواہی کرے گا یا انکار کرے گا، تو عذاب عظیم کا مستحق ہوگا، نیز جھوٹی قسم کھائے گا تو مزید اکبر الکبائر کا مرتکب ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. [النساء: ۵۸]

قال رسول الله ﷺ: من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث (بخاري شريف، كتاب التوحيد، باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة ۲/ ۱۱۰۹، رقم: ۷۱۴۵، ف: ۷۴۴۵، مسلم شريف، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينه فاجرة بالنار، النسخة الهندية ۱/ ۸۰، بيت الأفكار، رقم: ۱۳۸، أبو داؤد شريف، كتاب الايمان والنذور، باب في من حلف ليقطع بها مالا، النسخة الهندية ۲/ ۴۶۲، دار السلام، رقم: ۳۲۴۳)

عن عمران بن حصين قال: قال النبي ﷺ من حلف على يمينه مصبورة كاذبا، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. (أبو داؤد شريف، كتاب الايمان والنذور، باب التغليظ في اليمين الفاجرة، النسخة الهندية ۲/ ۴۶۲، دار السلام، رقم: ۳۲۴۲، مسلم شريف، النسخة الهندية ۱/ ۸۰، بيت الأفكار، رقم: ۱۳۸)

قال رسول الله ﷺ: الكبائر: الإشراف بالله، واليمين الغموس. (صحيح البخاري، كتاب الايمان والنذور، باب اليمين الغموس ۲/ ۹۸۷، رقم: ۶۴۱۹، ف: ۶۶۷۵) فقط واللهم سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/ ۱۵۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۴/۱۰ھ

امانت اجازت لے کر استعمال کرنے کا حکم

سوال [۹۳۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: یہ واقعہ ۱۹۸۷ء کا ایام حج کا ہے، میں مع اپنی اہلیہ فریضہ حج کو گیا تھا، مراد آباد میں میرے قبیلہ کے چچا زاد بھائی نے پانچ سو ریال اپنے حقیقی بھائی کے لئے دیئے، جو کہ بڑے ہیں اور مدینہ المنورہ میں سکونت پذیر ہیں، جب یہ امانت میرے سپرد کی تو پچاس پچاس ریال کے (عشرہ) یعنی دس نوٹ تھے پہلے تو میں گھبرایا، پھر میں نے یہ امانت لے لی اور ان سے یہ اجازت لی کہ میرے پاس سعودی کرنسی نہیں ہے، اگر اس میں سے کوئی نوٹ خرچ ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، تو جواب ملا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دیتے وقت پورے کر دینا، ہم لوگ بذریعہ ہوائی جہاز جدہ پہنچے اور زر مبادلہ کی کرنسی اپنی اہلیہ کو دے دی، امانت کی کرنسی میں نے احرام کی پیٹی کی جیب میں رکھی؛ اس لئے کہ بدلی نہ ہو جائے، اس میں ہندی کرنسی بھی تھی شام کو بوقت مغرب مکہ مکرمہ پہنچے نماز پڑھی اور نماز کے بعد رہائش کا مکان اہل قافلہ نے تلاش کیا، مل گیا اور سامان لگایا اور کھانا کھانے ہوٹل میں گئے، عشاء کا وقت قریب تھا، اس امانت میں سے پچاس ریال کا نوٹ بھنایا اور باقی ماندہ ریال احرام کی پیٹی میں رکھ لئے، نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کیا اور شب میں تہجد سے پہلے عمرہ کرنے حرم شریف گئے، عمرہ ادا کیا، بعد فجر غسل کیا، سر کے بال کٹائے اسی دوران حج کے دن قریب آگئے، حرم شریف میں بھیر ہونے لگی اسی دوران واللہ اعلم بالصواب حرم کے باہر یا اندر داخل ہوتے وقت یا نکلنے وقت میری پیٹی اور میرے ساتھی کی پیٹی کٹ گئی، ساتھی کی ڈبل پیٹی تھی، کرنسی بچ گئی، اندر کا پورا حصہ نہیں کٹا تھا، میری پوری کٹ گئی تھی، امانت اور ہندی کرنسی پوری نکل گئی، کمرہ پر آئے، پیٹی کھولی، پہلے میرے ساتھی نے کھولی پیٹی کی حالت دیکھ کر بہت گھبرائے؛ لیکن اللہ نے ان کی کرنسی محفوظ کر دی، پھر میں نے کھولی دیکھا کہ امانت کے ریال ہندی کرنسی غائب تھی، صبر کیا، ہمت

باندھی، شکر خدا کیا اور اس کے بعد ہم لوگ مدینہ پہنچے اور اپنی سعودی کرنسی پانچ سو ریال ایک نوٹ واپس کیا، ان کا بقلا حرم نبوی کے ملحق ہے، آرام گاہ اللہ کے محبوب کے قریب ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا؛ کیوں کہ ایسی جگہ جھوٹ بولنا منافق کا کام ہے، میں نے جو واقعہ نقل کیا سچ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ میں واپس نہیں لوں گا، گو کہ میری وقتی حالت کمزور ہے، میں نے اور میرے ساتھی نے اور ایک دن بیوی نے بھی جدوجہد جاری رکھی، انہوں نے جواب دیا میں امانت لوں گا نہیں، اگر ہندوستان میں واپس کرو تو مفتی کا فتویٰ لے کر واپس کرنا، دو سال سے کوشش ہے کہ امانت واپس ہو جائے؛ کیوں کہ امانت ریال کی شکل میں اسی دن سے ہے، میں ہندوستان واپس آ رہا تھا، یہ امانت واپس مدینہ جانی ہے؛ لیکن مدینہ سے خط آیا فتویٰ لے کر اس کی کاپی میرے پاس بھیجنا؛ اس لئے اس مضمون کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ جاری کیجئے، فتویٰ مدینہ جانا ہے اور مہر لگی ہو۔

المستفتی: احقر عاصی محمد بنین محلہ سرائے حسین بیگم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کی درج شدہ صورت میں پچاس ریال جو اجازت سے لے کر خرچ کیا ہے، اس کا تاوان دینا واجب ہوگا اور بقیہ امانت کا شرعاً تاوان دینا واجب نہیں۔ (مستفاد: بہشتی زیور اختری ۴۰/۵)

إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو أشياء من المكيل والموزون، فهو كما لو أودعه فأنفق أحدهما لا يكون ضامنا لآخر. (البحر الرائق، كتاب الوديعة، زكريا ۷/ ۴۷۰، كوئثه ۷/ ۲۷۷، تكمله شامي، زكريا ۱۲/ ۴۷۲، كراچی ۸/ ۳۵۴، فتاویٰ قاضی خان، جدید زكريا ۳/ ۲۶۵، وعلی هامش الھندیة، زكريا ۳/ ۳۷۲)

وان أنفق المودع بعضها، فهلك الباقي فضمن قدر ما أنفق فقط.

(الدرالمنتقى، قدیم ۲/ ۳۴۲، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۷۳، حاشیة چلبی علی

تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/ ۷۸، زکریا دیوبند ۶/ ۲۲، تاتارخانیہ زکریا ۱۶/ ۵۶،
رقم: ۲۱۷۶ (۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ ذیقعدہ ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۵۲۳/۲۵)

امانت رکھے ہوئے زیورات بلا اجازت امانت رکھنے والے بیٹے کو دینے کا حکم

سوال [۹۳۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: صورت مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ نے اپنے زیورات میری خالہ (اپنی حقیقی چھوٹی بہن) کے پاس امانت کے طور پر تقریباً سات یا آٹھ سال پہلے رکھے تھے، جن کی مالیت موجودہ وقت میں تیس لاکھ روپے ہے، دو مہینہ پہلے والدہ نے اپنے زیورات خالہ سے مانگے تو خالہ نے کہا: تمہارے کچھ زیورات چار سال پہلے اور کچھ زیورات تقریباً دو سال پہلے تمہارے چھوٹے بیٹے (جنید مسرت) کو میں نے دے دیئے اور زیورات بیٹے کو دینے کی خبر بھی خالہ نے والدہ کو بہت اصرار کے بعد دی اور میرا چھوٹا بھائی (جنید مسرت) ان زیورات کے لینے کا مقتر بھی ہے اور زیورات خالہ سے لینے کی تحریر بھی دے چکا ہے، اب پوچھنا یہ ہے کہ ان زیورات کا ضامن کون ہوگا، خالہ ہوں گی یا چھوٹا بھائی؟ کیوں کہ چھوٹا بھائی بغیر اجازت کے والدہ کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکال چکا ہے، ایسے میں والدہ بہت پریشان ہیں، شریعت کے مطابق مسئلہ کی وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ والسلام

المستفتی: زبیر مسرت مان پور اسٹریٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو زیورات آپ کی والدہ نے آپ کی خالہ کے پاس بطور امانت رکھے ہیں ان کی ادائیگی کی ذمہ دار آپ کی خالہ ہے؛ لیکن جب یہ ثابت ہو چکا

ہے کہ خالہ نے وہ زیورات آپ کے چھوٹے بھائی کو دے دیئے ہیں اور چھوٹے بھائی نے اس کے لینے کا اقرار کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے چھوٹے بھائی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ زیورات یا تو آپ کی خالہ کے واسطے سے والدہ کو ادا کرے یا براہ راست آپ کی والدہ کو دے دے۔ اور اگر آپ کی والدہ کی مرضی سے خالہ نے آپ کے چھوٹے بھائی کو دے دئے تھے تو خالہ بری الذمہ ہو چکی ہے ورنہ بری الذمہ نہیں ہے، خالہ اور آپ کے چھوٹے بھائی دونوں ان زیورات کے ذمہ دار ہیں، اگر خالہ نے چھوٹے بھائی کو یہ سمجھ کر کے دئے ہیں، تاکہ بیٹا اس امانت کو لے کر ماں تک پہنچا دے تو ایسی صورت میں ساری ذمہ داری آپ کے چھوٹے بھائی پر عائد ہوتی ہے۔

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الْأَمَانَاتِ مَرْدُودَةٌ إِلَى أَرْبَابِهَا الْأَبْرَارِ مِنَهُمْ وَالْفَجَّارِ.

(تفسیر قرطبی ۵/ ۲۵۶)

حق الأمانة أن تؤدى إلى أهلها، فالخيانة مخالفة لها. (مرقاة المفاتيح،

مکتبہ اشرفیہ دیوبند ۱/ ۱۲۶)

فإن حفظها أي المودع الوديعة بغيرهم أي بغير من في عياله فضاعت ضمن المودع أو ذلك الغير؛ لأن صاحبها لم يرض بيد غيره والأيدى تختلف في الأمانة، ولكن روي عن محمد: المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله أو دفع إلى أمين أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا يضمن، وفي النهاية: وعليه الفتوى، ثم قال: وعن هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال إلا إذا خاف المودع الحرق. (مجمع الأنهر بيروت ۳/ ۴۷۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ شعبان ۱۴۳۶ھ

(الف رجسٹر خاص)

امانت میں تصرف کرنے کے بعد ہلاکت کی صورت میں ضمان کا حکم

سوال [۹۳۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے ایک صاحب کے پاس ۲۲ ہزار روپے بطور امانت رکھے تھے، انہوں نے اس میں سے کبھی کسی کو قرض دے دیا اور کبھی خود استعمال کر لیا اور پھر میری کل رقم اکٹھا رکھ دیتے تھے، اس کے بعد پھر کل رقم کی چوری ہو گئی تو دریافت یہ کرنا ہے کہ یہ کل رقم ۲۲ ہزار روپے انہیں ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں اور مذکورہ بالا تصرف وہ میری بغیر مرضی کے کرتے تھے، تو میں اپنی پوری رقم ان سے لینے کا حق دار ہوں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امین نے چونکہ امانت میں تصرف کر لیا؛ لہذا امانت ضمانت ہو گئی، ہلاکت کی صورت میں امین کو اس کا تاوان دینا لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ قدیم ۵۲۹، جدید زکریا ۵۰۸)

وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها، أو أخذ بعضها، ثم رد عينه إلى يده حتى زال التعدى زال ما يؤدي إلى الضمان إذا لم يكن من نيته العود إليه (درمختار) وفي الشامية: حتى لو نزع ثوب الوديعه ليلا، ومن عزمه أن يلبسه نهاراً، ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان. (شامي، كتاب الإيداع، كراچی ۵/ ۶۶۹، زکریا ۸/ ۶۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/ ۲۷۷، زکریا ۷/ ۴۷۰،

مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۷۲-۴۷۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ رجب ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۷/۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۵۸۴۰)

امانت کی رقم اپنی رقم کے ساتھ مخلوط کرنے کے بعد ہلاک ہونے پر ضمان کا حکم

سوال [۹۳۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید انڈے کا تاجر ہے اور شہر میں دوسرے لوگ بھی انڈے کی تجارت کرتے ہیں، مال کی خریداری کے سلسلہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوکانداروں میں سے ایک آدمی لکھنؤ جا کر سب کا مال لے آتا ہے، اتفاق سے زید لکھنؤ مال کی خریداری کے سلسلہ میں جا رہا تھا، تین آدمیوں کا مال لانا تھا، زید کے اپنے ذاتی پیسے بیس ہزار تھے، دوسرے یعنی بکر کے بارہ ہزار پانچ سو روپیہ تھے اور خالد نے کوئی رقم نہیں دی تھی؛ لیکن ان کا مال آنا تھا، لکھنؤ پہنچ کر حادثہ یہ ہوا کہ ایک غیر معروف شخص نے تلاشی کے بہانے دس ہزار روپے کی رقم دھوکہ سے نکال لی، رقم شمار کرنے پر واقفیت ہوئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ضائع شدہ رقم آیا تینوں آدمیوں پر تقسیم ہوگی یا جن دو آدمیوں کی رقم تھی ان پر تقسیم ہوگی، یا تنہا زید ہی اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا؟

المستفتی: حاجی محمد خلیق مدرسہ شرف العلوم لکھنؤ پوکھری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر زید نے بکر کی رقم کو اپنی رقم کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے اور مخلوط کرنے کی بکر کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں پورا نقصان زید کو اٹھانا لازم ہوگا، بکر کا کوئی پیسہ نقصان کے دائرہ میں داخل نہ ہوگا۔ اور اگر بکر نے صراحت سے کہہ دیا کہ اپنی رقم کے ساتھ مخلوط کر کے لے جانا، تو ایسی صورت میں ہلاک شدہ رقم میں دونوں آدمی اپنی اپنی ملکیت کے تناسب سے شریک ہوں گے؛ لہذا بکر کی کل رقم ۱۲ ہزار ہے؛ اس لئے وہ ۵۰٪ روپے کا نقصان اٹھائے گا اور زید کی کل رقم ۲۰ ہزار روپے ہے؛ اس لئے وہ ۲۵٪ کا نقصان اٹھائے گا، اب رقم دیتے وقت کیا شکل پیش آئی تھی اس کے اعتبار سے مذکورہ طریقہ سے معاملہ سلجھالینا چاہئے۔

أو خلطها بماله بغير الإذن، حتى لا تتميز منها؛ لأنه صار مستهلكا

لہا۔ (البحر الرائق، کتاب الودیعة کوئٹہ ۷/ ۲۷۶، زکریا ۷/ ۶۹، تبیین الحقائق، إمدادیہ

ملتان ۵/ ۷۷، زکریا دیوبند ۶/ ۲۰، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۷)

وإن خلطها بإذنه كان شریکا له۔ (البحر الرائق، زکریا ۷/ ۷۰، کوئٹہ ۷/

۲۷۶، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/ ۷۸، زکریا دیوبند ۶/ ۲۱، الدر الممتقی، دارالکتب

العلمیة بیروت ۳/ ۴۷۲، تاتارخانیة، زکریا ۶/ ۱۶، ۵، رقم: ۴۱۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۴ھ

۱۴۱۴/۶/۲ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۱/۳۳۹۲)

امانت کے ساتھ حاجی کا بیگ ”بیت الخلاء“ میں رہ گیا

سوال [۹۳۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: میرے پاس ایک صاحب کے ایک ہزار ریال بطور امانت رکھے تھے، میں نے یہ امانت مع اپنے ۸۲۲ ریال بیگ میں رکھ لی، منی کی تیاری ہو رہی تھی، اسی اثناء میں پیشاب کی ضرورت سے بیت الخلاء میں داخل ہوا، وہاں کنارے پر بیگ رکھ کر قضائے حاجت کر کے باہر آ گیا، بھول سے بیگ وہاں رہ گیا، بعد میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے بہت تلاش کیا؛ لیکن کسی طرح بیگ ہاتھ نہیں آیا، وہ ساری رقم ضائع ہو گئی، اب سوال ہے کہ جن صاحب کے ایک ہزار ریال تھے، میرے اوپر شرعاً واجب الاداء ہیں یا نہیں؟ جب کہ ان کے ضائع ہونے میں میری کوئی اختیاری لاپرواہی نہیں ہے، جو بھی شرعی حکم ہو مطلع فرمائیں۔

المستفتی: ولی الدین رفعت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ امانت کے ضائع ہونے میں آپ کی طرف سے

کوئی تعدی اور لاپرواہی نہیں ہوئی ہے، جس میں آپ کے بھی ۸۲۲ ریال ضائع ہو گئے ہیں، تو اس طرح بغیر تعدی اور بغیر لاپرواہی کے امانت ہلاک ہو جانے سے شرعی طور پر تاوان

واجب نہیں ہوتا؛ اس لئے مذکورہ امانت کا تاوان شرعاً آپ پر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔
 عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: ليس
 على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
 (سنن الدارقطني، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۳۶، رقم: ۲۹۳۹)
 وهي أمانة..... فلا تضمن بالهلاك. (تنوير الأبصار على الدرالمختار،
 كتاب الإيداع، كراچی ۵/ ۶۶۴، زكريا ۸/ ۴۵۵، البحر الرائق، كوئٹہ ۷/ ۲۷۳، زكريا
 ۷/ ۶۶۵، ملتقى الأبحر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۶۷، هداية أشرفي ديوبند ۳/ ۲۷۳)
 فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۰ صفر ۱۴۱۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۱۳۹/۲)

مالک سے امانت کے چوری شدہ پیسہ کے مطالبہ کا حکم

سوال [۹۳۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: زید ایک فرم میں نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کے ٹائم میں ہی زید کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا،
 حادثہ یوں ہے کہ رمضان کے مہینے میں فرم مالکان زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لئے ایک دن مقرر
 کرتے ہیں، زید کی فرم میں بھی زکوٰۃ تقسیم کے لئے ایک دن مقرر تھا، زکوٰۃ لینے والوں کی ایک
 بہت بڑی بھیڑ فرم کے گیٹ پر تھی، زید کہیں باہر سے زکوٰۃ میں بانٹنے کے لئے اپنے مالک کے
 روپے لے کر آیا اور فرم کے گیٹ کی بھیڑ میں سے ہو کر روپے لے کر فرم کے اندر جا رہا تھا،
 روپے ایک بیگ میں رکھے تھے، زید ان روپیوں کو حفاظت سے لے جانے کے خیال میں
 اپنی جیب میں رکھے ہوئے روپے کو بھول گیا، جو کسی کی امانت زید کے پاس جیب میں رکھی
 تھی اور بھیڑ میں زید کی جیب میں سے وہ روپے بھیڑ کے لوگوں میں سے کسی نے نکال لئے
 اور بیگ کے روپے محفوظ و سلامت رہے۔ زید اس قابل نہیں ہے کہ امانت داری کی رقم واپس

کر سکے، اس صورت میں زید اپنے مالک سے چوری شدہ رقم کو مانگ رہا ہے، جس سے امانت دار کی امانت واپس کر سکے، زید نے ایک نوکری بیشہ غریب اور پردیسی ہونے کی وجہ سے اپنے مالک کے سامنے یہ مانگ رکھی ہے، زید کو پوری جانکاری تھی کہ یہی روپے زکوٰۃ میں تقسیم کئے جائیں گے جو میرے پاس ہیں، جب تک روپے گیٹ کے اندر نہیں دیئے جائیں گے یہ بھی ختم نہیں ہوگی؛ اس لئے زید بھیڑ میں سے ہو کر روپے لے کر اندر جا رہا تھا، زید کے پاس اپنے مالک کے کافی روپے ہونے کی وجہ سے اپنی جیب میں رکھے ہوئے روپے کا قطعی دھیان نہ رہا، اگر مالک کے روپے زید کے پاس نہیں ہوتے تو زید بھیڑ میں نہیں گھستا اور جب بھیڑ میں نہیں گھستا تو زید کی جیب سے روپے نہیں چوری ہوتے، اپنے مالک کی امانت کا پورا خیال رکھا، زید کا مالک اگر زید کو چوری شدہ روپے نہیں دے گا، تو زید کافی دنوں تک قرض دار رہے گا، اس صورت میں زید کیا کرے؟

المستفتی: محمد اختر عید گاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں دو قسم کے روپیوں کا ذکر کیا گیا ہے:

- (۱) کارو پیہ شخص مذکور کے پاس کسی آدمی کی امانت ہے۔
- (۲) کا پیہ شخص مذکور کے پاس اس کے مالک کے ہیں۔ اور مالک کا پیہ بحفاظت لاتے ہوئے اس کے پاس سے امانت کے پیسے جیب سے چوری ہو گئے، تو ایسی صورت میں مالک کا اس امانت کے پیسے سے کوئی تعلق نہیں، مالک کے پیسے کی حفاظت بہر صورت اس شخص پر لازم تھی اور امانت کے پیسے کی حفاظت بھی اس کے اوپر لازم تھی، یہ دونوں ذمہ داریاں اس کے اوپر شرعی طور پر پہلے ہی سے لازم تھیں؛ لہذا مالک کے پیسے کی حفاظت کی وجہ سے دوسری امانت کا چوری شدہ پیسہ کے مطالبہ کا مالک سے حق نہیں ہے، ہاں یہ بات الگ ہے کہ مالک اپنی مرضی سے چاہے ملازم کی امداد کرے یا نہ کرے، وہ اس کے اختیار کی بات ہے۔

إذا سرقت الودیعة من دار المودع، وباب الدار مفتوح والمودع

غائب عن الدار، قال محمد بن سلمة رحمه الله: كان ضامنا . (تاتارخانية، زكريا ۱۶ / ۱۹، رقم: ۲۴۰۳۰، هندية، كتاب الودیعة، الباب الرابع، زكريا قديم ۴ / ۳۴۴، جدید ۴ / ۳۵۷)

وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله ويشترط أن يكون من في عياله أمينا؛ لأنه لو دفع إلى زوجته وهي غير أمينة، وهو عالم بذلك أو تركها في بيته الذي فيه ودائع الناس، وذهب فضاقت ضمن . (البحر الرائق، زكريا ۷ / ۴۶۵، كوثه ۷ / ۲۷۴، مجمع الأنهر قديم ۲ / ۳۳۹، جدید دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۴۶۹، شامي، زكريا ۸ / ۴۵۶، كراچی ۵ / ۶۶۴)

ورد في بعض الروايات: أن عمر[ؓ] سأل أنسا هل ذهب لك معها شيء؟ قال: لا فضمنه كأنه رأى أن أنسا لم يحفظ الودیعة كما حفظ متاعه . (أحكام القرآن للتهانوي ۲ / ۲۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۰/۱۱/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ذیقعدہ ۱۴۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۲۱)

ادارے کا تجارت کے لئے روپے دینے پر نقصان کی صورت میں ضمان کا مسئلہ

سوال [۹۳۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: امداد باہمی ادارے سے تجارت کے لئے ایک شخص کو روپے دئے اور اس میں اس شخص کو نقصان ہو جاتا ہے، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا، تجارت کرنے والا یا باہمی امداد ادارہ؟

المستفتی: مولوی محمد الطاف، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امداد باہمی ادارے کے روپے اس شخص کے ذمہ امانت ہیں، جو اس کا ذمہ دار ہے؛ لہذا اس سے خود تجارت کرنا یا تجارت کے لئے کسی کو دینا درست

نہیں، اگر خود تجارت کی یا تجارت کے لئے کسی کو دیا، پھر نقصان ہو گیا تو اس نقصان کا ضمان مذکورہ امداد باہمی ادارے کے ذمہ دار پر ہوگا، اس شخص پر نہ ہوگا جس کو تجارت کے لئے رقم دی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۲۸۹، جدید ڈاہیل ۱۵/۵۰۱)

الودیعة لا تؤدع، ولا تعار، ولا تؤاجر، ولا ترهن، وإن فعل شیئاً منها ضمن. (ہندیہ، کتاب الودیعة، الباب الأول، زکریا قدیم ۴/۳۳۸، جدید ۴/۳۴۹، کذا فی خلاصۃ الفتاویٰ، کتاب العاریة، الفصل الأول، أشرفیہ دیوبند ۴/۲۹۱، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۲۷۵، زکریا ۷/۶۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۵/۲۶ھ

۱۴۲۰/۵/۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۱۷۲/۳۳)

دوران سفر امانت کی رقم چوری ہونے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عمران نے اپنے دوست مہربان کو ایک ہزار روپے دئے کہ یہ روپے آپ میرے گھر میرے والد محترم کو دے دیں گے، مہربان کے ایام سفر میں تمام ساز و سامان اور نقدی ذاتی اور دیگر دوست کی سب کچھ چوری کی نظر ہوگئی، کوئی شرط بھی نہیں ہے، عمران کا دعویٰ ہے کہ آپ کے اوپر میرا ہزار روپیہ لازمی بنتا ہے، آپ کو یہ رقم دینی ہوگی۔

المستفتی: مظہر الحق رحمت نگر کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دوران سفر مہربان نے نقدی روپے وغیرہ ساز و سامان کی حفاظت میں غفلت اور لا پرواہی برتی ہے کہ اس کی غفلت اور لا پرواہی سے فائدہ اٹھا کر چور نے چوری کر لی ہے، تو عمران کے ہزار روپے مہربان کے اوپر لازم ہوں گے، نیز اگر عمران نے مہربان کو بطور ضمانت یہ روپے پہنچانے کے لئے دئے ہیں، تو ایسی صورت میں

حفاظت کے باوجود اگر چوری ہو گئے تب بھی مہربان کے اوپر عمران کے ہزار روپے ادا کرنا لازم ہوگا، ہاں البتہ اگر بطور ضمانت نہیں دیا ہے بلکہ امانت کے طور پر دیا ہے اور پورے سفر میں چوکسی اور حفاظت کے باوجود چوری ہو گئے ہیں، جو مہربان کے ایمان دارانہ بیان سے معلوم ہو سکتا ہے، تب ہزار روپے کی ادائے گی مہربان پر لازم نہ ہوگی۔ اور اگر بطور امانت ہی دیا ہے؛ لیکن مہربان نے یہ سوچ کر کے اسی میں سے کچھ رقم راستہ میں خرچ کر لی ہے کہ دوسرا پیسہ ہم اپنی طرف سے دے کر پورا کر دیں گے اور راستہ بھر میں کوئی غفلت لا پرواہی نہیں برتی گئی اور چوری ہو گئے، تو ایسی صورت میں بھی مہربان کے اوپر ہزار روپے کی ادائے گی لازم ہے؛ اس لئے کہ وہ امانت ضمانت بن گئی ہے۔

الوديعة أمانة في يد المودع، فإذا هلكت بلا تعد منه، وبدون صنعه
وتقصيره في الحفظ لا يضمن. (شرح المحلة رستم باز مکتبہ اتحاد دیوبند
۱ / ۴۳۱، رقم المادة: ۷۷۷)

الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها؛ لأن بالناس
حاجة إلى الاستيداع، فلو ضمنها يمتنع الناس عن قبول الودائع، فتعطل
مصالحهم. (هداية مع الفتح، كتاب الوديعة، زكريا ديوبند ۸ / ۵۰۸، كوئٹہ ۷ / ۴۵۱،
۴۵۲، دارالفكر بيروت ۸ / ۴۸۵، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۴۶۸)

وإذا تعدى عليها، فلبس ثوبها، أو ركب دابتها، أو أخذ بعضها، ثم
رد عينه إلى يده حتى زال التعدي، زال ما يؤدي إلى الضمان، إذا لم يكن
من نية العود إليه. (درمختار) وفي الشامية: حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلاً،
ومن عزمه أن يلبسه نهاراً، ثم سرق ليلاً لا يبرأ عن الضمان. (شامي، كراچی
۵ / ۶۶۹، زكريا ۸ / ۴۶۴، البحر الرائق، كوئٹہ ۷ / ۲۷۷، زكريا ۷ / ۴۷۰، مجمع الأنهر،
دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۴۷۲-۴۷۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸ / ۹۲۱۵)

امانت کی رقم چوری ہوگئی تو کیا حکم ہے؟

سوال [۹۳۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے اپنے کسی معتبر شخص کے پاس کچھ رقم بطور امانت رکھ دی، اتفاق سے جس کے پاس رقم رکھی گئی وہ کسی حادثہ کا شکار ہو گیا، مثلاً کوئی اس سے بیگ چھین لے گیا یا گھر میں رکھی رقم چوری ہوگئی، واقعی ایسا ہو گیا تو شرعی اعتبار سے اس کو کسی بھی حال میں رقم واپس کرنی ہوگی، جب کہ یہ صاحب استطاعت بھی نہیں ہے؟

المستفتی: قاری حسین احمد، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس معتبر شخص کے پاس بطور امانت رقم رکھی گئی ہے اور اس کی طرف سے کسی قسم کی لاپرواہی اور تعدی کے بغیر وہ رقم کسی حادثہ کی شکار ہوگئی ہے، یا گھر میں حفاظت سے رکھنے کے باوجود چوری ہوگئی، تو ایسی صورت میں وہ امانت میں خیانت کرنے والا شمار نہیں ہوگا اور نہ اس پر تاوان لازم ہوگا۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

(سنن الدارقطني، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۳۶، رقم: ۲۹۳۹)

الودیعة أمانة في يد المودع، فإذا هلكت بلا تعد منه، وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يضمن. (شرح المحلة رستم باز مكتبته اتحاد ديوبند

۱/ ۴۳۱، رقم المادة: ۷۷۷)

فلا يضمن أي لا يضمن المودع الودیعة بغير تعد بالهلاك، سواء أمكن من التحرز عنه أو لا -إلى- لقوله عليه السلام: ليس على المستودع غير المغل ضمان. (مجمع الأنهر، كتاب الودیعة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۶۶۸،

هداية، أشرفي ديوبند ۳/ ۲۷۳)

لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسلم نامی آدمی جو روپیہ لے کر بیٹھ گیا ہے وہ امانت نہیں ہے؛ بلکہ ضمانت ہے اور ضمانت کی صورت میں اگر بلا تعدی ہلاک ہو جائے تب بھی اسلم ضامن ہوگا۔

و یجب رد عین المغصوب ما لم یتغیر تغیرا فاحشا - إلی قولہ - أو یجب رد مثله إن هلك . (درمختار، کتاب الغصب، مطلب فی رد المغصوب و فیما

لو أبی المالك قبوله، زکریا ۹/۲۶۶-۲۶۷، کراچی ۶/۱۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۵ھ

۱۴۳۱/۲/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۸۸۲/۳۸)

کمرے سے بیگ چوری ہونے کا حکم

سوال [۹۳۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں ایک دینی ادارے کا مدرس ہوں، ہر سال رمضان میں چندہ کی غرض سے بمبئی جاتا ہوں اور مدرسہ کے حصے کی رقم جو حاصل ہوتی ہے زکوٰۃ، صدقات، فطرہ وغیرہ کی مدرسہ میں لا کر جمع کرتا ہوں، یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، ایک سال ایک حادثہ پیش آ گیا، وہ یہ کہ ہم اپنا بیگ جس میں چندہ کی رقم تھی اپنے کمرے میں رکھ کر معمول کے مطابق عصر کی نماز ادا کرنے مسجد میں چلے گئے، ہمارے مدرسہ کے ایک موثر استاذ بھی چندے کی حصولیابی کے لئے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی رقم میرے بیگ میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی، ہم دونوں عصر کی نماز ادا کر کے واپس ہوئے تو دیکھا کہ بیگ کے نچلے حصہ پر بلیڈ لگا ہوا ہے، اور میری چندہ کی ہوئی رقم غائب ہے اور ہمارے رفیق استاذ کی رقم چونکہ علیحدہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی، شاید چور نے میری رقم کو کل رقم سمجھا اور رفیق استاذ کی رقم محفوظ رہ گئی۔ یہ واضح رہے کہ جس جگہ ہمارا قیام تھا وہ جانا پہچانا تھا، تقریباً ہر سال وہیں قیام رہتا تھا، کبھی اس قسم کا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، بہر حال مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ چوری شدہ رقم کا

عوض میرے ذمہ لازم ہے؟ کیا وہ قرض کی طرح ہے جس کی ادائے گی میرے اوپر لازم ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مدرسہ کے پیسہ کے ساتھ بیگ کو کسی کے کمرے میں چھوڑ کر اس کمرہ میں تالا لگائے بغیر یوں ہی چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لئے چلے جانا امانت کے بارے میں لاپرواہی اور غفلت ہے؛ اس لئے اس پیسہ کا تاوان آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا، آپ کو چاہئے کہ اتنا پیسہ اپنی طرف سے مدرسہ میں داخل کر دیں۔

الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين للحفظ، وهي أمانة وللمودع أن يحفظها بنفسه. (مجمع الأنهر، كتاب الوديعة، دار الكتب العلمية بيروت ۳ / ۶۶ ۴)

وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكة. (هندية، زكريا جديد ۴ / ۳۴۹، قديم ۴ / ۳۳۸، البحر الرائق، كوثه ۷ / ۲۷۵، زكريا ۷ / ۴۶۷، درمختار كراچی ۵ / ۶۶۴، زكريا ۸ / ۴۵۵، تاتارخانية، زكريا ۱۶ / ۳، رقم: ۲۳۹۶۷)

وفي فتاوى أبي الليث المودع إذا وضع الوديعة في الدار، وخرج والباب مفتوح، فجاء سارق، ودخل الدار وسرق الوديعة، فإن لم يكن في الدار أحد، ولا في موضع يمنع المودع الحبس يضمن؛ لأن هذا تضييع. (تاتارخانية زكريا ۱۶ / ۱۹، رقم: ۲۴۰۲۹)

وذكر الفقيه أبو الليث السمرقندي في خزانة الفقه: لا ضمان على المودع إلا في ثلاثة أشياء التقصير في الحفظ. (حاشية جلیبی علی تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۵ / ۷۷، زكريا ديوبند ۶ / ۱۹)

الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان سواء هلكت بما يمكن التحرز عنه كالسرقة، أما إذا هلكت بتعدى الأمين أو تقصيره، فإنه يضمن الوديعة أمانة في الوديع، فإذا هلكت بلا تعدد منه وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يضمن، ولكن إذا كان الإيداع بأجرة، فهلكت أو ضاعت بسبب تمكن التحرز عنه لزم المستودع ضمانها. (شرح المحلة ۱/ ۳۲۶-۳۲۱، رقم: ۷۶۸-۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۴۳/۴۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۵/۱۴۳۵ھ

کیا امانت کی رقم ضائع ہونے پر تاوان لازم ہے؟

سوال [۹۳۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک کاروبار مشترک دو فریق چلاتے تھے، ایک فریق اول جس کے پاس رقم اور حساب و کتاب رہتا تھا، اس کو اچانک باہر جانا ہوا اور اس نے رقم باہر کاروبار کی دینداری کی نکالی اور بقیہ رقم عجلت کی بنا پر اہلیہ کو دی کہ سنبھال کر رکھ دینا اس نے وقتی طور پر احتیاطاً چھوٹی بچی (عمر تقریباً چار سال) کی کم استعمال ہونے والی جیکٹ کی جیب میں رکھ دی، اس کے بعد وہ قطعاً بھول گئی اور رقم جیکٹ میں رکھی رہی، بعدہ شدید سردی ہونے کی وجہ سے وہ جیکٹ پہنا کر اس کو اسکول بھیج دیا، اسکول میں وہ رقم بچروں وغیرہ کی معلومات میں بھی آگئی، انہوں نے رقم اپنے پاس نہ رکھ کر اس بچی کی جیب میں رکھ کر اس کو معمولی طور پر سی دیا، کسی طرح بات باہر معلوم ہوئی اور ایک شاطر عورت نے بچی کے رکشہ میں تھوڑا راستہ ساتھ بیٹھ کر وہ رقم اس کی جیب سے نکال لی۔

جواب طلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نقصان کا روبرو کا مانا جائے یا فریق اول کا؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: توصیف احمد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حسب تحریر سوال فریق اول کے پاس رقم رہنے کی وجہ سے وہ ساری رقم اس کی ضمانت میں آگئی ہے، اب اس کی حفاظت فریق اول کے ذمہ لازم ہے؛ لیکن سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق اس کی بیوی کی طرف سے حفاظت میں کوتاہی کی بنا پر وہ چوری ہوئی ہے؛ لہذا اس ضائع شدہ رقم کا پورا کا پورا تاوان فریق اول کو ہی دینا ہوگا۔ اور اس کا نقصان فریق اول ہی برداشت کرے گا، کاروبار میں اس نقصان کو نہیں ڈالا جائے گا؛ اس لئے کہ یہ امانت حفاظت میں نہیں رہی۔

لو انفتق زق رجل، فأخذه رجل، ثم تركه ولم يكن المالك حاضرا
يضمن؛ لأنه لما أخذه فقد التزم حفظه دلالة. (مجمع الأنهر، كتاب الودیعة، قديم
۳۳۷/۲، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۴۶۶)

سئل ابن الفضل عن دفع جواهر إلى رجل لبيعها فضاقت
الجواهر قبل أن يريها قال: إن ضاعت أو سقطت بحر كنه ضمن. (هنديّة،
الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة، زكريا جديد ۴/۳۵۴، قديم ۴/۳۴۲)

وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله؛ لأنه يحفظها بما يحفظ به ماله
..... فدخل فيهم الزوجة ويشترط أن يكون من في عياله أمينا؛ لأنه لو
دفع إلى زوجته وهي غير أمينة، وهو عالم بذلك أو تركها في بيته الذي
فيه ودائع الناس، وذهب فضاقت ضمن. (البحر الرائق، كتاب الوديعة، زكريا
۷/۴۶۵، كوثه ۷/۲۷۴، مجمع الأنهر قديم ۲/۳۳۹، جدید دارالکتب العلمیة بیروت

۳/۴۶۹، شامی، زکریا ۸/۴۵۶، کراچی ۵/۶۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ

۲۶/۱/۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۶۵)

کو تا ہی کی بنا پر امانت کے ضائع ہونے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مدرس مدرسہ ہذا اپنے پروگرام سے ہتوراجا رہے تھے، مہتمم مدرسہ نے ہتورا سے کچھ کتب خرید کر لانے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی وہ واپسی میں جب باندہ کی بس سے کانپور اترنے لگے، تو انہوں نے جلد اتر کر آگے کی بس تلاش کرنی شروع کر دی اور اپنا سامان اتارنے کی ذمہ داری (قولاً یا حالاً) اپنے رفقاء سفر کو دے دی، رفقاء سفر نے ان کا سامان تو اتار لیا، مگر کتابیں رہ گئیں اور یاد آنے پر جب بس کو تلاش کیا تو وہ بس جا چکی تھی، تو قابل امر سوال یہ ہے کہ ان کتب کی اضاعت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ رفقاء سفر یا مدرس مدرسہ یا اس کا نقصان مدرسہ برداشت کرے گا جو مسئلہ ہتوراجا کرے؟

المستفتی: مولانا محمد اسلم مظاہری دارالعلوم ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مدرس صاحب کو اجنبی جگہ میں بس میں کتابیں چھوڑ کر دوسری گاڑی کی تلاش کے لئے اترنا نہیں چاہئے تھا، پہلے کتابیں بس سے نیچے اتار کر کسی مخصوص جگہ پر رکھ کر ساتھیوں کی نگرانی میں دے کر تب دوسری بس تلاش کرنی چاہئے تھی؛ اس لئے مدرس صاحب کی طرف سے امانت کی حفاظت میں کو تا ہی ظاہر ہے؛ اس لئے ضائع شدہ کتابوں کی ذمہ داری مدرس صاحب ہی پر ہوگی اور نقصان کی تلافی انہیں کو کرنی چاہئے۔

كما استفيد من عبارة الهداية: ومن أودع رجلا وديعة، فأودعها آخر، فهلك، فله أن يضمّن الأول، وليس له أن يضمّن الآخر. (هداية، كتاب السودية، أشرفي ديو بند ۳/ ۲۷۷، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جديد دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۷۵، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۵/ ۸۱، زكريا ديو بند ۶/ ۲۸، فتاویٰ بزازیه، جدید زكريا ۳/ ۱۰۲، وعلی هامش الهندية زكريا ۶/ ۲۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۳/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/ ۱۸۷۷)

امانت کو ضائع کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مشتاق علی صاحب نے وفات کے وقت ایک جائیداد چھوڑی اور ان کے دو لڑکے: عالم علی اور مظہر علی ہیں، تین لڑکیاں: رابعہ خاتون، زبیدہ خاتون، نعیمہ خاتون ہیں۔ اس کے بعد وہ جائیداد فروخت ہوگئی، دونوں بھائیوں کو نوے نوے ہزار روپے ملے اور تینوں بہنوں کو پینتالیس پینتالیس ہزار روپے ملے۔ عالم علی صاحب نے بہن زبیدہ کے حصہ میں جو ۲۵ ہزار روپے آئے تھے، وہ بطور امانت اپنی بیوی رابعہ خاتون کے پاس رکھ دئے اور رابعہ خاتون کے نام سے دو عورتیں ہیں، عالم علی کی بیوی اور عالم علی کی بہن، تو عالم علی نے زبیدہ کا حصہ اپنی بیوی رابعہ کے پاس بطور امانت رکھا، اور رابعہ خاتون نے اس پیسہ کو لے کر بجائے اپنے پاس رکھنے کے اپنی چھوٹی نند زبیدہ کی چھوٹی بہن نعیمہ کے پاس رکھ دیا اور یہ سوچ کر رکھا تھا کہ اس کے پاس زیادہ محفوظ رہے گا۔ اور یہ پیسہ اس طرح بطور امانت رکھنے کی اس لئے ضرورت پڑی کہ زبیدہ خاتون غیر ملک میں رہتی ہے؛ اس لئے زبیدہ تک پہنچانے میں تاخیر ہوئی اور نعیمہ خاتون نے یہ حرکت کی کہ اس امانت کو بطور حفاظت رکھنے کے بجائے اس میں سے چالیس ہزار روپے اپنے بھتیجے محمد ظریف اور محمد یاسین کو جو کہ مظہر علی کے بیٹے ہیں، اپنی ضرورت کے لئے دے دئے، تو اب اس امانت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ نعیمہ خاتون کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ اور اس وقت نعیمہ خاتون بستر مرگ پر ہے، اگر نعیمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو امانت کا پیسہ جو بھتیجوں کے ہاتھ میں ہے ضائع ہو جائے گا اور نعیمہ خاتون بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہے اور پھر دوسری طرف یہ بات پیش آئی کہ عالم علی اور مظہر علی کی ایک مشترکہ جائیداد تھی، جس میں دونوں بھائی برابر کے شریک تھے، اس مشترکہ جائیداد کی فروختگی کے نتیجے میں ایک لاکھ روپے آئے اور وہ پیسہ عالم علی کی بیوی کے پاس رکھا گیا، جس میں مظہر علی کے بیٹے ظریف اور یاسین کے چچا ۲۵ ہزار روپے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زبیدہ

کا پیسہ جو نعیمہ سے مظہر علی کے بیٹے ظریف اور یاسین نے ۲۵ ہزار امانت میں سے چالیس ہزار لے لئے تھے، اب دونوں بھائی ظریف اور یاسین کے ایک لاکھ روپے میں سے پچاس ہزار روپے بنتے ہیں، اس میں سے رابعہ خاتون مجری کر کے زبیدہ خاتون کی امانت کو محفوظ کرنے کے لئے چالیس ہزار روپے روک سکتی ہے یا نہیں؟ شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: ریحان علی لائٹری والان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عالم علی صاحب کی زوجہ رابعہ خاتون نے بغرض حفاظت ۲۵ ہزار روپے امانت کے طور پر اپنی چھوٹی نند نعیمہ خاتون کے پاس رکھے، تو نعیمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس امانت کو حفاظت سے رکھتی اور کسی کے حوالہ نہ کرتی؛ لیکن نعیمہ نے ایسا نہیں کیا؛ بلکہ اپنے بھتیجوں ظریف اور یاسین کو ان کی ضرورت کے لئے دے دیا، تو یہ نعیمہ کی طرف سے خیانت ہوئی، اب جب کہ نعیمہ بستر مرگ پر ہے اور بات چیت بھی نہیں کر سکتی اور اس کے بھتیجے ظریف اور یاسین یہ پیسہ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو رابعہ خاتون کے پاس ان کے پچاس ہزار روپے میں سے چالیس ہزار روپے زبیدہ کے لئے اس روپے کے عوض روک لینا جائز ہے، جو روپے بذریعہ نعیمہ ظریف اور یاسین کو پہنچے ہیں اور وہ نہیں دے رہے ہیں اور یہ چالیس ہزار روپے اصل حق دار زبیدہ تک پہنچانا ذمہ داروں پر لازم ہے اور بقیہ دس ہزار روپے ظریف اور یاسین کو دے دئے جائیں۔

ولو أودع المودع، فهلك ضمن الأول فقط، وعندهما ضمن أيا شاء، فإن ضمن الثاني رجع على الأول لا بالعكس. وفي مجمع الأنهر: ضمن أيا شاء، أي يخير المالك في التضمنين؛ لأن الأول خائن بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك، والثاني متعد بغير إذنه. (مجمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، كتاب الوديعة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۷۵، هداية مع الفتح، دارالفكر بيروت ۸/ ۴۹۵، زكريا ۸/ ۵۱۸، كوئنه ۷/ ۴۶۱، تبين الحقائق، زكريا ديوبند

۶ / ۲۸، إمدادیہ ملتان ۵ / ۸۱، فتاویٰ بزازیہ، جدید زکریا ۳ / ۱۰۲، علی ہامش الہندیہ،

زکریا ۶ / ۲۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ / ۱۱ / ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶ / ۷۷۵۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ / ۱۱ / ۱۴۲۳ھ

بلا تعدی امانت کے ضائع ہونے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک معمر بوڑھی خاتون نے بندہ کی اہلیہ صاحبہ کے پاس اپنی کچھ چیزیں بطور امانت رکھی تھیں، جو کئی سال سے ان کے پاس محفوظ رکھی رہیں، اس دوران میں کہ وہ ان چیزوں کو کبھی لے گئی اور کبھی پھر رکھ گئی اور میرے علم میں بھی تھا کہ فلاں بڑی بی خاتون کی کچھ چیزیں میری اہلیہ صاحبہ کے پاس امانت رکھیں ہیں؛ چونکہ ان بڑی بی خاتون کا میری اہلیہ کے پاس آنا جانا تھا، علاوہ ازیں ایک بار میری اہلیہ صاحبہ نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ فلاں کی کچھ چیزیں میرے پاس امانت رکھیں ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس خاتون نے میری اہلیہ صاحبہ سے اپنی چیزوں کو طلب کیا اور دیکھا، پھر کہا ابھی رکھ لو پھر لے جاؤں گی، چنانچہ انہوں نے پھر ان چیزوں کو بدست خود اپنے صندوق میں بحفاظت رکھ دیا تھا اور مجھ سے بھی بتا دیا کہ فلاں کی چیزیں یہاں صندوق میں رکھ رہی ہوں، اس کے چند روز بعد پھر ان کی علالت میں شدت پیدا ہو گئی چونکہ وہ کئی سال سے ایک مرض مہلک میں مبتلا تھیں، غرض دونوں کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے انتقال سے قبل اپنی حالت ہوش میں ضروری امور کے متعلق اور جوان کے اوپر کسی کا مطالبہ دین وغیرہ تھا اس کے متعلق ہمیں وصیت اور تاکید کی؛ لیکن ان چیزوں کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ وہ ہمیں یاد آئیں ان کے انتقال کے بعد ایک روز ان چیزوں کا خیال آیا کہ شاید وہ لے گئی ہوں گی، اس وقت وہ بڑی بی خاتون باہر گئی ہوئی تھیں، ان کے انتقال کے ڈیڑھ دو مہینے کے

بعد وہ آئیں، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم چیز لے گئی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ان ہی کے پاس تھیں، میں نے اس وقت بھی صندوق کھول کر نہیں دیکھا اور ان سے کہہ دیا کہ اچھا تو لے جانا، اس خیال سے کہ جب وہ نہیں لے گئی ہیں تو وہ صندوق میں محفوظ ہی ہیں، چند روز کے بعد وہ اپنی چیزیں لینے آئیں تو میں نے بغیر کسی تامل کے صندوق کھول کر دیکھا، تو اس میں وہ چیزیں نہیں ملیں، تمام گھر میں صندوق بکسوں میں تلاش کیا؛ لیکن کوئی سراغ ان کا نہیں ملا اور میں حیران ہو گیا کہ بڑی بی چیزیں نہیں لے گئیں تو اسمیں سے گئی کہاں، اگرچہ سرقہ بھی ممکن ہے؛ لیکن مشکل ہے؛ کیوں کہ دو صندوق ایک مکان ہی کے اندر دوسرے مکان میں محفوظ ہیں، بہر حال وہ چیزیں ضائع اور غائب ہو گئیں اور میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو بڑی بی لے گئیں یا نہیں؛ اس لئے آنجناب مندرجہ بالا بیان پر غور فرما کر اور مندرجہ ذیل امور پر بھی نظر فرما کر خدا و رسول کا جو فیصلہ ہو تحریر فرمائیں آپ کا عین کرم ہوگا:

(۱) میری اہلیہ مرحومہ نے ان چیزوں کی بقدر امکان حفاظت فرمائی اور سب کو معلوم ہے کہ وہ دیانت دار تھیں۔

(۲) میری اہلیہ مرحومہ نے میرے سپرد اور حوالہ نہیں کیا اور نہ ہی بڑی بی خاتون نے میرے حوالہ اور سپرد کیا؛ البتہ میری اہلیہ ان کو میرے علم میں لے آئی تھیں۔

(۳) نیز ان چیزوں کو نہ ہی میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، اور کتنی ہیں اور کیسی ہیں؟ میرا تعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں رہا کہ فلاں کی چیزیں میری اہلیہ کے پاس رکھی ہیں۔

(۴) نیز خدا کو حاضر و ناظر جان کر تکلف اقرار و عہد کرتا ہوں کہ واللہ باللہ مجھے اس بڑی بی خاتون کی چیزوں کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے اور نہ میرے پاس ہیں، اگر میں خائن یا سارق ہوں، تو اللہ کے یہاں دین دار ہوں گا۔

(۵) ان جملہ امور کی وضاحت کے بعد اگر میں ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں اور اس کا تاوان میرے ذمہ واجب ہے، تو میں حتی الامکان اس کو ادا کروں گا اور خدا کے یہاں اس کا دار خواہ ہوں گا؛ اس لئے عرض خدمت ہے کہ اس مسئلہ میں خدا اور رسول کا جو حکم

اور فیصلہ ہو اس کو بغیر خوف لومۃ لائم بیان فرمادیں۔ بینوا بالصواب توجروا یوم الحساب۔ فقط والسلام

المستفتی: قاری ضمیر احمد قاسمی مدرسہ تجوید القرآن کی مسجد قدوائی نگر، شہر میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کے درج شدہ حالات میں شرعاً آپ کی اہلیہ کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہے، اگر انہوں نے ادا کر دیا ہے، نیز آپ نے بھی مذکورہ بیان کے اعتبار سے مذکورہ چیزوں میں کوئی تعدی نہیں کی ہے، اگر واقعی خاتون مالکہ اپنی چیزیں نہیں لگئی ہیں۔ اور آپ نے اس میں کوئی تعدی بھی نہیں کی ہے، تو شرعاً آپ دین دار نہیں ہیں، آپ پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

ومنها: إذا ضاعت في يد المودع بغير صنعه لا يضمن لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المستعير غير المغل الضمان، ولا على المستودع غير المغل الضمان. (بدائع الصنائع، كتاب الودیعة قبیل فصل وأما بیان ما یغیر حال المعقود علیہ من الأمانة إلى الضمان، کراچی ۶/ ۲۱۱، زکریا دیوبند ۵/ ۳۱۴، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳/ ۲۷۳)

الودیعة أمانة في يد المودع، فإذا هلكت بلا تعد منه، وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يضمن. (شرح المجلة رستم باز مکتبہ اتحاد دیوبند ۱/ ۴۳۱، رقم المادة: ۷۷۷)

وإن سرت الودیعة عند المودع ولم يسرق معها مال آخر للمودع لا يضمن عندنا. (فتاویٰ عالمگیری، الباب الرابع: فيما يكون تضييعاً للودیعة وما لا يكون زکریا، قدیم ۴/ ۳۴۶، جدید ۴/ ۳۵۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۰۴/۲۴)

بلا تعدی امانت کی رقم ضائع ہونے کا شرعی حکم

سوال [۹۳۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے ایک لڑکے کو روپے دئے تھے، وہ لڑکا دیوبند جا رہا تھا اور روپے دئے تھے، کتاب خرید کر لانے کے لئے، اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جو روپے تم نے دئے تھے وہ روپے جیب کٹنے کی وجہ سے چوری ہو گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا روپیہ اپنی جیب ہی میں رہ گیا، اس صورت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ فقط والسلام

المستفتی: عزیز الرحمن جامعہ اشرفیہ وصیۃ العلوم ٹائڈ ہادلی، ضلع رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں جس لڑکے کو دیوبند سے کتاب خرید کر لانے کے لئے وکیل بنا کر روپے دئے گئے ہیں، شرعاً وہ روپے امانت ہیں، اگر بلا تعدی چوری ہو جائیں اور واقعی جیب کٹ کر روپے نکل جانا ثابت ہو جائے تو وکیل کے اوپر مذکورہ روپے کا تاوان لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کذب ثابت ہو جائے یا تعدی و غفلت ثابت ہو جائے گی تو تاوان لازم ہوگا، نیز تعدی نہ کرنے کی صورت میں اگرچہ وکیل کا روپے چوری نہ ہوتے ہوئے صرف موکل کا روپیہ چوری ہو گیا ہے تب بھی تاوان لازم نہ ہوگا، جب کہ حلفیہ بیان دیا ہو۔

إذا وکله بشرء شیء و دفع الثمن إلیه، فهلک فی یده، قال فی البزازیة، و فی جامع الفصولین: دفع إلیه ألفا لیشتري به فاشتری، و قبل أن ینقده للبائع هلک فمن مال الأمر. (البحر الرائق، کتاب الوکالة، باب الوکالة بالبائع والشراء، زکریا ۷/۲۶۴، کوئٹہ ۷/۱۵۶، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/۱۵۸)

وہی آی الودیعة امانة - إلی قوله - فلا یضمن آی لا یضمن المودع الودیعة بغیر تعدد بالہلاک، سواء أمکن التحرز عنه أو لا هلک معها

للمودع شيء أو لا لقوله عليه السلام: ليس على المستودع غير المغل ضمان. (مجمع الأنهر، كتاب الودیعة قديم ۲/ ۳۳۸، جديد دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۶۷-۴۶۸، البحر الرائق، كونه ۷/ ۲۵۷، زكريا ديوبند ۷/ ۴۶۵، الجوهرة النيرة، إمدايه ملتان ۲/ ۳۵، دارالكتاب ديوبند ۲/ ۳۵)

المودع إذا قال: ذهبت الودیعة من منزلي ولم ينهب من مالي شيئا يقبل قوله مع يمينه. (الجوهرة النيرة، قبيل كتاب العارية، إمدايه ملتان ۲/ ۴۰، دارالكتاب ديوبند ۲/ ۳۹، هندية الباب التاسع، زكريا قديم ۴/ ۳۵۷، جديد ۴/ ۳۷۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۳۰/۲۵)

الجواب صحیح:
محمد راشد عفی اللہ عنہ متعلم شعبہ افتاء
۱۹ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

ناظم مدرسہ کے پاس رکھی ہوئی امانت چوری ہو جائے تو کون ضامن ہوگا؟

سوال [۹۳۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک دینی مدرسہ میں مدرس ہے اور ساتھ ساتھ مدرسہ کا محاسب اور ناظم تعمیرات بھی ہے، مہتمم مدرسہ نے زید کو بسلسلہ تعمیر کچھ رقم مدرسہ سے پیشگی کام کرانے کے لئے دی، نیز محاسب ہونے کی وجہ سے دو مدرس کی تنخواہ ان لوگوں کے عدم موجودگی کی بنا پر دی کہ کل ان لوگوں کے آجانے پر دے دیں۔ امر اتفاق اسی رات میں ایک مزدور جو ہفتہ عشرہ سے کام کر رہا تھا اور مدرسہ میں مقیم تھا، زید کے کمرے سے ڈیکس کا تالا توڑ کر مبلغ: -/800 روپے نکال کر فرار ہو گیا، اس مزدور کا کوئی پتہ نہیں، صرف اس نے بہار کا رہنے والا بتلایا تھا، ایسی صورت میں اس گم شدہ امانت کا تاوان زید کے ذمہ ہے یا مدرسہ کے؟ امید ہے کہ وضاحت کے ساتھ جواب باصواب سے مرحمت فرمائیں گے۔

المستفتی: محمد یونس الاعظمی خادم مدرسہ دارالرشاد دہلی، بارہ بنکی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ حالات میں زید شرعاً مہتمم مدرسہ کی طرف سے وکیل ہے اور جو رقم مہتمم مدرسہ نے زید کو حق دار کو دینے کے لئے دی ہے وہ شرعاً امانت ہے۔ اور سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ زید کی طرف سے بلا کسی تعدی کے مذکورہ رقم چوری ہو گئی ہے؛ اس لئے زید پر اس رقم کا تاوان واجب نہیں ہوگا؛ لہذا مدرسہ ہی کو نقصان برداشت کرنا ہوگا اور جن مدرسین کو تنخواہ نہیں ملی ہے، دوبارہ ان کو تنخواہ دینا لازم ہوگا۔

وهي أي الوديعة أمانة - إلى قوله - فلا يضمن أي لا يضمن المودع الوديعة بغير تعد بالهلاك، سواء أمكن التحرز عنه أو لا هلك معها للمودع شيء أو لا لقوله عليه السلام: ليس على المستودع غير المغل ضمان. (مجمع الأنهر، كتاب الوديعة قديم ۲ / ۳۳۸، جديد دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۴۶۷ - ۴۶۸، البحر الرائق، كوئته ۷ / ۲۵۷، زكريا ديوبند ۷ / ۴۶۵، الجوهرة النيرة، إمداديه ملتان ۲ / ۳۵، دارالكتاب ديوبند ۲ / ۳۵)

إذا دفع إلى إنسان ألف درهم، فأمره أن يشتري بها جارية، فاشتري، ثم هلك الثمن قبل أن ينقد للبائع هلك من مال الأمر. (خلاصة الفتاوى، الفصل الخامس في الوكالة بالشراء، أشرفيه ديوبند ۴ / ۱۵۸، البحر الرائق، زكريا ۷ / ۲۶۴، كوئته ۷ / ۱۵۶) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ / رجب ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۴۲/۲۵)

عاریت پر لی گئی سائیکل گم ہو جائے تو ضامن کون؟

سوال [۹۳۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے خالد کو تقریباً اربے عاریت پر اپنی سائیکل دی، خالد ساڑھے گیارہ بجے زید کو

گیٹ پر سائیکل واپس کر رہا تھا، تو زید نے کہا کہ مدرسہ کے اندر جہاں پر سائیکل کھڑی تھی وہیں پر کھڑی کر دیجئے، زید اتنا کہہ کر چلا گیا، تو خالد نے سائیکل جہاں پر کھڑی تھی وہیں پر کھڑی کر دی اور اس کی چابی اپنے پاس رکھی، زید بازار سے تقریباً ڈھائی بجے مدرسہ واپس آیا تو خالد نے زید کو سائیکل کی چابی واپس کر دی، اب زید نے اپنی سائیکل رات کے نو بجے گم پائی، سائیکل کے گم ہونے پر زید نے خالد سے اس کا تاوان طلب کیا، تو آیا ایسی صورت میں سائیکل کے گم ہونے پر خالد اس کا تاوان دے گا یا نہیں؟

المستفتی: محمد راشد بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید نے خالد سے جس جگہ سائیکل کھڑی کرنے کے لئے کہا، خالد نے اسی جگہ کھڑی کر دی اور سائیکل کھڑی ہونے کی جگہ بھی وہیں تھی اور حفاظت کے ساتھ تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھی؛ چونکہ زید اس وقت مدرسہ میں نہیں تھا؛ اس لئے واپس نہ کر سکا اور اس کے واپس آتے ہی چابی اس کے حوالہ کر دی، تو اب خالد بری الذمہ ہے، بعد میں شئی کے گم ہونے پر خالد کسی بھی قسم کا ضامن نہیں ہوگا۔

وإذا رد المستعير الدابة إلى أصطبل ربها، أو العبد والثوب إلى دار مالک برئ عن الضمان إذا هلك الدابة أو هلك العبد والثوب استحساناً. (مجمع الأنهر، کتاب العارية، قديم ۲ / ۳۵۱، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۳ / ۴۸۶)

وفي البدائع أو ردھا بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه لا يضمن استحساناً. (بدائع زكريا ۵ / ۳۲۴، وكذا في الهندية، الباب السادس في رد العارية، زكريا قديم ۴ / ۳۶۹، جدید ۴ / ۳۸۹)

وَأما ما سوى ذلك من الأشياء، فيكفي إيصاله المحل الذي يعد التسليم فيه تسليماً في العرف والعادة - إلى - مثلاً الدابة المعارة يتم

تسلیمہا بإیصالہا إلی أصطلب المعیر، أو تسلیمہا إلی سائسہ حتی لو
 هلك بعد ذلك لا یضمن استحسنانا. (شرح المجملہ رستم باز، اتحاد دیوبند
 ۱/ ۴۵۹، رقم المادة: ۸۲۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/۱۱/۱۳۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۶۲۸۵)

ملازم سے سائیکل چوری ہوگئی، تو کیا حکم ہے

سوال [۹۳۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: دوکان کے ایک ملازم کو دوکاندار نے ایک سائیکل دی تھی کام کرنے کے لئے اور اس
 ملازم نے ایک مسجد میں سائیکل کھڑی کر دی اور سائیکل چوری ہوگئی، تو کیا ملازم سے تاوان
 لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد جان مدرسہ فلاح دارین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ملازم نے سائیکل کھڑی کرنے میں کوئی لاپرواہی نہیں کی
 ہے، عام لوگ جس طرح اپنی سائیکل رکھا کرتے ہیں اسی طرح سے اس نے مسجد میں با
 حفاظت کھڑی کر دی ہے اور اس سے چوری ہوگئی، تو ایسی حالت میں ملازم پر تاوان ادا کرنا
 لازم نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس نے امانت کی حفاظت میں لاپرواہی نہیں کی ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: ليس

على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

(سنن الدارقطني، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۳۶، رقم: ۲۹۳۰)

والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن. (هداية، كتاب العارية،

أشرفی دیوبند ۳/ ۲۷۹)

ولو هلكت العارية بلا تعد من المستعير فلا ضمان. (مجمع الأنهر،

دارالکتب العلمیة بیروت ۳ / ۴۸۱-۴۸۲، تاتارخانیة، زکریا ۱۶ / ۷۷، رقم: ۲۴۲۵۱)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳ھ / ۲۱۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ صفر المظفر ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۲۲ / ۲۸)

کھیت میں لگائی گئی آگ دوسرے کے کھیت کو جلا دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۹۳۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے اپنے گنے کے کھیت کی صفائی کے لئے آگ لگائی؛ لیکن ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ بغل والے گنے کے کھیت میں لگ گئی، آیا اس صورت میں آگ جلانے والے سے کوئی ضمان لینا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرحمن ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آگ لگاتے وقت ہوا تیز نہیں تھی، تو کوئی تاوان نہیں؛ لیکن اگر جس وقت آگ لگائی جا رہی تھی اس وقت ہوا تیز تھی اس کے باوجود آگ لگائی ہے، تو آگ جلانے والے پر گنے کا ضمان ادا کرنا لازم ہوگا۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: النار جبار. (سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في النار تعدى، النسخة الهندية

۲ / ۶۳۱، دار السلام، رقم: ۴۵۹۴، سنن ابن ماجه، أبواب الديات، باب الجبار، النسخة

الهندية ۸ / ۱۹۲، دار السلام، رقم: ۲۶۷۶)

لو أحرق حشيشا لا يكون ضامنا، قيل: إذا كانت الريح ساكنة حين

أوقد النار، فأما إذا كان اليوم ريحا يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى أرض

جارہ کان ضامننا استحسنانا. (ہندیہ، کتاب الحنایات الباب الحادی عشر فی جنایۃ الحائط والحناح، والکنیف وغیرہا، زکریا قدیم ۶/ ۴۷، جدید ۶/ ۵۷، فتاویٰ قاضی خان جدید زکریا ۳/ ۳۳۷، وعلی ہامش الہندیہ زکریا ۳/ ۴۶۰، تاتارخانیہ، زکریا ۱۹/ ۲۹۶، رقم: ۳۱۵۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/۲۳/۱۹۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۰۷۷)

موچی کے پاس سے چپل گم ہوگئی تو کیا حکم ہے؟

سوال [۹۳۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے موچی کو اپنی چپل صحیح کرنے کے لئے دی اور چپل اس روز صحیح نہ ہو سکی، دوسرے دن جس کے چپل تھے وہ باہر چلا گیا، باہر سے جب بارہ تیرہ دن میں واپس آیا تو موچی سے چپل والے نے پوچھا کہ میری چپل صحیح ہوئی نہیں؟ تو موچی نے جواب دیا کہ آپ کی چپل گم ہوگئی ہے۔ اور دوسری چپل یہاں موجود ہے، تو کیا اس صورت میں موچی سے تاوان لینا درست ہے یا نہیں؟ قرآن کی روشنی میں مسئلہ ہذا کو واضح فرمائیں۔

المستفتی: حافظ محمد شفیع، صدر مدرس مدرسہ فلاح دارین محلہ کانٹھ دروازہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر موچی نے چپل کی حفاظت کی ہے اور اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہوئی ہے اور پھر گم ہوگئی ہے، تو موچی کے امین ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی تاوان واجب نہ ہوگا۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: ليس

على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

(سنن الدارقطني، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۳۶، رقم: ۲۹۳۰)

الودیعة امانة في يد المودع، فإذا هلكت لم يضمنها. (الجوهرة، كتاب الودیعة، إمدادیه ملتان ۲/ ۳۵، دارالكتاب دیوبند ۲/ ۳۵، تنویر الأبصار مع لدر المختار، کراچی ۵/ ۶۶۴، زکریا ۸/ ۴۵۵، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/ ۲۷۳، زکریا ۷/ ۴۶۵، ملتقى الأبحر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۶۷، هداية، أشرفی دیوبند ۳/ ۲۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷/ محرم ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/ ۲۹۸۱)

دوسرے کی دیوار پر اپنی چھت کو ٹسکنے کا شرعی حکم

سوال [۹۴۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عبد الغفور کی دیوار پر عبد القیوم نے چھت ٹیک لی، وہ خستہ ہوگئی، انہوں نے اس کو ہتھوڑے سے گرا دی، عبد الغفور کا مکان پھٹ گیا، عبد القیوم سے شکایت کی، انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کرا لو، جو خرچ ہوگا وہ میں دے دوں گا، ایک ہزار روپے خرچ ہوئے، عبد القیوم نے نہیں دیئے لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبد الغفور، ٹائڈ ہاؤس، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عبد القیوم کے فعل سے عبد العزیز کی دیوار کو نقصان پہنچا تو شرعاً اس میں نقصان کی تلافی کا ذمہ دار عبد القیوم ہوگا۔ اور جب عبد القیوم کے خرچ دینے کے وعدے سے عبد الغفور نے مرمت کر لی ہے، تو عبد الغفور کو عبد القیوم سے مذکورہ خرچ وصول کرنا شرعاً جائز ہوگا۔

لو أتلف مال غيره بلا سبق إيداع، أو إقراض ضمن بالإجماع.

(الدرالمختار مع الشامی، کتاب الحجر، زکریا ۹/ ۲۰۳، کراچی ۶/ ۱۴۶)

الضمانات تجب لها بأخذ أو بشرط. (قواعد الفقه، أشرفی دیوبند، ص: ۸۹)
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۲۱۳)

فروخت شدہ بکرا واپس مالک کے پاس آجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۹۴۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے ایک بکرا غیر معروف شخص (جو غیر مسلم تاجر ہے) کے ہاتھ فروخت کیا اور دودن کے بعد وہ بکرا اچانک زید کے گھر واپس آ گیا، اب زید نے کافی تلاش و جستجو کے بعد اس غیر معروف شخص کا پتہ لگایا، معلوم ہوا وہ کہیں باہر چلا گیا ہے، یہ صحیح نہیں معلوم ہے کہ کہاں گیا ہے اور کب آئے گا، نیز یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بکرا اسی کے پاس سے آیا ہے یا اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اس کے پاس سے آیا ہے، قیاس ہے کہ شاید فروخت کر گیا ہوگا، بہر کیف صحیح معلوم نہیں ہے کہ اس بکرے کا مالک کون ہے؟ فی الحال بکرا زید کے پاس تقریباً چار ماہ سے پرورش پا رہا ہے، صورت مسئلہ میں اس بکرے کی پرورش کی جائے؟ یا فروخت کر دیا جائے؟ اگر پرورش کی جاتی ہے، تو اس پر روزانہ جو خرچ آ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور فروخت کر دینے کی صورت میں اس کی قیمت کس کو دی جائے؟ اس پر جو خرچ آیا ہے، اس کو کاٹ کر دی جائے یا مکمل، یا اگر کبھی اس کا مالک واپس آتا ہے، تو اس کو کتنی رقم دینی پڑے گی، جب کہ بکروں کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے، اعتبار کب کا ہوگا؟ اس کی قیمت بیت المال میں جمع کر دی جائے یا خیرات کر دی جائے؟

المستفتی: حافظ محمد فاروق مہد پورٹی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کو فروختگی کے دودن کے بعد جو بکرا حاصل ہوا ہے، وہ در

حقیقت زید کے پاس بطور امانت ہے، جس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ اولاً زید دو یا دو سے زائد لوگوں کو گواہ بنالے کہ یہ بکرا مجھے ملا ہے، جسے میں نے مالک تک پہنچانے کی غرض سے روک لیا ہے، اس کے بعد محکمہ شرعیہ یا مستند علماء کے مشورہ سے مالک کی تلاش و تفتیش کر کے اگر صحیح مالک کا پتہ لگ جائے تو بلا ٹال مٹول مالک کو واپس کر دے؛ البتہ اس درمیان بکرے پر کئے جانے والے خرچ کو زید مالک سے لینے کا حق دار ہے۔ اور اگر مالک کا کوئی سراغ نہ ملے تو پھر بکرے کو فروخت کر کے اس کی قیمت محفوظ رکھ لے، اگر مسلم حکومت ہے اور بیت المال ہے، تو پھر بیت المال میں جمع کر دے۔ اور اگر مسلم حکومت نہیں ہے، جس میں اسلامی قانون کے مطابق بیت المال نہ ہو تو پھر وہاں پر با اثر لوگوں کی شہادت کے ساتھ اس پیسہ کو بینک میں محفوظ کر لیا جائے اور اس درمیان زید نے بکرے کے کھلانے پلانے پر جو خرچ کیا ہے، وہ اتنی رقم لینے کا حق دار ہے، بقیہ رقم مالک کے ملنے کی شکل میں واپس کر دینا لازم ہے۔ اور اگر اتنے ایام گزر جائیں کہ یقین ہو جائے کہ مالک نہیں ملے گا، تو پھر قیمت کا صدقہ کر دیا جائے۔

وإلا باعها، أي إن لم يكن لها نفع باعها القاضي، وحفظ ثمنها لصاحبها إبقاء له، يعني عند تعذر إبقائه صورة إلى قوله قالوا: إنما يأمر بالإتفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها، فإذا لم يظهر يأمر ببيعها؛ لأن دائرة النفقة مستاصلة، فلا نظر في الإتفاق مدة مديدة، وإذا بيعت أخذ الملتقط ما أنفق ياذن القاضي. (البحر الرائق، كتاب اللقطة، زكريا ۵ / ۲۶۱، كوئته ۵ / ۳۵۵ / ۱۵۶، فتح القدير، دار الفكر بيروت ۶ / ۱۲۶، زكريا ۶ / ۱۱۸-۱۱۹، كوئته ۵ / ۳۵۵)

وفي القنية: وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لا يوجد صاحبه لا يجب إيصاءه، وإن كان يرجو وجود المالك و جب الإيصاء. (البحر الرائق، زكريا ۵ / ۲۵۸، كوئته ۵ / ۱۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ / محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷ / ۸۸۶۱)



۳۰ / کتاب الہبۃ

۱ / باب شرائط الہبۃ

”ہبہ“ شرعاً کب معتبر ہے؟

سوال [۹۴۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مسمیٰ محمد علی خان نے بذات خود اپنے اوردو پسران آصف علی خان اور شا کر علی خان کے ناموں سے مشترکہ طور سے حصہ برابر ایک مکان واقع محلہ قاضی ٹولہ المعروف اتوار کی پیٹھ، ضلع مراد آباد خرید، بعدہ محمد علی نے خرید کردہ مکان مذکور میں اپنا حصہ ۳/۱ اپنی زوجہ خوشنودی بیگم کے حق میں زبانی ہبہ کر دیا، جس کو قبول و منظور کر کے خوشنودی بیگم مذکورہ موہوبہ حصہ پر مشترکاً قابض و دخیل ہو گئیں، جس کے بعد محمد علی کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے اپنی وفات پر مذکورہ بالا دو پسران: آصف علی و شا کر علی خان و چار دختران: مسمیان صغیر جہاں، و شمیم جہاں، و نعیم جہاں و ممتاز جہاں اور اپنی بیوہ خوشنودی بیگم کو اپنا شرعی وارث چھوڑا، بعدہ آصف علی خان کا بھی انتقال ہو گیا، جنہوں نے اپنی وفات پر اپنے برادر حقیقی شا کر علی خان اور مذکورہ بالا چار ہمشیرگان اور اپنی والدہ مذکورہ خوشنودی بیگم کو اپنا شرعی وارث چھوڑا، جس کے بعد دختر محمد علی ممتاز جہاں کا بھی انتقال ہو گیا، جنہوں نے اپنی وفات پر والدہ خوشنودی بیگم دو پسران دانش و محمد سبحان اور ایک دختر اقراء بیگم کو اپنا شرعی وارث چھوڑا، مذکورہ بالا مکان کی مجموعی آمدنی کرایہ مبلغ آٹھ ہزار روپے ماہانہ ہے۔ از روئے فرائض مکان مذکور میں مذکورہ بالا وراثت کس قدر حصہ اور کس قدر کرایہ پانے کے مستحق ہیں؟

المستفتی: انتظار حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ہبہ کا شرعی ثبوت یا اس کی معتبر تحریر موجود ہے اور قبضہ بھی ہو چکا تھا، تب تو یہ ہبہ معتبر ہے۔ اور اگر ہبہ کے لئے نہ معتبر تحریر ہے اور نہ شرعی گواہان موجود ہیں، تو ایسی صورت میں محض قبضہ کافی نہیں ہوگا، اس میں تمام ورثاء کا حق جاری ہوگا اور تقسیم اس کے بعد کی جاسکتی ہے، جب ہمارے پاس شرعی ثبوت کے ساتھ ہبہ نامہ کی تحریر آجائے، اس سے پہلے تقسیم کے مسئلہ میں ہم کچھ لکھنے سے قاصر ہیں۔

عن عبدالرحمن بن عبدالمقاري قال: قال عمر - رضي الله عنه - ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، مؤسسة علوم القرآن ۱۰ / ۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامی، کتاب الهبة، زکریا ۸ / ۴۹۳، کراچی

۵ / ۶۹۰، ہندیہ زکریا قدیم ۴ / ۳۷۷، جدید ۴ / ۳۹۹، ہدایہ اشرفی ۳ / ۲۸۳، مختصر القدوری، ص: ۱۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۲/۳/۱۴

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵ / ۱۱۸)

ہبہ میں محض نیت کافی نہیں

سوال [۹۴۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) میرا لڑکا ہے، جس کو بوقت پیدائش ہی والد نے اپنا لیا تھا اور آخر تک ان کی کفالت میں تھا، اب دادی کے پاس رہتا ہے، اسی طرح ایک نواسی کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا تھا،

ان کے نام جو رقم بینک میں محفوظ کی ہے، اس کی تقسیم شرعی ورثاء میں ہوگی یا جن کے نام محفوظ کیا ہے انہیں کو ملے گی؟

(۲) نیز جو کچھ دینے یا نام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور سب سے کہتے تھے وہ دیا جائے یا نہیں؟ اور جو عملاً کر گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جس کے نام کر دیا ہے، اسی کو ملے گا یا نہیں؟

المستفتی: خرم سلطان ابن حاجی سلطان احمد مرحوم، بمبئی
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) حاجی سلطان نے اپنی زندگی میں جو رقم پوتے یا نواسی کے نام بینک میں جمع کر دی ہے، اس سے شرعی طور پر قبضہ بھی ثابت ہو گیا؛ کیوں کہ جن کے نام سے جمع ہوا ہے، وہی نکال سکتے ہیں، دوسرا نہیں نکال سکتا ہے؛ لہذا ان کے نام بینک میں جمع شدہ رقم ان کی ملک ہوگی، ان میں دیگر ورثاء شریک نہیں ہوں گے۔

اتخذ لولدہ أو لتلمیذہ ثیابا، ثم أراد دفعها لغيره لیس له ذلک ما لم یسین وقت الاتخاذ أنها عاریة. (درمختار، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/ ۵۰۱، کراچی ۵/ ۶۹۶، ہندیۃ زکریا قدیم ۴/ ۳۹۲، جدید ۴/ ۴۱۷)

تم الہبۃ بالقبض الكامل. (درمختار، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/ ۴۹۳، کراچی

۵/ ۶۹۰، ہندیۃ زکریا قدیم ۴/ ۳۷۸، جدید ۴/ ۳۹۹، ہدایۃ، اشرفی ۳/ ۲۸۳)
(۲) محض ارادہ اور نیت کرنے سے کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوگا؛ البتہ عملی طور پر اپنی زندگی میں جو اشیاء دوسروں کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا ہے، وہ شرعی طور پر ان کے مالک ہو جائیں گے، ان میں دیگر ورثاء شریک نہیں ہوں گے۔

ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التملیک. (شامی، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/ ۵۰۲، کراچی ۵/ ۶۹۷، ہندیۃ زکریا قدیم ۴/ ۳۹۲، جدید ۴/ ۴۱۷)

وفي المنح عن الخانية بعد هذا قال: جعلته لابني فلان يكون هبة؛ لأن الجعل عبارة عن التملك. (شامی، کتاب الهبة، زکریا ۸/ ۴۹۱، کراچی ۶۸۹/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۱۳۲۶/۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳/ ۸۶۱۵)

کیا ایجاب و قبول سے ہبہ منعقد ہو جاتا ہے؟

سوال [۹۴۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) محبوب احمد نے ایک مکان چھوڑا ان کے سامنے ان کی بیوی اور ایک لڑکی عزیزہ بی بی کا انتقال ہو گیا، مرحوم کے وارث میں تین لڑکے اور دو لڑکیاں جن کے نام اس طرح ہیں: مطلوب احمد، منصور احمد جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ اور مسعود احمد، خدیجہ بی، سعیدہ بی مرحوم کے ترکہ میں سے ہر ایک وارث کو شریعت کی رو سے کتنے کتنے سہام ملیں گے؟

(۲) اور منصور احمد نے پاکستان کے اسٹام پر وصیت تحریر کر کے بھیجی ہے کہ میرے حصے کے تین حصے کئے جائیں، ایک حصہ میری بہن خدیجہ کو اور دوسرا حصہ میری بہن سعیدہ کو اور تیسرا حصہ میری دونوں بھانجی نرہت اور رضیہ بی کو دے دیا جائے، تو منصور احمد کی وصیت کے مطابق منصور کے ترکہ میں سے خدیجہ بی و سعیدہ بی اور نرہت بی و رضیہ بی کو شریعت کی رو سے کتنے کتنے سہام ملیں گے؟

المستفتی: مقصود احمد بارہ سنی سرائے ترین سنجل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: منصور احمد نے پاکستان سے جو تحریر بھیجی ہے، اس تحریر کے عنوان میں وصیت نامہ لکھا ہے؛ لیکن پوری تحریر کے مضمون میں وصیت کا ذکر نہیں ہے؛ بلکہ

اپنی طرف سے مضمون میں ہبہ کا ذکر ہے؛ اس لئے شاید مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عنوان میں لفظ ہبہ کے بجائے وصیت لکھ دیا ہوگا؛ لہذا ہم ہبہ کے نقطہ نظر سے شرعی حکم لکھتے ہیں۔ سوال نامہ اور پاکستان سے ارسال کردہ تحریر کے مطابق منصور احمد کا حق تین حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ایک حصہ دونوں زندہ بہنوں کو دیا جائے گا اور تیسرا حصہ مرحومہ بہن کی دونوں بیٹیوں کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور سوال نامہ میں بھی لفظ وصیت استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اصل مضمون کے خلاف ہے اور اصل مضمون کے اعتبار سے لفظ ہبہ استعمال ہونا چاہئے؛ لہذا جن لوگوں کے قبضہ میں منصور احمد کا حق ہے، ان پر لازم ہے کہ منصور احمد کا حصہ ان کی ہدایت کے مطابق دونوں بہنوں کے درمیان اور مرحومہ بہن کی دونوں لڑکیوں کے درمیان اس طرح تقسیم کر دیں جس طریقہ سے منصور احمد نے ہدایت کی ہے۔

الہبۃ تملیک العین مجانا، آی بلا عوض . (شامی، کتاب الہبۃ، کراچی

۵/ ۶۸۷، زکریا ۸/ ۴۸۸)

الہبۃ تملیک مال لآخر بلا عوض، آی بلا شرط عوض . (شرح

المجلۃ رستم باز اتحاد دیوبند ۱/ ۶۲، رقم: ۸۳۳)

تنعقد الہبۃ بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من

التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض . (شرح المجلۃ رستم باز اتحاد دیوبند ۱/

۴۶۲، رقم المادة: ۸۳۷)

الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق القبض إليه، وإن كان

الموهوب له صغيراً أو مجنوناً فحق القبض إلى وليه، ووليہ أبوہ، أو وصي

أبيه، ثم جدہ، ثم وصي وصیہ، ثم القاضي سواء كان الصغير في عيال واحد

منهم أو لم يكن . (ہندیۃ، الباب السادس في الہبۃ للصغير، زکریا قدیم ۴/ ۳۹۲، جدید ۴/ ۴۱۸)

لو قال: نحلتيك داري أو أعطيتك أو وهبت منك كانت هبة.

(ہندیۃ، الباب الأول في تفسير الہبۃ، زکریا قدیم ۴/ ۳۷۵، جدید ۴/ ۳۹۶)

ولو وکل الواهب رجلا بالتسليم، ووکل الموہوب له رجلا بالقبض
وغابا صح التسليم من الوكيل، فإن امتنع وکیل الواهب خاصمه وکیل
الموہوب ويتفرد أحد وکیلي التسليم به بخلاف وکیلي القبض لا يتفرد
أحدهما والتوكيل بالهبة توكيل بالتسليم. (تاتارخانیة ۱۴ / ۴۲۴، برقم:
۲۱۵۷۷، مطبع زکریا دیوبند) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۶/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۴۳۲)

زبانی ہبہ

سوال [۹۴۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: محمد نوشہ مرحوم نے زبانی ہبہ اس طرح کیا تھا کہ لے پالک بیٹی رخسانہ بی کو اپنے مکان کی
دوسری منزل کا اپنے ہوش و حواس کی درستی اور گواہوں کی موجودگی میں مالک وقابض بنا دیا
تھا، اب بتلائیے کہ رخسانہ کو محمد نوشہ مرحوم کے مکان کی دوسری منزل پر حق ملکیت حاصل ہوگا
یا نہیں؟ جب کہ مرحوم کے مکان کی دوسری منزل پر ہبہ زبانی سے پہلے بھی قبضہ اور بعد میں بھی
قبضہ رخسانہ بی کو حاصل ہے، اس ہبہ زبانی کے گواہ مندرج ذیل ہیں:

سائلہ رخسانہ بی

فہمید احمد صابری

میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بار بار ان الفاظ کو انہوں نے ادا کیا کہ میرے بعد اس حصے کی حق
داریر ہیں گی۔ عبدالعزیز ولد عبدالشکور قانون گویمان مراد آباد۔

المستفتیہ: رخسانہ بی گویاں باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہبہ میں ایسی معتبر تحریر ہونی چاہئے جس سے بعد میں انکار
یا اختلاف کی نوبت نہ آنے پائے؛ لیکن اگر زبانی ہبہ کر دیا ہے اور اس پر گواہان بھی قابل اعتماد

لوگ ہیں اور جائین اس زبانی ہبہ کا اقرار بھی کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں جس حصہ کو ہبہ کیا گیا اگر موہوب لہ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو ہبہ صحیح اور معتبر ہوگا۔ اور محلہ کے بااثر لوگوں کی موجودگی میں گواہان کے دستخط کے ساتھ ایک سرکاری ایگریمنٹ بھی بہت جلد کر لینا چاہئے، تاکہ آئندہ پھر کوئی بات پیش نہ آنے پائے۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، مؤسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

الهبة عقد مشروع، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، وقوله: لا يجوز الهبة إلا مقبوضة. (هداية، كتاب الهبة، أشرفي ۳ / ۲۸۳، مختصر القدوري، ۱۳۵، شامی، زکریا ۸ / ۹۳، کراچی ۵ / ۶۹۰، ہندیہ، زکریا قدیم ۴ / ۳۷۴، جدید ۴ / ۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۱۱/۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۸۹۸۴)

زبانی ہبہ کا شرعی حکم

سوال [۹۴۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: جو میراث کے باب سے متعلق ہے، میرے اس مسئلہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما کر ممنون فرمائیں۔ والد محترم کو انتقال ہوئے عرصہ ہوا، ہم چار بھائی دو بہنیں ہیں، والدہ کا انتقال والد محترم کی رحلت سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ والد مرحوم کے ترکہ کے بارے میں

کسی وارث کو اختلاف نہیں ہے، معاملہ ایک مکان کا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

رشتے کی ایک نانی (شیخانی نانی) نے اپنا مکان زندگی ہی میں مجھے ہدیہ دے دیا تھا (اس بات کو محلے کے تمام افراد جانتے ہیں) پھر بیماری کے ایام میں جب وہ اپنی بیٹی کے گھر گئیں (واضح ہو کہ شیخانی نانی کی کوئی زینہ اولاد نہیں ہے) تو انتقال کے وقت گاؤں کے پردھان کو بلوا کر اس کے سامنے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ میں نے اپنا حصہ (مکان) کلام کو دے دیا ہے؛ لہذا تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، شیخانی نانی کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی نے پردھان کے ساتھ آ کر میری والدہ کو بتایا کہ ماں نے اپنا یہ مکان کلام کو دے دیا ہے، اس وقت میری والدہ شیخانی نانی کے ایصال ثواب کے لئے تقریباً ایک ہزار روپے ان کی بیٹی کو دیئے لگیں، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ اسے یہیں (جھوڑہ کی) مسجد میں دے دیجئے؛ لیکن کچھ عرصہ بعد جب والدہ کا ان کی بیٹی کے یہاں جانا ہوا، تو تقریباً پندرہ سو روپے مسجد میں دینے کے لئے ان کے پاس چھوڑ آئیں، تب سے یہ مکان میری تحویل میں ہے۔

مذکورہ تفصیل کے مطابق کیا شیخانی نانی کی ہبہ کردہ زمین والد مرحوم کے ترکہ میں شامل ہو کر تمام وارثین میں تقسیم ہوگی یا اس پر شرعی حق صرف میرا ہے؟ شرعاً اس مکان کی کیا حیثیت ہے؟ توضیح فرمائیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔

المستفتی: (حافظ) ابوالکلام عبداللہ مرحوم، آنند گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رشتہ کی نانی نے اپنی زندگی میں آپ کے لئے صرف زبانی ہبہ کیا ہے، آپ کا ان کی زندگی میں اس مکان پر قبضہ نہیں ہوا۔ اور ہبہ قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوا کرتا۔ اور انتقال کے وقت جو پردھان وغیرہ کو بلوا کر انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا ہے کہ ”یہ مکان میں نے کلام کو دے دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں“ یہ مرض الوفات میں کی گئی وصیت ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کا نفاذ صرف تہائی مال سے ہوا کرتا ہے، اس سے

زائد میں نہیں ہوتا، ہاں البتہ موت کے بعد اگر میت کے ورثاء تہائی مال سے زائد میں بھی وصیت کے نافذ کرنے پر راضی ہوں، تو اب یہ وصیت تہائی مال سے زائد پر بھی نافذ ہو جائے گی؛ لہذا اگر وہی ایک مکان تھا، تو اس مکان کا دو تہائی مرحومہ کے وارثین کے لئے میراث ہے، پورا مکان کلام کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ مرض الوفا کی وصیت کے بارے میں وارثین اور گواہان اقرار کرتے ہوں، ورنہ ایک تہائی کے بارے میں بھی وصیت نافذ نہ ہوگی اور کلام کو کچھ نہ ملے گا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض منه، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسهما. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفکر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: مرضت، فعادني النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله! أَدْعُ الله أن لا يردي علي عقيبي، قال: لعل الله يرفعك، وينفع بك ناسا، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير، قلت: فالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، قال: فأوصي الناس بالثلث، وجاز ذلك لهم. (صحيح البخاري، باب الوصية بالثلث، النسخة الهندية ۱/ ۳۸۳، رقم: ۲۶۶۳، ف: ۲۷۴۴)

ولا يتم الهبة إلا مقبوضة. (هندية، كتاب الهبة، الباب الثاني، زكريا قديم ۴/ ۳۷۷، جديد ۴/ ۳۹۹، هداية أشرفي ۳/ ۲۸۳، مختصر القدوري، ص: ۱۳۵، الجوهرة النيرة، إمداديه ملتان ۲/ ۹، دارالكتاب ديوبند ۲/ ۱۰)

فإن الموصى إذا ترك ورثه قائما لا يصح وصيته بما زاد على الثلث إن لم تجز الورثة، وإن أجازوه صحت وصيته به. (البحر الرائق، كتاب الوصايا، زكريا ۹/ ۲۱۲، كوثه ۸/ ۴۰۳)

رجل أوصى بجميع ماله للفقراء، أو لرجل بعينه لا تجوز ذلك إلا
من الثلث - إلى قوله - وإن أجازوا بعد موته صحت الإجازة. (تاتارخانیہ،
زکریا ۱۹/۳۸۱، رقم: ۳۱۸۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ

۶/۲۱/۱۴۳۳ھ

(الف توئی نمبر: ۳۹/۱۰۷۲۸)

زبانی ہبہ کے لئے شرعی ثبوت لازم

سوال [۹۴۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: زہرہ بیگم کا مکان بالعوض مہر دولہ جان خان نے اپنی زوجہ زہرہ بیگم کے نام کر دیا تھا،
زہرہ بیگم نے اپنا پورا مکان بڑی بیٹی زاہدہ بیگم جو کہ شادی شدہ تھی کو ۲۷/۶/۱۹ کو زبانی ہبہ
کر دیا تھا۔ اور چھوٹی بیٹی ساجدہ بیگم جو غیر شادی شدہ تھی اور بے سہارا تھی، اس کو ناحق کر دیا،
جس کی شادی کی ذمہ داری والدین کی ہوتی تھی؛ لیکن والدین میں والد کے انتقال کے بعد یہ
ذمہ داری والدہ نے پوری نہیں کی اور دیگر رشتہ داروں نے یہ فرائض پورے کرتے ہوئے ۱۹/۶
۲۳ کو نکاح محمد فرید حیدر سے کر دیا، کیا ایسی حالت میں شرعاً یہ ہبہ زبانی جس کا کوئی گواہ
نہیں صحیح ہو یا غلط ہوا؟ ساجدہ بیگم شرعاً حق دار ہوگی یا نہیں؟

المستفتیہ: ساجدہ بیگم مقبرہ دوئم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زہرہ بیگم نے جو اپنا مکان اپنی بڑی بیٹی زاہدہ بیگم کو زبانی
ہبہ کیا ہے، اس کے لئے ثبوت شرعی یعنی ہبہ نامہ یا شرعی گواہ کی ضرورت ہے؛ لہذا اگر زاہدہ
بیگم کے پاس ثبوت شرعی یا شرعی گواہ نہیں ہیں، تو اس زبانی ہبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے؛ بلکہ وہ
ترکہ میں شمار ہوگا۔ اور ساجدہ بیگم اس مکان میں حق دار ہوگی۔

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ. [البقرة: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل
وامراتين، سواء كان الحق مالا أو غير مال. (هداية، كتاب الشهادة، أشرفي
۳/ ۱۵۴، البناينة، اشرفيه ۹/ ۱۰۶، المبسوط، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۱۴۰) فقط
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۶/۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۸۸۳)

زبانی ہبہ بغیر شہادت کے معتبر نہیں

سوال [۹۴۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: چھوٹی نے اپنے ایک لڑکے انوار حسین کو ایک اپنا مکان ہبہ زبانی کیا انوار حسین ہبہ کے
وقت نابالغ تھے، اس لئے انہوں نے انوار حسین کے تایا عبدالسلام کو ولی بنا کر قبضہ و دخل دے
دیا، پھر چھوٹی کے ایک لڑکا لیتق احمد پہلے شوہر سے تھا، اب دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ ہبہ صحیح
ہو یا نہیں؟ اور چھوٹی کا مکان انوار حسین کو ملے گا، یا کہ اس میں دوسرے شوہر والے لڑکے
لیتق احمد کو بھی ملے گا؟ شرعی حکم کیا ہے، تحریر فرمادیں۔

المستفتی: ابرار حسین، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چھوٹی نے جو مکان انوار حسین کو زبانی ہبہ کیا ہے، اس
کے ثبوت کے لئے شہادت شرعیہ کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر شہادت شرعیہ موجود نہیں ہے،
تو اس ہبہ کا اعتبار نہ ہوگا۔ اور چھوٹی کے دونوں لڑکے برابر کے شریک ہوں گے۔ (مستفاد:
عزیز الفتاویٰ/ ۶۷۱)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. [البقرة: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل
وامراتين، سواء كان الحق مالا أو غير مال. (هداية، كتاب الشهادة، أشرفي
۱۵۴/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۷۲/۳۵)

زبانی ہبہ کرنے کے بعد تحریر لکھنے کا شرعی حکم

سوال [۹۴۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کوئی صاحب اپنی صاحبہ کے نام زبانی ہبہ کریں اور ہبہ کر کے قریب ساڑھے
تین سال بعد اپنی صاحبہ کی اس یادداشت کو گواہوں کے رو برو تحریر کر دیں، تو اس کے
بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

المستفتی: حاجی دولہ پیر غیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زبانی ہبہ کرنے کے بعد پھر تحریر بھی گواہوں کے
سامنے لکھ دی ہے تو شرعی طور پر ہبہ صحیح ہو چکا ہے۔ اور گواہوں کے ذریعہ سے اس کا ثبوت بھی
ہو جائے گا۔ اور اگر قبضہ بھی دے دیا ہے تو مالک بھی ہو چکی ہے؛ لیکن اگر قبضہ نہیں دیا ہے اور
بغیر قبضہ دیئے ہبہ کرنے والا گذر گیا ہے، تو ہبہ مکمل نہ ہوگا۔

الہبۃ عقد مشروع - إلی قولہ - وتصح بالإيجاب والقبول والقبض

- إلی قولہ - والقبض لا بد منه لثبوت الملك. (هداية، كتاب الہبۃ، اشرفي

تعتقد الہبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المجلة رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/ ۶۲، رقم المادة: ۸۳۷، شامی، کراچی ۵/ ۶۹۰، زکریا دیوبند ۸/ ۹۳، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/ ۳۷۷، جدید ۴/ ۳۹۹، مجمع الأنهر، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/ ۹۱، قدیم ۲/ ۲۵۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۶/۱۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۳۵۰)

زبانی و تحریری ہبہ نامہ کے بعد قبضہ دینے کی شرعی حیثیت

سوال [۱۹۴۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے چچا حامد حسین نے دو مکان خریدے، ایک مکان خود حامد حسین نے اپنے نام سے خریدا، دوسرا مکان اپنی زوجہ زیتون بیگم کے نام سے خریدا اور ان دونوں مکانوں کی تعمیر بھی خود حامد حسین نے کرائی تھی اور حامد حسین لاولد تھے اور مسماۃ زیتون بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوس تھی اور دونوں نے زیتون کے سگے بھائی نوشہ کے لڑکے ثواب جان کو گود لیا تھا اور اس کی پرورش کر کے اس کی شادی شہر مراد آباد میں زرکثیر خرچ کر کے کرا دی تھی اور حامد حسین کا کاروبار بمبئی میں تھا اور ان کے بمبئی میں ایک دوکان ایک رہائشی کمرہ خود خرید کر کے وہیں پر رہتے تھے، اور جب حامد حسین ضعیف العمر ہو گئے تو بمبئی کی دوکان اور رہائشی جگہ کا اپنے لے پا لک ثواب جان کو اس کا مالک اور ذمہ دار بنا کر مراد آباد آگئے اور حامد حسین اپنے حقیقی بھتیجے نواب دولہ کو مراد آباد میں اپنے پاس رکھ لیا اور نواب دولہ حامد حسین اور ان کی اہلیہ کی خدمت اطاعت کرتے رہے، سن ۱۹۶۱ء میں حامد حسین اور زیتون دونوں نے عید کے

موقع پر خاندان اور محلّہ کے بہت سے لوگوں کے سامنے مراد آباد کے دونوں مکان نواب دولہ کو ہبہ کر کے نواب دولہ کو قبضہ دے دیا اور نواب دولہ نے اس کو قبول و منظور کر لیا، اور ساتھ میں اس بات کی تصریح کر دی کہ بیوی کے بھتیجے نواب دولہ کو بمبئی کی جائیداد دے دی گئی ہے، مراد آباد کی جائیداد سے اس کا اور اس کے بچوں کو کوئی تعلق نہ رہے گا اور مراد آباد کی جائیداد نواب دولہ کو زبانی ہبہ کر دیا، اسی سال پندرہ بیس دن کے بعد اس زبانی ہبہ کو باضابطہ اسٹامپ پر تحریری شکل دے کر حامد حسین اور زیتون دونوں کے دستخطوں کے ذریعہ ہبہ نامہ پکا کر دیا اور اس ہبہ نامہ میں گواہان کے بھی دستخط اور انگوٹھے ہیں، اب اس واقعہ کے تقریباً نو سال بعد ۱۹۷۰ء میں زیتون کا انتقال ہو گیا اور زیتون کے انتقال کے چالیس دن کے بعد نواب جان عارف و اصف چالیسویں میں شرکت کے لئے آئے اور موت کے بعد جنازہ میں شرکت کے لئے نہیں آئے اور جب چالیسویں میں یہ لوگ آئے تو نواب دولہ نے اپنے مکان میں ان لوگوں کو ٹھہرایا اور وہ لوگ رہتے رہے اور ٹھہرنے کے لئے ایک مکان خالی کر دیا تھا، پھر وہ لوگ اس میں رہتے رہے اور خالی کر کے بمبئی نہیں گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ بمبئی کی ساری جائیداد بیچ کر آگئے ہیں، اور جو مکان ٹھہرنے کے لئے ان کو دیا گیا تھا وہ خالی نہیں کیا اور اسی حالت میں ۲۰۰۱ء میں نواب جان کا انتقال ہو گیا اور ان کے دونوں بیٹے اس مکان پر قابض رہے جس میں ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی گئی تھی، پھر سن ۲۰۱۲ء میں نواب جان کے لڑکے عارف و اصف نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس مکان کے بارے میں زیتون نے ہمارے لئے وصیت کر دی ہے اور اب تک کسی قسم کی وصیت کا نہ چرچا تھا نہ نواب جان نے ذکر کیا، نہ ان لوگوں نے اتنا زمانہ گزرنے کے بعد وصیت کا دعویٰ کیا، یہ سن ۱۹۸۸ء کا لکھا ہوا ایک وصیت نامہ لکھالائے اور اس طرح کی وصیت کا زیتون نے اپنی زندگی میں نہ ہمارے سامنے اظہار کیا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے ظاہر کیا اور نہ کوئی تبصرہ

تھا، تو ایسی صورت میں اس وصیت نامہ کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ جب کہ نواب دولہ کے نام سے ضابطہ شرعی کے مطابق ہبہ اس مکان کے بارے میں ہو چکا تھا، اور نواب دولہ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور اس ہبہ کے نو سال کے بعد میں حامد حسین کا انتقال ہوا اور اس ہبہ کے ۲۹ سال کے بعد زیتون بیگم کا انتقال ہوا اور دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی زندگی میں ہبہ نامہ کے خلاف نہ کبھی تحریر کی نہ کسی قسم کی گفتگو کی ہے۔ اور زیتون بیگم کے مرنے تک زیتون کے اخراجات اور سارے خرچوں کی کفالت نواب دولہ نے کی ہے اور اس بارے میں نواب جان اور اس کے دونوں لڑکوں کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور یہ لوگ بمبئی میں رہتے تھے اور ان کی موت میں بھی شریک نہیں ہوئے چالیسویں میں آنے کے بعد ان کو ٹھہرنے کے لئے جو جگہ دی گئی تھی وہ ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی، خالی نہیں کی اور زیتون کے تقریباً ۲۱ سال بعد وصیت نامہ نکال کر لائے؛ اس لئے مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ شرعی طور پر اس وصیت نامہ کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ اور اگر اعتبار ہوگا تو کہاں تک ہوگا؟

المستفتی: نواب دولہ محلہ لالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہبہ نامہ وصیت نامہ اور سوال نامہ پر بار بار غور کیا گیا ہے۔ اور ان تحریرات سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ سن ۱۹۶۱ء میں حامد حسین اور زیتون دونوں نے بخوشی مشترکہ طور پر نواب دولہ کو مذکورہ جائیداد زبانی اور پھر بعد میں تحریری طور پر ہبہ کر کے قبضہ دے کر مالک بنا دیا ہے۔ اور ہبہ مکمل ہو جانے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے پوری زندگی میں کسی بھی موقع پر اس ہبہ کو منسوخ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہبہ کو منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی تحریر ہے، اور نہ ہی اس بارے میں گواہان ہیں؛ اس لئے ہبہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہوا ہے۔ اور اس ہبہ نامہ کی رو سے نواب دولہ مذکورہ جائیداد کے شرعی مالک ہیں۔ اور پھر اس ہبہ کے نو سال کے بعد سن ۱۹۷۰ء میں حامد حسین کا انتقال

ہو گیا، پھر ۱۹۹۰ء میں زیتون کا بھی انتقال ہو گیا، تقریباً ۲۹ رسال کے درمیان اس بہہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی دعویٰ، یا کوئی تحریر سامنے نہیں آئی ہے۔ اور زیتون کے انتقال کے وقت میں بھی وصیت نامہ کے دعویٰ کرنے والے مراد آباد میں موجود نہیں تھے، اور چالیسویں کے زمانہ میں مدعیان آئے ہوئے تھے، اور ان کو ٹھہرائے جانے کے بعد بھی دسیوں سال تک وصیت نامہ کا کہیں سے تذکرہ بھی نہیں آیا ہے، پھر زیتون کے انتقال کے تقریباً بیس سال کے بعد وصیت نامہ دکھا کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا۔ اور مذکورہ جائیداد کا نواب دولہ ہی شرعی مالک ہوگا؛ اس لئے کہ زیتون نے اپنی پوری زندگی میں وصیت نامہ لکھنے یا لکھوانے کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے۔

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال: قال عمر - رضي الله عنه - ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، موسسة علوم القرآن ۱۰ / ۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سررك يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ۹ / ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار، كتاب الهبة، زكريا ۸ / ۴۹۳، كراچی

۶۹۰ / ۵، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۴۹۱، مصري قديم ۲ / ۲۵۳)

ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة. (هندية، الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما

لا يجوز، زكريا قديم ۴ / ۳۷۷، جديد ۴ / ۳۹۹)

حکم الہبۃ ثبوت الملک للموہوب لہ۔ (تاتاریخانیہ، زکریا ۴/۱۳۱،

رقم: ۲۱۵۳۷)

الہبۃ عقد مشروع - إلى قوله - وتصح بالإيجاب والقبول والقبض.

(هدایۃ، أشرفی دیوبند ۳/۲۸۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

۱۸/۵/۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۷۰۰)

ہبہ میں قبضہ کی شرعی حیثیت

سوال [۹۴۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عبدالمجید صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے ورثاء میں ایک بیوی وحیداً، چار لڑکے: (۱) محمد نعیم (۲) محمد اکرام (۳) محمد اسلام (۴) محمد یامین، ایک بیٹی، وارث چھوڑے، دریافت طلب یہ امر ہے کہ عبدالمجید کی بیوی وحیداً اور ان کی ایک بیٹی کا کتنا کتنا حصہ ہوگا؟ کیوں کہ ان دونوں نے اپنا اپنا حصہ محمد اسلام کی بیوی نضیا کے نام ہبہ رجسٹری کر دیا ہے، آپ بتائیں کیا یہ ہبہ شرعاً معتبر ہے یا نہیں؛ لیکن یہ واضح رہے کہ اس ہبہ پر نضیا کو قبضہ نہیں دیا ہے؛ بلکہ ان لوگوں کے حصے مشترکہ جائیداد میں شامل ہیں۔

المستفتی: محمد مبین محلہ اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: کل ترکہ ۷۲/سہام میں تقسیم ہو کر لڑکوں کو ۱۴-۱۴/ملیں گے اور بیوہ کو ۱۹/اور لڑکی کو ۷/سہام ملیں گے۔ اور جب بیوہ نے اپنا حق ہبہ کر کے قبضہ نہیں دیا ہے، نیز بیٹی نے بھی ہبہ کر کے قبضہ نہیں دیا ہے، تو نضیا وحیداً اور عبدالمجید کی بیٹی کے حصہ کی مالک نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ ہبہ کے کامل ہونے کے لئے شرعی طور پر قبضہ شرط ہے۔ اور یہاں قبضہ نہیں ہوا ہے۔

والقبض لا بد منه لثبوت الملك. (هدایة، کتاب الہبۃ، أشرفی دیوبند ۳/۳۸۲)
 الہبۃ تتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا
 بالقبض. (شرح المحلۃ رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/۶۲، رقم المادۃ: ۸۳۷)

یملک الموهوب له الموهوب بالقبض. (شرح المحلۃ ۱/۷۳، رقم المادۃ: ۸۶۱)
 وتتم الہبۃ بالقبض الكامل. (شامی، کراچی ۵/۶۹۰، زکریا ۸/۴۹۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۰/۴/۱۴۱۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۰ ربيع الثانی ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۶۳۲/۲)

ہبہ میں قبضہ کا شرعی حکم

سوال [۹۴۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اصغر حسین مرحوم کی پہلی بیوی نے ایک لڑکا تولد کر کے خدا کو پیاری ہوگئی، اس کے بعد اصغر حسین مرحوم نے دوسری شادی کی اس کے لطن سے چار لڑکے، چار لڑکیاں موجود ہیں، اب اصغر حسین مرحوم کی وراثت میں ایک بیوی اور ۵ لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں، مرحوم نے ۱۵۲ گرز زمین چھوڑی ہے، اب ماں نے ساڑھے ۱۴ گرز زمین لڑکیوں میں سے تیسری لڑکی کے نام میں کر دی ہے، دریافت یہ کرنا ہے کہ ماں نے جو ایک لڑکی کے نام زمین ساڑھے ۱۴ گرز چھوڑی کر دی ہے یا نہیں؟

المستفتی: ارشاد حسین پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ترکہ تقسیم کر کے اپنا حصہ الگ کرنے سے قبل مرحوم اصغر حسین کی دوسری بیوی کا اس میں سے کچھ حصہ اپنی تیسری لڑکی کے نام ہبہ اور رجسٹری کرنا صحیح نہیں؛ اس لئے کہ ہبہ مکمل ہونے کے لئے قبضہ دینا شرط ہے؛ لہذا پہلے مرحوم

اصغر حسین کی موروثہ ۱۵۲/۱ گز زمین شرعی طریقہ سے تقسیم ہوگی اور جب تمام وارثین کے حصے الگ الگ ہو جائیں تب وہ اپنے مقررہ حصہ میں سے جسے چاہے بہہ نامہ یا رجسٹری کروا سکتی ہے۔

وشرائط صحتها (أي صحة الهبة) في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع، مميذا غير مشغول. (درمختار مع الشامسي، كتاب الهبة، ذكر يا ۸/ ۴۸۹، کراچی ۵/ ۶۸۸، ہندیہ، ذکر یا قدیم ۴/ ۳۷۴، جدید ۴/ ۳۹۵، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/ ۴۹۱، مصری، قدیم ۲/ ۲۵۳، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۰/ ۲۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷/۶/۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۹۶/۳۳)

کیا بہہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے؟

سوال [۹۴۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: والد محترم کا انتقال ہوا ۱۹۵۴ء میں، اس وقت ہمارے گھر کی حالت نہایت پریشان کن مفلسی کا دور تھا، کافی قرض بھی تھا، وہ اس لئے کہ والد محترم کافی عرصہ سے جلدھر کے مرض میں مبتلا رہے، میں یعنی سب سے بڑا لڑکا عمر اٹھارہ سال ہم سے چھوٹی بہن عمر پندرہ سال اس سے چھوٹی، بہن عمر بارہ سال ایک بہن کا انتقال ہو گیا، پھر اس سے چھوٹا بھائی چھ سال اس سے چھوٹی، بہن تین سال اس سے چھوٹا بھائی پانچ ماہ کا تھا اور والدہ محترمہ تھیں، گھر میں بنائی کا کام ہوتا تھا، والد صاحب کے وقت سے ہی والدہ محترمہ نے بھی بننے کا کام سیکھ لیا تھا، بہر حال جتنا ہو سکتا وہ بھی کام کرتی تھیں، میں یعنی بڑا بھائی والد محترم کے انتقال کے وقت گھر پر موجود نہیں تھا، مالیکوں روزی روٹی کے چکر میں گیا ہوا تھا، وہیں مالیکوں میں پاور لوم

چلاتا تھا، محنت مشقت کر کے گھر والوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرتا تھا، قرض بھی تھا؛ اس لئے والد صاحب کے انتقال کے فوراً بعد میں گھر نہیں آیا؛ بلکہ محنت کر کے جو قرض تھا وہ ادا کر کے لگ بھگ دو سال بعد گھر آیا، پھر جلد ہی مالیر گاؤں واپس چلا گیا، پھر ایک سال بعد آیا، تو میری شادی کی والدہ کو فکر ہوئی، گھر بہت چھوٹا سا تھا، اس لئے لڑکی ملنے میں بھی کافی دقت ہوئی، بہر حال ایک سال کے بعد ہماری اور ہم سے جو چھوٹی بہن تھی اس کی شادی ہوئی، اس کے بعد ہمیں ہمارے قصبہ سے تین چار کیلومیٹر پر ایک قصبہ ہے منوائہ وہاں بھی پاورلوم چلنا شروع ہو گیا تھا، اب میں وہیں مستری کے طور پر کام کرنے لگا، اس وقت وہاں پر کوئی بڑا کار خانہ تو نہ تھا، چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں مستری یعنی مقاومی کرتا تھا، سائیکل لے لی تھی، اور سب میں دوڑتا رہتا، جیسی ضرورت پڑتی اسی دوران کارخانہ دار دو بھائی ایک زمین خرید رہے تھے، ہم سے کہا تم بھی لے لو؛ اس لئے کہ ہمارا مکان بہت چھوٹا ہے، ان کو معلوم تھا، ہمیں خیال ہوا مشورہ ٹھیک ہی ہے، زمین بھی اس وقت سستی تھی، پچاس روپے بسوہ چار بسوہ ہم نے بھی لے لی، دو سو روپے میں، بقیہ ان دونوں بھائیوں نے لے لی، اور ساتھ ہی رجسٹری ہو گئی، مگر وہ زمین گھر کی مناسبت سے ہم کو پسند نہ تھی؛ اس لئے دوسری زمین کا ہم کو چکر لگا تھا، تبھی تین چار سال بعد ایک شخص ہم سے ملا اور اپنی زمین بیچنے کے لئے کہا، جو نہایت مناسب جگہ پر تھی، تین بسوہ تھی، دام وغیرہ معلوم کیا اور اس سے کہا کہ کم سے کم تین ماہ کا موقع دے دو، تو ہم لے سکتے ہیں، اس نے ایک ہزار روپے کا سوال کیا اور کہا ایک ہزار روپے دے کر بیع نامہ لکھا لو، پھر تین ماہ بعد رجسٹری کرالینا، بہر حال معاملہ طے ہو گیا، ایک ہزار اس کو دے دیا، پھر اپنی پرانی زمین بیچ کر جس میں کافی نفع بھی ہوا اور دوسری زمین رجسٹری کرالی، ابھی تک بھائی کا کوئی تعاون ہم کو نہیں ملا تھا؛ اس لئے کہ وہ ابھی تک پڑھنے لکھنے میں لگا رہا اور پھر میں نے اس زمین پر تعمیر بھی شروع کر دی؛ اس لئے کہ ہمارے پاس دو چار پاورلوم ہو گئے تھے، اور وہ دوسروں کے یہاں چل رہے تھے، اور ہم نے کارخانہ کی شکل میں بنوایا تھا،

اوپر رہنے کے لئے نیچے لوم کے لئے، اب جس بھائی کی عمر ہم نے چھ سال لکھی تھی، آٹھ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد دو سال حافظہ پڑھا، مگر حافظہ میں نہیں چل سکا، تو اس کو بھی ہم نے کام میں لگا لیا، پھر دو سال کے بعد ہم نے اس کی شادی کی، شادی کے پانچ سال کے بعد گھر میں فتنہ کھڑا ہو گیا، اس دوران میں تو منوائمہ والے نئے مکان کا رخا نہ والے میں رہتا، وہ آبائی مکان پرانے میں رہتا تھا، کہ ایک دن تین آدمیوں کو لے کر آیا اور نئے مکان میں بٹوارہ ہو گیا، پھر چھوٹا بھائی بھی اپنے بچوں کے ساتھ نئے والے مکان میں رہنے لگا، اب بات کرنا چھوڑ دیا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ بات چیت ہوتی رہے، علاحدہ رہنا کوئی برائے نہیں، مگر وہ شخص کسی طرح راضی نہ ہوا، پھر میں نے چھوٹے بھائی کے ایک دوست سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ اپنا حصہ جو اس کو ملا ہے، ہم سے رجسٹری کرا لے، تو اس کے دوست نے ہم سے کہا کہ رجسٹری کا آدھا پیسہ تم کو دینا ہوگا، میں نے کہا: میں اپنی کمائی کی رجسٹری کی زمین بھی دوں اور خرچہ بھی کروں، یہ تو ہم سے نہ ہوگا، اس کے بعد چھوٹے بھائی نے دوسری زمین جو اس بٹوارے کی کل زمین سے زیادہ ہے، خود خرید کر اپنا الگ مکان تعمیر کر لیا اور ان کے بچے اس میں رہنے لگے، وہ یہاں بھی رہتے وہاں بھی رہتے؛ اس لئے کہ کھانا وہیں ان کے مکان میں تھا، پھر کبھی رجسٹری کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بچے اپنے نجی مکان میں رہتے ہیں، متضاد مکان خالی پڑا ہے، اب دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے بیچ جو معاہدہ ہوا تھا وہ رد ہو گیا کہ نہیں اس مکان کا مالک کون ہے، چھوٹے بھائی کے لڑکے یا بڑا بھائی خود جس کے نام سے رجسٹری ہے؟

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کی پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو زمین بڑے بھائی نے اپنے خون پسینہ کی کمائی سے خریدی ہے، وہ پوری زمین اور مکان اسی بڑے بھائی کی ملکیت ہے، پھر گھر میں اختلاف پیدا ہونے کے بعد تین آدمیوں کی موجودگی میں بڑے

بھائی نے بخوشی بٹوارہ کر کے اپنی ملکیت کی زمین اور مکان کا جو حصہ چھوٹے بھائی کی ملکیت میں دے دیا ہے اور مزید بڑے بھائی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے حصہ کا مجھ سے رجسٹری کروالے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو حصہ بٹوارہ کر کے چھوٹے بھائی کو دے دیا ہے وہ بڑے بھائی کی طرف سے بطور ہبہ چھوٹے بھائی کی ملکیت میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور چھوٹے بھائی نے باضابطہ قبضہ کر کے رہائش بھی اختیار کر لی ہے اور صرف سرکاری پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے رجسٹری کا مسئلہ باقی تھا، اس صورت حال میں وہ حصہ چھوٹے بھائی کی ملکیت ہو چکا ہے اور چھوٹے بھائی کے انتقال ہو جانے کے بعد وہ حصہ چھوٹے بھائی کے وارثین کی ملکیت شمار ہوگی اور دونوں بھائیوں کے بٹوارہ کا معاہدہ بدستور باقی شمار ہوگا؛ اس لئے کہ ہبہ شدہ حصہ پر قبضہ ہو چکا تھا، ہاں البتہ اب بھی رجسٹری کا خرچ ان کے وارثین پر لازم ہے۔

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال: قال عمر - رضي الله عنه - ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، مؤسسة علوم القرآن ۱۰ / ۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

الهبّة تمليك العين بلا عوض، و حكمها ثبوت الملك للموهوب له، وتتم الهبة بالقبض الكامل في محوز مقسوم. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸ / ۴۸۸-۴۹۵، كراچی ۵ / ۶۸۷-۶۸۸)

وليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم، وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضاء. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب الخامس في الرجوع في الهبة، زكريا ۴ / ۳۸۵، جديد ۴ / ۴۰۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸ / ۹۵۲۱)

کیا قبضہ دینے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے؟

سوال [۹۴۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی دو عمر اور بکر لڑکے کے ایک لڑکی چھوڑی اور میراث میں کچھ زیور ایک زمین کا ٹکڑا جس کا عرض ۳۵ رگزر اور طول ۴۵ رگزر ہے چھوڑا، جس میں دو پختہ مکان بنے ہوئے ہیں۔ اور فاضل زمین میں لپٹس کے درخت لگے ہیں، اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور باپ نے اپنی زندگی ہی میں مکان کا بیٹوارہ کر دیا تھا، اور ایک ایک مکان دونوں لڑکوں کو دے دیا تھا، اب میت کی بیوی کے گزارنے کی کیا صورت ہے؟ اور گزارہ کس طرح ہو آیا گزارے کا خرچ مثلاً ۵-۷-۵ روپے دونوں لڑکوں پر ماہانہ تقسیم کر دیا جائے اور ماں یہ رقم لے کر جس کے پاس چاہے رہے یا الگ پکا کر کھائے یا باری باری دونوں لڑکوں کے گھر پر کھانا کھائے، مگر ماں کا دل چھوٹے لڑکے بکر سے لگا ہوا ہے؛ کیوں کہ بڑے لڑکے عمر نے ماں کو بہت ستایا اور وہ اس سے ناراض ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی حد تک باپ کا ترکہ اور اس کی جائیداد سمجھی جائے گی؛ کیوں کہ لڑکوں نے جوان ہونے تک اور شادی ہونے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک ایک ساتھ اور ایک جگہ رہ کر کمایا ہے، کیا لڑکے اپنی اپنی کمائی ترکہ میں سے نکال لیں اور ترکہ میں شمار نہ ہو؟

(۳) نیز اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنے باپ کا کٹر دشمن ہے اور اپنے باپ کو خوب گالیاں دیں اور خوب مارتا پیٹتا رہا تب بھی اس کو ترکہ میں حصہ دیا جائے گا؟

(۴) اور کیا باپ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں وصیت کر جائے کہ نافرمان اولاد کو ترکہ نہ دیا جائے؟

(۵) کیا وہ اپنی زندگی میں یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد روپیہ پیسہ نافرمان مغضوب لڑکے کو چھوڑ کر باقی اولاد کو تقسیم کر دے، یا ان کے نام کرادے؟ شریعت کے مطابق

نہایت واضح اور صاف عبارت میں جواب اسی پرچہ کے پشت پر عنایت فرمادیتے۔
المستفتی: خلیل احمد انصاری، محلہ ٹنڈولہ ٹانڈہ بادی رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) بشرط صحت سوال اگر باپ نے اپنی حیات میں بحالت صحت دونوں مکان لڑکوں کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا ہے، تو دونوں لڑکے اپنے اپنے قبضہ شدہ مکان کے مالک ہو چکے ہیں، ان مکانات میں دیگر ورثاء کا حق نہیں ہوگا۔

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (الدرالمختار، کتاب الهبة، کراچی ۵/۶۹۰، زکریا ۸/۴۹۳، ہندیہ زکریا قدیم ۴/۳۷۷، جدید ۴/۳۹۹، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/۴۹۱)

اور ماں کا خرچ شرعاً دونوں لڑکوں پر واجب ہے۔ اور نفقہ کی مقدار اور ماں کی رہائش کے بارے میں آپسی مشورہ سے طے کیا جائے، باری باری کے طریقے سے اور کسی ایک کے پاس رہ کر اور کسی دوسری جگہ رہ کر آپسی صلح و رضا مندی سے ہر طرح جائز ہے، خرچ ہر حال میں دونوں لڑکوں پر لازم ہے۔

وعلى الرجل أن ينفق على أبويه، وأجداده، وجداته إذا كانوا فقراء.

(ہدایہ، کتاب الطلاق، باب النفقة، اشرفی دیوبند ۲/۴۴۵)

(۲) باپ کے ساتھ رہ کر لڑکوں نے جو کمایا ہے وہ سب شرعاً باپ کی ملکیت ہے، باپ کے ترکہ میں سے اپنی کمائی کی مقدار الگ کرنے کا حق لڑکوں کو شرعاً نہیں ہوگا؛ بلکہ سب باپ کے ترکہ میں شمار ہوگا۔

الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء، فالكسب

كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معيناً له. (شامی، کتاب الشركة، فصل

في الشركة، زکریا ۶/۵۰۲، کراچی ۴/۳۲۵)

(۳) وراثت کا حق شرعاً غیر اختیاری ہے، باپ کے نافرمان لڑکے کو بھی باپ کی موت کے بعد ترکہ میں سے شرعاً حصہ ملتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۵/۶۳، جدید ڈائجیل ۲۰/۴۸)

الإرث جبری لا یسقط بالإسقاط. (تکملة ردالمحتار، کتاب الدعوی،

مطلب: واقعة الفتوی کراچی ۷/ ۵۰۵، زکریا ۱۱/ ۶۷۸)

(۴) نافرمان اولاد کو ترکہ میں سے حصہ نہ دینے کی وصیت کو عرف میں عاق کرنا کہا جاتا ہے، شرعاً یہ وصیت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اور اولاد نافرمان کو بھی ترکہ میں سے حصہ مل جائے گا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۴/ ۳۱۸)

(۵) نافرمان اولاد کو نہ دے کر اپنی زندگی میں نیک صالح اولاد کو دے دینا جائز ہے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأدباً، ولا يعطى منهم من

كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، قدیم ۲/ ۳۵۸، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۹۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۱ھ/۵/۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/ ۲۲۰۳)

ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے

سوال [۹۴۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زہرہ بیگم بیوہ نے اپنی حیات میں اپنا مکان نمبر ایک اپنی اکلوتی بیٹی جمیلہ بیگم کو تحریری طور پر بگواہ خلیل الرحمن، عزیز الرحمن، غلام مصطفیٰ، محمد سلیمان، عبدالحق، نور الحق، حبیب الحق، مظہر الحق، حفیظ الرحمن، محمد انوار، محمد ادریس، سراج الحق ہبہ کر دیا اور مکان پر جمیلہ کو قبضہ بھی کر دیا؛ لہذا جمیلہ مع اہل و عیال اور والدہ زہرہ بیگم کے رہنے لگی اور دوسرا مکان جو زہرہ بیگم نے اپنی حیات میں اپنے نواسوں (محمد صالح، احتشام الحق، تنویر الاسلام کو تحریری طور پر مذکورہ بالا بارہ گواہوں کی گواہی کے ساتھ ہبہ کر دیا؛ لیکن وہ مکان ہبہ سے پہلے سے کسی کو کرایہ پر دے رکھا ہے اور کرایہ دار اس میں اسکول چلاتے ہیں اور کرایہ تینوں نواسوں سے وصول کرتے ہیں۔ اور تیسرا

مکان زہرہ بیگم نے اپنے چوتھے نواسے محبوب الحق کو ہبہ کر دیا؛ لیکن وہ مکان ہبہ سے پہلے سے کسی غیر کے قبضہ میں ہے، اس کے تخلیہ کے لئے زہرہ بیگم نے اپنے داماد اور نواسے کے ذریعہ مکان پر قابض شخص سے عدالت میں مقدمہ چلایا اور مقدمہ کا فیصلہ عدالت نے زہرہ بیگم کے نام کر دیا؛ لیکن مکان خالی نہیں ہو سکا کہ زہرہ بیگم کا انتقال ہو گیا، اب نواسے محبوب الحق کا لڑکا چلا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زہرہ بیگم کا اپنے تینوں مکانوں کا شکل مذکورہ بالا میں ہبہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور جن کے نام ہبہ کیا گیا ہے وہ ان مکانوں کے مالک ہوئے یا نہیں؟ بیوہ زہرہ بیگم اپنی بیٹی داماد اور نواسوں کے پاس ہی رہتی تھیں، اور وہی سب ان کے نان و نفقہ کسوہ کا بار اٹھاتے تھے، دوسرے نمبر کے مکان میں رہ رہے کرایہ دار سے کہا گیا کہ یا تو کرایہ بڑھا کر دیتے یا مکان خالی کر دیتے؛ لیکن انہوں نے تاہنوز نہ ہی کرایہ بڑھایا نہ ہی مکان خالی کیا ہے، کچھ عرصہ سے محمد صالح، احتشام الحق اور تنویر الاسلام نے کرایہ لینا موقوف کر دیا، نیز کرایہ دار جب تک کرایہ دیتے رہے جب تک کرایہ کی رسید پر مالک مکان بنام زہرہ بیگم ہی رہا، تیسرا مکان جس کا عدالتی فیصلہ زہرہ بیگم کی حیات میں زہرہ بیگم کے حق میں ہو گیا تھا؛ لیکن مکان تاہنوز مہوب الیہ محبوب الحق بھی خالی نہیں کرا سکے۔ اور ۱۹۸۷ء میں زہرہ بیگم کا انتقال بھی ہو گیا اور محبوب الحق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اب محبوب الحق کے لڑکے شہاب عادل، تابش مسلم مکان کے تخلیہ کے لئے مقدمہ چلا رہے ہیں۔

المستفتی: تنویر الاسلام، شاہ آباد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) زہرہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی جمیلہ بیگم کو جو تحریری طور پر گواہوں کی موجودگی میں مکان ہبہ کیا ہے، جس پر جمیلہ کو اپنی زندگی میں قبضہ بھی دلادیا ہے، تو یہ ہبہ شرعاً معتبر ہے اور جمیلہ اس کی مالک ہوگئی۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو

بردة: إن سرک يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله

عنه- قضی فی الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسّمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفکر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار، کتاب الهبة، زکریا ۸/ ۴۹۳، کراچی ۵/ ۶۹۰، ہندیہ زکریا قدیم ۴/ ۳۷۴، جدید ۴/ ۳۹۵، بدائع الصنائع، زکریا ۵/ ۱۷۶، کراچی ۶/ ۱۲۳، ہدایہ اشرفی ۳/ ۲۸۳، شرح المحلّة رستم اتحاد ۱/ ۴۲، رقم: ۵۷)

وقال: جعلت لك هذه الدار، أو هذه الدار لك، فاقبضها، فهو هبة

هكذا في فتاوى قاضيخان. (ہندیہ، کتاب الهبة، زکریا قدیم ۴/ ۳۷۵، جدید ۴/ ۳۹۶)

(۲) اور زہرہ بیگم نے جو دوسرے نمبر کا مکان اپنے تین نواسوں: محمد صالح، احتشام الحق، تنویر الاسلام کو تحریری طور پر گواہوں کی موجودگی میں ہبہ کیا ہے اور زہرہ کی زندگی میں ہی ان تینوں کی طرف اس کا کرایہ منتقل ہونے لگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زہرہ نے ان کو قبضہ بھی دے دیا؛ لہذا یہ ہبہ بھی شرعاً معتبر ہے۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قضی فی الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، موسسة علوم القرآن، جدید ۱۰/ ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار، کتاب الهبة، زکریا ۸/ ۴۹۳، کراچی ۵/ ۶۹۰، ہندیہ زکریا قدیم ۴/ ۳۷۴، جدید ۴/ ۳۹۵، بدائع الصنائع، زکریا ۵/ ۱۷۶، کراچی ۶/ ۱۲۳، ہدایہ اشرفی ۳/ ۲۸۳، شرح المحلّة رستم اتحاد ۱/ ۴۲، رقم: ۵۷)

(۳) زہرہ بیگم نے تیسرے نمبر کا مکان جو اپنے چوتھے نواسے محبوب الحق کو ہبہ کیا ہے، یہ قبضہ نہ دلانے کی وجہ سے ہبہ تام نہیں ہوا؛ اس لئے یہ ہبہ ناقابل اعتبار ہوگا۔ اور اس مکان میں زہرہ بیگم کے شرعی ورثاء کا حق متعلق ہو جائے گا۔

عن عبدالرحمن بن عبدالقاری قال: قال عمر -رضي الله عنه- ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيهقي، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، موسسة علوم القرآن ۱۰/ ۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

ومنها: أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. (هندية، كتاب الهبة، زكريا قديم ۴/ ۳۷۴، جديد ۴/ ۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۶/۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۴۹/۳۵)

کیا الگ الگ کمروں میں رہائش دینے سے ہبہ مکمل ہو جاتا ہے؟

سوال [۹۴۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کا ایک مکان مع صحن دارچند کمروں مع برآمدہ پر مشتمل ہے، نیچے کے دو کمروں میں دو لڑکوں کو رہائش کرا دی اور تیسرے لڑکے کو اپنے کمرہ کے اوپر کمرہ بنوادیا اور زید ان کمروں میں بھی متصرف رہا ہے، یعنی اپنی کتابیں صندوق وغلہ وغیرہ ان ہی کمروں میں برابر رکھتے رہے ہیں اور کمروں کی برابر مرمت بھی کراتے رہے ہیں اور زید کی طرف سے کسی کو ان کمروں کا مالک بنانا اور قابض بنا کر خود بے دخل ہونے کی صراحت نہیں ہے، مکان کے قابل ہٹوارہ ہونے کے باوجود زید نے مکان میں سے کسی کو کوئی چیز اپنے اور دوسرے لڑکوں کے درمیان محدود و متعین و مفرغ کر کے الگ الگ نہیں کیا ہے؛ بلکہ تمام کمروں کی چھت اور اوپر کے کمروں میں جانے کا زینہ اور راستہ اور تمام کمروں کی دیواریں اور صحن سب مشترکہ و مشاع ہیں، مقاسمت کا عمل جو قبضہ تمام کے لئے ضروری ہے زید کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا ہے، زید کا انتقال ہو چکا ہے، اس بات کے معتبر گواہ موجود ہیں کہ جب ان سے مکان کے ہٹوارہ

کرنے کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے تقسیم کرنے سے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ تقسیم میراث مرنے کے بعد ہوتی ہے؛ لہذا ایسی صورت میں کسی ایک وارث کا ایسی چیز کو جو تملیک عین کے لئے قانوناً یا عرفاً موضوع نہیں ہے، ہبہ کا قرینہ قرار دے کر ہبہ کا دعویٰ کرنا کیا شرعاً درست ہے اور اس کو ایجاب ہبہ قرار دیا جاسکتا ہے جو کہ ہبہ کا رکن اعظم ہے، نیز صرف کیا دعویٰ کرنے سے ہبہ کا ثبوت ہو جائے گا؟ جب کہ کوئی شہادت بھی موجود نہیں ہے؟ اور دیگر وارثین ہبہ کے منکر ہیں یا پورے مکان کو ترکہ زید قرار دے کر وارثین کے درمیان بقدر حصص شرعیہ تقسیم ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب باصواب سے نواز کر عند اللہ ماجور وعند الناس مشکور ہوں۔ فقط والسلام

المستفتی: محمد حنیف احمد آباد جمال پور، چیپاواڑ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مکان کے الگ الگ کمروں یا الگ الگ منزلوں میں بیٹوں کو رہائش دینے سے باپ کی طرف سے نہ ہبہ شمار ہوتا ہے اور نہ ہی بیٹے رہائشی حصے کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اس کو ہبہ کا قرینہ بھی نہیں قرار دیا جاسکتا؛ اس لئے باپ کے مرنے کے بعد رہائشی مکان کی ہر منزل میں ہر ایک شرعی وارث کا حق متعلق ہوگا۔ اور اسے شرعی طور پر تقسیم کرنا بھی لازم ہوگا۔ اور لڑکیاں بھی اس میں حصہ دار ہوں گی، اگر مکان قابل تقسیم نہیں ہے، تو اس کی قیمت لگا کر سارے حق داروں کے درمیان قیمت تقسیم کر دینا لازم ہے۔

وشرائط صحتها في موهوب: أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول، ورکنها: هو الإيجاب والقبول. وتحتہ فی الشامیة: وذكر فی الکرمانی: أنها تفتقر إلى الإيجاب؛ لأن ملک الإنسان لا ینقل إلى الغير بدون تملیکه وإلى القبول؛ لأنه إلزام الملک علی الغير. (الدرالمختار مع الشامی، کتاب الہبۃ، ذکر یاد دیوبند ۸/ ۴۹۰، کراچی ۵/ ۶۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ

۱۴۳۶/۶/۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۰۲۵/۴۱)

دستخط شدہ سادہ کاغذ پر دستخط کنندہ کی مرضی کے خلاف لکھوانا

سوال [۹۴۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے شوہر کو اپنے انتقال سے ڈیڑھ سال پہلے پتھری کی بیماری ہو گئی تھی، تو آپریشن سے پہلے اپنے بھتیجے سے دو اسٹامپ پیپر منگوائے اور سادے کاغذ پر دستخط کر کے مجھے دے دیئے۔ اور کہا کہ اس میں جو چاہو لکھوا سکتی ہو، آج کل کی اولادوں کا کوئی بھروسہ نہیں، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ میں ان کی طرف سے ہبہ نامہ لکھوا سکتی ہوں اور اس کا شرعاً اعتبار ہوگا یا نہیں؟

المستفتیۃ: نسیم جہاں شیدی سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سادہ کاغذ پر دستخط کروانے کا کوئی اعتبار نہیں؛ بلکہ تحریر کے بعد دستخط کا اعتبار ہوتا ہے اور سادہ کاغذ پر دستخط کر لینا اور لینے والے کا اپنی مرضی کے مطابق اس پر لکھنا اس آیت کریمہ کے مقصد کے خلاف ہے۔

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. [البقرة: ۲۸۲] فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

۱۴۱۶/۶/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰/۴۴۸۸)

جس کا دماغی توازن درست نہ ہو اس سے ہبہ نامہ پر انگوٹھا لگوانا

سوال [۹۴۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شریف احمد کے لڑکے کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، کیا اس کی حیات میں اس کا حصہ کوئی دوسرا شخص لے سکتا ہے؟ اگر کوئی اس سے انگوٹھا لگوالے تو کیا ہبہ نامہ وغیرہ معتبر ہوگا؟

المستفتی: انصار احمد قاضی ٹولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: شریف احمد کے لڑکے کی موجودگی میں اس کا حصہ کوئی دوسرا شخص نہیں لے سکتا، اس کے مرنے کے بعد ہی اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا اور کسی کے شریف احمد کے لڑکے سے انگوٹھا لگوانے کی وجہ سے اس کا ہبہ معتبر نہ ہوگا؛ کیوں کہ ہبہ کے لئے عاقل و بالغ کا ہوش و حواس درست ہونا شرط ہے اور اس کے ہوش و حواس اور دماغی توازن درست نہیں؛ اس لئے اس کا ہبہ معتبر نہیں۔

وهل إرث الحي من الحي أم من الميت؟ المعتمد الثاني، وتحتہ في الشامية قوله من الحي: أي قبيل الموت في آخر جزء من أجزاء حياته.

(شامی، کتاب الفرائض، زکریا ۱۰/۴۹۳، کراچی ۶/۷۵۸-۷۵۹)

وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملک فلا تصح هبة المجنون. (البحر الرائق، کتاب الهبة، کوئٹہ ۷/۲۸۴، زکریا ۷/۴۸۳، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/۳۷۸، جدید ۴/۳۹۵، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۱۴/۴۱۲، رقم:

۲۱۵۳۶، شامی، زکریا ۸/۴۸۹، کراچی ۵/۶۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۳/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۹۶۰)

شرعی ثبوت کے بغیر محض سول حج کے فیصلہ سے ملکیت ثابت نہ ہوگی

سوال [۹۴۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حکیم نوشہ خان صاحب، چندہ خان صاحب، حامد علی خان صاحب اور سلیمان خان صاحب، یہ چار بھائی تھے، ان چاروں میں سے سب سے بڑے بھائی حکیم نوشہ خان صاحب اور سب سے چھوٹے بھائی سلیمان خان صاحب نے شادی نہیں کی، یہ دونوں لا ولد رہے،

چندہ خان صاحب اور حامد علی خان صاحب نے شادی کی اور چندہ خان کے ایک لڑکا چار لڑکیاں اور حامد علی خان کے چھ لڑکے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ چندہ خان اور حامد علی خان کے کوئی مکان اپنی ملکیت کا باقی نہیں رہا، جو تھا وہ خرد برد کر کے ختم کر دیا۔ اور حکیم نوشہ خان صاحب جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے دو مکان تھے، دونوں مکانوں میں سے ایک مکان واقع محلہ بھٹی حامد علی کے دو لڑکے حکیم شاہ علی خان اور کوثر علی کے نام بہہ کر کے قبضہ دے دیا اور سول جج کے ذریعہ بہہ کے اقرار نامہ پر حکیم نوشہ خان صاحب نے اقراری دستخط کیا ہے۔ اور دوسرا مکان حامد علی کے لڑکے رحمت علی کے نام سول جج کے ذریعہ سے بہہ کر دیا اور سول جج کے فیصلہ کے مطابق سرکاری کاغذات موجود ہیں۔ اور سب سے چھوٹے بھائی سلیمان خان کے چار مکان تھے، ان میں سے ایک مکان واقع محلہ کھوکران سرائے کشن لال اپنے بڑے بھائی نوشہ خان صاحب کے نام وصیت کر دی، پھر اس کے بعد نوشہ خان صاحب نے اپنے بھتیجے رحمت علی خان و شاہ علی خان کو زبانی بہہ کر دیا، پھر اس کے بعد نوشہ خان صاحب کے مشورہ سے دونوں موہوب لہ نے مدرسہ شاہی کے نام وقف کر دیا۔ باقی تین مکان واقع محلہ بھٹی بڑے بھائی نوشہ خان صاحب کو وصیت کر دی اور پھر نوشہ خان صاحب نے ان تینوں مکانوں کو اپنے چھوٹے بھائی حامد علی خان کے لڑکے رحمت علی اور شاہ علی کے نام رجسٹری وصیت کر دی۔ اور بقیہ بھتیجے زاہد علی خان، شرافت علی خان، شاہد علی خان، کوثر علی خان کے نام کچھ نہیں کیا۔ اور چندہ خان کے بیٹے خورشید احمد خان کے نام بھی کچھ نہیں کیا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جن پانچ بھتیجوں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے، ان کو اس جائیداد میں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ وہ پانچ حسب ذیل ہیں:

حامد علی خان کے بیٹے زاہد علی، شرافت علی خان، شاہد علی خان، کوثر علی خان، لیاقت علی خان عرف چندہ خان کے بیٹے خورشید احمد خان۔ یہ پانچوں اس بات کے دعویدار ہیں کہ جو کچھ بھی وصیت سے متعلق رحمت علی خان اور شاہد علی خان دعویٰ کرتے ہیں کہ سلیمان علی خان

نے نوشہ علی خان کو وصیت کرنے کی بات اسی طرح رحمت علی خان اور شا کر علی خان کے نام ہبہ کرنے کی بات اور شاہی مسجد کے نام وقف کرنے کی بات یہ سب فرضی کاغذات بنا کر فرضی دعویٰ ہے؛ اس لئے ان میں ہم لوگوں کا بھی مکمل طریقہ سے حصہ ہے اور فرضی کاغذات بنا کر فرضی دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں؛ لہذا شریعت اسلامیہ کا اس سلسلہ میں کیا حکم ہے؟ اس سے ہم کو آگاہ کر دیا جائے کہ جن لوگوں کو ملا ہے وہی اس کے حق دار ہیں، یا جن کو نہیں ملا ہے وہ بھی حق دار ہیں؟

المستفتی: رحمت علی خان محلہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تمام کاغذات کا بار بار مطالعہ کیا گیا، آخر ہم شرعی طور پر اس نتیجہ پر پہنچے کہ حکیم نوشہ علی خان کے دو مکانوں کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان دو مکانوں میں سے ایک مکان واقع محلہ بھٹی حامد علی خان کے دوڑ کے شاکر علی خان اور کوثر علی خان کو ہبہ کر کے قبضہ کر دیا اور سول جج کے فیصلہ نامہ پر حکیم نوشہ علی خان نے اقراری دستخط کر دیئے۔ اور دوسرا مکان حامد علی خان کے لڑکے رحمت علی خان کے نام سول جج کے ذریعہ ہبہ کر دیا، ان دونوں مکانوں کے بارے میں کاغذات پر خوب غور و خوض کر کے دیکھا گیا، تو اس میں نوشہ علی خان کی طرف سے ہبہ کی صراحت ہم کو نہیں ملی اور سول جج کا فیصلہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں شا کر علی خان اور کوثر علی خان کے نام سے ہبہ یا دعویٰ کچھ نہیں ثابت ہے؛ اس لئے شا کر علی خان اور کوثر علی خان کے نام سے جو ہبہ کرنے کی بات ہے وہ ہمارے سامنے ثابت نہیں ہو سکی اور رحمت علی خان کے نام سے جو فیصلہ کی بات ہے، اس کے متعلق سول جج کا فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سوال نامہ میں دعویٰ کیا گیا کہ نوشہ علی خان کے اس پر اقراری دستخط ہیں، سول جج کے فیصلہ میں ہمیں نوشہ علی خان کا اقراری دستخط نہیں ملا اور محض سول جج کے فیصلہ کی وجہ سے ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتا، جب تک کہ اصل مالک کی طرف سے شرعی ہبہ کا ثبوت نہ ہو جائے اور اصل مالک کی

طرف سے شرعی ہبہ کا ثبوت ہم کو حاصل نہ ہو سکا؛ لہذا رحمت علی خان کے نام سے جس مکان کے ہبہ کا دعویٰ ہے وہ بھی شرعی طور پر ہمارے سامنے ثابت نہیں ہو سکا اور سلیمان خان کے چاروں مکانوں کے متعلق جو سوال نامہ میں ذکر ہے کہ سلیمان خان نے نوشہ علی خان کو چاروں مکانوں کی وصیت کر دی تھی اور سلیمان خان لا ولد تھے، تو سلیمان خان کے چاروں مکانوں کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ حکیم نوشہ علی خان شرعی طور پر سلیمان خان کے وارث ہیں اور شریعت کے نزدیک وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے حکیم نوشہ علی خان وصیت کے ذریعہ سلیمان خان کے چاروں مکانوں میں سے کسی ایک مکان کا بھی مالک نہیں ہوا، پھر اس کے بعد نوشہ علی خان کا موصلیٰ لہ بن کر مالکانہ تصرف بھی صحیح نہیں ہوا؛ لہذا بعد میں ان چاروں مکانوں میں سے ایک مکان واقع محلہ کھوکران سرانے کشن لال اپنے بھتیجے رحمت علی خان و شا کر علی خان کو زبانی ہبہ کر دینا بھی درست نہ ہوا، پھر اس کے بعد نوشہ خان کے مشورہ سے دونوں موہوب لہ کا اس مکان کو مدرسہ شاہی کے نام وقف کر دینا بھی درست نہیں ہوا؛ لہذا مدرسہ شاہی پر اصل واقعہ معلوم ہونے کے بعد وہ مکان وارثین کو واپس کر دینا لازم ہے، اس میں سلیمان خان کے تمام وارثین کا حق متعلق ہے، جو بھی اس کے وارث بن سکتے ہوں۔ اور سلیمان خان کے باقی تین مکانات واقع محلہ بھی نوشہ علی خان کا ان مکانوں کا موصلیٰ لہ بن کر اپنے بھتیجے رحمت علی اور شا کر علی کے نام وصیت کر دینا بھی درست نہیں ہے، نیز نوشہ علی خان کو وراثت کے ذریعہ سے سلیمان خان کے مکانات میں سے جو کچھ بھی مل سکتا تھا، اس کی بھی دو بھتیجوں کے نام وصیت کر دینا اور باقی پانچ بھتیجوں کو اپنی وراثت سے محروم کر دینا درست نہیں ہوا؛ اس لئے تمام بھتیجے نوشہ علی خان کے وارث ہیں۔ اور بعض وارث کے حق میں شریعت میں وصیت درست نہیں ہے؛ اس لئے سلیمان خان کے چاروں مکانات اس کے شرعی وارثین کی وراثت میں منتقل ہو جائیں گے اور وصیت باطل ہو جائے گی، اسی طرح نوشہ علی خان کی وصیت بھی شرعی طور پر باطل ہوگی اور اس کی ملکیت کی چیزیں بھی اس کے تمام شرعی وارثین کے حق میں منتقل

ہو جائیں گی؛ لہذا مذکورہ مکانات کے مالک صرف رحمت علی خان و شا کر علی خان نہیں ہو سکتے؛ بلکہ ساتوں بھتیجے، رحمت علی خان، شا کر علی خان، شرافت علی خان، کوثر علی خان، شاہد علی خان، لیاقت علی خان، خورشید احمد خان، حقیقی بھائی کے زندہ نہ ہونے کی صورت میں سب برابر کے شریک ہوں گے اور یہ سب متفق ہو کر بلا کسی اختلاف کے بعد میں مدرسہ شاہی کے لئے کچھ وقف کرنا چاہیں تو وہ ان کے اختیار میں ہے۔ اور ان پر کوئی زور وارد باؤ نہیں ہو سکتا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفکر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (سنن الترمذي، باب ماجاء لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲/ ۳۲، دارالسلام، رقم: ۲۱۲۰، سنن ابي داؤد، باب في الوصية للوارث، النسخة الهندية ۲/ ۳۹۶، دارالسلام، رقم: ۲۸۷۰، سنن الدارمي، دارالمغني للنشر والتوزيع ۴/ ۶۳، رقم: ۳۳۰۳)

والقبض لا بد منه لثبوت الملك. (هداية، كتاب الهبة، اشرفي ۳/ ۲۸۳)

ولا تجوز لوارثه لقوله عليه السلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية للوارث؛ ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض، ففي تجويزه قطيعة الرحم، ولأنه حيف بالحديث الذي روينا. (هداية، كتاب الوصية، اشرفي ۴/ ۶۵۷)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/رجب ۱۴۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/۷/۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۷/۳۷۷)

شرعی گواہوں کی شہادت یا ثبوت کے بغیر ہبہ کے دعویٰ کا اعتبار نہیں

سوال [۹۴۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مرحوم حاجی محمد جان صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے وارثین میں چھ لڑکیاں اور چار پوتے چھوڑے اور ملکیت چھوڑی، کچھ بمبئی میں اور کچھ اپنے وطن میں اور بمبئی کی ملکیت کی تفصیل یہ ہے کہ بمبئی میں پگڑی کا ایک مکان ایک گاڑی اور ایک دوکان میں حصہ تھا، مرحوم کا ایک لڑکا محمد عمر نامی تھا، جس کا انتقال اپنے والد صاحب سے قبل ہو گیا تھا، محمد عمر کے چار لڑکے تھے، اب محمد عمر کی بیوی حمیدہ کا کہنا ہے کہ جان محمد بھائی نے اپنے لڑکے محمد عمر کو بمبئی کی تینوں ملکیتیں بخش کر دی تھیں۔ اور پگڑی کے مکان کی کرایہ داری اپنے لڑکے کے نام منتقل کر دی تھی اور کرایہ کی رسید بھی لڑکے کے نام پر ہی آئی تھی اور کرایہ بھی لڑکا ہی ادا کرتا تھا اور قبضہ بھی دے دیا تھا، یعنی لڑکا ہی گاڑی دو مکان اور مکان میں مالکانہ تصرف کرتا تھا اور حاجی جان محمد اپنے وطن تینوں واڑہ چلے آئے تھے، ہبہ کے تقریباً چار سال بعد جان محمد بھائی کا لڑکا محمد عمر کا انتقال ہو گیا، لڑکے کے انتقال کے بعد مذکورہ تینوں ملکیتیں مرحوم کی بیوی بچوں کے تصرف میں رہیں، اس کے بعد حاجی جان محمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد بھی تقریباً ۱۹ سال تک مذکورہ تینوں ملکیتیں محمد عمر کی بیوی بچوں کے تصرف میں رہیں۔ اب ۱۹ سال کے بعد مرحوم حاجی جان محمد صاحب کی چھ لڑکیاں اپنے والد صاحب کی ملکیت میں حق وراثت مانگ رہی ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے والد نے ان کی کوئی ملکیت ہمارے بھائی کو بخشش نہیں کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ ہبہ کی منکر ہیں؛ اس لئے والد صاحب کی تمام ملکیت میں ہمارا حق وراثت لگنا چاہئے اور ۱۹ سال تک حق وراثت کا مطالبہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتلاتی ہیں کہ چونکہ ہمارے بھتیجے بہت چھوٹے تھے؛ اس لئے ہم نے حق وراثت مانگنا مناسب نہ سمجھا اور ہم اس پر مطمئن تھے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ خود ہی اپنی فکر سے دے دیں گے، مگر انہوں نے ہم کو کسی طرح کا حق نہیں دیا، صرف سات سات

ہزار بغیر حساب کے اندازے سے دے دئے؛ اس لئے ہمارا حق وراثت باقی ہے، مذکورہ تفصیل کے پیش نظر چند امور دریافت طلب ہیں:

- (۱) صورت مسئلہ میں مدعی کون ہے اور مدعی علیہ کون؟ جب کہ محمد عمر کی بیوی اور بچے جان محمد صاحب کی ملکیت میں ہبہ کے دعویٰ دار ہیں اور لڑکیاں ہبہ کی منکر ہیں؟
- (۲) جان محمد صاحب کی لڑکیاں وراثت میں مطالبہ کر رہی ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟
- (۳) لڑکیوں نے جو سات سات ہزار روپے لئے ہیں وہ بغیر حساب و کتاب کے اندازے سے لئے ہیں اور اس میں بھی ان کی رضامندی نہیں تھی، تو اس کو مصالحت قرار دیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: ابو بکر بھائی ٹیپیل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مرحوم حاجی جان محمد صاحب کی ملکیت جو ان کے لڑکے کی تحویل میں تھی اور لڑکا اس پر تصرف کر رہا تھا، تو محض تصرف کرنے سے اس کی ملکیت نہیں سمجھی جائے گی اور حمیدہ (بیوی) کا یہ دعویٰ کرنا کہ جان محمد نے اپنے لڑکے محمد عمر کو بمبئی کی تینوں ملکیتیں ہبہ کر دی تھیں تو اس کے لئے شرعی گواہوں کی شہادت یا اس کے ثبوت میں رجسٹری شدہ سرکاری طور پر پکا کاغذ ہونا لازم ہے، محض کسی کے نام پر کرایہ داری کو منتقل کر دینے سے اس کی ملکیت نہیں ہوتی، اب جب کہ محمد عمر کے انتقال کے بعد حاجی جان محمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو حاجی جان محمد صاحب کی ساری جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اس کے تمام وارثین کے درمیان شرعی طور پر تقسیم ہوگی۔ اور وراثت میں حاجی جان محمد کی تمام لڑکیوں کو مکمل حصہ ملے گا۔ اور لڑکیوں کو جو سات سات ہزار روپے دئے گئے ہیں، جب کہ لڑکیاں اس مصالحت پر راضی نہیں ہیں، تو اس کو مصالحت قرار نہیں دیا جائے گا؛ بلکہ اس کو ان کے حق وراثت میں مجرئی کر دیا جائے گا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، مؤسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال: قال عمر -رضي الله عنه- ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، مؤسسة علوم القرآن ۱۰ / ۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

وتتم الهبة بالقبض الكامل، ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به، والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها. (درمختار مع الشامی، کتاب الهبة، زکریا ۸ / ۴۹۳، کراچی ۵ / ۶۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۶/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۱۱۵)

جائیداد تقسیم ہونے سے قبل ہبہ کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۴۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ذکی الدین مرحوم کا انتقال ہوا، بوقت انتقال ان کے ورثاء میں صرف ایک بھائی تقی الدین تھے، پھر تقی الدین کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے ورثاء میں تین لڑکے محمد آصف، محمد خالد، محمد عثمان اور تین بیٹیاں نشاط پروین، نسرین فاطمہ، زرین فاطمہ اور بیوی تہذیب فاطمہ کوچھوڑا، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ذکی الدین کا ترکہ مذکورہ وارثین میں شرعاً کس طرح تقسیم ہوگا، اور کس کو کتنے سہام ملیں گے؟ نیز واضح رہے کہ ذکی الدین

جو لا ولد فوت ہو گئے، انہوں نے اپنا حصہ اپنے بھتیجے محمد خالد کو ہبہ کر دیا تھا، جب کہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو شرعاً یہ ہبہ کیسا ہے؟

المستفتی: محمد آصف محلہ تمباکو والان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ اور ہبہ نامہ دونوں پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مرحوم ذکی الدین نے اپنا حصہ جو اپنے بھتیجے محمد خالد کو ہبہ کیا ہے، وہ مکان کے تقسیم ہونے سے پہلے ہبہ کیا ہے؛ لہذا جب انہوں نے تقسیم کر کے اپنا حصہ الگ کئے بغیر ہبہ کر دیا ہے، تو ایسا ہبہ شرعاً معتبر نہیں؛ اس لئے کہ ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے اور یہاں مال موہوب تقسیم شدہ نہ ہونے کی وجہ سے قبضہ کے قابل نہیں ہے؛ اس لئے یہ ہبہ درست نہیں ہوا۔

ومنها: أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض، وأن يكون الموهوب مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة، وأن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب، ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب. (عالمگیری، کتاب الہبہ، الباب الأول، زکریا قدیم ۴/۳۷۴، جدید ۴/۳۹۵، شامی، زکریا ۸/۴۸۹، کراچی ۵/۶۸۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۰/۲۲۵، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۴۹۱، مصري قدیم ۲/۲۵۳)

لہذا مرحوم ذکی الدین کی جائیداد ان کے شرعی وارثین کے درمیان درج ذیل نقشہ کے مطابق تقسیم ہوگی:

ذکی الدین می

بیوی	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکی	لڑکی
تہذیب فاطمہ	محمد آصف محمد خالد	محمد عثمان	نشاط پروین	نسرین فاطمہ	زرین فاطمہ	
۱		۷				
۹	۱۴	۱۴	۷	۷	۷	

مرحوم ذکی الدین کا ترکہ ۷۲ سہام میں تقسیم ہو کر ہر وارث کو اتنا ملے گا جو اس کے نام کے نیچے درج ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شعبان ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۹/۳۵)

والد کا اپنے کچھ لڑکوں کے نام سے زمین خریدنا

سوال [۹۴۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے چار لڑکے ہیں، ایک لڑکا تین سال قبل کچھ رقم لے کر چلا گیا تھا، تین لڑکے ماں باپ کے ساتھ رہے اور کاروبار وغیرہ میں دلجمعی سے لگے رہے، جس کی وجہ سے تجارت میں ترقی ہوتی گئی، اب وہ لڑکا واپس آ گیا؛ لیکن تجارت یا گھریلو ذمہ داریوں کو قبول نہ کر کے مستقل نافرمانی اور باعش تکلیف ماں باپ ہے، اب اگر زید کوئی جائیداد خریدنا چاہتا ہے تو کیا (۱) تینوں لڑکوں کے نام خریدے؛ کیوں کہ ان کی محنت سے کاروبار میں ترقی ہوگی، اس میں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہے؟

(۲) اگر چاروں لڑکوں کے نام خریدی جائے تو اس میں کوئی غیر انصافی کی بات تو نہیں؟ یا تینوں لڑکوں کی محنت اور حق کاٹ کر تو نہیں دیا گیا؟

(۳) اگر زید اپنی زندگی میں کسی کو جتنا چاہے دے دے وصیت کر جائے تو اس کا اختیار اس کو حاصل ہے؟

المستفتی: ابو عثمان کانپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کو اختیار ہے چاہے نافرمان لڑکا سمیت چاروں لڑکوں کے نام خریدے یا اس کو چھوڑ کر بقیہ تین لڑکوں کے نام خرید کر مالک بنا دے، شرعاً زید پر کوئی

چیز نہیں، جب کہ نافرمان کو محروم کر دے۔ اور اگر دے دے تو دوسروں پر ظلم بھی نہیں ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶۳/۵، جدید ڈائجیل ۱۶/۳۹۹)

وفي الخانية: ولا بأس بفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنه عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار. (الدرالمختار، كتاب الهبة، كوئٹہ ۴/۵۷۳، كراچی ۵/۶۹۶، زكريا ۸/۵۰۱-۵۰۲، ہندیہ، زكريا قديم ۴/۴۹۱، جديد ۴/۴۱۶، خانۃ جديد ۳/۱۹۴، وعلى هامش الهندية زكريا ۳/۲۷۹)

وإن كان له ولد فاسق لا يعطيه، وينبغي أن لا يعطيه من قوته كي لا يصير معينا له على المعصية. (تاتارخانية، زكريا ۱۴/۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵)

ولو كان ولده فاسقا، فأراد أن يصرف ماله إلى وجه الخير ويحرمه عن الميراث، هذا خير له من تركة. (هنديہ، زكريا قديم ۴/۳۹۱، جديد ۴/۴۱۶، البحر الرائق، كوئٹہ ۷/۲۸۸، زكريا ۷/۴۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ شوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۹۱۹)

”ایف ڈی“ میں نام کرانے سے ہبہ کا ثبوت

سوال [۹۴۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) امام الدین کا انتقال ہو گیا، ان کے ورثاء میں ایک بیوی نور فاطمہ ایک لڑکا سراج الدین اور پہلی بیوی مرحومہ کے لطن سے ایک لڑکا علاء الدین، ایک لڑکی شاہدہ ہے، ترکہ میں تین لاکھ اکتالیس ہزار روپے ہیں، جو والد نے اپنے نام ایف ڈی کر رکھی ہے۔

(۲) میرے والد امام الدین نے دوسری ایف ڈی ایک لاکھ اکتالیس ہزار-1,71,000 روپے کی کی، جس میں اپنا نام اور والدہ کا نام بھی ہے، مشترکہ ایف ڈی کرائی تھی۔

(۳) ایک تیسری ایف ڈی اس طرح کرائی تھی کہ صرف والدہ یعنی اپنی بیوی ہی کے نام کی تھی، جس میں ایک لاکھ انتہر ہزار - 1,69,000 روپے ہیں۔ اور مذکورہ بالا تمام رقمیں والد صاحب ہی نے جمع کی تھیں؛ البتہ والد (اپنی دوسری بیوی) کا نام ڈلواتے تھے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ ایف ڈی میں نام لکھوانے سے ملکیت وہبہ ثابت ہوگا یا نہیں؟ یا تمام ایف ڈی شدہ اپنے نام مشترکہ (شوہر و بیوی) یا صرف بیوی کے نام والی سب شوہر کی ملکیت ہوگی؟ یا جس میں بیوی کا نام ہے اس میں بیوی کا حصہ ہوگا؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: سراج الدین درگاہ نئی آبادی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بر تقدیر صحت سوال وعدم موانع ارث و بعد ادائے حقوق ما لقتدم مرحوم امام الدین کا ترکہ ان کے ورثاء کے درمیان درج ذیل نقشہ کے مطابق تقسیم ہوگا:

بیوی		لڑکا		لڑکی	
نورفاطمہ	۱	سراج الدین	۱۴	علاء الدین	۷
سہام	۵	۱۴	۱۴	۷	۷
ترکہ	۵۳۳۱۲	۱۴۹۲۷۵	۱۴۹۲۷۵	۷۴۶۳۷	۷۴۶۳۷

مرحوم کا کل ترکہ ۴۰ برابر سہام میں تقسیم ہو کر ہر وارث کو اتنا اتنا ملے گا جو اس کے نام کے نیچے ترکہ کے سامنے درج ہے، نیز دوسری بیوی کی اولاد کے ہوتے ہوئے اس بیوی کے نام ایف ڈی کرنا گویا اس کو اپنے حصہ کا مالک بنانا ہے؛ لہذا بیوی کے نام کا حصہ اسی بیوی کی ملکیت ہوگی۔ اور شوہر و بیوی دونوں کے درمیان مشترکہ ایف ڈی دونوں کی ملکیت ہے؛ لہذا شوہر کا آدھا حصہ اس کے ترکہ میں شامل ہو کر حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا اور بیوی کا حصہ اس کی ملکیت ہے، اس میں کسی کو تصرف کا حق نہ ہوگا، نیز واضح رہے کہ ایف ڈی پر جو رائے ملتی

ہے وہ سود ہے، وہ بلائیت ثواب غریبوں کو دے دینا لازم ہے۔

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامی، کتاب الهبة، کراچی ۵/۶۹۰، زکریا ۸/۴۹۳)

ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوى فيه الأجنبي والولد إذا كان

بالغا. (ہندیہ، جدید زکریا ۴/۳۹۹، قدیم زکریا ۴/۳۷۷، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳/۲۸۳)

الربا يقتضى أخذ مال الإنسان من غير عوض. (تفسیر رازی، تحت

تفسیر الآیة: ۲۷۵، من سورة البقرة ۷/۹۳)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

(الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/۳۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۱/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۶۹)

موہوبہ مکان پر قبضہ کیا لیکن رجسٹری نہیں ہوئی

سوال [۹۴۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: نذیر احمد نے اپنی بہن کلثوم بانو کو ان کے احسان کے بدلہ میں تیس گز زمین ہبہ کی اور اس

زمین پر کلثوم بانو کا مالکانہ قبضہ کرا دیا، جس کے بعد کلثوم بانو نے اس زمین پر اپنی دوسری زمین

ملا کر مکان تعمیر کر لیا اور نذیر احمد نے ہاؤس ٹیکس کی رسید بھی کلثوم بانو کے نام سے جاری کرا دی؛

لیکن ابھی رجسٹری نہیں ہوئی تھی کہ نذیر احمد کا انتقال ہو گیا، تو اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ

ہبہ شرعاً صحیح ہوا یا نہیں؟ اور کلثوم بانو اس مکان کی مالک بنی یا نہیں؟ جب کہ محلہ والوں کا کہنا ہے

کہ نہ یہ ہبہ صحیح ہے اور نہ ہی کلثوم بانو مکان کی مالک بنی ہیں؛ بلکہ یہ مکان مرحوم کے ورثاء کا حق

ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا صحیح جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: سلطان خان محلہ گلاب کا باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نذیر احمد نے جب بحالت صحت تیس گرز زمین کلثوم بانو کو ہبہ کر کے مالکانہ قبضہ دے دیا ہے اور کلثوم نے اس پر مکان بھی تعمیر کر لیا ہے، تو ہبہ شرعاً صحیح ہو چکا ہے۔ اور ہبہ کے صحیح ہونے کے لئے شرعاً رجسٹری شرط نہیں ہے؛ لہذا نذیر احمد کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء کا اس میں حق کا دعویٰ کرنا ناجائز نہیں ہوگا اور نہ ہی محلہ والوں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہبہ صحیح نہیں ہوا ہے۔

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۱۷۱)

صحة الهبة بالإيجاب والقبول في حق الموهوب له؛ لأنه عقد فينقصد بهما كسائر العقود. (البحر الرائق، كتاب الهبة، كوثبه ۷/ ۲۸۵، زكريا ۷/ ۴۸۵، هداية، أشرفی دیوبند ۳/ ۲۸۳، درمختار کراچی ۵/ ۶۹۰، زکریا ۸/ ۴۹۲)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، جديد دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۹۱، قديم ۲/ ۳۵۳، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۵/ ۹۱، زکریا دیوبند ۶/ ۴۹، الجوهره النيرة، إمدادیه ملتان ۲/ ۹، دارالكتاب دیوبند ۲/ ۱۰، هندیة زکریا ۴/ ۳۷۷، جدید ۴/ ۳۹۹، درمختار کراچی ۵/ ۶۹۰، زکریا ۸/ ۴۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ رجب ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۳۲/۲۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

ہبہ صحیح ہونے کے لئے رجسٹری کی شرعی حیثیت

سوال [۹۴۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ایک شخص بدرالدین نامی قصبہ بھگوان پور کا تھا، تجارت اس کا پیشہ تھا، اس کے منافع سے اس نے بیس بیگہ زمین خریدی، جس کے دو پلاٹ تھے، ایک اٹھائیس بیگہ کا اور دوسرا چار بیگہ کا یہ زمین اس کی زرخیز تھی، داد الہی نہیں ہے، بدرالدین کا ایک لڑکا تھا شمس الدین بدرالدین کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پھر دوسری شادی کر لی اس سے دو لڑکے ہوئے ایک جمیل احمد اور ایک عبدالرشید، ان میں سے جمیل تو پاکستان چلا گیا، اب یہاں عبدالرشید رہ گیا، بدرالدین نے اپنی ہی زندگی میں کل جائیداد عبدالرشید کے نام بیع کر دی، شمس الدین کو کچھ نہیں دیا، یہ بات اب سے چالیس سال پہلے کی ہے، بدرالدین کے انتقال کے بعد شمس الدین نے کہا کہ زمین میں کچھ حق ہم رکھتے ہوں گے، اب چونکہ بیع نامہ رشید احمد کے نام ہے، کچھ برادری اور کنبہ کے لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے رشید احمد سے کہا کہ ان کو کچھ دے دو، ان کے کہنے کے مطابق چار بیگہ دے دی؛ لیکن بیع نامہ نہیں کیا اور نہ ہی کاغذات پٹواری میں درج کرایا گیا، یہ بات اب سے پندرہ سولہ سال پہلے کی ہے۔ شمس الدین میں اور عبدالرشید میں کسی کے کہنے سننے سے کشیدگی ہو گئی ہے، عبدالرشید نے جو زمین چار بیگہ دی تھی ان سے قبضہ غاصبانہ چھڑا کر یہ زمین خیل پور نصر اللہ پور کی مسجد کو وقف بیع کر دی، اب خیل پور نصر اللہ پور کی مسجد کے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ زمین مسجد میں لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) اگر کوئی کاشتکار اپنی زمین کسی کاشتکار کو محض زبانی طریقہ پر دے جس کا کوئی تحریری معاہدہ نہ ہو اور کاغذات سرکاری میں اس کاشتکار کے قبضہ کا کوئی ذکر نہ ہو، تو سرکار اس قبضہ کو غاصبانہ مانتی ہے اور وہ ہر وقت بے دخلی کے قابل ہے۔

المستفتی: حافظ اسرار ہریدار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عبدالرشید نے لوگوں کی موجودگی میں زبانی ہبہ کر کے شمس الدین کو قبضہ دے دیا ہے، تو اگرچہ بیع نامہ رجسٹری وغیرہ نہیں ہو اور وہ زمین شرعی طور پر شمس الدین کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے، اب شمس الدین کی مرضی کے بغیر وہ زمین

مسجد کی ملکیت نہیں بن سکتی، مسجد والوں کو چاہئے کہ وہ زمین شمس الدین کو واپس کر دیں یا قیمت دے دیں؛ کیوں کہ شریعت میں زبانی ہبہ بھی معتبر ہو جاتا ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَى أَفْلا تَعْقِلُونَ. [القصص: ۶۰]

الہبۃ عقد مشروع، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض. (ہدایۃ، کتاب

الہبۃ، اشرفیہ ۳/۲۸۳، مختصر القدوری، ص: ۱۳۵، ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/۳۷۴، جدید

۴/۳۹۵، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/۴۹۷، مصری قدیم ۲/۲۵۳)

لہذا ہبہ صحیح ہونے کے لئے سرکاری کاغذات شرط اور لازم نہیں ہیں۔ فقط واللہ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۲۱۰)

رجسٹری کے طور پر مکان ہبہ کرنا

سوال [۹۴۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: میرے والد محترم کا چند دن پیشتر انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مکان اپنی لڑکی کے نام رجسٹرڈ کر دیا اور زبانی اقرار کیا تھا کہ یہ تیرا مکان ہے اور میں تجھے ہبہ کرتا ہوں،

دراں حالانکہ یہ مکان ابھی تیار شدہ نیا ہے، مزید انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں چونکہ فی الحال ایک کرایہ کے مکان میں ساکن ہوں، اب میں تیرے اس نئے مکان میں رہوں گا اور

اس کا کرایہ تجھے دے دوں گا، اب جواب طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ مکان اس لڑکی کا ہے یا وارثین میں تقسیم ہوگا؟

المستفتی: حبیب اللہ بنگلور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: والد کا نئے مکان کو لڑکی کے نام رجسٹری کر کے ہبہ کر دینا

اور یہ کہنا کہ یہ مکان تیرا ہے اور فی الحال کرائے کے مکان میں ساکن ہوں اور تیرے مکان میں

تجھے کرایہ دے کر رہوں گا، یہ سب باتیں ہبہ کے تام ہونے کی دلیل ہیں اور غیر منقول اشیاء میں ہبہ تام ہونے اور قبضہ شمار کئے جانے کے لئے اتنا کافی ہے کہ باب بیٹی کو ہبہ کردہ مکان میں کرایہ دے کر رہے، نیز سرکاری رجسٹری سے بھی آج کے زمانے میں قبضہ شمار ہوتا ہے؛ لہذا باپ کے انتقال کے بعد مذکورہ مکان دیگر وارثین کے درمیان میراث کی حیثیت سے تقسیم نہ ہوگا؛ بلکہ اس پورے مکان کی مالک وہی لڑکی ہے جس کے نام رجسٹری کی گئی ہے۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، موسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

والقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وفي العقار ما يناسبه. (شرح

المحلة رستم، مكتبه اتحاد ۱ / ۶۳، رقم المادة: ۸۳۷)

وتفسير التسليم والقبض، فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية، والتخلي وهو أن يخلى البائع بين المبيع والمشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً، والمشتري قابضاً له. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، تفسير التسليم والقبض، زكريا ۴ / ۴۹۸، كراچی ۵ / ۲۴۴)

والمراد بالقبض الكامل في المنقول ما هو المناسب، وفي العقار أيضاً ما يناسبه. (مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۹۲، مصري قديم ۲ / ۳۵۴، اللباب ۲ / ۱۷۱، لسان الحكام ۱ / ۳۶۹، درر الحكام شرح غرر الحكام ۲ / ۲۱۸) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۳/۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸ / ۹۴۹۸)

کسی کے نام جائیداد رجسٹری کرانے سے ہبہ کا ثبوت

سوال [۹۴۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد ارشد ایک عالم دین ہے، ارشد کے دادا کی بہن نے اپنی کچھ جائیداد اپنی حیات میں ارشد کے نام کر دی تھی اور ارشد کے پاس اس کا بیع نامہ موجود ہے، ارشد کی دادی نے ان کو وہ جائیداد اس نیت سے دی تھی کہ وہ اس میں مدرسہ قائم کر کے صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع کرے گا، ارشد کے دادا کی بہن کے وارثین میں صرف ان کے تین بھتیجے موجود ہیں اور کوئی نہیں ہے، نہ تو ان کا شوہر ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، دادی کے بڑے بھتیجے ارشد کے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ جائیداد ہماری ہے، اس میں مدرسہ قائم نہیں کیا جاسکتا، تو مفتی صاحب سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس جائیداد میں دادی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھتیجے کا اپنے لئے اس جائیداد میں دعویٰ کرنا درست ہے؟ جب کہ دادی نے وہ جائیداد ارشد کے نام اپنی حیات میں بخوشی کر دی تھی، اب ارشد ان کی منشا کے مطابق مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں جو بھی حکم شرعی ہو بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہوں؟

المستفتی: محمد ارشد، ساکن ذاکر کالونی ہاؤس روڈ میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں صاف طور پر وضاحت ہے کہ ارشد کے نام بیع نامہ کر کے رجسٹری کر دی ہے، تو ایسی صورت میں ارشد اس کا مالک ہو چکا ہے، اب اس میں اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔

کل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلۃ رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/

۶۵۴، رقم المادة: ۱۹۲)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي

شریف، کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۷/۱)

لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص . (شامي،
 كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم، كراچی ۵/ ۵۰۲، زكريا ۷/ ۱۰)
 فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۱۶ رجب ۱۴۳۴ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۰/۲۰)

۱۶/۷/۱۴۳۴ھ

کسی کے نام رجسٹری کرانے سے کیا وہ مالک ہو جائے گا؟

سوال [۹۴۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے اپنی زندگی میں ایک لڑکی کے نام زمین کا ایک حصہ رجسٹرڈ کر دیا ہے، اس کے بعد زید کا انتقال ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ آیا زمین کے اس حصے کو بھی تقسیم ترکہ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ بکر کہتا ہے کہ چونکہ زید نے لڑکی کے قبضہ میں نہیں دیا ہے، اس لئے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوئی؛ لہذا اس زمین کے حصے کو بھی ترکہ میں شامل کیا جائے گا، بکر کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟

المستفتی: سعید احمد قریشی، بنگلور کرناٹک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے اپنی زندگی میں ایک لڑکی کے نام زمین کا ایک حصہ رجسٹری کر کے مالک بنا دیا ہے، تو وہ لڑکی اس حصہ کی مالک بن گئی اور زمین جائیداد میں سرکاری رجسٹری کر کے اس کے کاغذات پر قبضہ دے دینا زمین پر قبضہ کے درجہ میں ہے؛ لہذا زید کے مرنے کے بعد زمین کا جو حصہ لڑکی کے نام رجسٹری کر دیا گیا ہے میراث میں شامل نہیں ہوگا؛ بلکہ اس حصہ کی مالک وہی لڑکی ہے اور اس حصہ کو چھوڑ کر دیگر ترکہ وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

والقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وفي العقار ما يناسبه. (شرح المحلة رستم، مكتبه اتحاد ۱/ ۶۳، رقم المادة: ۸۳۷)

وتفسير التسليم والقبض، فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية، والتخلي وهو أن يخلى البائع بين المبيع والمشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، تفسير التسليم والقبض، زكريا ۴/ ۹۸، كراچی ۵/ ۲۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/ ۹۴۹۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۳/۲۲ھ

کیا نام کرنے کے بعد رجسٹری بیج نامہ کرانے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے؟

سوال [۹۴۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) عبدالغنی کا انتقال ہو گیا وارثین میں بیوی دو بیٹے، بیوی انوری بیگم بیٹے عبیدالغنی، انور حسین، مال متروکہ دو مکان، مکان نمبر ۱، ۳۵ لاکھ روپے کا، یہ بیج نامہ ہے بیوی اور بڑے بیٹے کے نام۔ مکان نمبر ۲، ۵۲ لاکھ روپے کا، یہ بیج نامہ خود مرحوم عبدالغنی کے نام ہے اور چھوٹے بیٹے کے نام بیج نامہ کچھ بھی نہیں اور دونوں مکان کا مالک عبیدالغنی ہے۔

(۲) عبیدالغنی کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثین میں بیوی، والدہ، بھائی انور حسین گودلی ہوئی بیٹی تبسم ناز، مال متروکہ بارہ لاکھ روپے، ان دونوں ترکوں کو تقسیم شرع کے مطابق فرمادیں۔

المستفتی: انور حسین پیشکار محلہ نواب گلی دھوبیان کاس گنج، کاشی رام نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مرحوم عبدالغنی نے بیوی اور بڑے بیٹے کے نام پینتیس لاکھ روپے کا جو مکان بیچ نامہ رجسٹری کر رکھا ہے وہ اگر دونوں کے نام برابر برابر کر دیا تھا اور ان کو مالک بنانے کے لئے کیا تھا، تو وہ دونوں اس کے نصف نصف کے مالک ہیں۔ اور اگر ان دونوں کے نام مالک بنانے کے لئے بیچ نامہ رجسٹری نہیں کیا تھا؛ بلکہ کسی مصلحت یا کسی سرکاری قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لئے کیا تھا، تو ایسی صورت میں یہ دونوں اس کے مالک نہیں ہیں؛ بلکہ اس مکان کے مالک بھی شرعی طور پر عبیدالغنی ہی ہوں گے؛ لہذا اصل واقعہ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ مستفتی خود سمجھے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۸)

اس کے بعد عبدالغنی اور عبیدالغنی کے ترکہ کی تقسیم ملاحظہ فرمائیں۔ عبدالغنی کا کل ترکہ اولاً آٹھ سہام میں تقسیم ہو کر اس کی بیوی انوری بیگم کو ایک اور دونوں بیٹوں کو سات ملیں گے، پھر اس کے بعد دو آٹھ میں ضرب دینے سے سولہ ہو جائیں گے، تو عبدالغنی کی بیوی کو دو ملیں گے اور دونوں لڑکوں کو سات سات حصے ملیں گے، جیسا کہ درج ذیل نقشہ سے واضح ہوتا ہے:

عبدالغنی می
 بیوی انوری بیگم ۱
 بیٹا عبیدالغنی ۷
 بیٹا انوار حسین ۷
 اور عبیدالغنی کا کل ترکہ بارہ سہام میں تقسیم ہو کر اس کی بیوی کو تین سہام اور اس کی والدہ کو چار سہام اور باقی پانچ سہام اس کے بھائی انوار حسین کو ملیں گے، جیسا کہ درج ذیل نقشہ سے واضح ہوتا ہے:

عبیدالغنی می
 بیوی ۳
 ماں ۴
 بھائی ۵

اور گودلی ہوئی بیٹی تبسم ناز شرعی طور پر وارث نہیں ہوتی ہے، ہاں البتہ اگر زندگی میں اس کے نام سے ہبہ کر دیا ہو تو وہ اس کو ملے گا یا وصیت کر دی ہو اور وصیت کی مقدار ایک تہائی یا اس سے کم میں ہو تو وہ بھی ملے گا۔ اور اگر ایک تہائی سے زیادہ ہے تب بھی ایک تہائی میں وصیت نافذ ہوگی، اگر ہبہ یا وصیت کچھ نہیں کیا ہے، تو تبسم ناز کو وراثت کے طور پر کچھ بھی نہ ملے گا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲ھ / ۲۷/۲۸

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(الف فتاویٰ نمبر: ۱۰۳۸/۳۹)

مکان کار جسٹری بیج نامہ کر کے دینے سے ہبہ کا ثبوت

سوال [۹۴۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عبد الحمید کے چار لڑکے: (۱) محمد یونس (۲) عبد القیوم (۳) محمد یعقوب سروری کے لطن سے اور ایک لڑکا محمد یوسف (پہلی بیوی سے) اس کے علاوہ دو لڑکیاں تھیں: (۱) فاطمہ بیگم سروری کے لطن سے اور (۲) بسم اللہ پہلی بیوی سے، عبد الحمید اپنے لڑکے محمد یونس سے بہت زیادہ ان کی خدمت کی بنا پر خوش تھے؛ لہذا وہ اپنا ایک مکان محمد یونس کے نام کرنا چاہتے تھے، تو محمد یونس نے کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی عبد القیوم ہے، اسے بھی ملنا چاہئے، تو والد صاحب نے دو لڑکوں محمد یونس اور عبد القیوم کے نام مکان بیج نامہ رجسٹری کر دیا، بقیہ اولادوں کو اس مکان میں سے کچھ نہیں دیا، تو شرعاً دریافت یہ کرنا ہے کہ اس مکان میں صرف محمد یونس اور عبد القیوم کا ہی حق ہوگا یا دیگر ورثاء کا بھی حق ہوگا؟ پھر اس مکان میں سے جو حصہ عبد القیوم کو ملا اس نے اپنے بھائی محمد یونس کے نام ۱۲ ہزار روپے لے کر دے دیا، تو اب یہ پورا مکان محمد یونس کا ہو گیا یا نہیں، جب کہ اس مکان میں ہمارے ایک بھائی محمد یعقوب بھی قابض ہیں، وہ خالی نہیں کرتے، تو شرعاً انہیں اس مکان کو خالی کر دینا چاہئے یا نہیں؟ شریعت اسلامیہ کا جو بھی فیصلہ ہو تحریر فرمادیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد یونس سرانے ترین سنجھل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بر تقدیر صحت سوال جب کہ عبد الحمید نے اپنی زندگی میں اپنے دو لڑکوں محمد یونس اور عبد القیوم کے نام جو مکان بیع نامہ کر دیا تو شرعاً محمد یونس اور عبد القیوم اس مکان کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد اس میں دیگر ورثاء کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور عبد القیوم نے بارہ ہزار روپے لے کر جو اپنا حصہ محمد یونس کو دے دیا، تو اب شرعاً پورے مکان کا مالک محمد یونس ہے، آدھے کا باپ کے بیع نامہ کر دینے سے اور آدھے کا شریک بھائی سے خرید لینے کی وجہ سے، اب اس حصہ پر محمد یعقوب کا قبضہ شرعاً درست نہیں ہے؛ بلکہ ملک غیر میں تصرف ہے جو جائز نہیں۔ حدیث شریف میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔

عن سعید بن زید قال: قال رسول اللہ ﷺ: من أخذ شبرا من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. (مسلم شریف، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، النسخة الهندية ۲/۳۳، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۱۰، صحيح البخاري، باب ماجاء في سبع أرضين، النسخة الهندية ۱/۴۵۴، رقم: ۳۰۹۴، ف: ۳۱۹۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۴ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۰/۶۲۱۸)

موہوب لہ کے لئے ہبہ کے بعد ملکیت کا ثبوت

سوال [۹۴۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید کی تین لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا، زید کے انتقال کے وقت تینوں لڑکیاں حیات تھیں، زید کی وفات پر زید کے ان رشتہ داروں نے جن کا حصہ زید کی جائیداد میں ہوتا تھا، انہوں نے اپنا حصہ زید کی تینوں لڑکیوں کے حق میں برابر برابر چھوڑ دیا، یعنی اپنا حصہ نہیں

لیا، زید کے انتقال کے بعد زید کی دو لڑکیوں کا انتقال ہو گیا، مگر ان دونوں لڑکیوں کے لڑکے حیات ہیں، زید اپنی جائیداد میں ایک مکان چھوڑ گیا تھا۔

(۲) زید کی بیوی ہندہ نے اپنی حیات میں ایک وصیت تحریر کروائی تھی، مکان کے تین برابر حصے ہوں گے، ایک حصہ میری حیات لڑکی کا ہوگا، دوسرا تیسرا حصہ میری مرحوم لڑکیوں کے لڑکوں کا ہوگا، اب وضاحت طلب امر یہ ہے کہ مکان کی تقسیم کس طرح ہو؟

المستفتی: محمد طاہر آزاد نگر ہلدوانی، ضلع نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) زید کی موت کے بعد زید کی جائیداد میں سے زید کے تمام ورثاء کو حصہ ملے گا، اگر کسی حصہ دار نے مذکورہ طرز پر تقسیم کر دیا ہے تو صرف اس حصہ دار کا حصہ تینوں لڑکیوں کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا، باقی دوسرے حصہ داروں کے حصے تقسیم نہیں ہوں گے؛ بلکہ شرعی طریقہ سے دوسروں کے حصے دوسروں کو ملیں گے۔

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. (مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۴۲۵، رقم: ۲۴۰۰۳)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، أشرفي ۱۱۰، رقم: ۲۶۹، البحر الرائق، زكريا ۵/ ۶۸، كوئٹہ ۵/ ۴۱، شرح المحلة رستم مكتبة اتحاد ۱/ ۶۲، رقم المادة: ۹۷)

(۲) زید کی بیوی ہندہ کی وصیت زید کے مکان میں صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ ہندہ کی ملکیت کا نہیں ہے اور غیر ملک میں شرعاً وصیت درست نہیں ہوتی؛ اس لئے زید کے ورثاء کے درمیان مذکورہ مکان شرعی طریقہ سے تقسیم ہو جائے گا، اس میں کسی کی وصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. (هداية، كتاب الوصايا،

أشرفي ۴/ ۶۵۴) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ رذی الحج ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۵۴۳/۲۵)

غیر شرعی طریقہ سے ہبہ کا نفاذ

سوال [۹۴۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہاجرہ بی بی نے اپنے والدین کی جانب سے ملا ایک مکان اپنی زندگی میں اپنے چار لڑکوں میں سے ایک لڑکے انوار الحسن کو ہبہ کر دیا، جس کی سرکاری طور پر اسٹامپ پتھر خریدے کر رجسٹری بھی کروادی، سرکاری قانون کے مطابق ریکارڈ میں نام تبدیل کروانے کے وقت ہاجرہ بی بی کے دو لڑکے اسرار الحق اور مظہر الحق نے اپنی رضا اور رغبت سے بغیر کسی عذر دستخط کر دیا ہے، ایک لڑکے محمد ظہیر کا انتقال ہاجرہ بی بی کی زندگی میں ہو گیا تھا۔

ہاجرہ بی بی کے شوہر نعمت اللہ کی ملکیت کا ایک مکان ہے، جس کو چند سال قبل پنچوں کے سامنے چاروں بھائی محمد ظہیر اور اسرار الحق اور مظہر الحق اور انوار الحق کے مابین برابر تقسیم کر دیا گیا، ایک بھائی اسرار الحق نے اپنا حصہ اپنے بھائی محمد مظہر کو قیمت لے کر دے دیا۔ اور انوار الحق کے حصہ میں آیا ہوا مکان مظہر الحق کے مکان میں شامل کر دیا اور اب بھی مظہر الحق کے مکان میں شامل ہے۔ اب انوار الحق اپنا حصہ جو والد کے مکان سے ملا ہے، چاہتا ہے تو تین بھائی یہ کہتے ہیں کہ کیوں تم کو تو ایک پورا مکان مل گیا ہے؛ اس لئے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جب کہ وہ مکان والدہ کا تھا، اسے اس کی والدہ نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا، اور دوسرا مکان جس میں سے انوار الحسن اپنا حصہ چاہتا ہے وہ والد کا تھا اور اس کی تقسیم میں انوار الحق کو برابر شریک کیا گیا تھا۔ دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ:

(۲) ہاجرہ بی بی نے اپنی زندگی میں جو مکان اپنے ایک لڑکے انوار الحق کو ہبہ کر دیا تو کیا دوسرے لڑکوں کی موجودگی میں جب کہ وہ راضی بھی ہوں صرف ایک کے نام ہبہ کیا جاسکتا ہے، جس کو ہبہ کیا گیا وہ شرعی طور پر اس کا مالک ہے؟ اور اب دوسرے لڑکوں کو اس میں سے اپنا حق مانگنے کا حق حاصل ہے؟

(۳) دوسرے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے انوار الحق کو والدہ کی طرف سے ہبہ کئے گئے مکان میں سے ہمارا حق ہے، تب اس مکان میں سے جو والد کی ملکیت تھی، اس میں سے حق

ملے گا، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ جب کہ تقسیم ترکہ کے وقت اسے برابر شریک کیا گیا تھا اور اس طرح سے ہبہ کہہ کر اس کا حق نہ دینا دوسرے بھائیوں کے لئے جائز ہے؟ مینو اتوجروا
المستفتی: انوار الحق بن نعمت اللہ اسماعیل پورہ، کامٹی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر ہاجرہ بی بی نے اپنی زندگی میں بحالت صحت اپنا مکان اپنے لڑکے انوار الحق کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا ہے، تو اگرچہ ہاجرہ بی بی کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا؛ لیکن شرعاً انوار الحق اس پورے مکان کا مالک ہو چکا ہے، اس سے دوسرے بھائی کا کوئی حق وابستہ نہیں رہا ہے۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب

الحيث في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دارالسلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ۱ / ۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكون آثما فيما صنع. (فتاویٰ قاضی خان، زکریا جدید ۳ / ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ ۳ / ۲۷۹، فتاویٰ بزازیہ، زکریا جدید ۳ / ۱۲۳، وعلی ہامش الہندیہ ۶ / ۲۳۷، ہندیہ زکریا قدیم ۴ / ۳۹۱، جدید ۴ / ۱۶، شامی، زکریا ۸ / ۵۰۲، کراچی ۵ / ۶۹۶)

(۲) موہوب لہ لڑکا ہبہ میں قبضہ شدہ مکان کا شرعی طور پر مالک ہو چکا ہے، اس میں دوسروں کا کوئی حق ثابت نہیں ہے۔

(۲) دوسرے بھائیوں کا مذکورہ دعویٰ شرعاً درست نہیں ہے، انوار الحق کو باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ شرعاً ملے گا اور کسی کے لئے اس کو روکنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اوپر کے حوالے سے واضح ہوتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ رزی الحجہ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵ / ۱۵۴۵)

۲ / باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز

آدمی کو اپنی جائیداد میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے

سوال [۹۴۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے والد صاحب کے چار بھائی تھے: (۱) عطرت علی (۲) شرافت علی (۳) شوکت علی (۴) مختار احمد نابینا، ان چاروں میں دو بھائیوں کی شادی ہوئی اور دو بغیر شادی کے رہے، بغیر شادی والوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور جن دو بھائیوں کی شادی ہوئی ان کے اولادیں پیدا ہوئیں، عطرت علی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے دو لڑکے، پانچ لڑکیاں چھوڑیں، اب ان بچوں اور بیوہ کے گذراوقات کی ذمہ داری حافظ مختار نابینا نے سنبھالی اور بچوں کی پرورش کرتے رہے، جب ان بچوں نے ہوش سنبھالا، کام کرنے لگے، تو اب حافظ مختار احمد کی خدمت کرنے لگے، ان کے دوسرے بھائی شوکت علی خرچ اور مدد تو کیا کرتے بھائی ماننے ہی سے انکار کر دیا اور باپ کی وراثت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، حافظ مختار احمد نے عطرت علی کے بچوں کے نام اپنی کل جائیداد گھر اور جنگل کا بیع نامہ کر دیا، اس کے بعد شوکت علی کے بچوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، پنچایت وغیرہ منعقد ہوئی اور حافظ مختار احمد کو بلا کر سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنی ملکیت کا کل اپنے بھائی کے بچوں کو دے دیا اور دوسرے بھائی کے بچوں کو کیوں محروم رکھا؟ حافظ مختار احمد نے کہا میرے تمام اخراجات یہ یتیم بچے اٹھاتے ہیں اور ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں اور شوکت خود یا اس کے بچے میری کوئی بات نہیں سنتے اور نہ کھانے پینے یا کسی طرح کا خرچ اٹھاتے ہیں اور اوپر سے میرے بھائی ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں؛ اس لئے میں نے اپنی کل جائیداد عشرت علی و حشمت علی کو بیع نامہ کر دیا، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ اس طرح یہ بیع نامہ کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حافظ مختار اپنی جائیداد کے تنہا مالک ہیں، ان کو اختیار ہے کہ اپنی جائیداد جس کو چاہیں دے دیں اور جہاں چاہیں دے دیں، شرعی طور پر کسی کو اعتراض کرنا درست نہیں ہے؛ لہذا اس کا اپنی تمام جائیداد صرف دو بھتیجوں کو بیع نامہ کر کے مالک بنا دینا شرعاً جائز اور درست ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك.
 (بیضاوی شریف ۱/ ۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۸۹۸۴/۳۸)

کیا والد کو اپنی جائیداد ہر طرح تقسیم کرنے کا حق ہے؟

سوال [۹۴۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہم چار بھائی ہیں: (۱) الطاف حسین (۲) مشتاق حسین (۳) فیاض حسین (۴) ممتاز حسین۔ مشتاق و الطاف کے اپنے اپنے مکانات ہیں، والد صاحب کا ایک مکان ہے، جس میں فیاض حسین رہتے ہیں، ممتاز حسین پر دیس میں رہتے تھے، فیاض حسین نے والد صاحب سے وہ مکان خرید کر کے اپنے نام لکھوا لیا، فیاض حسین کا کہنا ہے کہ جس نے کوئی پیسہ نہیں دیا والد صاحب کو، ممتاز کا کئی سال سے کوئی پتہ نہیں تھا، ممتاز کے آنے پر والد صاحب سوچنے لگے کہ میں نے یہ غلط کیا، مکان ایک بیٹے کے نام کر دیا، کہنے لگے والد صاحب یہ مکان میرا جس میں سے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی دینا چاہتا ہوں نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا، بہت ناراض رہے، اسی بات پر گھر چھوڑ کر نکل گئے، میرا چھوٹا بھائی کمزور ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، میں اس مسئلہ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو ممتاز کا حق بنتا ہے کہ نہیں، ممتاز سے بھی کہا کہ فیاض سے آدھا مکان اپنے نام کرا لے، میں نے ایسا نہیں کیا، مکان آج بھی میرے پاس

موجود ہے۔

المستفتی: فیاض حسین کٹار شہید مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر فیاض نے اپنے باپ سے مکان مذکور خریدا ہے تو فیاض پر لازم ہے کہ اس مکان کی پوری قیمت باپ کو ادا کر دے، تاکہ باپ اپنی دوسری اولاد کو بھی جائیداد میں سے دے سکے، یا باپ جس طرح چاہے مکان کو اسی طرح تقسیم کر دے۔

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.
(مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۴۲۵، رقم: ۲۴۰۰۳)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه، أشرفي

۱۱۰، رقم: ۲۶۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۱۶۷/۲، جدید ۱۸۱/۲، شامی، زکریا ۱۰۶/۶،

کراچی ۶۱/۴، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/ ۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ ذیقعدہ ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۱۱/۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۲۲/۳۴)

اپنا سارا سرمایہ ہبہ کر کے وارثین کو بے یار و مددگار چھوڑنا

سوال [۹۴۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: تین بھائی ہیں، سب سے بڑے جمیل اس کے بعد خلیل، اس کے بعد رفیق، تینوں کے حصے میں ۷۵-۷۵ گز زمین ہے، جس میں سے جمیل نے خلیل کا حصہ ان کی زندگی میں خرید کے رفیق کے بچوں کے نام کر دیا؛ کیوں کہ جمیل کی دو بیٹیاں ہیں، خلیل کے کوئی بچہ نہیں تھا، رفیق کے چار لڑکے ہیں، اب جمیل یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا حصہ بھی رفیق کے بچوں کے نام

کردوں، جب کہ جمیل کی بیٹیاں ناراض ہیں اس بات سے؛ اس لئے آپ بتائیے کہ شریعت کے حساب سے ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا باپ کا حصہ دونوں لڑکیوں ہی کو ملے گا؟

المستفتی: محمد مستقیم اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جمیل اپنے مال کا اپنی حیات میں خود مالک ہے، وہ جس طرح اس میں تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے؛ البتہ جمیل کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بھتیجوں کے مقابلے میں اپنی بیٹیوں کو ترجیح دے؛ اس لئے کہ جمیل کے مرنے کے بعد حقیقی وارث اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے اور سب سے بڑا ثواب ان ہی پر خرچ کرنے کا ہے۔

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كان رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي - إلى أن قال - إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك.

(بخاري شريف، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن حولة، النسخة الهندية

۱/ ۱۷۳، رقم: ۱۲۸۱، ف: ۱۲۹۵)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء؛ لأن كون الشيء ملكا لرجل يقتضي أن يكون مطلقا في التصرف فيه كيفما شاء. (شرح المحلة للأناسي ۱/ ۶۵۴، رقم المادة: ۱۱۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۶ ۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۹۸/۴۰)

کچھری میں پیشکار کو لوگوں کا ہدیہ دینا

سوال [۶۹۳۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) میں کچھری میں پیشکار ضلع نج ہوں، لوگوں کے جس دن مقدمات چھوٹتے ہیں، وہ خون اور قتل کے معاملوں سے بری ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھر والے سبھی کو کورٹ میں پیسے بانٹتے ہیں اور خوشی میں چپراسی بابو اور مجھے بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی چپراسی خود مانگ لیتے ہیں، تو یہ روپیہ میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟

(۲) جب دو فریقوں میں کورٹ میں چل رہے قتل و خون، زنا کاری وغیرہ کے مقدمات میں فیصلہ ہو جاتا ہے، سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو خلاف فریق دوسرے کے موافق بیانات دیتا ہے، تو وہ فیصلہ ہو جانے کی وجہ سے بیانات لکھنے کے بعد سرکاری وکیل کے ساتھ خوشی میں پیشکار کو بھی کچھ روپیہ دیتا ہے۔ اور اب تو فیصلہ ہونے پر لکھے گئے بیانات کے بعد فریق جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ضرور پیشکار کو کچھ نہ کچھ رقم دیتا ہے، کبھی کبھی چپراسی یا سرکاری وکیل بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا فیصلہ ہو گیا ہے، کچھ دو خرچ کرو، تو یہ رقم میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: انور پیشکار ضلع نج، کاس گنج ریلوے

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) کچھری میں مقدمات جیت جانے کے بعد جس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ کسی کے دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے بابو چپراسی اور پیشکار کو کچھ پیسہ دے کر آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پیسہ ان لوگوں کے لئے حلال ہے۔ اور اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو وہ اس کا اپنا تقویٰ ہے؛ اس لئے کہ وہ رشوت نہیں ہے بلکہ رشوت تو وہ ہوتی ہے جو فیصلہ سے پہلے دی جاتی ہے، تاکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔

ولو قضی حاجتہ بلا شرط ولا طمع، فأهدی إلیہ بعد ذلک فہو

حلال لا بأس به، وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع. (شامی، كتاب

القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية، كراچی ۵/ ۳۶۲، زکریا ۸/ ۳۵)

وفي المصباح: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره؛

ليحكم له أو يحمله على ما يريد. (شامی، كراچی ۵/ ۳۶۲، زکریا ۸/ ۳۴)

(۲) فیصلہ ہو جانے کے بعد باجوچر اسی وغیرہ کو جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہو وہ کچھ پیسہ اپنی خوشی سے دے دے تو وہ رشوت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس پیسے کے لینے میں کوئی حرج نہیں؛ لیکن اگر جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہو ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور مطالبہ کیا جائے اور وہ دباؤ میں آکر کچھ دے دے، تو اس کا لینا جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ بطیب خاطر خوشی سے یہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے؛ بلکہ دباؤ میں دیا جا رہا ہے۔

ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب منه. رواه البيهقي وغيره.

(مشکوٰۃ/ ۲۵۵، شعب الإيمان للبيهقي، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۴/ ۳۸۷، رقم:

۵۴۹۲، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفکر بیروت ۸/ ۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴۰)

وإن طلب منه أن يسوى أمره ولم يذكر له الرشوة وأعطاه بعد ما

يسوى اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ، وقال بعضهم: يحل،

وهو الصحيح. (البحر الرائق، زکریا ۶/ ۴۴۱، کوئٹہ ۶/ ۲۶۲، تاتارخانیۃ، زکریا ۱۱/

۷۸، رقم: ۱۰۵۵۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۰۴۱/۴۰)

بادشاہوں کی طرف سے قضاة کو دی گئی زمین فروخت کرنا

سوال [۹۴۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: ایک تحصیل کے قاضی صاحب جن کے متعلق تین تحصیلوں کے قضاة کی ذمہ

داری ہے، ان کو اپنے پچھلے قاضی حضرات سے کچھ زمین و جائیداد ورثہ میں ملتی آئی ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے قاضی سے قاضی کو یہ زمینیں منتقل ہوتی ہوئی آئی ہیں، تو کیا موجودہ قاضی صاحب اس زمین کو فروخت کر کے اپنی آل اولاد میں تقسیم کرنے کا شرعاً حق رکھتے ہیں، جب کہ پچھلے قاضی صاحبان ان زمینوں کی کاشت وغیرہ سے استفادہ کرتے رہے ہیں، کیا اس طرح کی زمین فروخت کی جاسکتی ہے؟ ایک فریق کا کہنا ہے کہ قضاة کی زمین فروخت نہیں ہوتی ہے، مذکورہ زمینیں قاضی حضرات کو بادشاہوں اور نوابوں کی طرف سے بطور نذرانہ و تحفہ کے ملی تھیں۔

المستفتی: سید زوار احمد، بے پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بادشاہوں کی طرف سے زمینیں قاضیوں کو بطور تحفہ اور ہدیہ کے ملی ہیں اور بادشاہوں کی طرف سے قبضہ دے کر مالک بنا دیا گیا ہے، تو قاضی حضرات ان زمینوں کے شرعی مالک ہو چکے، پھر ان کے بعد کے ورثاء میں بطناً بعلوطن منتقل ہوتی ہوئی آئی ہیں۔ اور جن جن وارثین کو شرعی وراثت کے طور پر وہ زمینیں ملی ہیں، ان کو ان زمینوں میں مکمل مالکانہ تصرف کا حق ہے؛ لہذا بیچنے کا بھی حق ہے، کسی کو تحفہ اور ہدیہ میں بھی دیئے کا حق ہے اور کسی کا یہ کہنا کہ قضاة کی زمین فروخت نہیں ہوتی وہ درست نہیں ہے، ہاں البتہ یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے ہبہ یا تحفہ کے طور پر نہ دی گئی ہو؛ بلکہ زمین صرف قضاة کے لئے وقف کی گئی ہو اور اس زمین کی پیداوار اور آمدنی قاضیوں کو ملیں گی اور یہاں ایسا نہیں ہے، جیسا کہ سوال نامہ سے واضح ہے۔

تتعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من

التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المحلة رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/

۴۶۲، رقم المادة: ۸۳۷، شامی کراچی ۵/ ۶۹۰، زکریا ۸/ ۴۹۳، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/

۳۷۷، جدید ۴/ ۳۹۹، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۹۱، قدیم ۲/ ۲۵۳)

یملك الموهوب له الموهوب بالقبض. (شرح المجلة ۱ / ۷۳،

رقم المادة: ۸۶۱)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

سورة فاتحة، كتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱ / ۷، شرح المجلة رستم باز، اتحاد دیوبند ۱ / ۶۵۴،

رقم المادة: ۱۱۹۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۱۱/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/۱۱/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۰۹/۲۰)

ہیجرے کا ہدیہ قبول کرنا

سوال [۹۴۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید جو پیدائشی اعتبار سے بالکل صحیح و سالم انسان ہے، کسی قسم کی کمی نہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی بھی ہوئی تھی، بال بچے بھی موجود ہیں؛ لیکن اب وہ دوسرا پیشہ اختیار کر چکے ہیں، جسے ”زنخا“ کہتے ہیں، یعنی ہجراپن، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور اپنی روزگاری اسی طرح چلاتے ہیں؛ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اگر مذکورہ زید اپنی اس کمائی میں سے اپنے بہن، بہنوئی کو کچھ تحفہ دینا چاہیں تو ان کے بہن بہنوئی کے لئے اس کمائی میں سے تحفہ تحائف لینا کیسا ہے؟ نیز اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد ادریس، مدرسہ انصار العلوم قصبہ زولی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہیجرے کی کمائی حلال اور طیب نہیں ہے؛ لہذا زید اپنے

اس روپیہ میں سے اگر اپنے بہن بہنوئی کے لئے ہدیہ کرنا چاہے تو ایسے ہدیہ کا قبول کرنا

درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہئے۔

أهدى إلى رجل شيئاً، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، ذكرها قديم ۳۴۲ / ۵، جديد ۳۹۶ / ۵، تاتارخانية زكريا ۱۸ / ۱۷۵، رقم: ۲۸۴۰۵، المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ۸ / ۷۳، رقم: ۹۶۱۷، البناء شرح الهدية، أشرفه ديو بند ۱۲ / ۲۰۹، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۴ / ۸۶-۱۸۷)

نیز زید کا یہ عمل شرعاً فتیح ہے، جس کی وجہ سے تعلقات کے انقطاع کی گرچہ اجازت ہے؛ لیکن قطع تعلق اس دور میں زیادہ مفید نہیں ہے، میل جول رکھ کر اصلاح کی کوشش زیادہ مؤثر و مفید ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم / ۲۹۹، جدید ڈائجیل ۱۸ / ۱۶۷، کفایت المفتی قدیم ۷ / ۶۸، جدید زکریا مطول ۱ / ۲۷ تا ۲۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۳/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵ / ۱۰۵)

آبائی زمین بیچ کر لڑکوں کے لئے رہائشی مکان تیار کر دینا

سوال [۹۴۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، آبائی مکان بھائیوں کے حصہ میں آ گیا تھا، زید کو کچھ پیسہ اور کچھ زمین ملی، زید یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں آبائی زمین میں سے کچھ حصہ فروخت کر کے اس پیسہ سے لڑکوں کے لئے رہائش کے لئے فی الحال زمین خرید دے، زید کے لڑکیاں بھی ہیں، بعض شادی شدہ ہیں اور لڑکے بھی بعض شادی شدہ ہیں، ان کو رہائش کے لئے پریشانی ہے، اس ضرورت کے پیش نظر سب لڑکوں کو ان کی رہائش کی ضرورت کے لئے آبائی زمین میں سے کچھ بیچ کر زمین خرید دے تو شرعاً اس طرح صرف لڑکوں کے لئے ان کی ضرورت کی وجہ سے کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ واضح رہے کہ آبائی زمین کا اکثر حصہ اس

طرح کرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، ابھی باقاعدہ پوری جائیداد کی تقسیم کا ارادہ نہیں ہے؟
شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: عبدالاحد گونیاں باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید اپنی حیات میں اپنی زمین کا مالک و مختار ہے؛ لہذا زید کو اپنے حصہ میں آئی ہوئی زمین میں سے کچھ حصہ فروخت کر کے ضرورت مند بچوں کو زمین خرید کر کے دینے کی شرعاً اجازت ہے، البتہ جب لڑکوں کو دے کر مالک بنانا ہے، تو لڑکیوں کو بھی زندگی میں لڑکوں کے برابر دینا لازم ہے اور لڑکیوں کی بخوشی اجازت اور مرضی کے بغیر صرف لڑکوں کو دینے میں باپ گنہگار ہوگا۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلته ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه. (بخاري شريف، كتاب الهبة، باب الهبة للولد الخ ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۴، ف: ۲۵۸۶)

وروي المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم، وهو المختار. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۱۶، شامي، كراچی ۵/ ۶۹۶، زكريا ۸/ ۲۰۱-۲۰۲، قاضي خان، فصل في هبة الوالد لولده الخ، جديد زكريا ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهنديّة، زكريا ۳/ ۲۷۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵/ یقینہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/ ۱۱/ ۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۱۷/۴۰)

اپنی جائیداد بیوی کو ہبہ کر کے وخیل بنانا

سوال [۹۴۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: (۱) ایک جائیداد جو بنیاد علی کی خرید کردہ تھی، انہوں نے اپنی دوسری بیوی منی بیگم کو بذریعہ تحریر ہبہ نامہ قابض و دخیل بنا دیا تھا، اس جائیداد میں کرایہ دار رہتے تھے، کرایہ بھی منی بیگم تاحیات وصول کرتی رہیں، پھر منی بیگم کے ایک لڑکے واجد علی نے اسی جائیداد کو کرایہ دار سے تقریباً ۶ سال مقدمہ کے بعد چھڑا لیا، مقدمہ والدہ منی بیگم کی حیات ہی میں شروع ہو گیا تھا، پھر یہ مقدمہ واجد علی نے جیت لیا تھا، منی بیگم کے ورثاء میں ایک لڑکا شفاعت خاں پہلے شوہر ایاز خاں سے اور ایک لڑکی اچھی بیگم بنت ایاز پہلے شوہر سے، اور دوسرے شوہر بنیاد علی سے دو لڑکے (۱) واجد علی (۲) امجد علی ہیں۔

(۲) واجد علی نے جو مکان کرایہ دار سے چھڑانے میں مقدمہ وغیرہ میں خرچ کیا وہ اسے ملے گا؟ اور دیگر وارثان کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المستفتی: واجد علی طویلہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) بنیاد علی نے اپنی مملوکہ جائیداد اپنی زوجہ ثانیہ منی بیگم کو ہبہ کر کے اپنی زندگی ہی میں کلی اختیار دے کر مکمل قابض اور دخیل بنا دیا تھا اور بنیاد علی کی حیات ہی میں وہ موہو ہبہ جائیداد کے کرایہ کی خود مالک اور مختار تھیں، تو یہ ہبہ صحیح ہو گیا تھا اور منی بیگم اس کی مالک تھیں۔

وتتم الہبۃ بالقبض الكامل. (شامی، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/ ۴۹۳، کراچی ۵/ ۶۹۰)

وتصح الہبۃ بالإيجاب والقبول، والقبض والقبض لا بد منه

لثبوت الملك. (هدایہ، کتاب الہبۃ، أشرفی دیوبند ۳/ ۲۸۳)

لہذا اس جائیداد میں منی بیگم کے تمام شرعی ورثاء حسب حصص شرعیہ حصے دار ہوں گے۔

ویقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته، أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب

والسنة - إلى قوله - ويستحق الإرث، ولو لمصحف به يفتى برحم،

ونكاح، وولاء. الخ (شامی، کتاب الفرائض، زکریا ۱۰/ ۴۹۷، کراچی ۶/ ۷۶۲)

اور بشرط صحت سوال و بعد ادائے حقوق ما تقدم و عدم موانع ارث مذکورہ جائیداد ورثائے مذکورہ میں حسب ذیل نقشہ کے مطابق تقسیم ہوگی۔

نوٹ: یہ جواب اس وقت ہے جب کہ سوال عین واقعہ کے مطابق ہو۔

میت

لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکا
شفاعت خان	واجد علی	واجد علی	چھی بیگم
۲	۲	۲	۱

منی بیگم کا ترکہ ۷/۷۰ سهام میں منقسم ہو کر لڑکوں کو دو دو اور لڑکی کو ایک سهام ملے گا۔

(۲) واجد علی نے مقدمہ پر جو خرچ کیا تو چونکہ مرحومہ منی بیگم کی طرف سے واجد علی کو مقدمہ لڑنے کی اجازت تھی؛ لہذا وہ بقیہ ورثاء سے حسب حصص خرچ وصول کر سکتا ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۲۸۵)

شركة الملك أن يملك إثنان عينا إرثا، أو شراء - إلى قوله - وكل أجنبي في قسط صاحبه، أي كل واحد من الشريكين ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه لغير الشريك إلا بإذنه لعدم تضمينها الوكالة. (البحر الرائق، كتاب الشركة، كوفته ۵/۱۶۷، زكريا ۵/۲۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ رجب ۱۴۲۰ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۴/۶۲۶۱)

ترکہ سے ملا ہوا حصہ بیوی کو ہبہ کرنا

سوال [۹۴۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

زید کو اپنے والد کی طرف سے ایک مکان کا حصہ ترکہ میں ملا، زید کا اس پر قبضہ ہے، تو زید اس حصہ کو اپنی بیوی کے نام ہبہ کرنا چاہتا ہے، تو شرعاً اس کے لئے ہبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زیادے حصہ کا مالک ہے، اپنی بیوی کو ہبہ کر سکتا ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك. (بيضاوي شريف، كتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۸۲/۳۵)

دو بیوی میں سے لا ولد بیوی کو بطور ہبہ کوئی خاص چیز دینا

سوال [۹۴۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص کی دو بیویاں ہیں اور وہ شخص سرمایہ دار ہے، دونوں بیویوں کو الگ الگ رہائش دے رکھی ہے، اور دونوں کے خرچ و اخراجات کے معاملہ میں برابری ہے، شب باشی میں بھی دونوں کے ساتھ برابری ہے، نیز دونوں کے سکون اور راحت رسائی میں بھی بالکل برابری کا معاملہ ہے، کسی قسم کا فرق نہیں، مگر ایک کے پاس اولاد ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے بعد کے سہارا کے لئے کوئی خاص چیز بطور ہبہ اس کو دینا چاہتا ہے، تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ اس میں دوسری کو نقصان پہنچانا ہرگز مقصد نہیں ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب خرچہ اخراجات رات گزاری اور راحت رسائی میں برابری کا معاملہ ہے، تو شوہر کے لئے کسی ایک بیوی کو مخصوص اشیاء یا جائیداد کا ہبہ کرنا شرعی طور پر جائز اور درست ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں شوہر سے باز پرس نہیں ہوگی اور نہ شوہر گنہگار ہوگا، ہاں البتہ دوسری بیوی کی دلجوئی اور اس کو خوش کرنے کے لئے اس کو بھی ہبہ میں کچھ دے دیتا ہے، تو یہ شوہر کی طرف سے احسان ہے۔

إذا قام الزوج بالواجب من النفقة، والكسوة لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك أم يجب عليه أن يسوي بينهما في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب - إلى قوله - إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۳/ ۱۸۶، إرشاد الساري، دارالفكر ۲۰/ ۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۶۴۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۵/۶ھ

والدہ کا اپنی چھوٹی بیٹی کو زمین دینا

سوال [۹۴۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حامد، محمود اور ساجد تینوں حقیقی بھائی ہیں، ان میں حامد اور محمود دونوں کی ساس ام سلمہ ہیں، جو کہ کٹرا میں رہتی تھیں، بعد میں انہوں نے اپنا گھر فروخت کر دیا اور اپنی لڑکیوں کے یہاں آ کر گونڈہ رہنے لگیں، ان بھائیوں کے والد نے گھر کی ایک زمین ام سلمہ کے ہاتھ چار ہزار روپے میں فروخت کر دی، ساجد نے اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کے سارے زیورات فروخت کر دیئے اور قیمت اپنے استعمال میں لے آئے اور حامد نے سعودیہ جاتے وقت ام سلمہ یعنی اپنی ساس کے زیورات فروخت کر کے اپنا کرایہ پورا کیا، اس طرح محمود کو کچھ نہیں ملا، نہ ماں کا نہ ساس کا، اب ام سلمہ اس زمین کو اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہیں، بڑے داماد اور بڑی بیٹی دونوں انتقال کر چکے ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، اب حامد کے بچے اور ساجد دونوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے کہ وہ اپنی مذکورہ زمین صرف اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کر سکتی ہیں، چھوٹی بیٹی داماد شروع یعنی ۱۹۷۱ء سے ہی اب تک

برابر ان کی خدمت اور علاج کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں، بڑی بیٹی داماد سے کوئی مطلب نہیں رہا، بس کبھی کبھی سویا پانچ سو روپے دے دیا کرتے تھے، واضح فرمادیں کہ شرعی اعتبار سے ایسا کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: ابو منہاج فیض آباد روڈ، گوئڈہ، یو پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہر شخص اپنی مملوکہ چیز میں مالکانہ تصرف کرنے کا مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے، چنانچہ ام سلمہ کو شرعی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زمین چھوٹی بیٹی کو اگر دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اس پر بڑی بیٹی کے بچوں اور کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ۱۷۱/۴)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة رستم باز، اتحاد ديوبند

۱/۶۵۴، رقم المادة: ۱۱۹۲)

لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي،

كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم، کراچی ۵/۵۰۲، زکریا ۷/۱۰)

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من

الملك. (بيضاوي، كتب خانہ رشديه دہلی ۷/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲م الحرام ۱۵

۱۴۳۲/۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۷۲/۳۹)

بجالت صحت مکان اپنی لڑکیوں کو ہبہ کرنا

سوال [۹۴۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے چار بھائی اور دو بہنیں ہیں، میں نے اپنے والد کی چھت پر اپنے ذاتی پیسوں سے

مکان تعمیر کرایا اور نیچے کے حصہ میں دوسرے بھائی رہتے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا مکان ہے، وہ میرے مرنے کے بعد میری لڑکیوں کو ملے، میرے تین لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا کروں کہ میری میراث صرف میری لڑکیوں کو ہی ملے؟

المستفتی: ضمیر الحسن کٹار شہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ نے والد کے مکان کی چھت پر ان کی اجازت سے یا ہبہ کے بعد اپنے ذاتی پیسوں سے جو مکان تعمیر کیا ہے، آپ کے مرنے کے بعد اس مکان میں لڑکیاں دو ملث کی حق دار ہوں گی، پورا مکان ان کو نہیں ملے گا، ہاں البتہ پورا مکان ملنے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بحالت صحت لڑکیوں کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیں۔

ولا ترث الکل بالعصوبۃ. (البحر الرائق، کتاب الفرائض، زکریا ۹/ ۴۹۷)

قال رحمہ اللہ تعالیٰ: وللبنت النصف؛ لقولہ تعالیٰ: ﴿وان كانت واحده فلها النصف﴾ قال رحمہ اللہ تعالیٰ: وللاکثر الثلثان، وهو قول عامۃ الصحابۃ رضی اللہ عنہم، وبہ أخذ علماء الأمام. (البحر الرائق، زکریا ۹/ ۳۷۴، کوئٹہ ۸/ ۴۹۴، تبیین الحقائق ۶/ ۲۳۴)

صحت الهبة بالإيجاب والقبول في حق الموهوب له؛ لأنه عقد فينقذ بهما كسائر العقود. الخ (البحر الرائق، کتاب الهبة، زکریا ۷/ ۴۸۵، کوئٹہ ۷/ ۲۸۵)

لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة، والتمکن من القبض كالقبض. (البحر الرائق، زکریا ۷/ ۴۸۵، کوئٹہ ۷/ ۲۸۵)

لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، والمراد نفي الملك. (تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۲/ ۹۱، زکریا دیوبند ۶/ ۴۹، درمختار مع الشامی، کراچی ۵/ ۶۹۰، زکریا ۸/ ۴۸۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۵/۱۴۱۸ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۹۵/۳۳)

بیوہ کا اپنی اکلوتی لڑکی کے نام مکمل جائیداد کرنا

سوال [۹۴۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک بیوہ کی ایک لڑکی تھی، اس نے اپنی تمام زمین و جائیداد کو اپنی لڑکی کے نام کر دیا، کچھ دنوں کے بعد بیوہ کی موجودگی میں ان کی لڑکی مر گئی اور چند دنوں کے بعد اس بیوہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ان کے مال متروکہ میں اب کن لوگوں کا حصہ ہوگا؟ آیا ان کے بھتیجے کو متروکہ مال میں سے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل سے جواب دیں۔

المستفتی: محمد سلیمان گوگرا ررہ کورٹ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بشرط صحت سوال اگر بیوہ نے اپنی ملکیت کی تمام زمین جائیداد لڑکی کے نام کر کے مالک بنا دیا تھا اور قبضہ دے کر داخلی و خارجی ہر طرح کا اختیار دے دیا تھا، تو شرعی طور پر لڑکی تمام جائیداد کی مالک بن چکی ہے، لہذا کل جائیداد میں سے ایک تہائی لڑکی کی ماں کو ملے گا اور دو تہائی لڑکی کے چچا تایا وغیرہ کو ملے گا اور بیوہ کے انتقال کے بعد بیوہ کا حصہ اس کے والدین کو ملے گا۔ اور اگر والدین نہیں ہیں، تو اس کے بھائی بہنوں کو شرعی حصہ کے اعتبار سے ملے گا۔ اور اگر بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو بھتیجوں کو ملے گا۔

أولہم بالمیراث جزء المیت، أي البنون، ثم بنوہم وإن سفلوا، ثم أصلہ، أي الأب، ثم الجد، أي أب الأب وإن علا، ثم جزء أبیہ، أي الإخوة، ثم بنوہم وإن سفلوا. (سراجی، ص: ۲۲)

تتعقد الہبۃ بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنہا من

التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المحلّة رستم باز، إتحاد دیوبند ۱ / ۴۶۲،

رقم المادة: ۸۳۷، شامی کراچی ۵ / ۶۹۰، زکریا ۸ / ۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۷ / شعبان ۱۴۱۱ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶ / ۲۳۳۶)

۱۴۱۱ / ۸ / ۷ھ

والدہ کا اپنی بیٹی اور نواسی کے نام مکان ہبہ کرنا

سوال [۹۴۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مکان محلّہ باغ گلاب رائے میں ہے، جو میری والدہ رئیسہ خاتون نے ۱۹۴۲ء میں خریدا تھا، میری والدہ رئیسہ خاتون کی چار اولاد تھیں، دو لڑکے، دو لڑکیاں محمودہ خاتون، مقصودہ خاتون، افسر علی، ظفر علی، محمودہ خاتون افسر علی اور ظفر علی کا انتقال والدہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، میری والدہ رئیسہ خاتون کے چار بھائی تھے، ریاست علی، مختار علی، لیاقت علی، احسان علی، تین بھائیوں کا انتقال میری والدہ رئیسہ خاتون کی زندگی میں ہو گیا تھا، سب سے چھوٹے بھائی احسان علی کا انتقال رئیسہ خاتون کے بعد ہوا، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؛ کیوں کہ وہ دماغی کمزور تھے، میرے والد نے میری شادی کر دی اور میں اور میرے شوہر والدہ کے ہی پاس رہتے تھے، شادی کے دو سال کے بعد میرے شوہر کے والد پاکستان جانے لگے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کو کہا؛ لیکن میری والدہ نے نہیں بھیجا، اس میں میری بھی مرضی تھی؛ کیوں کہ میں پاکستان جانا نہیں چاہتی تھی؛ لہذا میرے شوہر مجھے طلاق دے کر اپنے والدہ کے ہمراہ پاکستان چلے گئے، میری گود میں ایک لڑکی تھی فریدہ خاتون، میں اور میری بچی والدہ کے پاس رہتے رہے، میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، بچی فریدہ خاتون بڑی ہو گئی، میری والدہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے والد یا والدہ کا کوئی عزیز میری والدہ کے بعد مجھے مکان کے بارے میں نہ ستائے؛ اس لئے والدہ نے اپنی زندگی میں ہی مکان کو میرے اور میری بچی

فریدہ خاتون کے نام بذریعہ رجسٹری ہبہ کر دیا، والد نے فریدہ کی شادی بھی کر دی، فریدہ اور اس کے شوہر اس مکان میں رہتے ہیں؛ کیوں کہ آدھا فریدہ خاتون کے نام ہبہ ہے، ہبہ کرنے کے تقریباً ۱۲ سال بعد میری والدہ ربیبہ خاتون کا انتقال ہوا ہے؛ کیوں کہ میری والدہ نے اپنی زندگی ہی میں میرے اور فریدہ کے نام ہبہ کر دیا تھا، تو اب والدہ یا والد کا کوئی عزیز حق دار تو نہیں بنتا یہ بتائیے؟ عین نوازش ہوگی۔

المستفتیہ: بمقصودہ خاتون و فریدہ خاتون، محلہ باغ گلاب رائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ حالات میں پورا مکان آپ کی والدہ کی ملکیت تھی اور جب انہوں نے زندگی میں آپ کو اور آپ کی لڑکی کو باقاعدہ ہبہ کر کے قبضہ دے دیا اور اس میں آپ اور آپ کی لڑکی مع شوہر کے رہنے لگیں تو شرعی طور پر وہ مکان آپ ہی دونوں کا ہو گیا، اس میں کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔

الہبۃ: عقد مشروع - إلى قوله - والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول،
وقبضه لا بد منه لثبوت الملك. (هدایۃ، کتاب الہبۃ، أشرفی دیوبند ۳/ ۸۲ شرح
المحجلۃ رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/ ۶۶۲، رقم المادۃ: ۸۳۷، درمختار کراچی ۵/ ۶۸،
زکریا ۸/ ۴۹۳، ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/ ۳۷۷، جدید ۴/ ۳۹۹، مجمع الأنہر، دارالکتب
العلمیۃ بیروت ۳/ ۴۹۱، بدائع الصنائع، کراچی ۶/ ۱۲۳، زکریا ۵/ ۱۷۶) فقط واللہ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۱۵/۱۲/۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۲۶۲)

والدہ کا دو بیٹوں سے قرض معاف کر کے بقیہ سے وصول کر کے دوسروں کو دینا

سوال [۹۴۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: والدہ اور ۶ بیٹوں کے درمیان مشترکہ کاروبار میں والدہ کے پیسے ہر بیٹے کے پاس نکل

رہے ہیں، والدہ نے اپنے دو بیٹوں کے اوپر سے واجب پیسوں کو معاف کر دیا اور بقیہ بیٹوں سے اپنے پیسے لے کر انہیں دو بیٹوں کو دینا چاہتی ہیں، تو کیا والدہ کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ دو بیٹوں کے علاوہ کے ساتھ انصافی تو نہیں ہے؟ شرعی حکم واضح فرمائیں۔

المستفتی: محمد سلیم کلکتہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ماں باپ پر اپنی حیات میں اولاد کو کچھ روپے پیسے یا دیگر اموال و جائیداد ہبہ کرنے میں برابری کرنا لازم ہے، برابری نہ کرنے کی صورت میں والدین گنہگار ہوں گے؛ لہذا مسئلہ صورت میں والدہ کا صرف دو بیٹوں کا قرض معاف کرنا اور بقیہ چار لڑکوں سے قرض وصول کر کے ان ہی دو لڑکوں کو ہبہ کر دینا انصافی ہے، ایسا کرنے کی وجہ سے والدہ گنہگار ہوں گی؛ البتہ اگر وہ چاروں بیٹے والدہ کے نافرمان ہوں اور والدہ ان سے ناراض ہوں، تو وہ ان بیٹوں کے ساتھ مذکورہ معاملہ کر سکتی ہیں۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - أنه قال: أن أباه أتى به رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فارجه. (مسلم، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، النسخة الهندية ۲/ ۳۶، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۲۳)

يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين، وإن وهب ماله كله لواحد جاز قضاء، وهو آثم. (البحر الرائق، كتاب الهبة، كونه ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰، هندية، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، قاضيخان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ شعبان ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۷۱/۳۹)

زندگی میں بحالت صحت اپنی اولاد کو کچھ دینا

سوال [۹۴۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: گزارش یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے ذاتی سرمایہ سے ایک مکان خریدا تھا، ان کی اولاد میں صرف ہم دو لڑکیاں ہیں اور ہماری والدہ صاحبہ ہمارے والد صاحب کے دو بھائی ایک بہن ہے، ہمارے والد صاحب نے اپنی اور والدہ صاحبہ کی زندگی میں چند احباب کے سامنے ہبہ زبانی کر دیا اور ہم دونوں بہنوں کا اس مکان پر قبضہ بھی دے دیا اور کہہ دیا کہ اس مکان کی مالک و مختار دونوں میری بیٹیاں ہیں اور مکان میں برابر برابر حصہ دار ہیں، والد صاحب کے مرنے کے بعد ہمارے چچا صاحب نے ہم پر اور والدہ صاحبہ پر تقسیم مکان کا عدالت میں دعویٰ کر دیا اور کہا کہ ہم بھی حصہ دار ہیں، اس کے بعد ہمارے چچا صاحب کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد ہماری والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا کے وارثوں میں سے چچا کی بیوی یعنی ہماری چچی اور ان کی ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ مکان میں رہتی ہیں اور چچا نے دو کو وارث بنا دیا، اب بتائیے گا کہ یہ دعویٰ تقسیم اور یہ وارثان قائم کرنا جائز ہے اور کس طرح جائز ہے؟ یا اس مکان میں ان کا حصہ شرعاً ہے یا نہیں؟

المستفتیہ: دختران قمر جہاں و چندہ بیگم، فیل خانہ تحصیل اسکول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں بحالت صحت دونوں لڑکیوں کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا ہے، تو شرعی طور پر دونوں لڑکیاں مالک ہو چکی ہیں، اس میں اب کسی کا کوئی حق وابستہ نہ ہوگا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو

میراث، قال: فدعوت یزید الرشک، فقسّمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفکر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

والقبض لا بد منه لثبوت الملك الخ. (هدایة، کتاب الهبة، أشرفی دیوبند

۲۸۳/۳، مختصر القلوری، ص: ۱۳۵)

لہذا اب عدالت کے ذریعہ اگرز بردستی حصہ دار بنتا ہے، تو وہ غاصب ہوگا۔

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.

(مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۴۲۵، رقم: ۲۴۰۰۳)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه، أشرفی

۱۱۰، رقم المادة: ۲۶۹، شرح المحجلة رستم، اتحاد ۱/ ۶۲، رقم المادة: ۹۷) فقط واللہ

سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم جمادی الاخریٰ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۸۳۱)

کسی ایک وارث کے نام مکان ہبہ کرنا

سوال [۹۴۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد احمد مرحوم کے پاس ۹۸ رگز جگہ تھی، جس میں سے ۴۹ رگز اپنے چھوٹے بھائی کو دی تھی اور ۴۹ رگز جگہ اپنی بھتیجی کو (محمدی بیگم) کو دی، انہوں نے اپنا حصہ بیچ دیا اور اسی رقم سے کرولہ پر ۶۲ رگز کا بنا ہوا مکان خریدا۔ محمدی بیگم بیوہ ہیں، ان کے دو لڑکے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں، سب کی شادی ہو چکی ہے، یہ چاہتی ہیں کہ ۶۲ رگز کا مکان اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دیں اور اسی لڑکے کے ساتھ رہتی ہیں، کیا شرعی اعتبار سے ان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

نوٹ: محمدی بیگم کی یہ جائیداد ان کے چچا سے ملی ہوئی ہے، شوہر کی یہ جائیداد نہیں ہے، اس صورت کا بھی لحاظ رکھا جائے۔

المستفتی: محمد فیصل کوہ نور تراہہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محمدی بیگم کا ۶۲ گز کا مکان اس کی ملکیت ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے چاروں بچے شرعی حق دار بنیں گے، صرف ایک بچے کو دے کر دوسروں کو محروم کرنا ماں کی طرف سے ظلم ہے، جب کہ دوسرے بچے نافرمان نہ ہوں، ہاں البتہ دوسروں کی مرضی سے کچھ حصہ چھوٹے بچے کو زائد دینا درست ہو سکتا ہے، دوسرے بچے جب کہ نافرمان نہ ہوں، ان کو سرے سے محروم کر دینا شریعت میں مشروع نہیں ہے۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلته ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فارجه. (بخاري شريف، كتاب الهبة، باب الهبة للولد الخ / ۱، ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۴، ف: ۲۵۸۶)

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دار السلام، رقم: ۲۷۰۳، مشکوة / ۲۶۶)

وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم وهو المختار. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا جديد ۴ / ۴۱۶، قديم ۴ / ۳۹۱، قاضى خان، زكريا جديد ۳ / ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳ / ۲۷۹، بزازية، زكريا جديد ۳ / ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶ / ۲۳۷، البحر الرائق، كوئنه ۷ / ۲۸۸، زكريا ۷ / ۴۹۰، شامي زكريا ۸ / ۵۰۱، كراچى ۵ / ۶۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۶/۱۴۳۳ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/۱/۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۴۹۶)

والد کی جانب سے بیٹے کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال [۹۴۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: والد صاحب نے مجھ کو ۳۶ رگرز زمین میں مکان بنا کر علیحدہ کر دیا تھا اور میں نے اس میں اپنے طور پر بڑی جھانکشی سے کافی تصرفات والد صاحب کی زندگی ہی میں کر لئے تھے اور اس کو دو تین منزلہ بنا لیا تھا، میں نے اس مکان میں والد صاحب کی تقریباً بیس بائیس سالہ زندگی گزار دی، اب گذشتہ سال والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، واضح رہے کہ زمین کا بیع نامہ والد صاحب ہی کے نام ہے اور والد صاحب کی اس کے علاوہ بھی کچھ زمین ہے، جس میں دو بھائی رہتے ہیں، اس میں دریافت یہ کرنا ہے کہ والد صاحب نے جو اپنی زندگی میں ۳۶ رگرز میں مکان بنا کر مجھے علیحدہ کر دیا تھا اور اس میں ان کی بیس بائیس سالہ زندگی میں تصرفات کرتا رہا، تو کیا شرعاً یہ میرے لئے ہبہ ہے یا نہیں؟ یا میرے دو بھائی اور دو بہنیں بھی اس میں حق دار ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتی: ثناء احمد، گلینہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: والد صاحب کے مکان دینے پر جو آپ نے اس میں تصرفات کئے ہیں اور والد صاحب نے اس پر کوئی روک تھام نہیں کی اور نہ دیگر بھائی بہنوں نے اس پر کوئی اشکال و تکبر کی، تو یہ ہبہ پر ڈال اور قرینہ ہے؛ لہذا اس طرح ہبہ کی تکمیل ہوگئی؛ اس لئے اب اس میں دوسرے ورثاء کا حق نہیں ہے۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسماها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات،

والمراد بالقبض الكامل في المنقول ما هو المناسب، وفي العقار أيضا ما يناسبه. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۹۲، مصری قدیم ۲/ ۳۵۴، شرح المحللة رستم، مکتبه اتحاد ۱/ ۴۶۳، رقم المادة: ۸۳۷، بدائع الصنائع، زکریا ۴/ ۴۹۸، کراچی ۵/ ۲۴۴)

هي لك حلال لا يكون هبة إلا إذا دلت قرينة على إرادتها. (بزازية، كتاب الهبة، الباب الأول، زکریا جدید ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۶۹۰)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۵/۱۴۲۱ھ

لڑکے کو بھائی بہنوں کی رضا مندی سے مکان ہبہ کرنا

سوال [۹۴۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مسئلہ درپیش یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی حیات میں چند پراپرٹیاں خریدی تھیں، ان میں سے ایک مکان انہوں نے ہماری والدہ کو ہبہ کر دیا تھا، جو والدہ کے تصرف میں تھا، والد صاحب نے الحمد للہ ہماری بہنوں کی شادیاں بڑے اچھے طریقہ سے کر دی تھیں اور اپنے تین بیٹوں میں سے بڑے کی شادی کر دی تھی، عمر کے آخری دور میں والد صاحب نے اپنی پراپرٹیوں میں سے بڑے بھائی (بیٹے) کو ایک دوکان، گوڈاؤن مع اموال تجارت دے کر ہبہ کر دیا اور درمیانی بھائی کو ایک فلیٹ دے دیا اور چھوٹے بھائی کو دینے کے لئے کچھ نہیں تھا، تو والدہ نے کہا کہ میں یہ مکان چھوٹے کو دوں گی، یہ بات شروع سے کہی جا رہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ والدہ اپنا مکان چھوٹے کو ہی دیں گی، یہ اس کا حق ہے، الحمد للہ ساری بہنیں خوشحال ہیں اور اس طرح والدہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔

والدہ نے چھوٹے بیٹے سے کئی مرتبہ کہا کہ یہ مکان تمہارا ہی ہے؛ لیکن مکمل بہہ عمل میں نہیں آیا تھا کہ والدہ کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں تقریباً آج سے ۸-۹ مہینے پہلے لقوہ کا جھٹکا آیا، علاج ہوا اور طبیعت سنبھل گئی؛ لیکن پھر تقریباً تین ماہ بعد لقوہ کا بڑا جھٹکا آیا اور والدہ بستر پر آگئیں، فی الحال یہ حال ہے کہ زبان سے صاف بول نہیں سکتیں، کھانا وغیرہ خود پوری طرح کھا نہیں سکتیں، ہم کھلاتے ہیں، طبیعت کئی مرتبہ اچھی ہوئی، پھر خراب ہوئی، یہی معاملہ چل رہا ہے، اس طرح تقریباً ۸-۹ ماہ ہو چکے ہیں۔

چند دنوں پہلے گھر والوں میں یہ بات نکلی کہ دوسرے بیٹوں کو تو ان کے مطابق کچھ نہ کچھ مل گیا، چھوٹے بیٹے کو تو ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ اور والدہ کی حیات میں ان کے گھر کے متعلق فیصلہ ہو جائے اور وہ مکان چھوٹے بیٹے کو دے دیں، تو اس چھوٹے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا؛ لہذا گھر والوں نے ارادہ کیا کہ والدہ سے پوچھا جائے (الحمد للہ والدہ سب کچھ پوری طرح سمجھتی ہیں) چنانچہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنا مکان (جو فی الحال کرائے پر دیا ہوا ہے) چھوٹے بیٹے کو دیتی ہیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ ہاں دیتی ہوں، دراصل ان سے کہا گیا تھا کہ اگر دینا ہو تو ہاتھ اٹھاؤ اور نہ دینا ہو تو ہاتھ نہ اٹھاؤ، خیر انہوں نے اشارہ سے ہبہ کر دیا اور اب سب کا ارادہ ہے کہ پیپر بنا کر ان کے انگوٹھے کا نشان لے لیا جائے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ کئی سالوں سے چھوٹا بیٹا والدہ کے اس مکان کا سالانہ ٹیکس اور ماہانہ مینٹیننس بھرتا ہے، کیوں کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ گھر تو اسی کا ہے اور اسی کا ہوگا اور والدہ بھی خوش رہیں ان پر کوئی بوجھ نہ ہو، مگر اب چھوٹے بیٹے کے ذہن میں یہ بات آرہی ہے کہ اس حالت میں جو ہبہ ہو رہا ہے وہ معتبر ہے یا نہیں؟ کہیں یہ مرض الموت تو نہیں؟ حالانکہ یہ کہا نہیں جاسکتا کہ یہ مرض الوفا ہے؛ لیکن بہر حال ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض مرض الوفا ہو اور والدہ خود اور دیگر بھائی بہن تقریباً سب اس ہبہ پر راضی ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ نیز کوئی متبادل شکل ہو جس سے گھر چھوٹے بیٹے کو مل جائے، کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ رقم کے عوض چھوٹا بیٹا وہ مکان اپنی والدہ سے خرید لے تو یہ شکل ہو سکتی ہے مرض الوفا کے ہبہ سے بچنے کی؟

تفصیل بالا سے آپ حالات سے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ والدہ اور سب مکان دینا چاہتے ہیں، تو کون سی شکل اختیار کی جائے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: عبدالرشید، اندھیری، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کی تفصیل کے مطابق جب والدہ وہ مکان چھوٹے بیٹے کو دے رہی ہیں اور اس پر سب بھائی بہن راضی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مرض الوفا ت ہی کیوں نہ ہو یہ ہبہ جائز اور درست ہوگا۔ اور بہتر یہی ہے کہ ایک کاغذ پر اس ہبہ کی وضاحت لکھ کر اس میں سب بھائی بہنوں کے دستخط کرائے جائیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔

لو أجاز الوارثة هبة المريض بعد موته صح. (شرح المحلة رستم

۱ / ۴۸۴، رقم المادة: ۸۷۹)

إن هبة المريض في مرض الموت لأحد ورثته لا تجوز إلا أن يجيزها

الوارثة السابقون بعد موت الواهب. (شرح المحلة لخالد الأتاسي ۳ / ۴۰۳، بحوالہ

فتاویٰ محمودیہ مطبوعہ ذابھیل ۱۶ / ۴۸۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ / رجب ۱۴۳۱ھ

۲۵ / ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹ / ۱۰۱۵۳)

بڑے لڑکے کے نام بندوق منتقل کرنا

سوال [۹۴۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ساجد نے اپنی بندوق اپنے بڑے لڑکے فیصل کے نام پر منتقل کر دی ۱۹۷۲ء میں، جب کہ

ساجد کے دولڑکے عادل اور زاہد نابالغ تھے، جن کی عمر علی الترتیب ۹ اور ۷ سال تھی، پھر ۱۹۷۸ء

میں بڑے لڑکے فیصل کی شادی کر دی، ۱۹۸۰ء میں فیصل کو علیحدہ کر دیا اور ۱۹۸۴ء میں ساجد کا انتقال ہو گیا، تو کیا بندوق میں فیصل اور عادل اور زہد تینوں حصے دار ہوں گے یا نہیں؟

المستفتی: صحت اللہ خان سٹھلہ موانہ، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ساجد نے اگر اپنی بندوق اپنے بڑے لڑکے فیصل کے نام پر منتقل کر کے اپنی زندگی ہی میں اس پر اس کا قبضہ دے دیا تھا، تو ہبہ تام ہونے کی وجہ سے اس میں عادل اور زہد حصہ دار نہیں ہوں گے؛ لیکن اگر بغرض حفاظت دیگر دونوں نابالغ لڑکوں کو چھوڑ کر فیصل کے نام منتقل کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سرکار بندوق پر قبضہ نہ کر لے اور نہ ہی اس پر فیصل کا قبضہ دلایا ہے، تو بندوق میراث ہے اور تینوں بھائی اس میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۸/۳۴۵، جدید ڈبھیل ۱۶/۳۹۵)

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة، فإذا مات أحدهم قال: مالي في يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه. (سنن الكبرى للبيهقي الهبات، باب يقبض للطفل أبوه، دار الفکر ۹/۱۵۶، رقم: ۱۲۱۷۹)

بيع التلجئة: البيع الصوري أن يضطر لإظهار عقد وإبطان غيره مع إرادة ذلك الباطن كأن يظهر بيع داره لثلاثي استولى عليها السلطان. (مجمع لغة الفقهاء، كراچی، ص: ۱۴۴)

دفع مالا لابنه ليتصرف فيه، ففعل وكثر ذلك، فمات الأب إن أعطاه هبة، فالكل له وإلا فميراث. (الدرمع الرد، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهبة، زكريا ۱۲/۶۶۶، كراچی ۵/۷۰۹)

وإن لم يعطه هبة بأن أعطاه قرضاً أو دفع إليه ليعمل للأب فميراث.

(تکملة شامی، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، زکریا ۱۲/۶۶۶، کراچی ۸/۴۹۹)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۷/۱ھ

۱۴۱۵/۷/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۱۰۴/۳۱)

زندگی میں صرف ایک بیٹے کو جائیداد دینا

سوال [۹۴۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: والدین نے اپنی حیات میں کچھ زمین اپنی اولادوں میں سے ایک لڑکے مظہر الحق کو دے دی تھی اور اس زمین کی رجسٹری بھی مظہر الحق کے نام کرادی تھی اور پھر زندگی میں ہی اس پر قبضہ و دخل بھی دے دیا تھا، اب والدین کے انتقال کے بعد اس رجسٹری شدہ زمین میں دیگر ورثاء حصہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب کہ اس زمین کے علاوہ بھی دیگر زمین و مکان وغیرہ والدین کے ترکہ میں ہے جو سب اولادوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اب دریافت یہ کرنا ہے کہ اس مظہر الحق کی رجسٹری والی زمین میں دیگر ورثاء کا حق ہوگا یا صرف مظہر الحق ہی اس کا مالک ہوگا، شرعی حکم واضح فرمادیں؟

المستفتی: مظہر الحق سفیر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شہابی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: والدین کی زندگی میں ان کے مال و جائیداد میں کسی وارث کا کوئی حق نہیں تھا اور والدین کو اپنے مال میں ہر طرح تصرف کرنے کا حق تھا؛ لہذا اگر واقعی انہوں نے اپنی حیات میں جیسا کہ سوال نامہ میں وضاحت ہے اپنی کچھ زمین اپنے ایک لڑکے مظہر الحق کو ہبہ کر کے اس کے نام رجسٹری کرادی تھی اور قبضہ و دخل بھی دے دیا تھا، تو بلاشبہ اس زمین کا مالک تھا مظہر الحق ہے، دیگر وارثین کا اس زمین میں شرعاً کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لئے اس زمین میں سے اپنا حصہ مانگنا جائز ہے۔

کل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/

۶۵۴، رقم المادة: ۱۹۲)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي

شريف، سورة الفاتحة، كتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/۷)

وشرائط صحته في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا

غير مشغول. (شامي، كتاب الهبة، كراچی ۵/۶۸۸، زكريا ۸/۴۸۹)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامي، كراچی ۵/۶۹۰، زكريا ۸/۴۹۳)

وتتم بالقبض الكامل؛ لقوله عليه السلام: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة.

(مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۴۹۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/رجب المرجب ۱۴۳۴ھ

۸/۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۱۸۲/۲۰)

چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کی دوکان کو پختہ بنا کر رقم لینا

سوال [۹۴۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ساجد کے انتقال کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری بڑے لڑکے فیصل پر تھی اور تینوں لڑکے بے روزگار تھے؛ لہذا سب نے متفق ہو کر گھر کا بیع نامہ کر دیا اور جو قرض اس درمیان لیا اس کو ادا کر دیا اور باقی رقم ایک بھائی کو دے دی اور ڈرائیوری کے لئے سعودی عرب بھیج دیا اور اس کے لئے بھی کچھ قرض لینا پڑا، تاکہ وہ سعودیہ جا کر کمائے اور بڑے بھائی فیصل کو برائے روزگار دوکان کرا دے، اب چونکہ ساری ذمہ داری اس سعودیہ والے پر تھی، تو اس نے گھر کے خرچ کے لئے وہاں سے روپے بھیجے اور جب واپس آیا تو بڑے بھائی کے حصہ کی دوکان کو پختہ کرا دیا اور بڑے بھائی نے بینک سے قرض لے کر

خرید و فروخت کا سامان رکھ لیا، اب کافی عرصہ کے بعد دوکان میں لگائی ہوئی رقم واپس مانگتا ہے، تو کیا یہ رقم اس کو مانگنے کا شریعت میں حق ہے یا نہیں؟

المستفتی: صبغت اللہ خان سٹلمہ موانہ، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی فیصل کے بغیر طلب کئے اس کی خام دوکان پکی بنا دی اور اخراجات لئے بغیر دوکان اسکو سپرد کر دیا اور نہ ہی بعد میں لینے کی کوئی شرط لگائی ہے، تو ہبہ تام ہو گیا؛ لہذا وہ اب اس رقم کو اپنے بڑے بھائی فیصل سے واپس لینے کا حق دار نہیں ہے۔

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ: العائد في هبته كالعائد في قبته. (صحيح البخاري، هبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته،

النسخة الهندية ۱/ ۳۵۷، رقم: ۲۵۴۷، ف: ۲۶۲۱)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: الرجل أحق بهبته مالم يشب منها. (سنن ابن ماجه، باب من وهب هبته رجاء ثوابها، النسخة الهندية ۲/ ۱۷۲، دار السلام، رقم: ۲۳۸۷)

ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم. (عالمگیری، كتاب الهبة، الباب الخامس في الرجوع في الهبة، زكريا جديد ۴/ ۴۰۹، قديم ۴/ ۳۸۵)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

یکمرب ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۷/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۱۰۴/۳۱)

صرف ایک بھائی کی اولاد پر خرچ کرنے کا حکم

سوال [۹۴۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: حاجی عبدالعزیز صاحب جو زندہ ہیں، ان کی ایک بیوی ہے، اور کوئی اولاد نہیں، اپنے ایک بھتیجے محمد شریف کو گود میں لے کر پالا ہے اور شریف کے علاوہ دوسرے بھتیجے بھی ہیں، حاجی صاحب موصوف اپنی ملکیت جائیداد نقد رقم سب شریف احمد کی اولاد پر خرچ کیا کرتے ہیں، دوسرے بھتیجوں پر خرچ نہیں کرتے، تو حاجی صاحب کے لئے جائز ہے اور حاجی صاحب کی ایک بہن بھی ہے، کیا بہن کا بھی حق ہوگا یا نہیں؟ صاف صاف واضح فرمائیں اور حاجی عبدالعزیز صاحب کے کوئی بھائی نہیں ہے صرف حاجی صاحب زندہ ہیں۔

المستفتی: عبدالعزیز، محلہ پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حاجی عبدالعزیز صاحب شرعاً اپنی تمام جائیداد اور نقد رقم کے خود مالک ہیں، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، حاجی صاحب موصوف اپنی زندگی میں جس پر چاہیں خرچ کریں اور جس پر چاہیں خرچ نہ کریں، ان پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے؛ لہذا صرف شریف احمد کی اولاد پر خرچ کرتے رہیں اور دوسروں پر خرچ نہ کریں تو ان کو اختیار ہے۔ اور بہن کا اگر شوہر موجود ہے، تو اس کے اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہوگا، حاجی صاحب پر کوئی ذمہ داری نہیں۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من المملك.

(بیضاوی شریف، سورۃ الفاتحہ، کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/ ۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/ صفر ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۳۶/۲۵)

پوتی کو اپنی زندگی میں ہبہ کرنا

سوال [۹۴۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے ایک صاحبزادے نے پہلی زوجہ کو طلاق دے دی، اس کی چھوٹی بچی تھی، شاید عمر

ایک سال رہی ہوگی، اس وقت اس کی پرورش کے لئے یکمشت رقم زوجہ کو دے دی گئی تھی؛ لیکن ۷ سال بعد بچی کی پرورش و تعلیم کے سلسلہ میں صاحبزادے نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور بچی نانی کی دیکھ بھال میں پلتی رہی ہے، ادھر نانا کا بھی انتقال ہو گیا، مالی حالت بھی کوئی خاص نہیں، بچی کی تعلیم وغیرہ پر کوئی خاص توجہ کون دیتا نہ معلوم اس معصوم کا کیا حال ہے، یہ دو تین برس ہوئے بچی نے مجھے فون پر بتایا کہ ان کے والد کوئی خاص امداد نہیں کر رہے ہیں، ایک ہزار روپیہ کچھ عرصہ پہلے بھجوایا تھا، میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ صاحبزادے مذکور کا جو شرعی حصہ میرے مکان میں ہو سکتا ہے وہ میں اس بچی کو منتقل کر دوں، صاحبزادے مذکور کے پاس دہلی میں اپنے ذاتی دو تین مکان ہیں اور مالی حالت بھی اچھی خاصی ہے اور ان کی دوسری زوجہ سے دولڑکے ہیں۔ کیا میری یہ سوچ بچی کی اشک ثوئی کے لئے مناسب ہوگی یا میں خود جائز وارث کو محروم کرنے کا مجرم ٹھہروں گا کہ میری ذمہ داری اس بچی کو حق پہنچانے کی نہیں ہے یا ہے؟

المستفتی: تلخیص احمد قاضی ٹولہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس بچی کا سوال نامہ میں ذکر ہے، اس کے خرچ اخراجات شرعی طور پر باپ کے ذمہ لازم ہے، اور جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کی جائیداد میں کوئی بھی شرعی حصہ کا مالک نہیں ہے، آپ حالت صحت میں اپنی جائیداد میں سے جس کو چاہیں، جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، اس بارے میں شرعاً آپ کو اختیار ہے اور یہ سوچ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی موت کے بعد صاحبزادے کا جو شرعی حق بنے گا وہی آپ اس بچی کو دے دیں؛ کیوں کہ موت سے پہلے یہ فیصلہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے؛ اس لئے کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت سے پہلے صاحبزادے کی موت واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں صاحبزادہ آپ کا وارث ہی نہیں بنے گا، نیز مذکورہ بچی اپنے باپ کی اس طرح وارث شرعی ہے، جس طرح اس کی دوسری بیوی کی اولاد وارث ہو سکتی ہے، ایسی حالت میں

اس بچی کو بطور شفقت کے آپ اپنی مرضی سے اپنی ملکیت میں سے جو چاہیں، جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، آخرت میں آپ کے اوپر اس بارے میں کسی قسم کی دار و گیر نہ ہوگی۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي ۶)
 الملک ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي،
 البيوع، مطلب في تعريف المال، زكريا ۷/۲۳۵، کراچی ۵/۵۰)

أما إذا كان الولد أنثى، فإن نفقتها تجب على والدها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. (الفقه على المذاهب الأربعة مكمل، ص: ۱۰۹۰)

قال مشايخ بلخ: الإرث يثبت بعد موت المورث. (البحر الرائق، كتاب
 الفرائض، زكريا ۹/۳۶۴، كوئٹہ ۸/۴۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

۱۶/۱/۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۸۳/۴۰)

یتیم پوتے پوتیوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ

سوال [۹۴۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا اپنے باپ کی زندگی میں، اس لڑکے کی اولادیں موجود ہیں، اور دیگر بھائی بہن بھی ہیں، تو دادا کو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے؟ کیا جائیداد سے کچھ دینا چاہئے یا اس حقیقی اولاد کو دیں؟

المستفتی: عبداللہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں دادا کو چاہئے کہ مرحوم بیٹے کی اولاد کو جتنا حصہ بھی دینا ہوگا اتنے کا ہبہ کر کے ان کو قبضہ دے کر مالک بنا دے، اس طرح مرحوم بیٹے کی اولاد محروم نہ ہوں گی، اگر ایسا نہ کیا گیا تو دادا کے انتقال کے بعد پوتیوں کو کچھ بھی نہ ملے گا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، موسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار على الشامي، كتاب الهبة، زكريا ۸ / ۴۹۳، كراچی ۵ / ۶۹۰، ہندیہ، زكريا قديم ۴ / ۳۷۷، جديد ۴ / ۳۹۹، ہدایہ، اشرفی ۳ / ۲۸۳، مختصر قدوري، ص: ۱۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ شعبان ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶ / ۳۴۱)

متوفی لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو دینا

سوال [۹۴۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص جس کے پانچ لڑکے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، اب وہ شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرے تو کیا وہ شخص اپنے متوفی لڑکے کا حصہ اس کی اولاد یعنی اپنے پوتوں کو دے سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: جاوید احمد، بمبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ شخص اپنی زندگی میں ساری جائیداد اور ساری دولت کا مالک ہے، مرحوم بیٹے کی اولاد شخص مذکور کی وارث نہیں ہوگی؛ اس لئے اپنی زندگی میں ان پوتوں کو جو کچھ بھی ہبہ کر کے قبضہ دے دے گا تو پوتے اس کے مالک ہو سکتے ہیں، اس کے بعد بقیہ جائیداد موجودہ چاروں بیٹوں کے درمیان برابر تقسیم کر کے دے سکتے ہیں۔

کل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة تسليم رستم باز، اتحاد

دیوبند ۱/ ۶۵۴، رقم المادة: ۱۱۹۲)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتاب خانہ رشدیہ دہلی ۱/ ۷)

لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي،

کتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم، کراچی ۵/ ۵۰۲، زکریا ۷/ ۱۰)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامي، کتاب الهبة، زکریا ۸/ ۴۹۳، کراچی

۵/ ۶۹۰، هداية، اشرفی ۳/ ۲۸۳، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/ ۳۷۷، جدید ۴/ ۳۹۹، مجمع

الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۹۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳ھ/۵/۱۷

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۱۱۹/۴۰)

نانا کا تبرعاً نواسہ کو کچھ دینا

سوال [۹۲۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ہمارے نانا عبدالکریم حیات ہیں اور ہماری والدہ مصطفائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا

میں اپنے نانا سے کچھ مانگ سکتا ہوں اور وہ ہمیں بطور احسان دے سکتے ہیں اور ہمارے ایک

ماموں اور خالہ بھی ہیں؟

المستفتی: محمد سالم لال مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ کے نانا کی اولاد موجود ہے تو آپ اپنے نانا کے

وارث نہیں بن سکتے اور نہ ہی بطور حق نانا سے مانگنے کا حق ہے؛ البتہ نانا کی مرضی ہے وہ چاہیں تو

دے دیں اور چاہیں تو نہ دیں، آپ کو ان سے کسی طرح کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة تسليم رستم باز، اتحاد

دیوبند ۱/۶۵۴، رقم المادة: ۱۱۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۵/۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۸۰۲۸)

ماموں کا اپنے بھانجے کو زمین ہبہ کرنا

سوال [۹۴۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: میں محمد صدیق ولد بدھن نے دو نکاح کئے، جس میں سے پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا،

دوسری بیوی حیات ہے، جس کے پانچ لڑکے اور ایک لڑکی ہے اور پہلی بیوی سے صرف ایک

لڑکا ہے، پہلی بیوی کا لڑکا جس کا نام شفیق احمد ہے، اس کے ماموں جو اس کی ماں کا سگا بھائی

ہے شفیق کوز مین بطور ہبہ اسٹامپ پر لکھ دی تھی اور اس میں جتنے بھی روپے آج تک لگے ہیں

وہ سب شفیق نے صرف اپنی کمائی کے لگائے ہیں، اب شفیق کے والد محمد صدیق اپنے نام کرانا

چاہتے ہیں، مہربانی کر کے اس کا فتویٰ ارسال کر دیجئے۔

المستفتی: محمد اسلم پیرغیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شفیق کو جو زمین اس کے ماموں نے بطور ہبہ اسٹامپ پر

لکھ کر دی تھی، اس پر شفیق کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے؛ لہذا اب اس کی رضامندی کے بغیر وہ

زمین اس سے کسی کا لینا جائز نہیں ہے۔

کما فی الدر: وتتم الهبة بالقبض الكامل. (الدر المختار، کتاب الهبة،

کراچی ۵ / ۶۹۰، زکریا ۸ / ۴۹۳، ہندیہ، زکریا قدیم ۴ / ۳۷۷، جدید ۴ / ۳۹۹، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳ / ۴۹۱

و حکمها ثبوت الملك للموہوب له غیر لازم. (تنویر الأبصار، کراچی

۵ / ۶۸۸، زکریا ۸ / ۴۹۰، تاتارخانیہ، زکریا ۱۴ / ۴۱۳، رقم: ۲۱۵۳۷)

عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. (مجمع الزوائد، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۴ / ۱۷۱)

وفي الشامية: لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب

شرعي. (الشامي، كتاب الحدود، مطلب في التعزير بأخذ المال، کراچی ۴ / ۶۱، زکریا ۶ / ۱۰۶، لبحر الرائق، کوئٹہ ۵ / ۴۱، زکریا ۵ / ۶۸، الموسوعة الفقهية ۲۱ / ۱۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ رجب الثانی ۱۴۱۷ھ

۱۷ / ۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲ / ۳۷۷)

نکاح کے موقع پر دیا جانے والا کپڑا نکاح سے پہلے پہننا

سوال [۹۴۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: نکاح کے وقت لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کا جو کپڑا جاتا ہے، کیا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی اس کپڑے کو پہن سکتی ہے؟ اگر لڑکی پہن لے تو اس کپڑے سے اس کی نماز درست ہے کہ نہیں؟

المستفتی: عبدالوحید مدرسہ اصلاح المسلمین بھناملک، مہراج گنج، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بوقت نکاح لڑکے کی طرف سے جو کپڑا وغیرہ دیا جاتا ہے، وہ بطور ہبہ یا ہدیہ کے ہوتا ہے؛ لہذا قبضہ کرنے کے بعد اس کا استعمال درست ہے۔

و شرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا
 غير مشغول كما سيتضح. (در مختار مع شامی، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/ ۴۸۹،
 کراچی ۵/ ۶۸۸، مجمع الأنهر، مصري قديم ۲/ ۳۵۳، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/
 ۴۹۱، ہندیۃ، زکریا جدید ۴/ ۳۹۵، قديم ۴/ ۳۷۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۸ صفر ۱۴۲۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۳۰۳/۶۰)

ہبہ کی ایک صورت کا حکم

سوال [۹۴۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: کہ مجیدن زوجہ علیم کا انتقال ۴ مئی ۱۹۸۰ء میں ہوا، بوقت انتقال شوہر کو چھوڑا اور کوئی
 اولاد نہیں تھی، مجیدن کے والد والدہ کا انتقال بھی پہلے ہی ہو چکا تھا، مجیدن کے چار بھائی تھے:
 (۱) عبدالحمید (۲) نظیر (۳) مجید (۴) منو، ان میں سے مجید اور منو کا اولاد ہونے کی حالت
 میں انتقال ہو گیا تھا اور عبدالحمید اور نظیر کی اولاد موجود ہیں، ان چاروں بھائیوں کا انتقال
 مجیدن کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، بھائی عبدالحمید کی اولاد میں چھڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے:
 (۱) عبدالوحید (۲) عبدالعزیز (۳) محمد رفیق (۴) محمد شفیق (۵) محمد شریف (۶) محمد جمیل۔
 اور لڑکی منی اور نظیر کی اولاد میں دو لڑکے: (۱) صدیق (۲) بنے اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔

اس کے بعد علیم زوج مجیدن کا انتقال بروز جمعرات ۴ جون ۱۹۸۷ء کو ہوا، بوقت انتقال کوئی
 اولاد نہیں تھی، وارثین میں سے علیم کے دو بھتیجے (۱) پیر بخش (۲) معشوق علی اور ایک بھتیجی
 عقیدن موجود ہے۔

نوٹ: علیم نے اپنی حیات میں ایک جگہ خرید کر اپنی زوجہ مجیدن کے نام کر دی تھی اور بیع نامہ
 کرا دیا تھا، اس کے بعد علیم نے یہ وصیت کرائی تھی کہ اس جگہ کی مالک جیتے جی مجیدن رہے گی

اور مرنے کے بعد میں (علیم) مالک رہوں گا، تو اس وصیت کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ اور مجیدن کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔

المستفتی: معشوق علی، محلہ لنگھراڑ پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے تو علیم نے جو جگہ خرید کر اپنی بیوی مجیدن کے نام کر دی تھی اور یہ وصیت کی تھی کہ مجیدن صرف جیتے جی تک مالک رہے گی، اس کے بعد علیم خود اس کا مالک بن جائے گا اور بعد میں جو وصیت کی شکل ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مجیدن کے نام کسی مصلحت کی بناء پر بیع نامہ کر دیا تھا، اس قسم کی بیع کو اسلامی شریعت میں ”بیع تلجہ“ کہتے ہیں، اس صورت میں مجیدن کے لئے ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ علیم کی ملکیت ہی میں باقی رہی ہے، مجیدن کے ورثاء کو اس میں سے کچھ حق نہیں ملے گا، پوری جگہ علیم کے ورثاء کو ملے گی، یہی صورت سوال نامہ اور حالات سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

(مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۷-۳۸)

وبيع التلجئة ويأتى متنا في الإقرار، وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو، وهو ليس ببيع في الحقيقة، بل كالهزل.

(الدرالمختار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب في بيع التلجئة، كوئثه ۴/۲۷۲، كراچی ۵/۲۷۳، زكريا ۷/۵۴۲، ہندیہ، زكريا قديم ۳/۲۰۹، جديد ۳/۱۹۶، المبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۲۴/۱۲۲، بدائع الصنائع، زكريا ۴/۳۸۹، كراچی ۵/۱۷۶)

اور اگر ۱۲ شوال المکرم ۱۴۰۷ھ میں لکھے ہوئے فتوے ۲۳/۲۷۳ کے مطابق بیع نامہ کو مصلحت پر محمول نہ کیا جائے؛ بلکہ ہبہ حقیقی مان لیا جائے تو بعد میں علیم کی ملکیت میں لوٹ آنے کی شرط شرعاً باطل ہے، اس طرح کے معاملہ کو شریعت میں عمری کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت

میں مجیدن کے ورثاء کو بھی حق مل جائے گا جو بشرط صحت سوال و بعد ادائے حقوق ما تقدم وعدم موانع ارث حسب ذیل طریقے سے تقسیم ہوگا:

مجیدن	۸	۴	۴
زوج	۱	۱	۱
علیم	۱	۱	۱
عبد الوحید	۱	۱	۱
عبد العزیز	۱	۱	۱
رفیق	۱	۱	۱
شیشیا	۱	۱	۱
شیشیا	۱	۱	۱
جمیل	۱	۱	۱
بنے	۱	۱	۱
صدیق	۱	۱	۱
منی	۱	۱	۱
محروم	۱	۱	۱
علیم	۱	۱	۱
پیر بخش	۱	۱	۱
معشوق علی	۱	۱	۱
عقیدن	۱	۱	۱
محروم	۱	۱	۱

خرید کردہ جائیداد کے بیع نامہ کو اگر ہبہ تسلیم کر لیا جائے تو کل ۱۶ سہام میں تقسیم ہو کر مجیدن کے بھتیجوں کو ایک ایک اور پیر بخش کو چار اور معشوق علی کو چار سہام ملیں گے۔ اور اگر ہبہ تسلیم نہ کیا جائے؛ بلکہ بیع نامہ کے ذریعہ مصلحتاً نام کر دینا سمجھا جائے جو زیادہ واضح بھی ہے، تو کل جائیداد ۲۰ سہام میں تقسیم ہو کر پیر بخش اور معشوق علی کو ایک ایک ملے گا۔ اور مجیدن کے تمام وارثین محروم ہو جائیں گے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۷ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۶۶۷)

عرصہ دراز کے بعد مقبوضہ اراضی پر دعویٰ باطل

سوال [۹۴۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ایک شخص بنام غلام رسول ایک کافی بڑے مکان کے ایک حصہ میں تقریباً سو سال سے رہائش اختیار کئے ہوئے ہے اور اس پر قابض ہے اور اس میں اپنا مالکانہ تصرف کرتا آیا ہے اور یہ مکان ۱۹۶۲ء میں بنایا گیا تھا، اسی وقت سے مکان کے مذکورہ حصہ میں غلام رسول کا مالکانہ قبضہ رہا ہے، اس کے دوڑ کے تھے: حمایت اللہ اور ولایت حسین، غلام رسول کے انتقال کے بعد غلام رسول کا یہ مکان اس کے دونوں لڑکے حمایت اللہ اور ولایت حسین کے درمیان شرعی طور پر تقسیم ہوا، اس کے بعد حمایت اللہ نے اپنا حصہ آج سے تقریباً بارہ سال قبل فروخت کر دیا، اس پر کسی نے دس بارہ سال کے درمیان کوئی اعتراض نہیں کیا؛ اس لئے کہ سب یہی سمجھتے تھے کہ حمایت اللہ کا دادا الہی مکان ہے اور ولایت حسین کا انتقال ہو جانے کے بعد اس کی دوڑ کیاں تھیں، انہوں نے اپنے باپ کا حصہ آج سے تقریباً بارہ سال قبل محمد عثمان اور محمد عمر کو فروخت کر دیا، اس پر بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور آج بڑا مکان جس کا ایک حصہ غلام رسول کی اولاد نے فروخت کیا ہے، وہ پورا مکان خاندان کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے اور اب خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلام رسول ہمارے خاندان کے آدمی نہیں تھے؛ لہذا غلام رسول کے ورثاء نے اپنا دادا الہی سمجھ کر جو حصہ فروخت کیا ہے وہ صحیح نہ ہونا چاہئے؛ لہذا غلام رسول کے ورثاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے درمیان فروخت شدہ حصہ بھی تقسیم میں شامل ہونا چاہئے، اب مذکورہ تفصیل کے تحت حسب ذیل سوالات مطلوب ہیں:

(۱) کیا مذکورہ تفصیل کی روشنی میں غلام رسول کے ورثاء کا اپنا حصہ فروخت کرنا شرعاً غلط ہے؟ جب کہ پورے محلہ اور پڑوس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکان غلام رسول کا ہے۔

(۲) اتنے لمبے عرصے تک غلام رسول اور اس کے ورثاء نے تقریباً سو سال تک اس مکان میں مالکانہ تصرف کیا ہے اور اس درمیان میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور آج اتنے عرصے کے بعد کسی کا یہ دعویٰ کرنا صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ مکان غلام رسول کا نہیں تھا؛ بلکہ ہمارا ہے، شرعاً یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے؟

(۳) بارہ اور آٹھ سال پہلے اس مکان کو غلام رسول کے ورثاء نے فروخت کیا ہے اور اس پر

کسی نے کوئی اعتراض یا اشکال نہیں کیا اور اب فروختگی کے اتنے سال بعد اس قسم کا اشکال اور دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عثمان میاں سرانے سنبھل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱-۲) غلام رسول اور اس کے ورثاء نے جب اتنے لمبے عرصے تک تصرف کیا ہے اور اس اثناء میں کسی نے کسی قسم کا حق یا ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور غلام رسول کے انتقال کے بعد اس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو شریعت اسلامی میں اس کا دعویٰ معتبر اور مسوع نہیں ہوتا ہے۔ اور ملکیت جس کے تصرف میں ہے اس کی ہوا کرتی ہے؛ لہذا مذکورہ دعویٰ ناقابل اعتبار اور باطل ہوگا۔

رجل تصرف في أرض زمانا، ورجل أخير يري تصرفه فيها، ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته. (شامي، كتاب الخنثى مسائل شتى، زكريا ۱۰/ ۶۶۸، كراچي ۶/ ۷۴۲، كوئٹہ ۵/ ۵۲۴)

نیز جب غلام رسول کے تصرف کے زمانہ میں موجودہ مدعی کے مورث اور والد نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے اور اسی حالت میں مورث اور والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو بعد میں اولاد کا مدعی بن کر دعویٰ کرنا شرعاً معتبر اور قابل سماعت نہ ہوگا اور غلام رسول کے ورثاء کا اپنا حق ثابت کر کے فروخت کرنا شرعی طور پر صحیح اور درست ہے۔

رجل تصرف زمانا في أرض، ورجل أخير يري الأرض والتصرف، ولم يدع ومات على ذلك لا تسمع بعد ذلك دعوى ولده، فترك على يد المتصرف. الخ (شامي، كتاب الخنثى مسائل شتى، زكريا ۱۰/ ۶۶۸، كراچي ۶/ ۷۴۲، كوئٹہ ۵/ ۵۲۴، تنقيح الفتاوى الحامدية ۲/ ۳)

(۳) جب غلام رسول کے ورثاء جس وقت فروخت کر رہے تھے، اس وقت کسی نے کوئی شرعی ثبوت کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا ہے اور خریدار کے خرید کر تصرف کرتے ہوئے پڑوس کے

لوگوں نے دیکھا اور ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود بوقت فروختگی دعویٰ نہیں کیا ہے اور آج عرصہ دراز کے بعد دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کا دعویٰ شرعاً ناقابل اعتبار اور منحروض ہوگا۔

باع عقاراً، أو حیواناً، أو ثوباً - إلى قوله - سکت الجار وقت البیع والتسلیم، وتصرف المشتري فيه زرعاً وبناءً، فحينئذ لا تسمع دعواه علی ما علیه الفتوی قطعاً للإطماع الفاسدة. الخ (شامی، کتاب الخنثی مسائل شتی، کراچی ۶/۷۴۲، زکریا ۱۰/۱۶۸، کوئٹہ ۵/۵۲۴، البحر الرائق، زکریا ۹/۳۵۴، کوئٹہ ۸/۴۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۳ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۷۷/۲۳۷۸)



۳ / باب ہبۃ المشاع

ہبۃ مشاع

سوال [۹۴۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے والد فرید احمد (متوفی) کے ترکہ میں ان کی وفات کے وقت ہم پانچ بھائی اور ایک بہن شامل تھے۔ والد کے انتقال کو تقریباً ۲۲ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، والد کے انتقال کے ۴ سال بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا؛ لہذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیگمیری والد مرحوم نے اپنی حیات ہی میں تین بھائیوں کے نام پانٹرشپ بنایا اور اس کو رجسٹرڈ کرا دیا اور سارے کاغذات والد صاحب نے میرے حوالے کر دیئے کہ لو تم اس کو رکھو اور والدہ صاحبہ کے سامنے صراحتاً بتایا کہ پچاس فیصد شمس الدین کا اور پچیس پچیس نظام الدین اور علیم الدین کا ہے، والدہ نے اعتراض کیا کہ علیم الدین بعد میں لڑائی کر کے لے لے گا، تو والد مرحوم نے کہا کہ جب میں نے کاغذات شمس الدین نظام الدین اور علیم الدین کے نام بنوائے ہیں، تو وہ کیسے لے لے گا، پولیس کے ڈنڈے کھائے گا۔ اور واضح رہے کہ والد صاحب جائیداد کے سارے کاغذات اپنے پاس رکھتے تھے اور اسی بیگمیری کے کاغذات خاص طور سے مجھے دئے اور کہا کہ لے جاؤ اور اپنے گھر پر رکھو؛ کیوں کہ میں اس وقت ماں باپ اور دیگر بھائیوں سے علاحدہ رہتا تھا؛ لہذا جواب طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ تفصیلات کی رو سے شرعی اعتبار سے یہ بیگمیری تینوں بھائیوں کی ملکیت ہوگی یا والد مرحوم کا ترکہ ہوگا۔

المستفتی: شمس الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حسب تحریر سوال جب آپ کے والد صاحب نے اپنی حیات میں ایک بیگمیری مشترک طور پر حصے متعین کر کے آپ تینوں بھائیوں کے نام رجسٹرڈ کرا دی اور بطور پانٹرشپ استعمال کے لئے آپ تینوں بھائیوں کے سپرد کردی تو وہ بیگمیری والد

صاحب کی جانب سے آپ تینوں بھائیوں کے نام ہبہ ہوگئی اور ہر بھائی اپنے ذکر کردہ حصے (یعنی شمس الدین پچاس فیصد اور نظام الدین وعلیم الدین پچیس پچیس فیصد حصے) کے مالک ہوگئے؛ لہذا والد کی وفات کے بعد یہ بیکری بطور میراث تقسیم نہیں کی جائے گی، بیکری کا ہبہ اگرچہ درست ہو چکا ہے؛ لیکن باپ اس وجہ سے گنہگار ہوگا کہ اس نے تینوں لڑکوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کیا۔

هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة صحيحة عندهما. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب الثاني، زكريا جديد ۴/ ۴۰۰، قديم ۴/ ۳۷۸)

ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوى فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز، زكريا جديد ۴/ ۳۹۹، قديم ۴/ ۳۷۷)

الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه. (البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸)

اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون التخلية، والتمكين من اليد والتصرف. (الموسوعة الفقهية ۳۲/ ۲۵۹)

ويكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة. (البحر الرائق، كتاب الهبة كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰، وهكذا في البرازية، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، قاضي خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹، شامي، زكريا ۸/ ۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶)

نوٹ:- سوال نامہ میں پانچ بھائیوں کا ذکر ہے اور باپ نے صرف تین بھائیوں کے نام بیکری ہبہ کی، دوسرے دو بھائیوں کو بیکری کے ہبہ میں کیوں شریک نہیں کیا؟ اگر ان دو بھائیوں کو اسی کے برابر کوئی دوسری چیز ہبہ کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ باپ گنہگار ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۶۲/۳۹)

ہبہ مشاع اور اس میں تصرف کا حکم

سوال [۹۴۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: جناب الحاج عبداللطیف صاحب مرحوم جن کی کوئی اولاد زینہ نہ تھی اور صرف ایک ہی لڑکی حمیرہ خاتون تھی جو ہم سب علی الترتیب: (۱) محمد عبداللہ (۲) طاہرہ خاتون (۳) سائرہ خاتون (۴) عباد اللہ (۵) ہاجرہ خاتون (۶) ابوالقاسم (۷) محمد مسعود (۸) حبیب المرسلین (۹) صالحہ خاتون کی والدہ حقیقی تھیں۔ حمیرہ خاتون کے شوہر جناب محمد فاروق صاحب ہیں، جو ہم سب کے والد حقیقی ہیں۔

ہمارے نانا جناب الحاج عبداللطیف صاحب مرحوم کی ایک زمین جس کا رقبہ تین ہزار تین سو اسکوار فٹ ہے، جسے انہوں نے انتقال سے قبل مشترکہ طور پر اپنی لڑکی حمیرہ خاتون اور داماد محمد فاروق صاحب کے نام لکھ کر ہندوستان کے قانون کے مطابق رجسٹرڈ کر دیا، اس جگہ میں دو پختہ کمرے تعمیر شدہ ہیں اور باقی ایک چوتھائی میں تقریباً خام کھیریل کا مکان تھا، جو اب زمین بوس ہو چکا ہے، اب سے تقریباً دس سال قبل ۱۹۹۰ء میں حمیرہ خاتون نے اپنی ایک لڑکی (۳) سائرہ خاتون کو گھر نہ ہونے کی مجبوری کے پیش نظر ایک پختہ کمرہ اور خام کھیریل کا سارا حصہ اس نیت سے دینا چاہا کہ مکان کے خام حصہ کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور وقتی طور پر سائرہ خاتون کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی، مگر حمیرہ خاتون کے دیگر لڑکے اور لڑکیوں نے نمبر وار ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ کے تختی سے مخالفت کی۔ ۸-۹ رونا بالغ اور نا سمجھ تھے، صرف ہر دو جانب ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اور گھر نہیں دیا گیا، چند دنوں کے بعد حمیرہ خاتون کے بڑے لڑکے جو بسلسلہ ملازمت دوسرے شہر میں مقیم تھے، گھر آئے اور ساری صورت حال ان کے سامنے آئی تو انہوں نے تمام بھائیوں اور بہنوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ شرعی طور پر جو حصہ ماں باپ کی جائیداد میں بنتا ہے وہ آج نہیں توکل سائرہ خاتون کو دیا جانا ہی ہے اور چونکہ ضرورت آج ہے؛ اس لئے بعد میں جب جائیداد کی تقسیم ہوگی اور پختہ نہیں کب ہوگی؛ اس

لئے اس وقت دینے سے کیا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت تک ان کو سائرہ خاتون کو مکان کی ضرورت باقی نہ رہے۔

بڑے لڑکے (۱) کی بات دیگر تمام بھائیوں اور بہنوں کے دل کو لگی اور گھر مع ایک پختہ کمرہ سائرہ خاتون کو رہنے کے لئے دے دیا گیا کہ گھر کے خام کچھریل کے حصہ کی دیکھ بھال بھی کرتی رہیں گی اور سائرہ خاتون نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ جب ہمارے شوہر کا اپنا گھر ہو جائے گا وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ حمیرہ خاتون جو دل کی مریضہ تھیں اور اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھیں، اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا تھا اور بیہوش ہو جایا کرتی تھیں، ایسے ہی اچانک دل کا دورہ پڑا اور بیہوش ہو گئیں اور ۹ ردن بیہوشی کی حالت میں گزار کر ۱۵ نومبر ۱۹۹۳ء کو بیہوشی کی حالت میں ہی انتقال فرما گئیں، انتقال سے پہلے حمیرہ خاتون نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ سائرہ خاتون کو ۱ پختہ کمرہ اور اس کی سیدھ سے جو خالی جگہ سڑک تک کی ہے وہ سائرہ خاتون کو تم لوگ دے دینا، بڑے لڑکے نے والدہ حمیرہ خاتون سے کہا کہ جو جگہ اور جتنی آپ کہہ رہی ہیں وہ اس مقدار سے جو ان کو شرعی طور پر ملنی چاہئے بہت زیادہ ہو جائے گی، اس پر والدہ محترمہ حمیرہ خاتون خاموش ہو گئیں بعد میں ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کمرہ ۱ کے سامنے سیدھی جگہ جو سڑک تک ہے وہ سائرہ کو مل جائے۔ الغرض مکان کا خام حصہ جو سائرہ خاتون کے زیر استعمال تھا، آہستہ آہستہ منہدم ہونے لگا، جس کی وجہ سے جگہ کی تنگی محسوس کرتے ہوئے کمرہ ۲ پختہ جو کمرہ ۱ پختہ سے ملحق تھا، جس کا دروازہ کمرہ ۱ کے اندر سے تھا، سائرہ خاتون نے کھول لیا، کمرہ ۲ جسے سائرہ نے بعد میں کھولا تھا، اس میں گھر کا مختلف سامان بغرض حفاظت رکھا ہوا تھا اور حمیرہ خاتون کے بڑے لڑکے محمد عبداللہ کا بھی تھوڑا سا سامان تھا، ایک مرتبہ محمد عبداللہ اپنا سامان دیکھنے گئے تو سائرہ خاتون نے کہا کہ کچھریل کا حصہ رہنے کے قابل نہیں ہے، جگہ کی تنگی محسوس ہوتی تھی: اس لئے اس کمرہ کو استعمال کر رہی ہوں اور آپ کا سامان یہ ادھر رکھا ہوا ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کرتی رہتی ہوں۔ محمد عبداللہ نے از راہ ہمدردی سائرہ خاتون کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمرہ ۲ کے کھولے جانے پر کوئی

اعتراف نہ کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ یہاں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ ان تمام معاملات کے طے ہونے اور اس پر عمل ہونے (سائرہ خاتون کو گھر دینے نہ دینے کے سلسلہ میں) والد محترم نے کوئی کلیدی کردار ادا نہ کیا اور بظاہر لا تعلق رہے۔ والدہ محترمہ حمیرہ خاتون کے انتقال کے بعد کمرہ ۲ کے کھلنے کی اطلاع جب عباد اللہ کو ملی تو بہنوں بھائیوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے چونکہ ۱ محمد عبداللہ موجود نہیں تھے، عباد اللہ نے طاہرہ خاتون کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ کمرہ ۲ کھول لیا گیا ہے اور کسی سے اجازت نہیں لی گئی ہے، جیسا بند تھا ویسا بند رہنا چاہئے، طاہرہ نے جواباً کہا کہ میرے کچھ کہنے سے میری بدنامی ہوگی، تم خود کہو یا والد صاحب کے سامنے یہ بات رکھو۔ عباد اللہ نے والد صاحب جناب محمد فاروق صاحب سے ادباً و احتراماً کوئی بات نہیں کی اور معاملہ جوں کا توں رہا۔

کمرہ ۲ میں جو سامان بغرض حفاظت رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ سامان سائرہ خاتون نے نکال کر خام کپھریل کے حصہ میں رکھ دیا، اب تک خام کپھریل کا تقریباً نوے فیصد حصہ منہدم ہو چکا ہے۔

اب ۲۰۰۰ء میں والد صاحب جناب محمد فاروق صاحب کی توجہ محمد عبداللہ نے اور دوسرے لڑکوں لڑکیوں نے اس جانب مبذول کرائی کہ تمام لڑکوں لڑکیوں کو ان کے حصہ کی نشاندہی کر دیں جو ان کا شرعی طور پر ہوتا ہے، تا کہ ہر ایک کو ان کے حصے اور ان کی جگہ معلوم ہو جائے اور وہ اپنی جگہ میں مکان تعمیر کر کے رہائش اختیار کر سکیں اور آئندہ کسی قسم کا اختلاف نہ ہو اور جس طرح اب تک سب بھائی بہن باہم میل و محبت سے رہتے چلے آئے ہیں وہ آئندہ اسی طرح قائم رہے۔

والد محترم محمد فاروق صاحب نے سب کی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور والدہ محترمہ حمیرہ خاتون کے تمام وارثین جمع ہوئے بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اور جب اس جگہ کی پیمائش کی گئی جس میں سائرہ خاتون قیام پذیر ہیں اور جتنی جگہ والدہ محترمہ نے انتقال سے قبل سائرہ کو دینے کی بات کہی تھی، تو وہ اس سے بہت زیادہ بلکہ دو گنی سے بھی زائد نکلی، جو انہیں شرعی طور پر

تقسیم کئے جانے پر ملتی ہے۔ اب سائرہ خاتون بضد ہیں کہ مجھے اتنی ہی جگہ دی جائے جس قدر والدہ محترمہ نے دینے کی وصیت کی تھی۔ جناب محمد فاروق صاحب کا بھی کہنا ہے کہ حمیرہ خاتون کی وصیت پوری کی جائے گی، باقی جگہ کو تم لوگ شرعی اعتبار سے تقسیم کر لو۔ نیز والد جناب محمد فاروق صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے اختیار ہے جتنا چاہیں سائرہ کو دے سکتے ہیں، کسی سے مشورہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کے مشورہ کا پابند ہوں، جب کہ سارے بھائی بہن بخوشی اس بات پر رضامند ہیں کہ سائرہ خاتون کو شرعی اعتبار سے جو جگہ ملتی ہے وہ دی جائے گی۔ سائرہ خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمرہ ۲ بھی والدہ محترمہ نے مجھے دیا تھا، جب کہ اس سلسلے میں کوئی واضح بات کسی کو معلوم نہیں ہے اور وارثین بھی اس بات سے منکر ہیں کہ والدہ محترمہ حمیرہ خاتون نے کمرہ ۲ سائرہ خاتون کو دیا تھا، وارثین سائرہ خاتون کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ والد صاحب اپنے تمام لڑکوں کے ہمراہ ہی رہتے ہیں اور سائرہ خاتون اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہیں، جس کا تفصیلی ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ تفصیلات سے متعلق دریافت طلب امور:

(۱) کیا مرحومہ حمیرہ خاتون صاحبہ کا سائرہ کے حق میں وصیت جب کہ وہ ان کی لڑکی تھیں معتبر ہے؟

(۲) ایسی صورت حال میں جب کہ تمام حصہ دار وارثین حمیرہ خاتون اس بات پر بخوشی تیار ہیں کہ سائرہ خاتون کا جو جائز شرعی حصہ بنتا ہے دیا جائے گا، جناب محمد فاروق صاحب کا سائرہ خاتون کو زیادہ دینا یا دلوانا باصرار درست ہے؟

(۳) کیا پختہ کمرے ۱ ۲ تنہا سائرہ خاتون کو اس حال میں کہ دو بھائیوں کو رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے، باصرار جناب محمد فاروق صاحب دے دینا درست ہے؟

(۴) کیا سارے وارثین پختہ کمروں میں حصہ دار ہیں یا صرف سائرہ خاتون؟

(۵) کیا سائرہ خاتون کا منہدم شدہ خام حصہ کی اشیاء مثلاً لکڑی وغیرہ کا جلانا بغیر وارثین کی اجازت کے جائز ہے؟

(۶) اگر نہیں تو وارثین اس سلسلے میں استفسار کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں؟
 (۷) کیا شرعی حصہ سے زائد جگہ جب کہ دوسرے وارثین رضامند نہیں ہیں، ساڑھ خاتون کو دینا جائز ہے؟

(۸) کیا محمد فاروق صاحب کا ایسے وقت جب کہ وہ اپنی تمام جائیداد بشمول مشترکہ جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تا کہ آئندہ ساری اولاد میں محبت و بھائی چارگی قائم رہے اور کسی قسم کی نا اتفاقی نہ ہو صرف ساڑھ خاتون کو زیادہ دینا درست ہے؟

(۹) کیا محمد فاروق صاحب کو از روئے شرع یہ اختیار حاصل ہے کہ جتنا چاہیں ساڑھ خاتون کو بغیر رضامندی دیگر وارثین دے دیں؟

(۱۰) کیا محمد فاروق صاحب کا اپنی اور مرحومہ حمیرہ خاتون کی مشترکہ جائیداد کے بٹوارہ کے اور تقسیم کے وقت محمد عبداللہ یا دیگر وارثین سے مشورہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

(۱۱) کیا محمد فاروق صاحب مذکورہ جائیداد کے بٹوارہ کے سلسلے میں کسی کے مشورہ کے پابند نہیں ہیں؟

(۱۲) کیا محمد فاروق صاحب کا مرحومہ حمیرہ خاتون کی وصیت کو اسی طرح جس طرح ان کی مرضی تھی پوری کرنا ضروری ہے؟

(۱۳) کیا ساڑھ خاتون کا یہ وعدہ کرنا کہ جب میرے اپنے شوہر کا گھر ہو جائے گا چلی جاؤں گی، جب کہ ان کی اپنے گھر کی جگہ موجود ہے، وہاں نہ جانا اور جو جگہ ان کو رہنے کی لئے دی گئی تھی، اسے نہ چھوڑنا اور جو شرعی حصہ بنتا ہے اس سے دو گنے کا مطالبہ کرنا یہ سب درست ہے؟

(۱۴) اگر تین ہزار تین سو اسکواڑ (مربع) فٹ جگہ جناب محمد فاروق صاحب اپنی تمام اولاد: جن میں اول الذکر ۵ لڑکے اور ۴ لڑکیاں ہیں، شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیں تو کس کس کو کتنی کتنی جگہ ملے گی؟ والسلام مع الاحترام

المستفتی: محمد عبداللہ قاسمی، امام و خطیب مسجد ابراہیم شاہ صاحب کبھار پیٹ، بنگلور ۲

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ شکل میں حمیرہ کے والد نے اگر بطور ہبہ حمیرہ اور اس کے شوہر کے نام منتقل کر دیا تھا اور ان دونوں نے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا، تو حضرات صاحبینؒ کے قول پر بلاشبہ یہ ہبہ درست ہو چکا ہے۔ اور وہ دونوں اس جائیداد کے برابر مالک ہو چکے ہیں۔ اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ مشترکہ ہبہ درست نہیں ہوا؛ بلکہ یہ ہبہ فاسد ہوا ہے؛ لیکن اس فاسد شدہ ہبہ کو اپنی جگہ برقرار رکھا گیا ہے اور دونوں موہوب لہمانے اس پر اپنا قبضہ بھی جمالیایا ہے، تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی ان دونوں کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے۔ اب دوسرے درجے میں ان دونوں کے تصرف کی بات ہے، تو تصرف کے اندر حمیرہ نے اپنے مرض و وفات میں دوسرے ورثاء کی رضامندی کے بغیر سائرہ کے حق میں جو وصیت کی ہے وہ شرعاً نافذ نہیں ہوئی؛ لہذا حمیرہ کا حصہ اس کے تمام وارثین کے درمیان شرعی حصول کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ اب رہی محمد فاروق کے حصہ کی بات تو وہ اگر صحیح اور تندرست ہے اور صرف ایک وارث کو اپنے حصہ میں سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دینا چاہتا ہے اور دوسرے ورثاء اس پر راضی بھی نہیں ہیں، تو اس کا اپنی ملکیت کے حصہ میں سے زیادہ دینا جائز تو ہوگا؛ لیکن ساتھ ساتھ محمد فاروق اولاد کے درمیان برابری نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا۔ نیز یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ محمد فاروق کو حمیرہ کے حصہ میں کسی قسم کے تصرف کا حق نہیں ہے اور نہ اس میں سے دوسرے ورثاء کی رضامندی کے بغیر سائرہ کو دینا جائز ہوگا، ہاں البتہ بیوی کی وراثت میں سے جو چوتھائی حصہ اس کا بیٹھتا ہے، اس میں سے دے سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کا جواب تو یہی ہے؛ لیکن سوال نامہ میں جو نمبر وارسولات کئے گئے ہیں ان کے جوابات نمبر وار درج ہیں:

(۱) حمیرہ نے جو سائرہ کے حق میں وصیت کی ہے، وہ شرعاً معتبر نہیں ہے؛ اس لئے کہ وارث کے حق میں دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغیر وصیت درست نہیں ہے؛ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (سنن الترمذي، باب ماجاء لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲/ ۳۲، دارالسلام، رقم: ۲۱۲۰، سنن أبي داؤد، باب في الوصية للوارث، النسخة الهندية ۲/ ۳۹۶، دارالسلام، رقم: ۲۸۷۰، سنن ابن ماجه، باب لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲/ ۱۹۵، دارالسلام، رقم: ۲۷۱۳، سنن الدارمي، دارالمغني للنشر والتوزيع ۴/ ۲۶۳، رقم: ۳۳۰۳)

(۲) محمد فاروق صاحب کومیرہ کی جائیداد میں سے سائرہ کو زیادہ دینا جائز نہیں، ہاں البتہ اپنی جائیداد میں سے اگر دے دیں گے تو مالک تو ہو جائے گی؛ لیکن برابری نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔

رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكون آثما فيما صنع كذا في فتاوى قاضى خان. (كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۱۶، بزازية، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، قاضى خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹، الدر مع الرد، زكريا ۸/ ۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶)

(۳) اگر یہ حمیرہ کا حصہ ہے، تو مطلقاً جائز نہیں۔ اور اگر یہ محمد فاروق کا حصہ ہے، تو بے انصافی کی وجہ سے ایسا کرنے سے محمد فاروق گنہگار ہوگا۔ اور اگر مشترکہ شکل ہے محمد فاروق اور حمیرہ کا حصہ الگ الگ نہیں ہوا ہے، تو امتیاز سے پہلے محمد فاروق کو اس میں سے کوئی حصہ کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔

(۴) تقسیم سے پہلے پختہ اور کچا اور خالی زمین سب کے اندر ہر ایک وارث کا حق متعلق ہے۔

(۵) چونکہ ہر چیز کے اندر تمام وارثاء کا حق متعلق ہے؛ اس لئے تنہا ایک وارث کا تصرف جائز نہیں ہے۔

(۶) جی ہاں! حق رکھتے ہیں۔ (۷) جی نہیں۔ (۸) جی نہیں۔ (۹) اس کا جواب اوپر آچکا ہے۔ (۱۰) جی ہاں! ضروری ہے۔ (۱۱) ذاتی حصہ میں پابند نہیں ہیں، حمیرہ کے حصہ میں پابند ہیں۔ (۱۲) حمیرہ کی وصیت نافذ نہیں ہوئی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

(۱۳) یہ اس کی طرف سے وعدہ خلافی ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔
 (۱۴) الحاج عبداللطیف کی دی ہوئی جائیداد درج ذیل نقشہ کے مطابق تقسیم ہوگی:

(۱) عبداللطیف میہ

موہوب لہ محمد فاروق موہوب لہا حمیرہ خاتون

۱

۵۶

(۲) حمیرہ خاتون میہ

شوہر ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
 محمد فاروق عبداللہ عبداللہ ابوالقاسم محمد مسعود حبیب المرسلین طاہرہ سائرہ ہاجرہ صالحہ

۳

۳

۳

۳

۳

۶

۶

۶

۶

۶

۱۳

الإحیاء

محمد فاروق عبداللہ عبداللہ ابوالقاسم محمد مسعود حبیب المرسلین طاہرہ سائرہ ہاجرہ صالحہ

۳

۳

۳

۳

۶

۶

۶

۶

۶

۷۰

نوٹ: عبداللطیف کی جائیداد ۱۱۲ سہاموں میں تقسیم ہو کر اسی تناسب سے جائیداد میں سے ہر ایک وارث کو اتنا حصہ ملے گا جو کہ اس کے نام کے سامنے درج ہے۔ فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۳/۴ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۱۴/۳۴)

ہبۃ المشاع

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ!

مسئلہ ہبہ میں قبضہ تمام کا حکم زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور قبضہ تمام ہی کی وجہ سے ہبہ مشاع میں ائمہ ثلاثہ اور حنفیہ کے درمیان معرکتہ الآراء اختلاف پیش آیا ہے، پھر حنفیہ کے درمیان بھی جزئی اختلاف ہے؛ لہذا ہبہ مشاع کے جواز کے بارے میں کیا کیا اختلاف اور جواز کی کیا کیا شکلیں نکل سکتی ہیں؟ اس بارے میں یہ مضمون پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے:

’عقار‘ اور ’اموال منقولہ‘ دونوں کے ہبہ مشاع کا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے؛ لہذا اگر اس طریقہ سے ہبہ کیا جائے کہ وہ مال موہوب مشاع ہو، یعنی شیء واحد کو متعدد افراد کے درمیان اس طریقہ سے ہبہ کر دیا جائے کہ کس کا کون سا حصہ ہے امتیاز نہ ہو، اسی طرح شیء واحد میں پہلے ہی سے متعدد شرکاء شریک ہوں اور تقسیم سے پہلے کوئی شریک اپنا حصہ کسی ثالث کو ہبہ کر دے، تو اس طرح کا ہبہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مسئلہ تفصیل طلب ہے اور شیء مشاع دو قسموں پر ہے: (۱) ناقابل تقسیم (۲) قابل تقسیم۔

ناقابل تقسیم اشیاء کا ہبۃ المشاع

اگر شیء موہوب ایسی ہے کہ اس میں تقسیم ممکن نہیں ہے، تو ایسی اشیاء کے بارے میں سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مشاع ہونے کی حالت میں اس کا ہبہ جائز اور درست ہے، مثال کے طور پر کنواں، غسل خانہ اور بہت ہی چھوٹا کمرہ، کار، بس، اسکوٹر وغیرہ۔ ایسی اشیاء میں

جب دو یا دو سے زیادہ افراد مالکانہ طور پر شریک ہوں اور ان شرکاء میں سے کوئی شخص اپنا حق کسی ثالث کو ہبہ کرنا چاہے، یا ایک شخص ان اشیاء میں سے کسی ایک چیز کا مالک ہے اور وہ شخص دو یا دو سے زیادہ افراد کو ہبہ کرنا چاہے، تو سب کے نزدیک یہ ہبہ بغیر تقسیم کے جائز ہے اور شرکاء ان اشیاء سے باری قائم کر کے اپنی اپنی باریوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔ ہندیہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

وَهَبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ
الْقِسْمَةَ تَجَوُّزٌ مِنَ الشَّرِيكِ،
وَمِنَ الْأَجْنَبِيِّ. (ہندیہ، زکریا قدیم
۴ / ۳۷۸، جدید ۴ / ۴۰۰)

ایسی مشترک اور شائع شدہ اشیاء جن میں
تقسیم کا احتمال نہ ہو، شریک کے ہاتھ اور
اجنبی شخص کے ہاتھ ہبہ کر دینا جائز اور
درست ہے۔

صاحب بدائع نے اس کی علت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جو اشیاء قابل تقسیم نہیں ہیں، ان میں سے بعض کے ہبہ کرنے کی کبھی ضرورت پیش آتی ہے؛ لیکن بعض حصہ کو الگ کر کے قبضہ میں دینا ممکن نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں تقسیم کا احتمال ہی نہیں ہوتا؛ اس لئے ضرورتاً شریعت نے بغیر تقسیم کے ہبہ کی اجازت دی ہے۔

بدائع کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْمُشَاعِ
الَّذِي لَا يُقْسَمُ أَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ
هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ لِمَا قُلْنَا،
إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ؛ لِأَنَّهُ
يُحْتَاجُ إِلَى هَبَةٍ بَعْضِهِ، وَلَا
حُكْمَ لِلْهَبَةِ بِدُونِ الْقَبْضِ،
وَالشَّيْءُ مَانِعٌ مِنَ الْقَبْضِ

ایسا ہی ہم ایسی شئی مشاع کے بارے میں کہتے
ہیں جو تقسیم نہیں ہو سکتی کہ بے شک قبضہ کا معنی
یہاں پایا نہیں جاتا، اس دلیل کی وجہ سے
جو ہم نے یہاں بیان کی، مگر یہ کہ یہاں پر
ضرورت ہے؛ کیوں کہ کبھی اس کے بعض حصہ
کے ہبہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور بغیر قبضہ
کے ہبہ کا حکم نہیں لگایا جاتا اور شئی کا مشاع

ہو جانا ایسے قبضہ سے مانع ہے، جس میں تصرف پر قدرت ہو اور تقسیم کے ذریعہ سے اس مانع کو زائل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس میں تقسیم کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے؛ لہذا جائز قرار دینے کی ضرورت پیش آگئی۔ اور دست برداری کی شکل کو ایسے قبضہ کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، جس میں تصرف ممکن ہو۔

الْمُمْكِنِ لِلتَّصْرُفِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمَانِعِ بِالْقِسْمَةِ لِعَدَمِ أَحْتِمَالِ الْقِسْمَةِ، فَمَسَّتِ الضَّرُورَةَ إِلَى الْجَوَازِ، وَإِقَامَةَ صُورَةَ التَّخْلِيَةِ مَقَامَ الْقَبْضِ الْمُمْكِنِ مِنَ التَّصْرُفِ. (بدائع زکریا ۵/۱۷۱، کراچی ۶/۱۲۰،

الموسوعة الفقهية ۴۲/۱۲۹)

اور ’’الفقہ الاسلامی وأدلته‘‘ میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

ایسی شیء مشاع کا ہبہ جائز ہے جس میں تقسیم کا احتمال نہ ہو، جیسا کہ گاڑی، غسل خانہ، چھوٹا کمرہ اور جو اہرات وغیرہ۔ اور ضرورت کی وجہ سے اس ہبہ کو جائز قرار دیا گیا ہے؛ اس لئے کہ کبھی اس طرح ناقابل تقسیم شیء کے بعض کی ہبہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور دست برداری کی شکل کو قبضہ کی قائم مقامی کے لئے کافی قرار دیا جاتا ہے۔

وَتَجَوُّزُ الْهَبَةِ إِذَا كَانَ مُشَاعًا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالسَّيَّارَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ، وَالْجَوْهَرِ، وَجَوَازِ الْهَبَةِ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى هَبَةٍ بَعْضِ ذَلِكَ، وَيَكْتَفِي بِصُورَةِ التَّخْلِيَةِ مَقَامَ الْقَبْضِ.

(الفقہ الاسلامی وأدلته ۴/۶۸۶)

قابل قسمت اشیاء کا ہبہ مشاع

جو اشیاء تقسیم کے لائق ہیں، ایسی قابل قسمت اشیاء کا ہبہ مشاع تقسیم سے پہلے جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مسئلہ کی وضاحت انتہائی ضروری ہے اور اس بارے میں اولاً ائمہ اربعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے، چنانچہ ائمہ اربعہ کے درمیان دو فریق ہو چکے ہیں:

فریق اول: ائمہ ثلاثہ: حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جس طرح ناقابل تقسیم اشیاء کا ہبہ مشاع جائز ہے، اسی طرح قابل قسمت اشیاء کا ہبہ مشاع ان کے نزدیک جائز ہے؛ لہذا ائمہ ثلاثہ کے یہاں ہبہ مشاع اور غیر مشاع کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ”بداية المجتهد“ میں اس کو ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے:

وَ اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبَابِ فِي
جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ غَيْرِ
الْمَقْسُومِ فَقَالَ مَالِكٌ
وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ:
تَصِحُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:
لَا تَصِحُّ، وَعُمْدَةُ الْجَمَاعَةِ أَنَّ
الْقَبْضَ يَصِحُّ فِيهَا كَالْقَبْضِ فِي
الْبَيْعِ، وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ
أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا
مُقَرَّدَةً كَالرَّهْنِ. (بداية المجتهد
۲/ ۳۲۹)

غیر مقسوم اشیاء کے ہبہ مشاع کے جواز کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو ثور وغیرہ نے فرمایا: کہ جائز اور درست ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا: کہ ہبہ مشاع صحیح نہیں ہے۔ اور جمہور کی بنیاد یہ ہے کہ ہبہ مشاع میں اسی طرح قبضہ صحیح ہو جاتا ہے جس طرح بیع میں قبضہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی بنیاد یہ ہے کہ شیء مشاع میں قبضہ صحیح نہیں ہوتا؛ لہذا یہ کہ تقسیم کر کے الگ کر دیا جائے، جیسا کہ رہن کا قبضہ مشاع میں درست نہیں ہوتا۔

اور ائمہ ثلاثہ کے قول کو الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ
وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ
جَائِزَةٌ كَالْبَيْعِ، فَإِنَّ الْقَبْضَ فِي
هِبَةِ الْمُشَاعِ يَصِحُّ كَالْقَبْضِ
فِي الْمَبِيعِ الْمُشَاعِ. (الفقه

اور مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے کہا ہے کہ بے شک شیء مشاع کا ہبہ بیع کی طرح جائز ہے؛ اس لئے کہ شیء مشاع کے ہبہ میں قبضہ اسی طرح صحیح ہو جاتا ہے جس طرح بیع مشترک اور مشاع میں قبضہ صحیح ہو جاتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل

ائمہ ثلاثہ کی طرف سے مختلف روایات بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں، ہم یہاں پر ان کی طرف سے دو روایات پیش کرتے ہیں:

(۱) جب ہوازن کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال اور اپنے قیدیوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میرے اور بنو عبدالمطلب کے حصہ میں آیا ہے، وہ ہم تم کو دے دیتے ہیں، حالاں کہ جو حصے آپ ﷺ نے دینے کو فرمایا ان میں کوئی تعین نہیں کہ کس کا مال کس کے یہاں پہنچا اور کتنا کس کے یہاں پہنچا؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حصہ اور بنو عبدالمطلب کے حصہ میں جو کچھ آیا تھا ان کو دینے کو فرمانا ایسی اشیاء کا ہبہ مشاع ہے جو قابل تقسیم ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب ”عن ابیہ عن جدہ“ کے طریق سے مروی ہے کہ: بے شک ہوازن کا وفد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر کے مقام جعرانہ میں پہنچا (اور اپنے مال اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا) الی قولہ: پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا کر فراغت حاصل کر لی تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں گفتگو کی، جس پر آپ نے ان کو حکم فرمایا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہر حال میرے اور بنو عبدالمطلب کے حصہ میں جو کچھ آیا ہے وہ تمہارے لئے ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ لَمَّا
اتَّوَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَسْلَمُوا
إِلَى قَوْلِهِ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ
الظُّهْرَ، قَامُوا فَكَلَّمُوهُ بِمَا
أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي
وَلِنَبِيِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ.

(مسند أحمد بن حنبل ۲/۴۷۳، رقم:

۶۷۲۹، تغلیق التعلیق علی صحیح

البخاری ۳/۴۷۳)

اور 'بخاری شریف' کے ترجمہ الباب میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فُِدَ هَوَازِنَ حِينِ سَأَلُوا الْمَعَانِمَ، فَقَالَ: نَصِيْبِي لَكُمْ. (بخاري، و كلاة، باب إذا وهب شيئا لو كيله ۱ / ۳۰۹)

حضور ﷺ کا وفد ہوازن سے فرمانا جس وقت ان لوگوں نے مال غنیمت کی واپسی کا سوال کیا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرا حصہ تمہارے لئے ہے۔

(۲) حضور ﷺ نے مسجد نبوی کی جگہ کو بنونجار کے لوگوں سے خرید کر لینے کی بات طے کر رکھی تھی اور وہ جگہ حضرت اسعد بن زرارہ اور ان کی قوم کے دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھی، تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ حضور ﷺ کو ہبہ کر دیا، اس کے بعد پھر دوسرے دونوں آدمیوں نے بھی اپنا اپنا حصہ حضور ﷺ کو ہبہ کر دیا اور آپ ﷺ نے پہلے اسعد بن زرارہ کے حصہ کو قبول فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے دونوں آدمیوں کا بھی حصہ قبول فرمایا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث شریف سے حضور ﷺ کا ایسی چیز کے ہبہ مشاع کو قبول فرمانا ثابت ہے، جو قابل تقسیم ہے۔ روایت ملاحظہ فرمائیے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ نَظَرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُ بَيْنَ أَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِهِ، فَوَهَبَ أَسْعَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَصِيْبَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَهَبَ الرَّجُلَانِ نَصِيْبَهُمَا مِنْهُ أَيْضًا، فَبَنَى الْمَسْجِدَ. (مبسوط سرخسي ۱۲ / ۶۴، بدائع زكريا ۵ / ۱۷۰، كراچی ۶ / ۱۲۰، ۱۲۱)

بے شک رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، تو مسجد نبوی کی جگہ کو دیکھا تو اس کو حضرت اسعد بن زرارہ اور ان کی قوم کے دوسرے دو آدمیوں کے درمیان مشترک اور شائع پایا، تو حضرت اسعد بن زرارہ نے (پہلے) اپنا حصہ حضور ﷺ کو (ہبہ مشاع کے طور پر) ہبہ کر دیا، اس کے بعد پھر ان کی قوم کے دونوں آدمیوں نے بھی اپنا اپنا حصہ آپ ﷺ کو ہبہ کر دیا (آپ ﷺ نے یکے بعد دیگرے اس ہبہ مشاع کو قبول فرما کر اس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔

ان روایات سے واضح ہو گیا کہ قابل تقسیم اشیاء میں بھی ہبہ مشاع جائز ہے۔

فریق ثانی: حضرات حنفیہ: حضرات حنفیہ کے نزدیک ایسی چیز میں ہبہ مشاع

جائز اور درست ہے، جو قابل تقسیم نہ ہو، جیسا کہ ما قبل میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے اور جو اشیاء قابل تقسیم ہوتی ہیں ان کو تقسیم کرنے سے پہلے مشترکہ حالت میں ان میں سے بعض کا ہبہ جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ ہبہ کی صحت کے لئے قبضہ تام لازم ہے اور قبضہ تام کے لئے آزادانہ طور پر شئی موہوب پر قبضہ کر کے تصرف کے دائرہ میں لانے کا امکان موہوب لہ کے لئے واضح طور پر ثابت ہونا لازم ہے۔ اور مشاع اور مشترکہ حالت میں یہ شرط پائی نہیں جاتی اور چاہے ہبہ مشاع کے طور پر واہب نے اپنے شریک کو ہبہ کر دیا ہو یا اپنے شریک کے علاوہ کسی غیر کو ہبہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، اب رہی یہ بات کہ اگر مذکورہ شرط کے بغیر تقسیم سے پہلے مشترکہ اشیاء کے بعض حصہ کو مشاع کی حالت میں ہبہ کر دیا جائے اور اسی حالت میں اس پر موہوب لہ قبضہ کر لے تو مفید ملک ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں بعض جزئیات سے پتہ چلتا ہے کہ مفید ملک نہیں ہے؛ لیکن مفتی بہ اور راجح قول یہی ہے کہ چونکہ عقد باطل نہیں ہوتا؛ بلکہ فاسد ہوتا ہے؛ اس لئے مفید ملک ہوگا، اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وَهَبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ
الْقِسْمَةَ تَجُوزُ، سَوَاءً كَانَتْ
فِي شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ،
وَلَوْ قَبْضَهَا هَلْ تُفِيدُ الْمَلِكَ؟
ذَكَرَ حَسَامُ الدِّينِ فِي كِتَابِ
الْوَاقِعَاتِ: أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّهُ لَا
تُفِيدُ الْمَلِكَ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعِ
آخَرَ: أَنَّهُ تُفِيدُ الْمَلِكَ مِلْكًا

اور ان چیزوں میں جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہیں مشاع کا ہبہ جائز نہیں ہے، چاہے اپنے شریک کے ہاتھ ہبہ کرے یا شریک کے علاوہ غیر کے ہاتھ میں۔ اور اگر ایسے ہبہ میں قبضہ ہو جائے تو ملکیت کا فائدہ دے گا یا نہیں؟ تو امام حسام الدین نے کتاب الواقعات میں ذکر کیا ہے: کہ قول مختار یہ ہے کہ ملکیت کا

فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسری جگہ بیان فرمایا کہ ملک فاسد کے طور پر ملکیت کا فائدہ دے گا اور اسی پر فتویٰ ہے۔

فَاسِدًا، وَبِهِ يُفْتَى، كَذَا فِي السَّرَاجِيَّةِ. (الفتاویٰ الہندیہ، زکریا قدیم ۳۷۸/۴، جدید ۴۰۰/۴، وھكذا في مجمع الأنهر بیروت ۳/۴۹۴، الفتاویٰ التاتارخانیة

۱۴/۴۲۴، رقم: ۲۱۵۸۰)

حنفیہ کی طرف سے استدلال میں تین حدیثیں اور ایک اجماع پیش کیا جاتا ہے، ملاحظہ ہو:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، جس میں حضور ﷺ نے قابل تقسیم اشیاء کو ہبہ کرنے کی صورت میں ہبہ کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط لگائی کہ ہبہ سے پہلے اس کو الگ کر دے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع ہونے کی حالت میں ہبہ مشروع نہیں ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ جو بھی آدمی اپنے بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کر دے، پھر اس کو بیٹا الگ کر کے اس پر قبضہ کر لے اس کے بعد باپ کو اس کی ضرورت پیش آجائے تو بیٹا ہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ اور اگر بیٹے نے اس کو الگ کر کے قبضہ نہیں کیا ہے، پھر باپ کو ضرورت پیش آجائے تو باپ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بِهِ الابن، فَاحْتَجَّ الْأَبُ، فَلَا يُنُّ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الابنُ فَاحْتَجَّ الْأَبُ، فَلَا يُنُّ أَحَقُّ بِهِ. (المعجم الأوسط، دار الكفر ۳/۷۱، رقم: ۳۸۹۵،

إعلاء السنن بیروت ۱۶/۹۹)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مؤطا امام مالک اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں مروی ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عوالی اور غابہ کے علاقہ میں جو ہبہ کیا تھا، اس کا واقعہ مذکور ہے، ملاحظہ فرمائیے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ کے عوالی کے باغ میں سے بیس وسق کھجور تڑائی کے وقت میں ہبہ کرنے کو فرمایا (کھجور نہیں توڑی گئی تھی) پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ لوگوں میں کوئی آدمی میرے نزدیک مال داری میں تم سے زیادہ محبوب ترین نہیں ہے اور مجھ پر تمہارے فقر و فاقہ سے زیادہ بھاری کسی کا نہیں ہے، اور میں نے تم کو کٹائی کے وقت بیس وسق کھجور ہبہ کر دی تھی؛ لہذا اگر تم نے اسے توڑ کر الگ کر کے قبضہ کیا ہوتا تو تمہارے لئے ہوتی (تم نے توڑ کر الگ نہیں کیا) اس لئے بے شک وہ آج وارثین کا مال ہو گیا۔

(۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی اولاد کو ہبہ کر کے قبضہ نہیں دیتے، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا اپنا مال ہے؛ اس لئے یاد رکھو کہ وہ ہبہ معتبر ہوگا جس پر بیٹا یا باپ نے قبضہ کر لیا ہو۔

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَدَادَ عَشْرَيْنِ وَسَقًّا مِنْ مَالِهِ بِالْعَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ! مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٍ أَحَبَّ إِلَيَّ غَنَى بَعْدِي مِنْكَ وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكَ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ جَدَادَ عَشْرَيْنِ وَسَقًّا فَلَوْ كُنْتُ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَارِثٍ. (موطا امام ملك،

أفضية، باب ما لا يجوز من النحل / ۳۱۴، نصب الرأية ۴ / ۱۲۲، إغلاء السنن ۱۶ / ۸۹، المصنف لابن أبي شيبة جديد ۱۰ / ۵۲۲، رقم: ۲۰۵۰۶، بدائع زكريا ۵ / ۱۶۳)

حضرت عمر کی روایت ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالَ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی اولادوں کو کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں، پھر اپنے پاس روکے رکھتے

ہیں، پھر اگر کسی کا بیٹا مرجاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا مال میرے قبضہ میں ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اور اگر وہ خود مرجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ مال میرے بیٹے کا ہے، میں نے اس کو اس عطیہ میں سے دیا ہے جو عطیہ میں نے بطور ہبہ اس کو دے دیا ہے، پس اس کو اختیار نہیں دیتا ہے، جس کو اس نے ہبہ کیا ہے، یہاں تک کہ اگر خود مرجاتا ہے تو وہ اس کے وارث کے لئے ہے، تو ایسا ہبہ باطل ہے۔

نَحْلًا، ثُمَّ يُمَسْكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدٍ قَالَ: مَالِي بِيَدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ نَحْلِ نَحْلَتِهِ، فَلَمْ يُخَيِّرْهَا الَّذِي نَحَلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِبُورَتِهِ فِيهِ بَاطِلٌ. (موطا مالک،

أفضیة/ ۳۱۴، بالفاظ دیگر مصنف ابن ابی شیبہ ۱۰/ ۵۲۰، رقم ۲۰۴۹۵، إعلاء السنن بیروتی ۱۶/ ۹۰، رقم: ۵۲۶۰، مصنف عبدالرزاق ۹/ ۱۰۲، رقم: ۱۶۵۰۹، حاشیة تلمارخانیة ۱۴/ ۴۲۵، رقم: ۲۱۵۸۰)

(۴) سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر صحابہ کا اجماع ہے۔ صاحب بدائع نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

وَرَوَى عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَهَبَ ثُلُثًا كَذَا أَوْ رُبْعًا كَذَا لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُقَاسِمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُنْكَرٌ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا؛

سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ جو شخص اپنی قابل قسمت چیزوں میں سے ایسا تہائی یا ایسا چوتھائی حصہ ہبہ کر دے، تو وہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک تقسیم کر کے الگ نہ کر دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا ہے۔ اور کسی سے یہ بات منقول نہیں کہ ان پر کسی نکیر

کرنے والے نے تکبیر کی ہو؛ لہذا یہ مسئلہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو گیا۔ اور اس لئے بھی جائز نہیں ہے کہ اس عقد کے جواز کی شرط میں سے قبضہ تام ہے اور شیوع و شرکت قبضہ سے مانع ہے۔ اور اس لئے بھی جائز نہیں ہے کہ قبضہ تام کا مطلب یہ ہے کہ شیء مقبوض میں تصرف پر قدرت ہو اور شرکت اور شائع شدہ اور مشاع ہونے کی حالت میں صرف ایک نصف میں تصرف متصور نہیں۔

وَلَأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطُ جَوَازِ هَذَا الْعَقْدِ، وَالشُّيُوعُ يَمْنَعُ مِنَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَقْبُوضِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي النِّصْفِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ لَا يَتَصَوَّرُ. (بدائع زکریا ۵/۱۷۱، کراچی ۱۲۰/۶)

ائمہ احناف کے یہاں ہبہ مشاع فاسد ہے یا نا تمام؟

حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک شیء مشاع کا ہبہ تقسیم اور علاحدگی سے پہلے جو نا جائز کہا گیا وہ مطلقاً نہیں اور نہ ہی شیء مشاع کا ہبہ باطل یا فاسد ہے؛ بلکہ شیوع کے سبب سے قبضہ تام نہ ہونے کی وجہ سے ہبہ ناقص رہ جاتا ہے، اس ہبہ غیر تام کو بعض فقہاء نے ”فاسد“ کے الفاظ سے اور بعض فقہاء نے ”لابجوز“ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے؛ لہذا اگر قابل تقسیم اشیاء کو تقسیم سے پہلے مشاع کی حالت میں ہبہ کر دیا جائے اور پھر قبضہ سے پہلے اس کو تقسیم کر کے قبضہ تام کے قابل بنا دیا جائے تو بالاتفاق ہبہ درست ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں حنفیہ کے درمیان میں بھی کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

اسی معنی کو بیان کرنے میں مشائخ کی عبارت مختلف ہے، بعض مشائخ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہبہ مشاع ہمارے نزدیک (حنفیہ کے نزدیک) فاسد نہیں ہوتا ہے، ہاں

وَ اٰخْتَلَفَ عِبَارَةُ الْمَشَائِخِ فِي بَيَانِ مَعْنَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ قَالُوا: بَانَ هِبَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَنَا غَيْرُ فَاسِدٍ إِلَّا أَنَّهَُا غَيْرُ تَامَةٍ

البتہ شیوع کے سبب سے علی وجہ التمام قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر تام ہوتا ہے، لہذا جب اس کے قبضہ تام سے پہلے شیوع کی علت ختم ہو جائے تو سابقہ ہبہ صحیح ہو کر نافذ ہو جائیگا۔ اور بعض مشائخ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ باب ہبہ میں صلب عقد کے اندر عقد کے شرط کے مفہوم کے اندر تسلیم کا معنی پایا جاتا ہے؛ لہذا جب قبضہ سے پہلے شیوع کی علت زائل ہو جائے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ عقد ہبہ تقسیم شدہ شی پر واقع ہوا ہے۔

لَا نَعْدَامِ الْقَبْضِ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ سَبَبِ الشُّيُوعِ، فَإِذَا انْعَدَمَ الشُّيُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ فَعَمِلَتْ الْهَبَةُ السَّابِقَةُ عَمَلَهَا وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: بَأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي مَعْنَى شَرْطِ الْعَقْدِ فِي الْعَقْدِ فِي بَابِ الْهَبَةِ، فَإِذَا أزالَ الشُّيُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ صَارَ كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمُفْرَزِ الْمَقْسُومِ. (الفتاویٰ

الناتارخانیة ۴ / ۱ / ۴۲۵، رقم: ۲۱۵۸۱)

حنفیہ کے درمیان ہبہ مشاع کے جواز اور عدم جواز کا اختلاف

قابل تقسیم اشیاء میں تقسیم سے پہلے مشاع اور مشترک حالت میں ہبہ کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مشاع اور مشترک چیزوں کا تقسیم شدہ ہونا عقد ہبہ کے وقت میں کسی کے نزدیک بھی لازم یا شرط نہیں ہے؛ بلکہ قبضہ اور سپردگی کے وقت میں تقسیم شدہ ہونا لازم ہوتا ہے، تاکہ اس ہبہ کی وجہ سے مفضی الی المنازعة لازم نہ آئے۔ نیز حضرت امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک شیء موہوب صرف قبضہ کے وقت غیر منقسم اور مشاع ہو تو ناجائز ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک بوقت نفس عقد اور بوقت قبضہ دونوں میں بیک وقت مشاع ہو تو ناجائز ہے، اگر بیک وقت دونوں میں مشاع نہیں ہے تو جائز ہے۔ اس تمہید کے بعد صاحبین اور امام ابوحنیفہ کے درمیان کا اختلاف ملاحظہ فرمائیے۔

اور اختلاف کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے چار شکلیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں:

شکل (۱): - اگر قابل تقسیم اشیاء کو تقسیم سے پہلے مشاع کی حالت میں ایک یا دو شخص نے دو یا دو سے زیادہ افراد کے ہاتھ ہبہ کر دیا ہے، تو حضرات صاحبین کے نزدیک ہبہ صحیح ہو جائے گا اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہبہ باطل تو نہیں ہوگا؛ لیکن ایسا فاسد ہوگا جو قبضہ کے وقت مفید ملک ہوگا، یعنی امام صاحب کے نزدیک قبضہ تام پر ہبہ موقوف رہتا ہے اور حضرات صاحبین کے نزدیک موقوف نہیں رہتا ہے؛ بلکہ نافذ ہو جاتا ہے۔

اس کو صاحب تاتاریخانیہ اور ہندیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

وَهَبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ عِنْدَهُمَا صَحِيحَةٌ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَاسِدَةٌ، وَكَيْسَتْ بِبَاطِلَةٍ حَتَّى يُفِيدَ الْمَلِكَ عِنْدَ الْقَبْضِ. وَفِي الْغَيَاثِيَّةِ: هُوَ الْمُخْتَارُ الْخ.

قابل تقسیم اشیاء میں دو آدمیوں کے ہاتھ یا ایک جماعت کے ہاتھ غیر منقسم مشاع چیز کا ہبہ صاحبین کے نزدیک جائز اور صحیح ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاسد ہے، باطل نہیں، حتیٰ کہ قبضہ کے وقت ملکیت ثابت ہو جائے گی اور غیاثیہ میں ہے کہ یہی قول مختار ہے۔

(ہندیہ، زکریا قدیم ۴ / ۳۷۸، جدید

۴ / ۴۰۰، الفتاویٰ التاتاریخانیہ

۱۴ / ۴۲۴، رقم: ۲۱۵۷۹)

بدائع اور ”الفتاویٰ الاسلامیہ والدلتہ“ میں اس کو اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

لَوْ وَهَبَ إِنْسَانٌ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ، أَوْ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْسَمُ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي

اگر کسی انسان نے دو آدمیوں کے ہاتھ ایک مکان یا گیہوں کا ایک مد، یا ایک ہزار درہم، یا اس جیسی قابل تقسیم چیز ہبہ کر دی ہے، تو

حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ الصَّاحِبِينَ يَصْحُحُ. (الفقه الإسلامي ۴/ ۶۸۷، بدائع زکریا ۵/ ۱۷۳، کراچی ۶/ ۱۲۱)

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا اور صاحبینؒ کے نزدیک صحیح ہو جائے گا۔

شکل (۲): - حضرت امام ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کے درمیان اصولی اختلاف یہ ہے کہ حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک شئی موہوب صرف قبضہ کے وقت مشاع اور مشترک ہو تو ناجائز ہے۔ اور صاحبینؒ کے نزدیک نفس عقد کے وقت اور قبضہ کے وقت دونوں میں بیک وقت مشاع اور مشترک ہو تو ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے؛ لہذا اگر دو آدمیوں نے ایک آدمی کے ہاتھ تقسیم سے پہلے شئی مشاع کو ہبہ کر دیا تو بوقت قبضہ مشاع اور شرکت کے نہ ہونے کی بنا پر یہ صورت بالاتفاق جائز ہے؛ اس لئے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قبضہ کے وقت مشاع نہیں ہے؛ کیوں کہ شئی موہوب مکمل فرد واحد کے قبضہ میں آگئی ہے۔ اور حضرات صاحبینؒ کے نزدیک بیک وقت عقد اور قبضہ دونوں میں ساتھ ساتھ شیوع نہیں پایا گیا ہے؛ اس لئے ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

بے شک حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبضہ کے وقت شیوع کا اعتبار کرتے ہیں جو صحت ہبہ کو مانع ہے۔ اور بہر حال صاحبین رحمہما اللہ عقد اور قبضہ دونوں کے وقت ساتھ ساتھ شیوع کا اعتبار کرتے ہیں جو صحت ہبہ کو مانع ہے۔ اور اسی بنا پر دو آدمی کا ہبہ ایک آدمی کے ہاتھ بالاتفاق جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے کے مطابق قبضہ کے وقت شیوع کے نہ ہونے کی وجہ سے اور صاحبین رحمہما اللہ کی رائے کے مطابق عقد اور قبضہ

إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الشُّيُوعَ عِنْدَ الْقَبْضِ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْهَبَةِ، وَأَمَّا الصَّاحِبَانِ فَيَعْتَبِرَانِ الشُّيُوعَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ مَعًا هُوَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْهَبَةِ، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ يَجُوزُ هَبَةُ الْاِثْنَيْنِ مِنَ الْوَاحِدِ بِالِاتِّفَاقِ لِعَدَمِ وُجُودِ الشُّيُوعِ عِنْدَ الْقَبْضِ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا نَعِدَامِ الشُّيُوعِ فِي الْحَالَتَيْنِ مَعًا فِي

دونوں حالتوں میں ساتھ ساتھ شیوع نہ ہونے کی وجہ سے؛ اس لئے کہ یہاں بوقت عقد شیوع پایا گیا ہے اور قبضہ کے وقت نہیں پایا گیا۔

رَأَى الصَّاحِبِينَ؛ لِأَنَّ الشُّيُوعَ
وُجِدَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يُوجَدَ عِنْدَ
الْقَبْضِ . (الفقه الإسلامي وأدلته ۴/
۶۸۷، بدائع زکریا ۵/ ۱۷۳، کراچی

۱۲۱/۶

شکل (۳) :- جانہن میں مشاع اور شرکت ہو تو ایسی صورت میں بالاتفاق شی مشاع کا ہبہ جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر ہبہ کرنے والے دو شریک (پائٹر) ہیں اور دونوں پائٹر اپنی اپنی مشترکہ شی مشاع اور شرکت کی حالت میں بلا تقسیم الگ الگ دو شخصوں کو ہبہ کر دیں، تو ایسی صورت میں یکے بعد دیگرے دو شخصوں کے ہاتھ یہ ہبہ بالاتفاق صحیح نہیں؛ کیوں کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بوقت قبضہ شی موہوب کو مشاع پایا گیا۔ اور صاحبینؒ کے نزدیک بوقت عقد اور بوقت قبضہ دونوں حالتوں میں مشاع پایا گیا؛ اس لئے ہبہ مشاع کی یہ صورت بالاتفاق احناف درست نہیں۔

اس کو حضرات فقہاء نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

لہذا ایسی چیزوں میں جانہن سے شیوع اور شرکت جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہوں، صحت ہبہ اور تمام ہبہ کو بالا جماع مانع ہے۔

فَالشُّيُوعُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ فِيمَا
يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مَانِعٌ صِحَّةَ
الْهَبَةِ وَتَمَامَهَا بِالْإِجْمَاعِ .
(الفتاویٰ التاتاریخانیة ۱۴ / ۴۲۴، رقم:
۲۱۵۷۹، فتاویٰ ہندیہ، زکریا قدیم
۳۷۸ / ۴، جدید ۴ / ۴۰۰)

شکل (۴) :- واہب کی طرف سے مال موہوب میں شیوع ہو تو سب کے نزدیک ہبہ مشاع درست نہیں ہے، یعنی ہبہ کرنے والا واہب بھی ایک ہو اور موہوب لہ بھی فرد واحد ہو، مگر مال موہوب، شی مشاع ہو اور بوقت عقد بھی مشاع ہے اور بوقت قبضہ بھی، مثلاً کوئی شخص دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زمین یا مکان کا نصف حصہ تم کو ہبہ کر دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں

بوقت عقد شئی موہوب میں مشاع پایا گیا اور چونکہ تقسیم سے پہلے ہبہ پایا گیا ہے جو قبضہ تام کے لئے مانع ہے؛ اس لئے باتفاق ائمہ احناف یہ شکل بھی درست نہیں۔ اور یہی شکل عوام میں زیادہ رائج ہے؛ لہذا اگر ہبہ مشاع کی یہ شکل مفصلی الی النزاع نہ ہو تو جائز ہے یا نہیں؟ اس پر علماء کو غور کرنا چاہئے۔ اس کی تفصیل ہبہ مشاع کے جواز کی تیسری شکل میں آرہی ہے۔

اس کو حضرات فقہاء نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

اور جب کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اپنے مکان میں سے متعین حصہ بغیر تقسیم کئے مشاع کی حالت میں ہبہ کر کے حوالہ کر دے، یا پورا مکان حوالہ کر دے تو جائز نہیں، یعنی موہوب لہ کے لئے ہمارے نزدیک تقسیم سے قبل قبضہ سے ملکیت ثابت نہ ہوگی۔

وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
نَصِيْبًا مُسَمًّى مِنْ دَارٍ غَيْرِ
مَقْسُوْمَةٍ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ مُشَاعًا أَوْ
سَلَّمَ إِلَيْهِ جَمِيعَ الدَّارِ لَمْ يَجْزُ
يَعْنِي لَا يَفْعَلُ الْمَلِكُ لِلْمَوْهُوبِ
لَهُ بِالْقَبْضِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عِنْدَنَا

الخ. (مبسوط سرخسی ۱۲/۶۴)

اس کو صاحب بدائع نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

اور اگر کسی نے دوسرے کو اپنے مکان کا نصف حصہ ہبہ کر کے سونپ دیا ہے، پورے مکان کے تخلیہ کے ساتھ پھر اس کے بعد مکان کا دوسرا نصف بھی ہبہ کر کے سونپ دے تو یہ ہبہ جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ دونوں میں سے ہر ایک میں ہبہ مشاع کی شکل پائی گئی ہے اور قابل تقسیم اشیاء میں ہبہ مشاع نافذ نہیں ہوتا، ہاں البتہ تقسیم کے ذریعہ الگ کر کے سونپ دینے سے نافذ ہوتا ہے اور اس کے اندر مسئلہ

وَلَوْ وَهَبَ مِنْهُ نِصْفَ الدَّارِ
وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بِتَحْلِيَةِ الْكُلِّ، ثُمَّ
وَهَبَ مِنْهُ النِّصْفَ الْآخَرَ
وَسَلَّمَ لَمْ تَجْزُ الْهَبَةُ، لِأَنَّ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةٌ الْمُشَاعِ،
وَهِبَةٌ الْمُشَاعِ فِيمَا يُقَسَّمُ
لَا تَنْفُذُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ
وَالتَّسْلِيمِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ
الْحَوَابُ فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ بَيْنَ

اَنَّ يَكُوْنَ مِنْ اَجْنَبِيٍّ اَوْ شِرْكَةٍ
 شَرِيكِهِ. (بدائع زکریا ۵/۱۷۲،
 کراچی ۶/۱۲۱)

کا حکم برابر ہے، چاہے مشاع مالک اور
 اجنبی کے درمیان میں ہو، یا مالک اور
 شریک کی شرکت کے ساتھ ہو۔

صاحبین کے درمیان اختلاف

حضرات صاحبین کے نزدیک ما قبل میں ذکر کردہ چاروں شکلوں میں سے پہلی شکل جائز ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک ناجائز ہے؛ لیکن پہلی شکل میں یعنی ایک آدمی دو آدمیوں کے ہاتھ قابل تقسیم چیز کو مشاع کے طور پر ہبہ کر دے اور دونوں موہوب لہ کے درمیان نصفاً نصفی ہو، تو امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں کے نزدیک جائز ہے؛ لیکن اگر دونوں موہوب لہ کے درمیان مال موہوب برابر نہ ہو؛ بلکہ کم و زیادہ ہو، مثلاً ایک کے لئے ثلث اور دوسرے کے لئے دو ثلث، اسی طرح ایک کے لئے ایک چوتھائی اور دوسرے کے لئے تین چوتھائی ہو، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں: کہ دونوں موہوب لہ کے درمیان میں شیء موہوب میں تساوی اور برابری لازم ہے؛ اس لئے ان کے نزدیک یہ شکل جائز نہیں ہے۔ اور حضرت امام محمد کے نزدیک تساوی شرط نہیں ہے؛ بلکہ تفاضل کے ساتھ بھی جائز ہے؛ اس لئے امام محمد کے نزدیک یہ شکل بھی جائز ہے؛ کیوں کہ جب دو موہوب لہ کے درمیان مشاع کے طور پر ہبہ کو جائز کہا گیا ہے، تو اس میں تساوی اور تفاضل کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہئے؛ بلکہ علی الاطلاق جائز ہونا چاہئے؛ کیوں کہ جب نصفاً نصفی جائز ہے تو ثلث اور غلٹان بھی جائز ہونا چاہئے؛ لہذا امام محمد کا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔

اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

اور اگر کہا کہ میں نے تم دونوں کے لئے یہ گھر
ہبہ کر دیا ہے اس کا ایک ثلث اس کے لئے اور
دو ثلث اس کے لئے، تو امام ابو یوسفؒ کے
نزدیک جائز نہیں اور امام محمدؒ کے نزدیک جائز
ہے۔ امام محمدؒ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ بے
شک جب عقد جائز ہو گیا دو آدمیوں کے لئے
تو اس میں تساوی اور تقاضل دونوں کا حکم برابر
ہوگا، جیسا کہ عقد بیع میں ہوتا ہے۔ اور امام
ابو یوسفؒ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ تساوی کے
وقت جائز ہے عقد کے ذریعہ سے ثابت شدہ
حکم کی تفسیر کے طور پر اور یہ عقد کے اندر شیوع
کو لازم نہیں کرتا اور جب دونوں حصوں میں
ایک حصہ دوسرے سے زائد ہو تو اس کو تفسیر
قرار دینا معتد رہو جائے گا۔

وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتُ لَكُمَا هَذِهِ
الدَّارَ ثُلُثَهَا لِهَذَا وَثُلُثَهَا لِهَذَا
لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَجَازٌ
عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَجَهٌ قَوْلُ مُحَمَّدٍ:
أَنَّ الْعَقْدَ مَتَى جَازَ لِاثْنَيْنِ
يَسْتَوِي فِيهِ التَّسَاوِي
وَالْتَّفَاضُلُ كَعَقْدِ الْبَيْعِ، وَجَهٌ
قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ الْجَوَازَ
عِنْدَ التَّسَاوِي بِطَرِيقِ التَّفْسِيرِ
لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْعَقْدِ،
وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا فِي
الْعَقْدِ، وَلَمَّا فَضَّلَ أَحَدُ
النَّصِيْبَيْنِ عَنِ الْآخَرَ تَعَدَّرَ
جَعَلَهُ تَفْسِيرًا. (بدائع الصنائع
زکریا ۵/ ۱۷۴، کراچی ۶/ ۱۲۲،
الفقه الإسلامي ۴/ ۶۸۸)

ہبہ المشاع کے جواز کی شکلیں

ہبہ مشاع کے جواز کی تین شکلیں یہاں پیش کر دیتے ہیں۔

شکل (۱): قبضہ سے قبل تقسیم: قبضہ سے قبل تقسیم کے تفصیلی دلائل سے یہ بات
واضح ہو چکی ہے کہ شے مشاع کو ہبہ کرنے کے بعد قبضہ دینے سے پہلے شے موہوب کو تقسیم کر کے
الگ کر دیا جائے، اس کے بعد موہوب لہ کے قبضہ میں دے دیا جائے، تو سب کے نزدیک ہبہ
مشاع درست ہو جائے گا۔

لہذا اگر واہب نے اپنے شرکاء سے اپنا حصہ تقسیم کر کے الگ کرنے سے پہلے اپنا حصہ کسی کو ہبہ کر دیا ہے اور موہوب لہ کو قبضہ دینے سے قبل تقسیم کر کے اپنا حصہ الگ کر لیا ہے، اس کے بعد موہوب لہ کو قبضہ دے دیا ہے، تو بالاتفاق جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی ذاتی ملکیت کی جائیداد میں سے کچھ حصہ الگ کرنے سے پہلے دوسرے کو مشاع کی حالت میں ہبہ کر دیا ہے اور قبضہ دینے سے پہلے اس حصہ کو الگ کر کے متعین کر دیا ہے، اس کے بعد موہوب لہ کو قبضہ دے دیا ہے، تو اس طرح کا ہبہ مشاع سب کے نزدیک جائز اور درست ہے۔

یہ حکم حضرات فقہاء کے اس طرح کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے:

بے شک شیء موہوب کا تقسیم شدہ ہو کر الگ ہونا بوقت قبضہ اور بوقت تسلیم ہی شرط ہے، بوقت ہبہ شرط نہیں ہے؛ لہذا جب قبضہ سے قبل شیوع ختم ہو جائے یہی قبضہ تام کے لئے کافی ہے؛ لہذا سابقہ ہبہ پر ہی عمل جاری ہو جائے گا، پس جب قبضہ سے قبل شیوع زائل ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا کہ تقسیم شدہ الگ شیء پر ہی عقد واقع ہوا ہے (مصنف کا قول) اگر نصف مکان کسی شخص کے ہاتھ ہبہ کر دیا ہے، پھر اس کے بعد تقسیم کر کے موہوب لہ کو سونپ دیا ہے تو جائز اور درست ہے۔

وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ كَوْنُ الْمَوْهُوبِ
مَقْسُومًا وَمَفْرَعًا وَقَبْلَ الْقَبْضِ
وَالْتَسْلِيمِ لَا وَقَبْلَ الْهَبَةِ (قوله)
فَإِذَا انْعَدِمَ الشُّيُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ
ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ فَعَمِلَتْ
الْهَبَةُ السَّابِقَةُ عَمَلَهَا (قوله) فَإِذَا
أَزَالَ الشُّيُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ صَارَ
كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمَفْرَعِ
الْمَقْسُومِ (قوله) وَلَوْ وَهَبَ
نِصْفَ الدَّارِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ قَسَمَ
وَسَلَّمَ جَارًا. (الفتاویٰ التاتاریخانیہ ۱۴ /

۴۲۵-۴۲۶، رقم ۵۸۰ تا ۵۸۲ تا ۲۱)

ہبۃ المشاع میں آپس میں مل کر تقسیم کا جواز

شکل (۲): - اگر قابل تقسیم اشیاء کو واہب نے تقسیم سے قبل دو یا دو سے زیادہ افراد کے

درمیان ہبہ کر دیا ہے اور موہوب لہم سے کہہ دیا کہ اپنے شریک کے ساتھ آپس میں مل کر تقسیم کر لینا اور تقسیم کر کے اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کر لینا، تو ایسی صورت میں بھی ہبہ المشاع بلاشبہ جائز ہے۔ یا واہب کا حصہ اپنے شریک کے ساتھ پہلے سے مشترک ہے اور اس کو تقسیم کر کے الگ کرنے سے قبل اپنا حصہ کسی کو ہبہ کر دیا ہے، اور موہوب لہ سے کہہ دیا کہ ہمارے پاٹنر کے ساتھ مل کر تقسیم کر لو اور اس کے بعد اپنا حصہ قبضہ کر لینا، تو ایسی صورت میں بھی بلاشبہ ہبہ المشاع جائز اور درست ہے۔ اس کو علامہ شامی نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

لہذا اگر شری موہوب کو خود واہب یا اس کے نائب نے تقسیم کر دیا ہے، یا موہوب لہ سے کہہ دیا کہ اپنے شریک کے ساتھ ملکر آپس میں تقسیم کر لے، تو سب صورتیں ایسی ہیں جن سے ہبہ تام ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کے لئے واضح ہے جو ادنیٰ درجہ کا تفقہ اور ادنیٰ درجہ کی سمجھ رکھتے ہیں۔

فَإِنْ قَسَمَهُ أَيُّ الْوَاهِبِ بِنَفْسِهِ
أَوْ نَائِبُهُ أَوْ أَمَرَ الْمُوَهَّوبَ لَهُ
بِأَنْ يُقَسِّمَ مَعَ شَرِيكِهِ كُلُّ
ذَلِكَ يَتُّمُّ بِهِ الْهَبَةُ كَمَا هُوَ
ظَاهِرٌ لِمَنْ عِنْدَهُ أَذْنَىٰ فِقْهِ.

(شامی زکریا ۸/۴۹۵، کراچی)

۵/۶۹۲

نزاع نہ ہو تو ہبہ مشاع کا جواز

شکل (۳):۔ اگر شری مشترک کو مشاع کی حالت میں ہبہ کر دیا ہے اور موہوب لہ کے درمیان تقسیم اور قبضہ سے متعلق کوئی نزاع اور اختلاف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہبہ مشاع جائز اور درست ہو جائے گا؛ اس لئے کہ تقسیم سے قبل مشاع اور مشترک ہونے کی وجہ سے شری موہوب کی تعیین میں جو جہالت مفضی الی النزاع ہوتی ہے وہ قبضہ تام کے لئے مانع ہوتی ہے اور جو جہالت تقسیم اور قبضہ کے بارے میں مفضی الی النزاع نہ ہو وہ قبضہ تام کے لئے مانع نہیں ہوتی۔ اور یہاں جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے؛ اس لئے یہ ہبہ مشاع جائز اور درست ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بمسوط حسنی کی اس عبارت سے واضح ہو جاتا ہے:

اور اگر کسی نے اپنے غلام کو دو آدمیوں کے درمیان ہبہ کر دیا ہے، یا دو آدمیوں نے ایک شخص کو ہبہ کر دیا ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک نے اپنا حصہ اپنے شریک کے ہاتھ ہبہ کر دیا ہے، یا کسی اجنبی کو ہبہ کر دیا اور اسی حالت میں حوالہ کر دیا ہے، تو یہ سب صورتیں جائز ہیں؛ اس لئے کہ شیء موہوب معلوم و متعین ہے اور اس جگہ شیوع مانع ہبہ کو موثر نہیں ہے۔ اور اگر دونوں شریک میں سے ایک نے کسی اجنبی آدمی سے کہا کہ میں نے اس غلام میں سے اپنا حصہ تم کو ہبہ کر دیا؛ لہذا تم اس پر قبضہ کر لو اور اس کا نام اس کو نہیں بتلایا اور نہ ہی اس کو متعین کر کے اس کو بتلایا ہے، تو یہ شیء موہوب کی جہالت کی وجہ سے جائز نہیں ہے اور یہ ایسی جہالت ہے جو اس کے اور دوسرے شریک کے درمیان اختلاف کو کھینچ کر لاتی ہے اور اس لئے بھی کہ بالقصد کسی بھی عقد کے ذریعہ مجہول شیء کا مالک بنانا جائز نہیں ہے۔

لہذا مبسوط کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ شیء مشاع کو ہبہ کرنے میں اگر آپس میں قبضہ کرنے میں کسی قسم کا نزاع اور اختلاف نہیں ہے تو شیء مشاع کا ہبہ جائز اور درست ہے۔

وَإِنْ وَهَبَ عَبْدُهُ لِرَجُلَيْنِ، أَوْ وَهَبَ وَهَبَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ، أَوْ وَهَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ لِشَرِيْكِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ وَسَلَّمَهُ، فَهُوَ جَائِزٌ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْلُومٌ وَلَا أَثَرَ فِي الشُّيُوعِ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْهَبَةِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِرَجُلٍ: قَدْ وَهَبْتُ لَكَ نَصِيْبِي مِنْ هَذَا الْعَبْدِ فَأَقْبِضْهُ وَلَمْ يَسْمَهُ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ إِيَّاهُ لَمْ يَجْزُ بِجَهَالَةِ الْمَوْهُوبِ، وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَلِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَجُوزُ تَمْلِيْكُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعْقُودِ قَصْدًا
الخ. (مبسوط السرخسي ۱۲ / ۷۴)

مقالہ کا خلاصہ اور سوالات کے جوابات

اب یہاں سے اختصار کے ساتھ سوالات کے جوابات پیش کئے جاتے ہیں

شئی موہوب کے مقسوم میں ائمہ کا اختلاف

سوال نمبر:- شئی موہوب کے مقسوم ہونے کے بارے میں حضرات ائمہ ثلاثہ اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قابل تقسیم اشیاء کی تقسیم سے قبل مشاع کی حالت میں ہبہ کر دینا جائز اور درست ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک قابل تقسیم اشیاء کا ہبہ تقسیم سے قبل جائز نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اپنے مدعی کے ثبوت میں کئی روایات پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ہم نے اسی مقالہ کے شروع میں ان کی دو دلیلیں پیش کر دیں ہیں:

(۱) وفد ہوازن کا واقعہ ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حصوں کو الگ کرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ میرا حصہ اور بنی عبدالمطلب کا حصہ (فہولکم) تمہارے لئے ہماری طرف سے ہبہ ہے۔ یہ تفصیلی روایت ”مسند احمد ۲/۱۸۴، رقم: ۷۲۹، تغلیق التعلیق ۴۷۳/۳“ کے حوالہ سے پیش کی ہے۔

(۲) مسجد نبوی کی جگہ حضرت اسعد بن زرارہ اور دیگر دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھی، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ تقسیم سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاع کی حالت میں ہبہ کر دیا تھا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے دونوں نے بھی اپنا اپنا حصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا اور آپ نے ان کے حصہ کو بھی بعد میں قبول فرمایا تھا۔ اس سے ہبہ مشاع کے جواز کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے ”بدائع ۱۷۰/۵، اور مبسوط حسنی ۶۴/۱۲“ کے حوالہ سے پیش کر دیا ہے۔

حضرات حنفیہ کی طرف سے بھی متعدد روایات پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے تین دلیلیں ہم نے ماقبل میں پیش کی ہیں:

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کرنے کا واقعہ ہے، جس کے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے وارثین کے لئے میراث میں شامل ہو جانے کی بات ہے۔ اس کو ”موطأ امام مالک/۲۱۴، نصب الراية/۴/۱۲۲، مصنف ابن ابی شیبہ/۱۰/۵۲۲، رقم: ۲۰۵۰۶، بدائع/۵/۱۶۳، اعلاء السنن/۱۶/۸۹“ کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت جس کو ”المعجم الاوسط/۳/۷۱، رقم: ۳۸۹، اعلاء السنن/۱۶/۹۹“ کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔

(۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، جس کو ”موطأ امام مالک/۳۱۴، مصنف ابن ابی شیبہ/۱۰/۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵، اعلاء السنن/۱۶/۹۰، رقم: ۵۲۶۰“ کے حوالہ سے پیش کر دیا ہے۔ نیز بدائع/۵/۱۷۱ میں حضرت علیؑ کے قول پر صحابہؓ کا اجماع نقل کیا گیا ہے اور اجماع صحابہؓ بھی حجت ہے۔

ہبہ میں قبضہ کی حیثیت

ہبہ میں قبضہ کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ ہبہ میں ملکیت کے ثبوت کے لئے ایسا قبضہ شرط کے درجہ میں ہے، جس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، مثلاً ملک غیر کے ساتھ مشغول اور مشاع نہ ہو اور ایسی جہالت نہ ہو جو قبضہ تام کے لئے مفضی الی النزاع ہو، ہاں البتہ نفس عقد ہبہ قبضہ سے قبل سب کے نزدیک جائز ہے، مگر قبضہ تام کے بغیر ہبہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وَشَرَا نَطُ صَحَّتْهَا فِي الْمَوْهُوبِ
 أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا غَيْرَ مُشَاعٍ،
 وَتَحْتَهُ فِي الشَّامِيَّةِ: وَأَمَّا الْقَبْضُ
 فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ إِذَا
 الْجَوَازُ ثَابِتٌ قَبْلَ الْقَبْضِ

شئی موهوب میں قبضہ کی شرائط میں سے ایسا قبضہ مشروط ہے جو شرکت کی وجہ سے مشاع نہ ہو اور اس کے نیچے مکملہ شامی میں ہے اور بہر حال قبضہ ثبوت ملک کے لئے لازم ہے؛ اس لئے کہ ہبہ کا جواز قبضہ سے قبل بالاتفاق ثابت

ہے۔ اور یہ اس بات کو مستفاد ہے کہ قبضہ ثبوت ملک ہی کی شرط ہے نہ کہ صحت ہبہ کی۔

بِالِاتِّفَاقِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَبْضَ
شَرَطًا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَا لِلصَّحَةِ
الْمَخ. (تکملہ شامی زکریا ۱۲/۵۶۶،

کراچی ۸/۴۲۳-۴۲۴)

نابالغ کو ہبہ میں قبضہ جدید کی ضرورت نہیں

اگر نابالغ کو ولی نے ہبہ کر دیا ہے، مثلاً باپ، یا باپ کا وصی، اسی طرح باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا یا چچا یا بھائی وغیرہ نے ہبہ کر دیا ہے، جب کہ نابالغ انہیں لوگوں کی پرورش میں ہو، تو واہب کا موجودہ قبضہ بحیثیت ولی اور گارجین کے نابالغ کی طرف سے قبضہ کے لئے کافی ہے۔ اور قبضہ جدید کی ضرورت نہیں؛ اس لئے کہ واہب نے جب ہبہ کر دیا تو ہبہ ہوتے ہی محض عقد ہبہ سے ہبہ تام ہو گیا، پھر نابالغ کے بالغ ہو جانے کے بعد قبضہ جدید کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ قبضہ جدید کی بات کسی بھی فقیہ نے نہیں کہی؛ اس لئے بلوغت کے بعد قبضہ جدید کی ضرورت نہ ہوگی؛ بلکہ سابقہ قبضہ جو ولی نے بحیثیت گارجین کیا ہے، وہی کافی ہو جائے گا۔

اسی طرح کسی اجنبی شخص نے صبی نابالغ کو ہبہ کر دیا ہے اور نابالغ کے ولی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو ولی کا قبضہ کافی ہو جائے گا اور بعد بلوغ جدید قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

اور اس شخص کا ہبہ جس کو نابالغ بچے پر فی الجملہ ولایت حاصل ہو، اور وہ ہر ایسا شخص ہے جس نے نابالغ کی پرورش کی ذمہ داری لے رکھی ہے؛ لہذا اس میں نابالغ کا بھائی، اس کا چچا وغیرہ باپ کے نہ ہونے کی حالت میں داخل ہو جائیں گے، اگر نابالغ ان کی فیملی میں ہو محض ہبہ سے عقد تام ہو جائے گا

وَهَبَةٌ مِنْ لَهُ وَوَلَايَةٌ عَلَى الطِّفْلِ
فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ كُلُّ مَنْ
يَعُولُهُ فَدَخَلَ الْأَخُ وَالْعَمُّ عِنْدَ
عَدَمِ الْأَبِ لَوْ فِي عِيَالِهِمْ، تَتِمُّ
بِالْعَقْدِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ

اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد جس کی دونوں جانب کی ذمہ داری ایک ہی شخص لے سکتا ہے، اس میں عقد صرف ایجاب کے ذریعہ سے کافی اور تام ہو جاتا ہے۔ اور اگر اجنبی شخص نے نابالغ کو ہبہ کر دیا ہے تو اس کے ولی کے قبضہ سے ہبہ تام ہو جاتا ہے۔

اس کو علامہ ابن عابدین اور علماء الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

جس شخص کو نابالغ بچہ پر ولایت حاصل ہے وہ بچہ کو کوئی شئی ہبہ کر دے تو محض ہبہ سے عقد تام و مکمل ہو جائے گا اور الگ سے اس کی طرف سے قبضہ کی ضرورت نہیں؛ اس لئے کہ یہی وہ شخص ہے جو نابالغ کے لئے قبضہ کرتا ہے؛ لہذا اس کا قبضہ اسی کے قبضہ کی طرح ہے، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا، جو دوسرے کو کوئی چیز ایسی حالت میں ہبہ کر دے کہ شئی موہوب پہلے سے موہوب نہ کے قبضہ میں تھی؛ لہذا قبضہ جدید کی ضرورت نہیں ہوگی۔

يَتَوَلَّاهُ الْوَّاحِدُ يَكْتَفِي فِيهِ
بِالْإِيجَابِ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ
أَجْنَبِيٌّ تَمَّ بِقَبْضِ وَلِيِّهِ.
(الدر المختار زكريا ۱۲ / ۵۹۹،
کراچی ۸ / ۴۴۹)

أَنَّ يَهَبَ مَنْ لَهُ الْوَلَايَةُ عَلَى
الطِّفْلِ لِلطِّفْلِ يَتَمُّ بِالْعَقْدِ وَلَا
يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ
الَّذِي يَقْبِضُ لَهُ، فَكَانَ قَبْضُهُ
كَقَبْضِهِ، وَصَارَ كَمَنْ وَهَبَ
لَا حَرَّ شَيْئًا وَكَانَ الْمَوْهُوبُ فِي
يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ
إِلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ. (تكملة شامی
زكريا ديوبند ۱۲ / ۵۹۹، کراچی
۸ / ۴۴۹)

نابالغ کی طرف سے صحت قبضہ کی شرائط

- نابالغ کی طرف سے ولی کے قبضہ کے درست ہونے کے لئے تین شرطیں زیادہ اہم ہیں:
- (۱) نابالغ کو ہبہ کر دینے کے بعد ماحول اور خاندان میں اس کا اعلان کر دینا لازم اور ضروری ہے۔
 - (۲) شئی موہوب معلوم اور متعین ہو، مجہول اور نامعلوم نہ ہو۔
 - (۳) اس پر شرعی گواہ بنالینا، اور گواہ بنالینا صحت عقد کی شرط نہیں ہے؛ بلکہ عقد تو بغیر گواہ کے بھی صحیح ہو جاتا ہے، مگر بعد میں آگے چل کر عقد ہبہ سے انکار کے خطرے سے حفاظت کے

لئے گواہ کو ضروری کہا گیا ہے، تاکہ آئندہ اگر قابض کی نیت خراب ہو اور باپ کی موت کے بعد وراثت اس ہبہ کا انکار کر دیں تو گواہوں کے ذریعہ سے ثابت کر سکے۔ اس کو تکملہ شامی میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وَإِذَا وَهَبَ أَحَدٌ لِطِفْلٍ يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ، وَهَذَا إِذَا أَعْلَمَهُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، وَالْإِشْهَادُ لِلتَّحْرُزِ عَنِ الْجُحُودِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْإِعْلَامُ لَأَزْمٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ (وقولہ) قَالَ مُحَمَّدٌ كُلُّ شَيْءٍ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَاشْهَدَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْلُومٌ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(تکملہ شامی زکریا ۱۲/۶۰۰،

کراچی ۸/۴۴۹)

اور جب کوئی شخص نابالغ بچے کو کوئی شے ہبہ کر دے تو مناسب یہی ہے کہ اس پر گواہ بنا لے اور یہ اس وقت ہے کہ اس کا (خاندان) میں اعلان کر کے اس پر گواہ بنایا ہو اور گواہ بنانا اس کی موت کے بعد (ورثاء) کے انکار سے حفاظت کے لئے ہے اور اعلان کرنا لازمی شرط ہے، اس لئے کہ یہی اعلان بمنزلہ قبضہ کے ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ نے فرمایا کہ ہر وہ شے جس کو اپنے چھوٹے بچے کو ہبہ کرتا ہے اور اس پر گواہ بنا لیا ہے اور وہ شے فی نفسہ معلوم اور متعین ہے تو وہ ہبہ جائز اور درست ہے۔

نابالغ کو ہبہ مشاع

اگر باپ نے نابالغ بچے کو شے مشاع کا ہبہ کر دیا ہے اور ہبہ کے بعد اس کو تقسیم کر کے الگ نہیں کیا ہے اور شے موہوب باپ کے استعمال میں مشغول ہے، یا دیگر شخص کے استعمال میں مشغول ہے، تو ہبہ جائز اور درست ہو جاتا ہے، مثلاً باپ نے نابالغ کو اپنا رہائشی مکان ہبہ کر دیا ہے اور ہبہ کے بعد بھی باپ نے اس سے اپنا قبضہ چھوڑا نہیں اور اس میں اپنی رہائش بدستور باقی رکھی ہے، یا باپ نے کسی اجنبی شخص کو اس میں بلا اجرت رہائش کے لئے دے رکھا ہے اور اس نے اس میں رہائش کر رکھی ہے، تو ان سب صورتوں میں یہ ہبہ مشاع صحیح اور درست ہے۔ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

شئی مشغول اور شئی مشاع کا ہبہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ جب باپ اپنے چھوٹے بچے کو (شئی مشاع) ہبہ کر دے تو (درست ہے) اس کے نیچے تکملہ میں ہے: اپنے چھوٹے بچے کو رہائشی مکان ہبہ کر دیا ہے اور اس میں واہب کا سامان موجود ہے، یا اپنے چھوٹے بچے کو کوئی رہائشی مکان صدقہ کر دیا ہے اور اس میں باپ کا سامان ہے اور باپ خود اس میں رہائش پذیر ہے، تو یہ ہبہ مشاع اور صدقہ مشاع جائز ہے اور اسی برفٹوی ہے، یا باپ نے اس مکان کو کسی اجنبی شخص کو رہائش کے لئے بغیر اجرت کے دے رکھا ہے تب بھی جائز ہے اور ماں کا حکم اس مسئلہ میں باپ کی طرح ہے، ان سب میں صدقہ کا حکم ہبہ کی طرح ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ ہبہ مشاع کو نہ مطلقاً جائز کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً ناجائز؛ بلکہ قیود و شرائط کے ساتھ جواز کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسا کہ اس مدلل مضمون سے واضح ہو گیا ہے۔ واللہ الموفق والمعين.

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ☆ عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

شبیر احمد صاحب قاسمی عفا اللہ عنہ

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد یو پی (الہند)

۱۳/ ذی الحجہ ۱۴۳۴ھ



۴/ باب الرجوع في الهبة

شی موہوب کو واپس لینا

سوال [۹۴۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: والد نے اپنے دو لڑکوں کے درمیان اپنے ایک مکان کا زندگی میں تقسیم نامہ ۱۶۱۷ء کو کیا تھا اور مکان کا نقشہ بھی قائم کر دیا گیا تھا اور قبضہ بھی دے دیا تھا؛ لیکن ان میں سے بڑے لڑکے نے والد سے چھوٹے بھائی کی غیر موجودگی میں پچھلے تقسیم نامہ کی خلاف ورزی کر کے کچھ جگہ مزید اپنے کاغذ میں بڑھوائی اور اس کا علم اپنے چھوٹے بھائی کو جب دیا جب کہ والد انتقال فرما چکے تھے، تو چھوٹے بھائی کی غیر موجودگی میں والد صاحب سے کئے گئے پچھلے بٹوارے کی خلاف ورزی کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: فہود احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زندگی میں جائیداد اور دولت تقسیم کرنے میں تمام اولاد کو برابر برابر دینا لازم ہے، حتیٰ کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔

وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى، ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (شامي، كتاب الهبة، كراچی ۵/ ۶۹۶، زکریا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، ہندیہ، الباب السادس في الهبة للصغير قديم زکریا ۴/ ۳۹۱، جدید ۴/ ۴۱۶، قاضی خان فصل في هبة الوالد لولده الخ جدید زکریا ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية زکریا ۳/ ۲۷۹)

اگر پچھلے تقسیم نامہ کی خلاف ورزی بڑے بیٹے نے باپ پر دباؤ ڈال کر کی ہے اور مزید حصہ بڑھوا لیا ہے، تو بڑے بھائی اور باپ دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور اگر باپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو دونوں بیٹوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہ کرنے کی وجہ سے باپ سخت گنہگار ہوگا، نیز چونکہ پہلی تقسیم کے بعد قبضہ دے یا تھا، اس سے ہبہ بھی مکمل اور تام ہو چکا تھا اور بیٹے کو ہبہ کر کے واپس لینا جائز نہیں ہے؛ اس لئے چھوٹے بھائی کے حصہ میں سے جتنا باپ کے توسط سے بڑے بھائی کے پاس گیا ہے اس کو واپس کر دینا واجب ہوگا۔

عن أنس بن مالک - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ۲/ ۱۹۴، دار السلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. (المستدرک للحاکم، مکتبہ نزاز مصطفى الباز بیروت ۳/ ۸۷۶، رقم: ۲۳۲۴، قدیم ۲/ ۵۲، السنن الکبریٰ للبیہقی، دار الفکر بیروت ۹/ ۱۸۱، رقم: ۱۲۲۵۷، سنن الدارقطنی، دار الکتب العلمیة بیروت ۳/ ۳۹، رقم: ۲۹۵۵)

وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها. (هدایة، کتاب الهبة، باب ما یصح رجوعه وما لا یصح، اشرفی دیوبند ۳/ ۲۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹/ رجب ۱۴۱۶ھ
الحق محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۷/ ۱۴۱۶ھ (الف فتویٰ نمبر: ۳۲/ ۲۵۳۶)

موہوبہ مکان کو واپس لے کر وقف کرنے کا حکم

سوال [۹۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید کے تین لڑکے ہیں، زید نے زمین خرید کر تینوں لڑکوں کے لئے الگ الگ راستہ

کے ساتھ الگ الگ پوزیشن سے تین مکانات بنائے اور ہر ایک لڑکے سے یہ کہہ کر ایک ایک مکان پر قبضہ دے دیا کہ یہ مکان تمہارا ہے، تم کو دے دیا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، چنانچہ باپ کے دینے پر ہر ایک بیٹے نے اپنے مکان پر اسی طریقہ سے قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے باقاعدہ طور پر خود مختارانہ قبضہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی، اب بعد میں کسی بات پر باپ کی بیٹیوں سے ناراضگی ہو گئی، تو باپ نے ناراض ہو کر ان مکانات کو مزارات کے نام وقف کر دیا، تو کیا دئے ہوئے مکانات کو بیٹیوں سے واپس لینا شرعی طور پر جائز ہے اور ان کو مزارات پر وقف کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲) ہر ایک مکان کے سامنے خالی زمین پڑی ہوئی ہے، زید نے ہر ایک بیٹے کو مکان دیتے وقت خالی زمین اسی بیٹے کی ملکیت میں دے دی ہے۔

(۳) اور مکانات کے نیچے آٹھ دوکانیں بنی ہوئی ہیں، ان تمام دوکانوں کو چھوٹے بیٹے کی ملکیت میں دے دیا ہے اور سب دوکانوں کی تالی بھی چھوٹے بیٹے کے حوالہ کر دی ہے؛ لیکن اب بعد میں والد زید ناراض ہو کر وہ بھی چھوٹے بیٹے سے واپس لے کر بڑے لڑکے کے نام کر دینا چاہتا ہے، تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہوگا؟

المستفتی: تحسین الہی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ زید نے اپنی زندگی میں اپنے لڑکوں کے درمیان مذکورہ جائیداد تقسیم کر کے مالک بنا دیا ہے، اس کو زبانی ہبہ کہا جاتا ہے، جس میں رجسٹری وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہبہ کے کامل ہونے کے لئے قبضہ کرنا شرط ہے۔ اور سوال نامہ سے واضح ہو رہا ہے کہ لڑکوں نے مکانات میں سے دئے ہوئے اپنے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر ہبہ مکمل ہو جاتا ہے اور شرعی طور پر اولاد کو اس طرح ہبہ میں دی ہوئی چیزوں کو واپس لینا باپ کے لئے جائز

نہیں ہے؛ اس لئے واپس لے کر مزارات وغیرہ پر وقف کر دینا درست نہیں ہوگا؛ بلکہ وہ مکانات ان ہی لڑکوں کی ملکیت میں ہی بدستور باقی رہیں گے۔

عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. (المستدرک للحاکم، مکتبہ نزاز مصطفى الباز بیروت ۸۷۶/۳، رقم: ۲۳۲۴، قدیم ۲/۵۲، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفکر بیروت ۹/۱۸۱، رقم: ۱۲۲۵۷، سنن الدارقطني، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۹، رقم: ۲۹۵۵)

وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها. (هدایة، کتاب الهبة، باب ما یصح رجوعه وما لا یصح، اشرفی دیوبند ۳/۲۹۰)

تسقط الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المحلة رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/۴۶۲، رقم المادة: ۸۳۷، شامی کراچی ۵/۶۹۰، زکریا ۸/۴۹۳، بدائع الصنائع، کراچی ۶/۱۲۳، زکریا ۵/۱۷۶)

(۲) خالی زمین بھی مذکورہ تفصیل کے ساتھ لڑکوں کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے، واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔

(۳) دوکانیں بھی مذکورہ تفصیل سے چھوٹے بیٹے کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہیں، واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شوال ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۳۰)

لڑکے کے انتقال کے بعد جائیداد واپس لینا

سوال [۹۴۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: جناب سید عبدالوحید صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے تین صاحب زادوں اور صاحب زادیوں کے درمیان اپنی جائیداد اپنی مرضی سے برابر طریقہ پر تقسیم کر دی، بعد ازاں سید عبدالوحید صاحب کے ایک فرزند جناب سید عبدالمنان صاحب کا سید عبدالوحید صاحب کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا، اب سید عبدالوحید صاحب اس فیصلہ سے مکر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؛ اس لئے بیٹا میری جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا اور میں اپنی جائیداد مرحوم بیٹے کی بیوی اور بچوں یعنی پوتوں کو نہیں دوں گا، فیصلہ کی کاپی منسلک ہے، اس پر غور کرتے ہوئے فتویٰ جاری کریں کہ اس فیصلہ کی روشنی میں سید عبدالوحید کا یوں کہنا صحیح ہے؟ اور کیا اب دوبارہ از سر نو تقسیم کرنی چاہئے؟

المستفتی: محمد ریاض الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سید عبدالوحید صاحب نے جب اپنی اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر دی، تو یہ ہبہ تام ہو کر اولاد اس کی مالک ہو گئی، اب عبدالوحید کا اپنے مرحوم بیٹے عبدالمنان کے حصہ کو واپس لینا جائز نہیں؛ بلکہ وہ مال عبدالمنان کا ترکہ ہوگا جو اس کے شرعی ورثاء کے درمیان حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا، نیز رجوع فی الہبہ کا جو مسئلہ ہے وہ غیر قرابت داروں کے متعلق ہے، قرابت داروں کو ہبہ کر کے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔

عن سمرۃ - رضی اللہ عنہ - عن النبی ﷺ قال: إذا كانت الہبۃ لذي رحم محرم لم يرجع فیہا. (المستدرک للحاکم، مکتبہ نواز مصطفیٰ الباز بیروت ۸۷۶/۳، رقم: ۲۳۲۴، قدیم ۲/۵۲)

وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فیہا؛ لقوله عليه السلام: إذا كانت الہبۃ لذي رحم محرم لم يرجع فیہا. (ہدایۃ، کتاب الہبۃ، باب ما یصح رجوعه وما لا یصح، الأمين کتابستان ۳/۲۹۰ دیوبند، ہندیۃ، زکریا جدید ۴/۴۱۱، قدیم ۴/۳۸۶، البحر الرائق، زکریا ۷/۵۰۰، کوئٹہ ۷/۲۹۴، بدائع الصنائع،

زکریا ۵/ ۱۹۰، کراچی ۶/ ۱۳۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/ ۵۰۰، شرح المحلۃ رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/ ۴۷۶، رقم المادۃ: ۸۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ رجب ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۰۶/۴۰)

اولاد کو ہبہ کر کے واپس لینے کا حکم

سوال [۹۴۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبدالمجید ٹھیکیدار کے چار لڑکے ہیں، عبدالمجید ٹھیکیدار نے اپنے چاروں لڑکوں کو اپنی زندگی میں ایک مکان الگ الگ نام کر دیا تھا، جن میں سے ایک لڑکے کو علیحدہ سے ایک مکان خرید کر دے دیا تھا اور تینوں لڑکوں کے ایک مکان میں تین حصے الگ الگ مقرر کر دئے تھے، ایک لڑکے نے جس کو الگ مکان خرید کر دیا تھا، اس نے اپنا مکان باپ کی موجودگی میں فروخت کر دیا اور جب اس لڑکے کو پریشان دیکھا، تو باپ نے ایک لڑکے کے حصہ میں سے اس کی عدم رضامندی اس لڑکے کو تھوڑا سا حصہ بنا دیا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ لڑکا اب اس حصہ کا مالک ہوگا یا نہیں؟ اور اگر مالک ہوگا تو یہ لڑکا اسی حصہ کا مالک ہوگا جو باپ نے بنا کر دیا ہے یا برابر سہرا برابر کا مالک ہوگا؟ صراحت کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر باپ نے مذکورہ مکانات بطور ہبہ کے لڑکوں کو مالک بنا کر قبضہ دے دیا ہے، تو باپ کا کسی لڑکے کے حصے کو زبردستی لے کر دوسرے کو دے دینا شرعاً درست نہیں تھا؛ لہذا جس سے لیا ہے اس کو اس حصہ کی قیمت ملنی چاہئے یا اس سے معاف کرا لیا جائے اور جس کو باپ نے پریشان دیکھ کر دیا ہے وہ بھائی کے حصہ میں کسی طرح شریک نہ

ہوگا؛ اس لئے کہ باپ کا کسی لڑکے کو ہبہ کر کے قبضہ دینے کے بعد پھر اس سے واپس لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔

عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. (المستدرک للحاکم، مکتبہ نزاز مصطفیٰ الباز بیروت ۸۷۶/۳، رقم: ۲۳۲۴، قدیم ۲/۵۲)

القاف القرابة فلو وهب لذي رحم محرم منه نسباً ولو ذمياً، أو مستأمناً لا يرجع. الخ (الدرالمختار، کتاب الهبة، باب الرجوع فی الهبة، کراچی ۷۰۴/۵، زکریا ۸/۵۱۲، ہدایہ، أشرفی ۳/۲۹۰، ہندیہ زکریا قدیم ۴/۳۸۶، جدید ۴/۴۱۱، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۲۹۴، زکریا ۷/۵۰۰، بدائع الصنائع، کراچی ۶/۱۳۲، زکریا ۵/۱۹۰، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/۵۰۰، شرح المحلہ رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/۴۷۶، رقم المادة: ۸۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
(الف فتاویٰ نمبر: ۲۴۳۰/۲)

ہدیہ کی واپسی کا مطالبہ کرنا

سوال [۹۴۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے والد صاحب کی ایک ناجائز بچی تھی، اس کو ہم نے پال پوس کر بڑا کیا اور اس کی شادی بھی کرادی، اس کے بعد ہم نے اس کو ورثہ بھی دے دیا اور اس نے چار افراد کے سامنے فیصلہ کر کے ورثہ قبول بھی کر لیا، جب کہ ہم کو معلوم تھا کہ اس کا ورثہ نہیں نکلتا ہے، پھر بھی ہم نے دے دیا، اب کچھ وقت کے بعد اس نے اور مانگنا شروع کر دیا اور بدتمیزی کر رہی ہے؛ لہذا دریافت یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو کچھ سے دیا ہے وہ ہم کو واپس مانگنے کا حق ہے یا نہیں؟

المستفتی: احمر رحمت

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کے والد کی جو ناجائز بیگی ہے وہ شرعی طور پر آپ کے والد کی وارث نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے وہ تبرع اور ہدیہ ہے، مزید مانگنے کا اس کو کسی طرح حق نہیں ہے۔ اور اس کی بدتمیزی کی بنا پر دی ہوئی چیز واپس مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے ناجائز مطالبہ اور بدتمیزی کا گناہ اس کے سر ہوگا، اس معاملہ میں آپ لوگ صبر کریں تو اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ: العائد في هبته كالعائد في قبته. (مسلم شريف، باب تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، النسخة الهندية ۳۶ / ۲، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۲۲، صحيح البخاري، هبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، النسخة الهندية ۱ / ۳۵۷، رقم: ۲۵۴۷، ف: ۲۶۲۱)

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

۱۴۲۸/۵/۱۷

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۳۰۰)

باپ کا اولاد کو چھت ہبہ کرنے کے بعد رجوع کرنا

سوال [۹۴۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (الف) میرا مکان تین منزلہ ہے، میں اس کو تین بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، گرانڈ فلور پرانے طرز کا بنا ہوا ہے، باقی دو منزل نئے طرز کی بنی ہوئی ہیں، بڑے لڑکے کو گرانڈ فلور پر جو کہ پرانے طرز کا بنا ہوا ہے دیا تو بڑے لڑکے کا کہنا ہے کہ میں کرایہ پر نہیں دے سکتا؛ اس لئے مجھے مکان کی چھت پر دو کمرے بنانے کی اجازت دیجئے جس پر میں نے بنانے کی اجازت دے دی، کیا اس پر میرے دونوں لڑکوں کی رضا مندی ضروری ہے، کیا میں اپنی جائیداد کو اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسا تقسیم کر سکتا ہوں؟ کیا

شریعت میں اس کی اجازت ہے؟

(ب): جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں آپس میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے بعد دوبارہ زائد حصہ کا مطالبہ کرنا اور اس پر والد کی طرف سے اجازت مل جانا جس کی وجہ سے بڑے بھائی کا دونوں بھائیوں کے حصہ سے زائد حصہ ہو جاتا ہے، تو کیا شرعی اعتبار سے ایسا کرنا درست ہے؟

(ج): مکان تقسیم کر دیا تینوں بیٹوں میں، اور چھت مشترکہ ہے، بڑے بیٹے کے دو کمرے مکان کی چھت پر بنے ہوئے ہیں، بڑے بیٹے کا مطالبہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے کرایہ دار چھت پر نہ آئیں یا کوئی وقت متعین کریں کہ فلاں وقت پر ہی آئیں گے؛ کیوں کہ چھت پر بڑے بیٹے کی فیملی رہتی ہے، ان کی بے پردگی ہوگی، جب کہ بڑے لڑکے کا گرانڈ فلور پر بھی مکان ہے اس پر دوسرے لڑکے راضی نہیں ہیں؛ کیوں کہ چھت مشترکہ ہے، اب کیا کرنا درست رہے گا شرعی اعتبار سے؟ والسلام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب باپ نے سب بھائیوں کی موجودگی میں مکان کو تقسیم کر دیا ہے اور تقسیم کر کے ہر ایک کو اپنے حصے پر قبضہ دے دیا ہے اور چھت کو تینوں بھائیوں کے درمیان مشترک قرار دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے تینوں بھائی اپنے اپنے حصے کے مالک ہو چکے ہیں اور باپ کا کوئی حق باقی نہیں رہا ہے اور باپ کے لئے اولاد کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا؛ لہذا جن شرائط کے ساتھ بیٹوں کو مالک بنا دیا گیا ہے اور اس میں چھت مشترک قرار پائی ہے تو باپ کو چھت کا ہبہ واپس لے کر بڑے بیٹے کو دینے کا حق نہیں ہے؛ لہذا باپ نے جو چھت کے اوپر بڑے بیٹے کو دوسرے بیٹوں کی اجازت کے بغیر تعمیر کی اجازت دی ہے وہ درست نہیں ہے؛ لہذا اس چھت کے اوپر تینوں بھائیوں کا حق

بدستور باقی ہے؛ اس لئے آپس میں تینوں بھائی بیٹھ کر اس مسئلہ کا حل ڈھونڈ لیں، تیسرے بھائی نے جو چھت کے اوپر مکان بنایا ہے اس کے بارے میں صلح کر لیں، دیگر دونوں بھائیوں کا حق چھت کے اوپر باقی ہے، اس کے بارے میں قیمت دے دلا کر معاملہ نمٹالیں، ورنہ روز کی لڑائی سامنے رکھی ہوئی ہے۔

كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم

لا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه. (شرح المجلة ۱/ ۶۰۱، رقم المادة: ۱۰۷۵، مجمع الأنهر ۲/ ۵۴۳)

من وهب لأصوله وفروعه أو لأخيه أو أخته أو لأولادهما أو لعمه أو لعمته أو لخاله أو لخالته شيئاً فليس له الرجوع. (شرح المجلة ۱/ ۴۷۶، رقم المادة: ۸۶۶، شامی، زکریا ۸/ ۵۵، کراچی ۵/ ۶۹۹)

ولو وهب لذي رحم محرم منه شيئاً لا يرجع. (درمختار مع الشامی، زکریا ۸/ ۵۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳/ ذی الحجہ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۸۲/۴۱)



۵/باب: زندگی میں تقسیم جائیداد

زندگی میں تقسیم

سوال [۹۴۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں زیتون بیگم اپنا ترکہ اپنی زندگی میں اولادوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں، تو شرعاً کتنا کتنا حصہ دینا ضروری ہے؟ میرے دو لڑکے چھ لڑکیاں ہیں، کس طرح تقسیم کروں؟ اور اپنے لئے کتنا رکھوں، چودہ لاکھ روپے ہیں۔

المستفتی: زیتون بیگم کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زیتون بیگم زندگی میں تقسیم کر دینا چاہتی ہیں تو لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا ضروری ہے؛ اس لئے چودہ لاکھ روپے میں سے جتنا چاہیں اپنے لئے الگ کر کے رکھ لیں اور بقیہ رقم کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر کے لڑکے اور لڑکی سب کو برابر کر کے ایک ایک حصہ دے دیں، یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ چودہ لاکھ روپے زیتون بی بی کی اپنی ملکیت کے ہوں؛ لیکن اگر یہ شوہر کی ملکیت کے ہوں اور شوہر فوت ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں چودہ لاکھ روپے اسی حصوں میں تقسیم ہو کر دس حصے زیتون بیگم کو ملیں گے اور لڑکوں کو چودہ اور لڑکیوں کو سات سات ملیں گے۔

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة.

(البحر الرائق، کتاب الهبة، زکریا ۷/ ۴۹۰، کراچی ۷/ ۲۸۸)

وروی المعلى عن أبي يوسف: أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن، وعليه الفتوى. الخ (هندية، کتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زکریا قدیم

۴ / ۳۹۱، جدید ۴ / ۴۱۶، شامی، کراچی ۵ / ۶۹۶، زکریا ۸ / ۵۰۱، ۵۰۲، قاضی خان
جدید زکریا ۳ / ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۳ / ۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ / ۱۲ / ۱۴۳۴ھ

۱۱ / ۱۱ / ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰ / ۱۱۲۷)

زندگی میں تقسیم جائیداد

سوال [۹۴۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک عالم دین کے چار لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، انہوں نے زندگی ہی میں اپنے لڑکے کو ایک منڈہ (بیگہ کا دسواں حصہ تقریباً ڈھائی ہزار اسکوارفٹ) زمین دی، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے لڑکیوں کو بھی ایک ایک منڈہ زمین دے دی، اس کے بعد ایک بڑی لمبی جائیداد منقولہ کے علاوہ مزید ساڑھے پانچ منڈہ، دو عدد بڑے مکانات موجود ہیں، لڑکیوں کو دینے کی مصلحت حسب ذیل ہے: (۱) ”تسویۃ بین الأولاد فی النحل“ (۲) لڑکے کا مزاج جس کا اندازہ آگے کی سطور سے ہوگا، یوں بھی معاشرہ میں لوگ لڑکیوں کو باپ کے بعد کچھ نہیں دیتے، لڑکے کو زمین ملی تھی تو وہ بہت خوش تھا، لڑکیوں کو زمین ملی تو لڑکا بہت ناراض ہے، باپ پر ہر طرح دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ زمین لڑکیوں سے واپس لے لیں، کبھی کہتا ہے میں شریعت و رعیت نہیں جانتا اور مانتا؛ لیکن ان تمام وجوہ اور دھمکیوں کے باوجود باپ نے لڑکیوں سے زمین واپس لینے سے انکار کر دیا، تو اس نے باپ کی تجوری کھول کر زمین کے کاغذات اور لڑکیوں کے ہبہ نامہ کی اصل کا پیاں اور ایک خطیر رقم غائب کر دی اور لڑکیوں نے اپنی زمین الگ کرنے کے لئے جو بنیاد بنوائی تھی، اس کو مسمار کر دیا، ان حالات میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) لڑکے کو باپ نے دے کر صحیح کیا اور لڑکیوں کو دینا غلط اور ناجائز تھا؟

- (۲) باپ کے نہ رہنے پر کیا لڑکے کو لینا چاہئے اور ضرور لینا چاہئے اور لڑکیوں کو ہرگز نہیں لینا چاہئے؟ کیا لینے اور نہ لینے میں لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی تفریق شریعت میں کی گئی ہے؟
- (۳) اگر معاشرہ میں لڑکیوں کے دینے کا رواج نہ ہو اور یقین ہو کہ لڑکا کسی صورت میں کچھ نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں ایک خدا ترس باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟
- (۴) جو لڑکا یہ سوچتا اور کہتا ہو کہ بہنوں کو ہرگز ایک اونچ زمین نہیں دیں گے اور اس سلسلے میں اوپر مذکور جملے بھی استعمال کرتا ہو، تو شرعاً ایسا آدمی کیسا ہے؟
- (۵) موجودہ صورت میں کسی مرحلہ میں لڑکیاں اگر اپنا جائز حق قانون کے ذریعہ لے لیں تو کیا وہ شرعاً غلط کریں گی؟
- (۶) موجودہ صورت میں باپ اور بیٹے کے نام آپ کا کوئی پیغام؟

المستفتی: نیاز احمد قاسمی، کیاری ٹولہ، منو

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زندگی میں جائیداد اور دولت تقسیم کرنی ہو تو شرعی حکم یہ ہے کہ جتنی لڑکے کو دی جائے اتنی ہی لڑکی کو بھی دی جائے، سب کو برابر دینا باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ باپ گنہگار بھی ہو سکتا ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں لڑکے کو دینے کے بعد لڑکیوں کو بھی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قانون شریعت پر عمل کیا ہے:

فسوی بینہم یعطی البنت کالابن عند الثانی، وعلیہ الفتوی، ولو
 وہب فی صحته کل المال للولد جاز وأثم. (درمختار، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/

۵۰۱، کوئٹہ ۵/۶۹۶، قاضیخان زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۲۷۹،

ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/۳۹۱، جدید ۴/۱۶۷)

(۱) لڑکیوں کو دے کر غلط نہیں بلکہ اچھا کیا ہے۔

(۲) باپ کے انتقال کے بعد لڑکیوں کو شرعی حق دینا واجب ہے، نیز باپ نے جو زندگی میں ہبہ کر دیا ہے اس کو بھی قبضہ کر کے باپ کی زندگی میں مالک بن جانے کا حق ہے۔

(۳) زندگی میں دولت تقسیم کرنے میں لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی تفریق نہیں، سب کو برابر دینا چاہئے۔

(۴) یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے؛ بلکہ مذکورہ جملہ موجب کفر ہے، تو بہ کر کے ایمان کی تجدید کر لینا ضروری ہے۔

(۵) لڑکیوں کو اپنا حق قانون کے ذریعہ حاصل کر لینا بلا تردد جائز ہے۔

(۶) اگر بیٹا نافرمان بن جائے، تو اس کو کچھ بھی نہ دے کر سب کچھ لڑکیوں میں تقسیم کر دینے کی اجازت ہے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأدباً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۴/ ۱۶۲، ۲۱۲۲۵، البحر الرائق، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰، بزازیة، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلی هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، هندية، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۱۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۵۹۱/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۱/۱۴۱۹ھ

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا

سوال [۹۴۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرا ایک لڑکا عبد اللہ اور تین لڑکیاں (۱) بشریٰ (۲) صبا (۳) عظمیٰ اور بیوی زاہدہ ہے، میں نے اپنے لڑکے عبد اللہ اور تینوں لڑکیوں بشریٰ، صبا، عظمیٰ کی شادی کر دی ہے۔ میرے پاس کچھ نقد رقم کے علاوہ دو فیکٹری تین رہائشی مکان اور کھیتی کی کچھ اراضی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی حیات ہی میں اپنے لڑکے عبد اللہ اور تینوں لڑکیاں: بشریٰ، صبا اور عظمیٰ اور بیوی

زاہدہ کو اپنی نقد رقم اور دیگر تمام غیر منقولہ جائیداد میں حصہ دے دوں، تاکہ میرے بعد آپس میں کسی قسم کی نا اتفاقی نہ ہو، تو تقسیم کی کیا صورت ہوگی؟ نیز بعد الموت وراثت کے درمیان جس طرح کی تقسیم کی جاتی ہے اس طرح کی تقسیم کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کی رو سے مدلل و مفصل وضاحت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: انور ڈپٹی گنج، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ اپنی زندگی میں تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کے خود مالک ہیں، ان میں کسی کا کوئی حق یا مطالبہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی زندگی ہی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اولاً بیوی کو جتنا چاہیں دے کر چاروں اولادوں کے درمیان بقیہ جائیداد برابر تقسیم کر دیں اور زندگی میں دینے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینے کا حکم ہے، تاکہ باپ کی طرف سے سب اولاد کے درمیان یکساں معاملہ رہے۔ اور اگر آپ کسی ایک اولاد کو زیادہ دینا چاہیں اور اس کا مقصد دوسری اولاد کو نقصان پہنچانا نہ ہو اور دیگر وراثت کو کوئی اعتراض نہ ہو، تو دینے کی گنجائش ہے، اس میں آپ گنہگار نہ ہوں گے، مثلاً کل جائیداد کو پانچ حصہ کر کے بیٹے عبد اللہ کو دو حصہ دینا چاہیں اور تینوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دینا چاہیں اور اس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو تو جائز اور درست ہے۔

ولکل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيف ما شاء. (شرح المحلة

رستم، مکتبہ اتحاد ۱/ ۶۴۳، رقم المادة: ۱۱۶۲)

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/ ۷)

عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أَرْضِي

حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله! قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته. (صحيح البخاري، باب الإشهاد في الهبة، النسخة الهندية ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۷)

لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة، وكذا في العطايا إذا لم يقصد به الإضرار يعطى البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸/ ۵۰۱-۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶)

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض -إلى- روى المصنف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار -إلى- يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، وعليه الفتوى، هكذا في فتاوى قاضي خان، وهو المختار كذا في الظهيرية. (هداية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، قاضي خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹)

اور آپ کی موت کے بعد اگر یہ چاروں اولاد اور بیوی زندہ رہے تو کل جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ۴۰ حصوں میں تقسیم ہو کر بیوی زاہدہ کو پانچ اور لڑکے عبداللہ کو ۱۴ اور تینوں لڑکیوں کو سات سات حصے ملیں گے۔

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلٍ حَظُّ الْأُنثَىٰ﴾ [النساء: ۱۱]

أما للزوجات -إلى- الثمن مع الولد، أو ولد الابن وإن سفل.

(سراجي، ص: ۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/۵/۱۴۳۳ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/ ۱۱۱۰۷)

زندگی میں جائیداد کی تقسیم میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دینا

سوال [۹۴۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ایک لڑکی اور تین لڑکے ہیں، تو وہ کس طرح تقسیم کرے گا، وراثت کے طریقے سے یا کسی اور طریقے سے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جو شخص زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر حصہ دے؛ کیوں کہ زندگی میں جائیداد وراثت کے طریقے پر تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ عثمانی ۳/ ۴۶۷، فتاویٰ محمودیہ ڈائجیل ۱۶/ ۵۰۰، میرٹھ ۲۵/ ۴۱۵)

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كانت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. (سنن كبرى بيهقي بيروت ۱/ ۱۷۷، بخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۷)

ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض في ذلك لارواية في الأصل عن أصحابنا. وروى عن أبي حنيفة أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، وعليه الفتوى. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا جديد ۴/ ۱۶، زكريا ۴/ ۳۹۱، البحر الرائق، زكريا ۷/ ۴۹۰، كراچی ۷/ ۲۸۸، قاضي خان، فصل في هبة الوالد لولده، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹)

حکم ہبۃ الوالد لولده إذا أعطی، أي الأب بعض ولده شيئاً لم یجز

حتى يعدل يعني في العطايا للكل . (عمدة القاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، دار
إحياء التراث العربي بيروت ۱۳/۱۴۲، زكريا ۹/ ۴۰۰، فتح الباري، اشرفيه ديوبند
۵/ ۲۶۹، دار الريان للتراث بيروت ۵/ ۲۵۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ صفر ۱۴۳۵ھ

(الف خاص فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۴۵)

حالت حیات میں جائیداد تقسیم کرنا

سوال [۶/۹۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: میں ریاست علی اپنی حیات میں مکان مذکور کو اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، دس پر
تقسیم کرنا ہے: (۱) محمد ندیم خان (۲) محمد جاوید خان (۳) محمد شاوریز خان (۴) محمد پرویز
خان (۵) شمیم اختر (۶) پروین اختر (۷) نسرین اختر (۸) رعنا جمال اختر (۹) فرزانہ شاہین
(۱۰) سمیہ خان۔ یہ چار لڑکے اور چھ لڑکیاں ہیں، ان پر تقسیم ہونا ہے، مکان کی زمین کی
پیمائش 86-89 ورگ میٹر ہے، کس کس کو کتنا ملے گا؟

المستفتی: ریاست علی کھوکھران متصل مدینہ مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر دینے میں
لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہے اور موت کے بعد لڑکیوں کو لڑکوں کا آدھا ملتا ہے؛
لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی زندگی میں سب اولاد کے درمیان مذکورہ مکان
تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو چار لڑکے اور چھ لڑکیوں کے درمیان دس حصوں میں تقسیم ہوگا، ہر
لڑکے کو بھی ایک ایک اور ہر لڑکی کو بھی ایک ایک ملے گا۔

لا بأس بتفضیل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا

في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به فسوى بينهم يعطى البنت

کالا بن عند الثانی، وعلیہ الفتویٰ، ولو وهب فی صحته کل المال للولد
جاز وأثم. وتحتہ فی الشامیہ: وعلیہ الفتویٰ أي علی قول أبی یوسف من أن
التنصیف بین الذکر والأنثی أفضل من التثلث الذی هو قول محمد.

(درمختار مع الشامی، کتاب الہبۃ، زکریا ۸ / ۵۰۱، کراچی ۵ / ۶۹۶، البحر الرائق، زکریا

۷ / ۴۹۰، کوئٹہ ۷ / ۲۸۸، قاضی خان، زکریا جدید ۳ / ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۶ /

۲۷۹، الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، زکریا ۱۴ / ۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رصفہ ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸ / ۹۴۴۶)

زندگی میں تقسیم جائیداد کا حکم

سوال [۹۴۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: (۱) زید کے تین بیٹے ہیں، زید کی حیثیت اچھی ہے اور صاحب مال و جائیداد بھی ہے، کیا

زید اپنی جائیداد و مال منقولہ و غیر منقولہ چیزوں میں سے اپنے بچوں میں سے کسی کو کم کسی کو

زیادہ بھی بعض وجوہات کی بنا پر دے سکتا ہے؟ کیا اس طرح دینے کا شرعی حق ہے؟ یا تفریق

کرنے کا زید کو اپنی زندگی میں حق نہیں ہے؟ کیا زندگی میں سب کو برابر دینا پڑے گا؟ اور اگر

وہ بچوں کو برابر کا حق نہیں دیتا تو کیا شرعی اعتبار سے گنہگار رہے گا؟

(۲) اور اگر کوئی نالائق بچہ ہو اور باپ اپنی زندگی ہی میں کل جائیداد و مال کسی مدرسہ یا مسجد کو

دے دے اور اپنے بچوں کو کچھ نہ دے، تو شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا بچوں کے لئے کچھ چھوڑنا

ضروری ہے؟

(۳) وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کی تفصیل لکھیں۔

المستفتی: محمد زکریا قریشی، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو تمام اولاد کو برابر دینا باپ پر لازم ہے، ورنہ باپ گنہگار ہوگا، نیز لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہے۔

فسوی بینہم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعلیہ الفتویٰ، ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (درمختار مع الشامی، کتاب الہیبة، کراچی ۵/۶۹۶، زکریا ۸/۵۰۱، ۵۰۲)

(۲) نافرمان اولاد کو نہ دے کر ثواب کے لئے مساجد و مدارس کو دینا جائز ہے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، قدیم ۲/۳۵۸، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۴۹۷)

اور فرماں بردار اولاد کے لئے چھوڑنا ضروری ہے۔

(۳) وارثین کو چونکہ میراث ملتی ہے؛ اس لئے ان کے لئے وصیت مشروع نہیں رکھی گئی ہے۔

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (سنن الترمذی، باب ماجاء لا وصية لوارث، النسخة الهندیة ۲/۳۲، دارالسلام، رقم: ۲۱۲۰، سنن أبي داؤد، باب في الوصية للوارث، النسخة الهندیة ۲/۳۹۶، دارالسلام، رقم: ۲۸۷۰)

ولا تجوز لوارثه لقلوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (هدایة، کتاب الوصایا، أشرفی دیوبند ۴/۶۵۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ رمضان المبارک ۱۴۴۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۲۳/۳۱)

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۴۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) عزیز احمد نے اپنے چار بیٹوں (۱) رفیق احمد (۲) ظہیر احمد (۳) شریف احمد (۴) ضمیر احمد کے نام اپنا ایک مکان ۸۰ گز کا بذریعہ رجسٹری بیع کر دیا اور یہ چاروں لڑکے اور خود عزیز احمد اسی مکان میں رہتے رہے، پھر ایک لڑکے ظہیر احمد کا انتقال ہو گیا، اب ظہیر نے ورثاء میں ایک لڑکا سمیر احمد اور ایک بیوی نوشادا بیگم کو چھوڑا اور باپ بھی باحیات ہے، تو اب دریافت یہ کرنا ہے کہ ظہیر احمد کے نام والد کی طرف سے جو رجسٹری بیع شدہ مکان کا حصہ ہے وہ ورثاء کو ملے گا یا نہیں، اگر ظہیر احمد کے دیگر بھائی لوگ نہ دیں تو شرعاً ان کی گرفت ہوگی یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

(۲) عزیز احمد نے اپنی پانچ بیٹیوں کو جائیداد میں سے کچھ نہیں دیا تو کیا شرعاً آخرت میں مواخذہ ہوگا یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب زندگی میں جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرنی ہو تو تمام اولاد کے درمیان برابری کرنی چاہئے اور لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہوتا ہے، ہاں البتہ اگر کوئی اولاد نافرمان سرکش ہو تو اس کو نہ دینے کی گنجائش ہے؛ لہذا جن پانچ بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہے اگر وہ سب نافرمان سرکش نہ ہوں تو باپ گنہگار ہوگا۔ اور اگر نافرمان ہونے کی وجہ سے نہیں دیا ہے تو باپ کو اختیار تھا، نیز جن چار بیٹوں کے نام رجسٹری بیع کر دیا ہے اور باقاعدہ ملکیت ان کی طرف منتقل کر دی ہے اور وہ لوگ قبضہ کر کے اس میں رہ رہے ہیں، تو وہ اس کے مالک ہو چکے ہیں؛ لہذا ظہیر احمد کے انتقال کے بعد اس کے حصہ کے حق دار اس کا بیٹا سمیر احمد اور اس کی بیوی نوشادا بیگم ہی ہوں گے، بھائیوں کو نہ دینے کا حق نہ ہوگا۔

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي . (قواعد الفقہ، أشرفی ص: ۱۱۰، رقم: ۲۶۹، شرح المجلة رستم إتحاد ۱/ ۶۲، رقم: ۹۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۹/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۲۳۷)

زندگی میں تقسیم جائیداد کی شرعی حیثیت

سوال [۹۴۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، جب کہ اس کے ورثاء میں ایک بیوی ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں ہیں (جن میں تین غیر شادی شدہ ہیں) اور زید کی وراثت میں ایک ۷۰ کڑی پر مشتمل دو منزلہ مکان، ایک قطعہ زمین، جس کا احاطہ ۳۴ کڑی اور زید کے اپنے ایک مختصر کاروبار کی مختصر پونجی۔ اور زید ہی کا پچھلا کاروبار، کرائے کی ایک دوکان اور ایک لمبی پونجی جو اس کے بیٹے بکر کے قبضہ میں ہے۔ اب زید اس کڑی کے دو منزلہ مکان سے ۱۰ کڑی اپنا حصہ بچا کر بقیہ اپنے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ جائیداد و پونجی موجودہ ورثاء کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگی؟ ہر ایک کا حصہ واضح فرمائیں، کیا بکر جو زید کے پچھلے کاروبار و پونجی پر زبردستی قابض ہے، اس کے عوض میں زید کی مختصر پونجی میں سے اس کا حصہ منہا کیا جاسکتا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے مسائل کو واضح اور بیان فرمائیں۔

المستفتی: رشید احمد بن انور حسن، منوناتھ بھنجن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعاً زید اپنی زندگی میں سارے سرمایہ کا مالک خود ہے اور زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنا اس کے اختیار اور مرضی پر موقوف ہے، وہ نہ چاہے تو اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، پھر بھی زید اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شرعاً اس کا حکم

یہ ہے کہ زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر ملتا ہے؛ لہذا اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے جتنا مناسب سمجھے الگ کر لے، اس کے بعد بقیہ چیزیں ایک لڑکا اور پانچ لڑکیوں کے درمیان چھ حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کو ایک ایک سہام دے سکتے ہیں۔ اور زید ایسا بھی کر سکتا ہے کہ واقعتاً بیٹا اگر سخت نافرمان ہے تو نافرمان بیٹے کو نہ دے کر فرماں بردار اولادوں کو دے دے۔

المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. (البحر الرائق، كتاب الهبة،

زکریا ۷/ ۴۹۰، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰)

وإن وهب ماله كله لو احد جاز قضاء وهو آثم. (البحر الرائق، كتاب الهبة،

زکریا ۷/ ۴۹۰، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، شامی، زکریا ۸/ ۵۰۲، کراچی ۵/ ۶۹۶)

وعلى جواب المتأخرين، لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما

متأدبا، ولا يعطى من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالکتب

العلمية بیروت ۳/ ۴۹۷، قدیم ۲/ ۳۵۸)

ولو كان ولده فاسقا، وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه

عن الميراث، هذا خير من تركه. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة

للسغير، زکریا قدیم ۴/ ۳۹۱، جدید ۴/ ۴۱۶، بزازیة، زکریا جدید ۳/ ۱۲۳، وعلى

هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زکریا ۷/ ۴۹۰، الفتاویٰ

التاتارخانية، زکریا ۱۴/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ صفر ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۲/۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/ ۹۸۹۷)

زندگی میں تقسیم کی دو صورتوں کا بیان

سوال [۹۴۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: میں بنام عبدالوحید اپنی حیات میں اپنی وراثت اپنے ورثاء میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں ورثاء کی تفصیل یہ ہے:

(۱) میں بنام عبدالوحید کا کتنا حصہ ہوگا؟ (۲) تین بیٹے ان کا کتنا حصہ ہوگا؟

(۳) ایک بیٹی اس کا کتنا حصہ ہوگا؟

تفصیل وراثت کی یہ ہے کہ آراضی صحرائی (جنگل کی زمین) بارہ بیگہ تقریباً (بارہ ہزار گز (آراضی سلکنائی) (گھر کی زمین) دو سو بیس گز ہے۔

حضرت والا سے درخواست ہے کہ شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ والسلام

المستفتی: عبدالوحید، ساکن محلہ حکیم پورہ، قصبہ سہ پورہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ اپنی زندگی میں اپنے مال کے تہا مالک و مختار ہیں،

آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ زندگی میں ترکہ اولاد کے درمیان تقسیم کر دیں، آپ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی دو شکلیں ہیں:

(۱) آپ باضابطہ تقسیم کر کے ان کو قبضہ دے کر فوری مالک بنا دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت

میں اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے جتنا مناسب ہو الگ کر لینے کے بعد بقیہ مال کو اولاد کے

درمیان برابر تقسیم کر دیں اور اس میں لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر دینا ضروری ہے؛ لہذا چار حصوں

میں تقسیم کر کے تینوں لڑکوں کو ایک ایک حصہ اور لڑکی کو بھی ایک حصہ دینا چاہئے۔

عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشیر - رضي الله عنهما - وهو

على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أَرْضِي

حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن

أشهدك يا رسول الله! قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال:

فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، قال: فرجع فرد عطيته. (صحيح البخاري،

باب الإشهاد في الهبة، النسخة الهندية ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۷)

يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة،

زكريا ۸/ ۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶)

يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، وعليه الفتوى. (هندية، الباب السادس

في الهبة للصغير، زكريا جديد ۴/ ۴۱۶، قديم ۴/ ۳۹۱، قاضي خان زكريا جديد ۳/

۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹)

وعند أبي يوسف بينهما سواء هو المختار لورود الآثار. (خلاصة

الفتاوى، كتاب الهبة، أشرفيه ديوبند ۴/ ۴۰۰، البحر الرائق، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰)

(۲) آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد جائیداد کی تقسیم میں اولاد کے درمیان کوئی

اختلاف نہ ہو اور ہر ایک کو اس کا حق شرعی طور پر مل جائے؛ اس لئے زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے

ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی جائیداد سات حصوں میں تقسیم ہوگی، دو حصے لڑکوں کے لئے

اور ایک حصہ لڑکی کے لئے، ان حصوں کے حساب سے تقسیم کر کے چاروں کے لئے الگ الگ

جائیداد نامزد کر دی جائے اور ایک وصیت نامہ لکھ دیا جائے کہ میرے مرنے کے بعد چاروں

اولادوں کو نامزد کی گئی جائیداد مل جائے گی، اس میں کوئی اختلاف بھی نہ ہوگا، تو اس طرح

زندگی میں مرنے کے بعد کے واسطے سے تقسیم کر دینے کی گنجائش ہے۔

وأما إذا أراد الرجل أن يقسم أملاكه فيما بين أولاده في حياته، لئلا

يقع بينهم نزاع بعد موته؛ فإنه وإن كان هبة في الاصطلاح الفقهي، ولكنه

في الحقيقة والمقصود استعجال لما يكون بعد الموت، وحينئذ ينبغي أن

يكون سبيله سبيل الميراث. (تكملة فتح الملهم، كتاب الهبات، مذهب الجمهور،

التسوية بين الذكر والأنتى، اشرفيه ديوبند ۲/ ۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۴/۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۸۷/۴۰)

زندگی میں جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟

سوال [۹۴۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عبدالشکور صاحب موجودہ وقت میں ایک مکان کے مالک ہیں، جس کے پورب پچھم ۳۵ فٹ اور اتر دکھن ۷۰ فٹ ہے، بیچ میں پورب پچھم ۳۷ فٹ ہے، اس طرح ۲۴۵۰ ر/۲۴۵۰ ورگ فٹ جگہ ہے۔ عبدالشکور کی پہلی بیوی سے دو لڑکے ہیں، دوسری بیوی سے ۶ لڑکے ۴ ر/۴ لڑکیاں ہیں، ماں باپ حیات ہیں اور عبدالشکور اور اس کی بیوی حیات ہیں، اس طرح ۸ لڑکے ۴ لڑکیاں ہیں، اس میں لڑکوں کو کتنا کتنا ورگ فٹ زمین ملے گی اور لڑکیوں کو کتنے کتنے ورگ فٹ زمین ملے گی؟

(۱) کیا والد کی حیات میں بچے باپ سے بٹوارہ کر سکتے ہیں؟

(۲) پہلی بیوی کے لڑکے ان کی شادی والد نے کر دی ہے، دوسری بیوی سے چھ لڑکے ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی ہے، ۵ لڑکوں کی شادی کرنی ہے، والد کی عمر ۶۵ برس کی ہے اور والدہ بھی ۶۰ برس کی ہیں، مکان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ والد والدہ اپنی گذر اوقات چلا سکیں یا بیماری وغیرہ میں خرچ کر سکیں، دوسری بیوی کا ایک لڑکا مدد کرتا ہے، جس سے یہ خرچ پورے ہوتے ہیں، پہلی بیوی کے دونوں بچے ماں باپ سے علیحدہ رہتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، سبھی باتوں کا خیال کرتے ہوئے جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: عبدالشکور محلہ گورھائی پروریا، ضلع اٹاواہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عبدالشکور از خود زندہ ہے اور اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے لئے جتنی چاہے روک لے اور اپنی بیوی کو جتنا چاہے دے دے، اس کے بعد بقیہ جائیداد تمام بچوں کے درمیان برابر کر کے تقسیم کر دے۔ اور زندگی میں تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا چاہئے۔ اور یہ اختیار ہے کہ جو لڑکا خدمت میں لگا ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ دے۔

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند أبي يوسف أن يعطيهم على السواء، وإن كان بعض أولاده مشغلا بالعلم دون الكسب لابس بأن يفضله على غيره. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۹۷، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، بزازیة، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، البحر الرائق، كوثه ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷/۲/۱۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۶۶۶)

زندگی میں تقسیم جائیداد کا شرعی طریقہ

سوال [۹۴۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں احسان ایک ۲۰۸ گزر جائیداد کا تہاما لک ہوں، بحالت موجودہ میرے وارثان میں چار پسران: انور احسان، سرور احسان، یاور احسان، احمد احسان اور ایک دختر مسماة حنا کوثر حیات ہیں۔ اور میں اپنے جملہ پسران اور دختر کی شادی کے فرائض انجام دے چکا ہوں، میں احسان الہی اپنی حیات میں اپنی جملہ جائیداد کو اپنے پسران اور دختر کو دینا چاہتا ہوں، بموجب فرائض شرعی کس کو کتنا حصہ دیا جائے بتانے کی زحمت فرمائیں۔ میری بیوی شمس النساء کا انتقال ہو چکا ہے، زمین میں نے خریدی تھی، انور احسان و سرور احسان نے اپنے روپیوں سے مکان کی تعمیر کو انجام دیا، اس مکان کی تعمیر کرانے میں یاور احسان اور احمد احسان و دختر حنا کوثر کا کوئی پیسہ نہیں لگا؛ کیوں کہ یہ تینوں لوگ چھوٹے تھے، اور پڑھ رہے تھے، ان تینوں لوگوں کا اس مکان میں حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ مکان تعمیر کے وقت سب بیٹے والد کے ساتھ ہی ایک فیملی میں رہ کر کھانا پینا ساتھ کرتے تھے۔

المستفتی: احسان الہی ولد عبد الواحد مرحوم ہر تھلہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر آپ اپنی حیات میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اور جن دو لڑکوں سرور احسان اور انور احسان کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ رہ کر جو پیسہ کمایا ہے وہ پیسہ شرعی طور پر آپ ہی کی ملکیت ہے، پھر آپ ہی کی سرپرستی میں رہ کر آپ ہی کی زمین پر بچوں کی محنت کا پیسہ لگایا گیا ہے، اس زمین پر جو مکان بنا ہے وہ مکان بھی شرعی طور پر آپ ہی کی ملکیت ہے؛ اس لئے اگر آپ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو سب بچوں کو برابر دینا لازم ہوگا۔ اور اگر آپ کی موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے تو ۹ حصوں میں تقسیم ہو کر ہر ایک لڑکے کو دو دو اور لڑکی کو ایک ملے گا۔

الأب وابنه يكتسبان في صناعة واحدة ولم يكن لهما شيء،
فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معيناً له. (شامی، کتاب
الشركة، مطلب اجتماع في دار واحدة واكتسب، زكريا ۶/۵۰۲، كراچی ۴/۳۲۵، ہندیہ،
زكريا قديم ۲/۳۲۹، جديد ۲/۳۳۲)

وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: "أنت ومالك لأبيك"، أضاف
مال الابن إلى الأب بلام التمليك، وظاهره يقتضى أن يكون للأب في مال
ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يشبث له حق
التمليك عند الحاجة. (بدائع الصنائع، كتاب النفقة، فصل في نفقة الأقارب، زكريا
۳/۴۳۹-۴۴۰، كراچی ۴/۳۰، مكتبة الباز، مكة المكرمة ۵/۶۸۱)

يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، و عليه الفتوى. (ہندیہ، الباب السادس
في الهبة للصغير، زكريا جديد ۴/۴۱۶، قديم ۴/۳۹۱، قاضي خان زكريا جديد ۳/
۱۹۴، و على هامش الهندية ۳/۲۷۹)

يعطى البنت كالابن عند الثاني، و عليه الفتوى. (شامی، کتاب الهبة،
زكريا ۸/۵۰۲، كراچی ۵/۶۹۶)

يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، بزازیة، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷)

قال الطيبي: فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل

بعضهم على بعض. (شرح الطيبي، البيوع، باب الهبة، الفصل الأول، كراچی ۶/ ۱۸۱، تحت رقم الحديث: ۳۰۱۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۵/۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/ ۱۰۴۱)

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ

سوال [۹۴۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے پاس دولڑکے اور چند لڑکیاں ہیں، باپ نے اپنے بڑے لڑکے کو اپنی ذاتی رقم تجارت کی غرض سے سپرد کی، اس تجارت کے ذریعہ کچھ نفع حاصل ہوا، جس سے زید نے کچھ جائیدادیں خریدی، تو پوچھنا یہ ہے کہ زید اپنی زندگی میں وہ جائیداد صرف دونوں لڑکوں کو رجسٹری کر سکتا ہے یا لڑکے کے ساتھ لڑکیوں کو بھی دینا ضروری ہوگا؟ جب کہ باپ اور لڑکے ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں اور کھانا پینا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔

المستفتی: محمد شجاع الدین القاسمی، ۲۲ پرگنہ، مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں زید نے اپنے بڑے لڑکے کے ذریعہ تجارت کر کے جو کچھ جائیداد خریدی ہے، وہ زید ہی کی ملکیت ہے اور اب زید اپنی زندگی میں وہ جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس پر لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی لڑکوں

کے برابر حصہ دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، تو لڑکوں کو لڑکیوں سے دو گنا ملے گا۔

لما في القنية: الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة، ولم يكن لهما شيء، فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معينا له، ألا ترى! لو غرس شجرة تكون للأب. (شامي، كتاب الشركة، مطلب اجتماعا في دار واحدة واكتسبا زكريا ۶/ ۵۰۲، کراچی ۴/ ۳۲۵، ہندیۃ، الباب الرابع، جدید ۲/ ۳۳۲، قدیم ۲/ ۳۲۹)

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض إن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن، وعليه الفتوى. (ہندیۃ، کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، زکریا قدیم ۴/ ۳۹۱، زکریا جدید ۴/ ۱۶۶، قاضی خان، فصل فی ہبۃ الوالد لولدہ، زکریا جدید ۳/ ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/ ۲۷۹)

المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الہبۃ. (البحر الرائق، کتاب الہبۃ، زکریا ۷/ ۹۰، خلاصۃ الفتاویٰ أشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۲ صفر ۱۴۳۵ھ
۱۴ صفر ۱۴۳۵ھ

ایضاً

سوال [۹۴۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے والد صاحب تقریباً ایک لاکھ ۹۹ ہزار نقد روپیہ اور ایک مکان کے مالک ہیں، جس کی قیمت تقریباً ساڑھے تین لاکھ ہے، ہم تین بھائی ہیں اور والد صاحب نے ایک لڑکی لے کر پالی تھی، اس طرح تین بھائی اور ایک بہن ہے۔ والد صاحب ابھی حیات ہیں، میں والد صاحب سے کھانے پینے اور کاروبار میں الگ ہوں؛ لیکن والد صاحب کے ساتھ ہی مکان میں رہتا ہوں، معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ مال اور جائیداد سے میرا کتنا حصہ شرعاً نکلتا

ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتی: محمد عارف اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں جب تک آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، تمام مال وجائیداد روپے وغیرہ کے مالک آپ کے والد ہیں، ان کی زندگی میں کسی کو بھی حق مانگنے کا اختیار نہیں، ہاں اگر زندگی ہی میں روپے وغیرہ تقسیم کرنا چاہیں تو تمام بیٹوں کو برابر دینا چاہئے، آپ کے والد صاحب نے جس لڑکی کو لے کر لے پا لک بنا یا ہے، شرعاً اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا؛ البتہ آپ کے والد صاحب اپنی زندگی میں اس کو جو کچھ دینا چاہیں تو اس کا اختیار ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۱۰/۵۲۰، جدید زکریا ۱۰/۶۵۶، معارف القرآن ۷/۸۴)

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . [الأحزاب: ۴]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطيّة.

(صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد ۱/ ۳۵۲، رقم الباب: ۱۲)

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند أبي يوسف أن

يعطيهم على السواء. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، قديم ۲/ ۳۵۸، جديد دار الكتب العليمة

بيروت ۳/ ۴۹۷، البحر الرائق، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/ ۷۷۸)

ایضاً

سوال [۹۴۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: سائل کے پانچ لڑکے ہیں اور تین لڑکیاں ہیں، سائل نے اپنے مکان کو بنیاد

ہی سے توڑ کر بنایا ہے، کچھ زمین خرید کر اس میں بھی بنایا ہے، ہر طرح کے بنانے اور خریداری میں سائل کے کسی لڑکے نے زیادہ روپیہ لگایا ہے، کسی نے کم روپیہ لگایا ہے، کسی نے بالکل بھی نہیں لگایا ہے، تو سائل اپنی زندگی میں کس طرح تقسیم کر سکتا ہے، تعمیر کے وقت سب لڑکے باپ کی فیملی میں رہا کرتے تھے؟ اس طرح اس مکان کی تعمیر و خریداری میں باپ نے بھی اپنی رقم لگائی ہے۔

المستفتی: ایم شریف وارثی، ولد کلن، مغل پورہ سقہ اول زدامام باڑہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زمین کی خریداری اور اس کی تعمیر کے زمانہ میں جب سائل کے سب لڑکے سائل ہی کی فیملی میں تھے، تو سب کی کمائی اور سائل کی خود کی کمائی سب شرعی طور پر سائل ہی کی ملکیت ہے۔ اور جو زمین خریدی گئی وہ بھی سائل کی ملکیت ہوگی اور اس پر تعمیر کی گئی ہے وہ تعمیر بھی سائل ہی کی ملکیت میں شمار ہوگی، اب اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، اب اگر سائل اپنی اولاد کے درمیان زمین یا تعمیر شدہ عمارت یا روپیہ پیسہ جو کچھ بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سائل کے ذمہ یہ لازم ہے کہ سب بچوں کے درمیان برابر تقسیم کر دے، جس نے خریداری کے وقت پیسہ لگایا ہے اس کو جتنا دیا جائے اتنا ہی اس کو بھی دینا ضروری ہے جس کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگ پایا اور جو بچے اس زمانہ میں کمانے کے لائق نہیں تھے، ان کو بھی کمانے والوں کے برابر دینا ضروری ہے۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلته ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه. (بخاري شريف، كتاب الهبة، باب الهبة للولد

الخ ۱ / ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۴، ف: ۲۵۸۶)

الأب و ابنه يكتسبان في صنعة واحدة، ولم يكن لهما شيء، فالكسب

كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معيناً له، ألا ترى! لو غرس شجرة تكون للأب. (شامي، كتاب الشركة، فصل في الشركة، زكريا ۶/۵۰۲، كراچی ۴/۳۲۵)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۳/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۲۸۸)

زندگی میں جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟

سوال [۹۴۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: سائل کے پاس ۶۰ گز زمین ہے، میرے تین لڑکے ہیں اور تین لڑکیاں ہیں، ان سب کی شادی کر دی ہے، اور میاں بیوی ہم دونوں بھی حیات ہیں، تو کس کے حصہ میں کتنی زمین آئے گی؟

المستفتی: سعید احمد قریشی اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کی زندگی میں ساری جائیداد کے مالک آپ از خود ہیں، اس میں کسی کا شرعی حق نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کو آپ کی زندگی میں مطالبہ کرنے کا حق ہے، ہاں البتہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے وارثین کا حق متعلق ہوگا؛ لہذا آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے کہ آپ اپنی ملکیت کی چیز میں ہوش و حواس کی حالت میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي ۱/۷)

إن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي،

كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال، زكريا ۷/۱۰، ۲۳۵، كراچی ۴/۵۰۲، ۵/۵۰،

الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۲۹)

لیس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. (شرح المجلة رستم،
مکتبہ اتحاد ۱/ ۶۲، رقم: ۹۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۳/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۶۴۵)

جھگڑے کے خوف سے زندگی میں میراث تقسیم کرنا

سوال [۹۴۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عبدالرشید اس ڈر سے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں میراث کی تقسیم باعث انتشار ہوگی؛ اس لئے وہ قرآن کے حکم کے مطابق میراث کو اپنی زندگی ہی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا زندگی میں تقسیم میراث کی وجہ سے بیٹی اور بیٹے کا حق برابر ہو جاتا ہے یا پھر قرآن کے حکم کے مطابق بیٹے کو بیٹی سے دو گنا ہی ملے گا؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق ہلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قرآن کا حکم زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا نہیں ہے۔ آں جناب نے بار بار قرآن کے حکم کے مطابق تقسیم کی بات لکھی ہے، ایسا ہے نہیں؛ بلکہ قرآن کریم میں مرنے کے بعد ہی مرحوم کی میراث تقسیم کرنے کا حکم مذکور ہے۔ اور مرنے سے پہلے کسی کی جائیداد اور ملکیت میراث نہیں بنا کرتی، ہاں البتہ اگر زندگی میں اولاد کو دے کر فارغ البال ہونا چاہتا ہے، تو یہ دینا میراث نہیں ہے؛ بلکہ ہبہ ہے اور ہبہ میں اولاد کے درمیان برابری کا حکم ہے۔ اور اس میں بیٹے بیٹی دونوں قسم کی اولادوں کے ساتھ یکسانیت کا حکم ہے، اگر یکسانیت نہ کی جائے تو باپ گناہ گار ہوگا۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية.

(صحیح البخاری، کتاب الہبۃ، باب الہبۃ للولد ۱/ ۳۵۲، رقم الباب: ۱۲)

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/ ۴۹۰، كراچی ۷/ ۲۸۸)

وفي السراجية: وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند

أبي يوسف أن يعطيهم على السواء. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، قديم ۲/ ۳۵۸،

جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۹۷)

اور اگر کوئی شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اولاد کو مالک بنانا مقصود نہیں ہے؛ بلکہ مرنے کے بعد میراث کے جھگڑے سے بچانا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں شرعی میراث کے مطابق تقسیم نامہ بنا کر شرعی گواہوں کے ساتھ وصیت نامہ تحریر کر دیں اور مرنے کے بعد اس وصیت نامہ کے مطابق متروکہ میراث وارثین کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْأُنثِيَيْنِ. [سورة النساء: ۱۱]

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۷/۱۴۳۱ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/رجب ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۳۹/۳۹)

زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ

سوال [۹۴۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: عمر کے نہ والدین ہیں اور نہ کوئی بہن بھائی، اس کی بیوی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اس کے دوشادہ شدہ لڑکیاں اور دوشادہ شدہ لڑکے ہیں، عمر کی غیر منقولہ جائیداد میں ایک فلیٹ ہے جو نئی الحال خالی ہے اور ایک مکان ہے جس میں وہ اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، عمر چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں فلیٹ کو فروخت کر دوں اور پھر رہائشی مکان دو حصے کر کے بذریعہ قرضہ اندازی دونوں لڑکوں کے نام الگ الگ کر دوں اور دونوں کو کچھ رقم دے دوں کہ وہ اپنا اپنا حصہ تعمیر کر کے قریب قریب، لیکن الگ الگ رہ سکیں، میں سوچتا ہوں کہ دونوں

لڑکیوں کو بھی تقریباً مساوی رقم دے دوں (ان کے حالات کے پیش نظر ابھی یہ طے نہیں کر پایا کہ فوراً دے دوں یا یہ رقم ان کے نام سے محفوظ کر دوں) باقی منقولہ ورنہ کے بارے میں لڑکوں کی نیک نیتی اور دینی مزاج کے سبب پوری امید ہے کہ میرے انتقال کے بعد شرعی تقسیم کریں گے۔ (انشاء اللہ)

حضرت والا سے معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا غیر منقولہ جائیداد کی مذکورہ تقسیم صحیح ہے؟ اگر یہ تقسیم صحیح نہیں ہے تو صحیح طریقہ تحریر فرما کر رہنمائی فرمائیں۔

المستفتی: ماسٹر افتخار احمد، چوہان بانگر، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غیر منقولہ جائیداد کی تقسیم صحیح نہیں ہے؛ اس لئے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب زندگی میں بعض اولاد کو کچھ دینا ہے، تو سبھی کو برابر درجہ میں قرار دے کر سب کو دینے کا حکم ہے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینے کا حکم ہے، اگر غیر منقولہ جائیداد لڑکوں کو دیتے ہیں اور لڑکیوں کو روپیہ پیسہ کی شکل میں دینا ہے تو جس وقت لڑکوں کو دیا جائے اسی وقت لڑکیوں کو روپیہ پیسہ دے دینا چاہئے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية.

(صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد ۱ / ۳۵۲، رقم الباب: ۱۲)

في الدر المختار: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة..... وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة، كراچی ۵ / ۶۹۶، زكريا

۸ / ۵۰۱، ۵۰۲، عالمگیری جدید زكريا ۴ / ۴۱۶، قدیم ۴ / ۳۹۱)

اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد شرعی تقسیم صحیح طور پر ہو جائے، تو چھ حصے کر کے لڑکوں کو دو دو اور لڑکیوں کو ایک ایک ملے گا، تو ایسی صورت میں غیر منقولہ جائیداد کو

لڑکوں کے نام نہ کریں؛ بلکہ ایک تفصیلی وصیت نامہ لکھ دیں کہ میری موت کے بعد میری منقولہ وغیر منقولہ جائیداد چھ حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ لڑکوں کو دو دو اور لڑکیوں کو ایک ایک سہام ملیں گے۔ اور جو غیر منقولہ جائیداد مکان وغیرہ لینا چاہیں گے تو وہ دوسروں کے حصہ کی قیمت اس میں سے مجری کر کے صحیح طور پر ادا کر دیں گے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثٰىيْنَ . [سورة النساء: ۱۱]

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ شعبان ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۳۹/۳۹)

زندگی میں مکان تقسیم کرنا

سوال [۹۴۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں اور میری شریک حیات ایک قطعہ مکان رقبہ دو سو گز مربع عمارتی واقع محلہ طباقیان کو اپنی اولادوں چھ لڑکیاں اور چار لڑکے جو سب بقید حیات ہیں اپنی حیات میں ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جواب سے نوازیں کس طرح تقسیم کریں؟

المستفتی: سید حامد علی ولد محمد علی طباقیان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زندگی میں ہبہ کر کے قبضہ کر دینا چاہتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہے، ہاں البتہ اگر اس طرح کرنا چاہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بچوں میں اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو اور مرنے کے بعد جو شرعی حصہ بن سکتا ہے، اس کے بارے میں بطور وصیت کی جاتی ہے، تو لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلہ میں ڈبل دیا جائے گا۔ اور اس کی وصیت کر دی جائے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہیں گے وہی مالک رہیں گے اور

ماں باپ کی موت کے بعد اولادیں اپنے اپنے طے شدہ حصوں کے مالک ہو جائیں گی۔

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ . [سورة النساء: ۱۱]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم . (شعب الإيمان،

دارالکتب العلمیۃ بیروت ۶/ ۴۰۸، رقم: ۸۶۹۱)

يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، وعليه الفتوى وهو المختار. (شامي،

ہندیۃ، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۱۶، قاضي خان

زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهنديۃ ۳/ ۲۷۹)

المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. (البحر الرائق، كتاب الهبة،

زكريا ۷/ ۴۹۰، كوثه ۷/ ۲۸۸، خلاصة الفتاوى أشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰)

﴿أو إصلاح بين الناس﴾ والمراد من الإصلاح بين الناس: التأليف

بينهم بالمؤدة إذ اتفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع

الشريف. الخ (روح المعاني، زكريا ۴/ ۲۱۲)

والصلح خير: أي من الفرقة، وسوء العشرة، أو من الخصومة. (روح

المعاني، زكريا ۴/ ۲۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۱۲/۲۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۳ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۶۹/۳۹)

زندگی میں ہی والدہ کا مکان تقسیم کرنا

سوال [۹۴۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ایک مکان آراضی تقریباً ۵۲ گز مربع، تعمیر شدہ ہے جس کی موجودہ قیمت لگ بھگ آٹھ

لاکھ روپے ہے، ملکیت ہماری والدہ زبیدہ خاتون جو کہ بقید حیات ہیں اور اس مکان کی بلا

شرکت غیر مالک ہیں، وارثان حسب ذیل ہیں: محمد اسحاق شوہر، اقبال فاطمہ، حسین فاطمہ، شمیم فاطمہ، نسیم فاطمہ لڑکیاں، محمد سلیم خان، محمد عارف خان لڑکے ساڑھ لڑکی، کوثر لڑکی، ہماری والدہ زبیدہ خاتون اپنی حیات میں ہی ہر ایک کا حصہ دینا چاہتی ہیں، شریعت کی رو سے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟

المستفتی: حکیم محمد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مکان زندگی میں آپ کی والدہ کی ملکیت ہے، اس میں کسی کا حق نہیں اور ان کی زندگی میں کسی کو اس میں سے کسی جزو کے مطالبہ کا حق نہیں؛ البتہ کسی کے دباؤ کے بغیر تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو شوہر کے لئے جتنا حصہ نکالنا چاہیں نکال لیں اور بابقیہ لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیں۔

وفي الخباية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد يسوى بينهم يعطى البنت كالأبن عند الثاني، وعليه الفتوى. قوله عليه الفتوى: أي على قول أبي يوسف من أن التخصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد. (الدرالمختار، كتاب الهبة، كراچی ۵/ ۶۹۶، زکریا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۶/۱۴۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/ ۸۱۱۳)

زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے ہبہ کرنا

سوال [۹۴۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حاجی خلیل احمد صاحب نے دو شادیاں کیں، پہلی بیوی کے بطن سے دو لڑکے: (۱)

جمیل احمد (۲) عزیز احمد۔ پہلی بیوی کا انتقال حاجی خلیل احمد کی حیات میں ہی ہو گیا، پھر دوسری شادی بسم اللہ بیگم سے کی اس کے لطن سے ایک لڑکا حمید احمد ہے۔

(۲) ابھی حاجی خلیل احمد حیات ہی تھے کہ انہوں نے اپنی حیات میں تینوں لڑکوں اور اپنی بیوی بسم اللہ بیگم کو اپنے نئی بستی کے مکان کے شرعاً چار حصے کر کے دے دئے تھے، جن پر حاجی خلیل احمد کی حیات ہی میں تینوں لڑکوں اور بسم اللہ بیگم نے قبضہ کر لیا تھا، حاجی خلیل احمد کی یہ تقسیم اپنی حیات ہی میں صحیح ہوئی یا نہیں؟

(۳) حمید احمد نے اپنا حصہ اپنی بیوی شہناز بیگم کے نام ہبہ کر دیا اور قبضہ بھی دلوادیا تو یہ ہبہ درست ہو یا نہیں؟

(۴) بسم اللہ بیگم کا انتقال حمید احمد کے اپنے مکان کا ہبہ اپنی بیوی شہناز بیگم کے نام کرنے کے بعد ہو گیا، تو بسم اللہ بیگم کے ورثاء میں ان کا ایک حقیقی لڑکا حمید احمد ہے، تو کیا حمید احمد ہی بسم اللہ بیگم کے چھوڑے گئے حصہ کے صحیح وارث ہوئے یا نہیں؟

المستفتیہ: شہناز بیگم، نئی بستی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱-۲) حاجی خلیل احمد صاحب کی اپنی زندگی میں مذکورہ تقسیم درست ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

(۳) حمید احمد کا اپنی بیوی شہناز بیگم کو اپنے حصے کا ہبہ درست ہے۔

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامی، کتاب الهبة، زکریا ۸/۴۹۳، کراچی

۵/۶۹۰، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/۳۷۷، جدید ۴/۳۹۹، مختصر القدوری، ص: ۱۳۵،

هدایة، اشرفی ۳/۲۸۳)

(۴) بسم اللہ بیگم کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء میں چونکہ صرف حمید احمد ہے؛ اس لئے ان کے کل ترکہ کا حق دار شرعاً حمید احمد ہے۔

ثم العصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأخذ ما
أبقتها أصحاب الفرائض، وعند الأفراد يحرز جميع المال. (سراجی/ ۴) فقط
والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۱۴۲۱/۱۱/۲ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۹۲۷/۳۵)

۱۴۲۱/۱۱/۲ھ

زندگی میں اپنی جائیداد متعلقین میں تقسیم کرنا

سوال [۹۴۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اگر کوئی آدمی اپنی ملکیت مثلاً سونا چاندی زمین وغیرہ کو اپنے متعلقین مثلاً بیٹا، پوتا، پوتی، بہن وغیرہ کو اپنی حیات کے اندر ہی دینا چاہے، تو کیا سب کو برابر برابر دیا جائے گا یا کچھ کمی بیشی کے ساتھ جیسا کہ وراثت میں وراثت کے حصے متعین ہیں؟ تو کیا مذکورہ صورت میں بھی وراثت کے مطابق ہی مال تقسیم کیا جائے گا؟ نیز حالت حیات میں اصحاب الفرائض کے علاوہ کو بھی مال دیا جاسکتا ہے؟ اگر دیا جاسکتا ہے تو کتنا کتنا اور حالت صحت اور مرض میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟

المستفتی: حافظ فرحت صاحب، استاذ مدرسہ تجوید القرآن سیانہ بلند شہر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہے، تو اولاد میں برابر ضروری ہے، جتنا لڑکے کو دے اتنا ہی لڑکی کو دے، یہاں لڑکے کو لڑکی سے دو گنا نہیں ملے گا، جیسا کہ وراثت میں ملتا ہے۔

سوی بینہم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، وعليه الفتوى. (ہندیہ،

کتاب الہبۃ، الباب السادس في الہبۃ للصغیر، زکریا قدیم ۴/ ۳۹۱، جدید ۴/ ۱۶، ۴۱،

قاضی خان جدید زکریا ۳/ ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۳/ ۲۷۹ البحر الرائق، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زکریا ۷/ ۴۹۰، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/ ۴۹۷، مصری قدیم ۲/ ۳۵۸)

ہاں البتہ بھائی بہنوں میں سے جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، ان کو دینے میں آپ کو اختیار ہے، برابر ہی کے ساتھ دیں یا کمی بیشی کے ساتھ، آپ اپنے مال کے مالک ہیں۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/ ۷)

لیکن حالت مرض میں اصحاب فرائض کے علاوہ کو تہائی مال سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے۔

وهب المريض شيئاً لا يخرج من الثلث، يرد الموهوب له ما زاد على

الثلث بلا خيار. (بزازية، کتاب الہبہ، نوع في هبة المريض وغيره، زکریا جدید

۳/ ۱۲۶، وعلی ہامش الہندیہ ۶/ ۲۴۰)

هبة المريض وصدقته لم يجز إلا من ثلثه. (جامع الفصولین ۲/ ۱۸۶)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۶۵۹)

زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم ترکہ

سوال [۹۴۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے خسر جناب عزیز الرحمن سیفی کے سات لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں۔ عزیز الرحمن کی ملکیت کل اس طرح ہے، تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ عزیز الرحمن صاحب اور ان کی بیوی بھی حیات ہیں، اپنی زندگی میں شریعت پر تقسیم چاہتے ہیں:

- (۱) ایک مکان سرائے شیخ محمود میں ہے، آراضی تین سو گز 10,00,000/-
- (۲) چار مکان محلّہ گویاں باغ میں ہیں آراضی ۳۲۰ گز 3,00,000/-
- (۳) دوکانیں محلّہ گنج قصابی میں ہیں، آراضی ۹۵ گز 2,00,000/-
- (۴) ایک دوکان بازار گنج کی ابھی فروخت ہوئی قیمت وصول ہوئی 1,50,000/-
- (۵) دوکانیں بازار گنج میں ہیں 6,00,000/-
- (۶) کرولہ پر ۶۰ گز کا ایک پلاٹ 30,000/-
- (۷) بینک میں جمع شدہ رقم 5,00,000/-
- (۸) ایک کلو سونا موجود ہے 4,00,000/-
- دو کلو چاندی بھی موجود ہے 31,80,000/-
- مذکورہ رقوم تقسیم مابین مذکورہ بالاسات لڑکے اور تین لڑکیوں کے شریعت مطہرہ کے اعتبار سے سہام نکالنے کی زحمت فرمائیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: اشتیاق حسین، سرائے شیخ محمود، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر جناب عزیز الرحمن صاحب سیفی اپنی زندگی ہی میں اولاد کے درمیان دولت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اولاً اپنے اختیار سے بیوی کو جو دینا چاہتے ہیں دے کر بقیہ ساری جائیداد نقد رقم، سونا چاندی کو دس سہام میں برابر تقسیم کر کے ہر ایک لڑکا لڑکی کو ایک ایک دے دیں۔ اور شرعاً زندگی میں اولاد کے درمیان دولت تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا ضروری ہے، ورنہ باپ گنہگار ہوتا ہے۔

سوی بینہم يعطی الابنة مثل ما يعطی للابن. قوله: رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكون آثما فيما صنع. (قاضی خان کتاب الہیة، فصل في ہیة الوالد لولده وھیة الصغیر، زکریا ۳ / ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیة،

زکریا ۳/ ۲۷۹، شامی، زکریا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، کراچی ۵/ ۶۹۶، ہندیہ، زکریا قدیم
۳/ ۴۹۷، مصری قدیم ۲/ ۳۵۸، بزازیہ، زکریا جدید ۳/ ۲۳، ۱، وعلی ہامش الہندیہ
۶/ ۲۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ذیقعدہ ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/ ۲۰۲۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/ ۱۱/ ۱۴۱۰ھ

زندگی میں اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم

سوال [۹۴۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) شمس العارفین اپنی زندگی میں اپنا حصہ اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ورثاء میں ایک بیوی پھول جہاں، چار لڑکے: (۱) محمد شعیب (۲) محمد جنید (۳) محمد زبیر (۴) محمد سہیل۔ دو لڑکیاں: (۱) سابقہ (۲) صادقہ۔ دریافت یہ ہے کہ کس کے حصہ میں کتنی زمین آئے گی؟ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد جنید چکر کی ملک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شمس العارفین اگر اپنی زندگی میں جائیداد اور ترکہ اپنی اولاد اور بیوی کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اپنی بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے دے دے، اس کے بعد بقیہ تمام سرمایہ چار لڑکے اور دو لڑکیوں کے درمیان برابر کر کے تقسیم کر دے؛ لہذا چھ سہام میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو ایک ایک دے دے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا ضروری ہے؛ اس لئے کہ زندگی میں تقسیم کرنے میں باپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دے۔

یکرہ تفضیل بعض الأولاد علی البعض فی الہبۃ حالۃ الصحۃ إلا

لزیادۃ فضل لہ فی الدین، وإن وہب مالہ کلہ لو احد جاز قضاء، وهو آثم

—إلى قوله— وفي الخلاصة، المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. (البحر الرائق، كتاب الهبة، كوثنه ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰، شامي، كراچی ۵/ ۶۹۶،

زكريا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۹۷)

اور اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وارثین کو جتنا ملنا ہے وہ زندگی میں متعین کر دے، مگر ملکیت اپنی رہے گی، تو ایسی صورت میں شمس العارفین کا کل ترکہ مرنے کے بعد اس نقشہ کے مطابق تقسیم ہوگا جو ذیل میں درج ہے:

شمس العارفین						
میر						
بیوی	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکی	لڑکی
۱۰	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۷	۷

شمس العارفین کا کل ترکہ اسی سهام میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو اتنا ملے گا جو اس کے نیچے درج ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۵/۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۶۲۵)

زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم

سوال [۹۴۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شیخ محمد اسحاق اپنی زندگی میں اپنا ایک مکان جو فروخت ہو چکا ہے، اس کی قیمت ۳۹ لاکھ ۲۱ ہزار روپے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا بمبئی میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور ان کا ایک مکان بمبئی میں تھا، مرحوم بیٹے کے بیوی بچوں کو بمبئی کا مکان دے دیا، اب جس مکان کی قیمت تقسیم کرنی ہے وہ

مکان بیچ مڑی میں ہے، دوسرا بیٹا زندہ ہے، ان کا نام شیخ محمد ناصر ہے۔ اور دولڑکیاں ہیں: سلطانہ بیگم اور رخسانہ قمر۔ اور شیخ محمد اسحاق کی بیوی کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، اب ان تین اولادوں کے درمیان بیچ مڑی کے مکان کی قیمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کس کو کتنا کتنا ملنا چاہئے؟ شریعت کی رو سے حکم شرعی سے آگاہ فرمائیں۔

المستفتی: رخسانہ قمر اہلیہ قمر شاہد، محلہ لال مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں شیخ محمد اسحاق صاحب اپنی تمام جائیداد اور مال کے خود مالک ہیں، وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی قیمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو جتنا مناسب سمجھیں اپنے لئے الگ کر لیں، پھر باقیہ مال ایک لڑکے اور دولڑکیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیں؛ لہذا باقیہ کو اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو برابر تین حصوں میں تقسیم کر کے لڑکے کو ایک حصہ اور دونوں لڑکیوں کو ایک ایک حصہ ملے گا، یاد رکھیں کہ یہ تقسیم زندگی میں اولاد کو ہبہ کرنے کی شکل میں ہے۔ اور موت کے بعد جو میراث تقسیم ہوتی ہے، اس کا حکم دوسرا ہے، اس میں بجائے تین حصے کے چار حصے ہوں گے، دو حصے لڑکے کو اور ایک ایک حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔

والمالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك.

(بیضاوی، کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/ ۷)

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة.

(البحر الرائق، کتاب الهبة، زکریا ۷/ ۴۹۰، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰)

وإن قصده فسوی بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى.

(درمختار، کتاب الهبة، زکریا ۸/ ۵۰۱، کوئٹہ ۵/ ۶۹۶، قاضیخان زکریا جدید

۳/ ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/ ۲۷۹)

سوی بینہم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، و عليه الفتوى. (ہندیہ،
کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، زکریا قدیم ۴ / ۳۹۱، جدید ۴ / ۴۱۶) فقط
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۹ / رجب ۱۴۳۱ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۱۹/۳۹)

۱۴۳۱/۷/۹ھ

زندگی میں اولاد کے مابین ترکہ کی تقسیم

سوال [۹۴۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، زید اپنے پانچ بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا حصہ اپنی ملکیت میں سے نکال کر دے چکا ہے، اب زید یہ چاہتا ہے کہ اپنی حیات میں باقی چار بیٹے اور تین بیٹیوں کا حصہ حسب منشاء شرع نکال دے۔ اب آپ سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ والدین کی موجودگی میں ان کی اولاد یعنی چاروں بیٹے اور تینوں لڑکیوں کو کتنا اور والدین کو کتنا حصہ ملے گا؟

المستفتی: محمد عبداللہ جھبوکانا لہ کسرول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کے اندر تصرف کرنے کا مختار ہے؛ لہذا اگر زید اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کو اولاد کے درمیان ہبہ کرنا چاہے، تو کر سکتا ہے۔ اور جو کچھ اپنے لئے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے؛ لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تقسیم کرنے میں برابری کرنا اور بڑے لڑکے کو جتنا حصہ دیا ہے اتنا حصہ سب کو دینا ضروری ہوگا، کسی بیشی کرنے کی صورت میں زید گنہگار ہوگا۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - قال: أتى بي أبي إلى رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم فقال: إني نحلّت ابني هذا غلاماً، فقال: أكل بنيك نحلّت، قال: لا، قال: فاردده. (مسلم شریف، کتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، النسخة الهندية ۲/ ۳۷، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۲۳، بخاري شریف، کتاب الهبة، باب الهبة للولد الخ ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۴، ف: ۲۵۸۶)

قال الطيبي: فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض -إلى قوله- ولو وهب بعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة، ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز قضاء، وهو آثم نص عليه محمد. (شرح الطيبي، كتاب البيوع، باب الهبة، الفصل الأول، كراچی ۶/ ۱۸۱، تحت رقم الحديث: ۳۰۱۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸/رجب ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۴۹۶)

اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم زندگی میں کرنے کا شرعی حکم

سوال [۱۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے تین لڑکے: (۱) محمد شاہد (۲) محمد راشد (۳) محمد مجاہد اور دو لڑکیاں: (۱) شبانہ نور (۲) اور فاطمہ نور، ایک بیوی دودانہ بیگم، میرے والد والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، مکان سامان وغیرہ کو اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کس طرح تقسیم ہوگا؟

المستفتی: محمد شاہد سٹش لاجپت نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ اپنی زندگی ہی میں اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو حسب مرضی بیوی کو جو کچھ دینا چاہیں دے دیں، اس کے بعد لڑکیوں

کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہوگا۔

فسوی بینہم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعلیہ الفتوی۔ (شامی، کتاب الہبۃ، کراچی ۵/۶۹۶، زکریا ۸/۵۰۱، ۵۰۲، ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/۳۹۱، جدید ۴/۱۶، قاضیخان زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۲۷۹)

لہذا تین لڑکوں اور دو لڑکیوں کے درمیان کل جائیداد پانچ حصوں میں تقسیم ہوگی، ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کس کو کتنا کتنا ملے گا تو کل ترکہ ۶۲/۳۴۸ میں تقسیم ہو کر بیوی کو آٹھ اور لڑکوں کو چودہ چودہ اور لڑکیوں کو سات سات حصے ملیں گے، جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے واضح ہوتا ہے:

میت					
بیوی	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکی	لڑکی
دودانہ	محمد شاہد	محمد راشد	محمد مجاہد	شبانہ	فاطمہ
۱	۱۴	۱۴	۱۴	۷	۷

دونوں طرح کے مسئلے ہم نے بیان کر دیئے، اب آپ کو اختیار ہے جو طریقہ چاہیں اختیار کر لیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۸۵۵۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/۳۶/۱۴۲۳ھ

زندگی میں اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم کا طریقہ

سوال [۹۴۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عرض کہ میرے نانا عنایت حسین کی داد الہی ملکیت کی میری والدہ تنہا وارث تھی، میں دو لڑ خان اپنی والدہ کے حصہ کے مکان کا تنہا وارث ہوں، یہ مکان دو سو گز آراضی پر تھا، جس میں

میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ سکونت پذیر تھا، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادی کر دی اور دو بیٹیوں کی بھی شادی کر دی اور پانچویں بیٹے نے اپنے بدمعاش ساتھیوں کے ساتھ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ بازی میں اس کی پٹائی بھی کی؛ اس لئے ان پریشانیوں سے بچ کر میں نے اپنا پورا مکان ۸ لاکھ روپے میں فروخت کر دیا اور شہر کے کنارے چھ لاکھ کا مکان خرید لیا، بقیہ دو لاکھ میں سے پچاس ہزار روپے پانچویں بیٹے کے مقدمہ میں لگائے اور بقیہ رقم سے میں نے اور میری اہلیہ نے حج کیا، اب دوبارہ مکان کو بیچ دیا ہے۔ اور اب میرے بڑے دو بیٹے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اور دونوں دوسری جگہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں؛ لہذا اسی فروخت ہوئے مکان میں مجھے اور میری اہلیہ کو شریعت محمدی میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ اور بیٹوں کو کتنا؟ تینوں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، شرعی فتویٰ دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ والسلام

المستفتی: دلرخان محلہ بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں جب تک آپ کی زندگی ہے، تو ساری جائیداد روپے وغیرہ آپ کی ملکیت ہے، کسی کو اس میں سے حق مانگنے کا اختیار نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اور جہاں چاہیں، خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دینا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے، ہاں البتہ اگر اپنی جائیداد روپیہ پیسہ وغیرہ اپنی زندگی میں ہی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہیں، تو اس تقسیم کے اندر لڑکیوں کو بھی شامل کیا جائے اور لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جائیداد روپے پیسہ وغیرہ کو برابر برابر تقسیم کیا جائے، انصاف کی بات یہی ہے، ہاں آپ کے مرنے کے بعد منجانب شریعت لڑکیوں کو لڑکوں کے بالمقابل آدھا ملے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۵/۶۱، ڈبھیل ۱۶/۳۹۷، کفایت المفتی قدیم ۱۸۰/۸، جدید زکریا مطول ۱۳/۳۶۱)

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، أن يعطيهم على السواء.

(مجمع الأنهر، کتاب الہبة، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/ ۴۹۷، مصری قدیم ۲/ ۳۵۸، بزازیۃ، زکریا جدید ۳/ ۱۲۳، وعلی ہامش الہندیۃ ۶/ ۲۳۷، البحر الرائق، زکریا ۷/ ۴۹۰، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، خلاصۃ الفتاویٰ، اشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۵/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۷۲۱۰)

زندگی میں کاروبار اور مکان تقسیم کرنا

سوال [۹۴۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں اپنے کاروبار اور مکان وغیرہ کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، ہم میاں بیوی ہیں اور چار لڑکے ایک لڑکی ہے، ان کی شادی وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں، ایک لڑکے کا حصہ میں دے چکا ہوں، تین لڑکے اور ایک لڑکی اور دو ہم میاں بیوی ہیں، شرع کے حساب سے کس طرح تقسیم کروں؟

المستفتی: راحت علی گلشہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اپنی زندگی میں اپنی ساری دولت کے مالک تنہا آپ ہی ہیں اور آپ کی موجودگی میں نہ آپ کے لڑکے مالک ہیں نہ آپ کی لڑکی نہ آپ کی بیوی؛ بلکہ تنہا آپ ہی مالک ہیں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان دولت تقسیم کر دیں، تو پہلے اپنے لئے جتنا چاہیں الگ کر لیں اور بیوی کو بھی جتنا چاہیں دے دیں، اس کے بعد بقیہ مال تمام اولاد کے درمیان برابر تقسیم کر دیں اور لڑکی کو بھی لڑکوں کے برابر ملے گا؛ لہذا پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک حصہ چاروں لڑکوں کو اور ایک حصہ لڑکی کو دیں گے۔ اور جس لڑکے کو پہلے جتنا حصہ دے چکے ہیں بقیہ لڑکوں

کو بھی اس سے کم نہیں دینا چاہئے۔

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة.
(البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، خلاصة الفتاوى أشرفيه
ديوبند ۴/ ۴۰۰، بزازية زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷)

وإذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة عند البعض أن يقسم بينهم علي حسب قسمة الله تعالى الميراث وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد سو بينهم. (إعلاء السنن، كتاب الهبة، باب التسوية المستحبة بين الأولاد، دارالكتب العلمية بيروت ۱۶/ ۱۲۰، كراچی ۱۶/ ۹۷)

قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين الذكر والأنثى في حالة الحياة أقوى وأرجح من حيث الدليل. (تكملة فتح الملهم، كتاب الهبة، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، أشرفيه ديوبند ۲/ ۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۳۳۳)

زندگی میں جا سیداد تقسیم کرنے میں والدہ کا اپنے لئے کچھ باقی رکھنا

سوال [۹۵۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مکان سوگڑ کا میری والدہ کا ہے، ان کے چھڑ کے چار لڑکیاں ہیں، والدہ زندگی میں اپنا مکان اپنی اولادوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں، تو کیا تقسیم کر سکتی ہیں؟ اور اپنے لئے رکھ سکتی ہیں؟ اور اولادوں کو کتنا کتنا دیں؟ میرے والد تین سال سے لاپتہ ہیں۔

المستفتی: ظہیر عالم کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر آپ کی والدہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولادوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو اپنی مرضی سے اپنے لئے جتنا چاہیں روک لیں باقی مکان لڑکے اور لڑکی سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلہ میں آدھا آدھا ملتا ہے اور زندگی میں تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر ملتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ۲۰/۱۴۸)

ولکل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيف ما شاء. (شرح المجلة رستم، مکتبہ اتحاد ۱/ ۶۴۳، رقم المادة: ۱۱۶۲)

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. (البحر الرائق، کتاب الهبة، زکریا ۷/ ۴۹۰، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰)

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند أبي يوسف أن يعطيهم على السواء، وهو المختار. (مجمع الأنهر، کتاب الهبة، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۹۷، مصری قدیم ۲/ ۳۵۸، بزازیة، زکریا جدید ۳/ ۱۲۳، وعلی هامش الہندیة ۶/ ۲۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۳/۱۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۳۴/۳۸)

والدین کا اپنی جائیداد بچوں کے درمیان تقسیم کرنا

سوال [۹۵۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مکان جس کا رقبہ ۱۲۸ رگز ہے، جس کی قیمت ۳۰ لاکھ روپے ہیں، جس میں والدین کے علاوہ ۴ لڑکے اور ۵ لڑکیاں حق دار ہیں، والدین اپنی ہی حیات میں سبھی کو ان کا

حصہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مکان کی والدہ مالک ہیں، والد بھی حیات ہیں؛ لہذا قرآن و شریعت کی روشنی میں سبھی کا حصہ متعین فرمائیں۔

المستفتی: نسیفہ بیگم، لائن نمبر ۱۱ آزادگر ہلدوانی، نینی تالی
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: والدہ زندگی میں اپنی جائیداد کی خود مالک ہیں؛ لہذا انہیں اختیار ہے جتنا چاہیں اپنے لئے روک لیں، ان کے اوپر کسی کو دباؤ کا حق نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر ملتا ہے۔

المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. (البحر الرائق، کتاب الهبة،

کراچی ۷/۲۸۸، زکریا ۷/۴۹۰، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/۴۹۷)

ویکره تفضیل بعض علی البعض في الهبة حالة الصحة. (البحر الرائق،

کراچی ۷/۲۸۸، زکریا ۴۹۰)

لہذا اپنے لئے جتنا مناسب سمجھیں الگ کر کے بقیہ چار لڑکے اور پانچ لڑکیوں کے درمیان نو حصے بنا کر برابر برابر تقسیم کر دیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۹۸۰)

زندگی میں ورثاء کے لئے وصیت اور ان کے درمیان تقسیم کا حکم

سوال [۹۵۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید نے اپنی زندگی میں اپنے ورثاء میں کسی کے نام کوئی وصیت کی ہے اور سب ورثاء بالغ ہیں اور وہ مرحوم کی محبت میں اسی وصیت پر عمل کریں تو کیا حکم ہے؟

(۲) مرحوم زید کی پانچ شادی شدہ لڑکیاں ہیں، جن کی شادی زید اپنی زندگی میں کر چکے، اب زید کے انتقال کے بعد زید کا ماں سے سوتیللا اور باپ سے سگا بھائی جو لڑکیوں کے چچا ہوئے، ایک لڑکی کے لئے تقریباً پونے دو سو گنز زمین کا ٹکڑا بحیثیت وصیت نکلوانا چاہتے ہیں، جس کی کوئی تحریر نہیں ہے اور میراث سے علیحدہ کر دیا ہے؟

(۳) مرحوم زید نے اپنی زوجہ (جو کہ دوسری بیوی ہے اور لڑکیوں کی سوتیلی ماں ہے) کے نام کچھ وصیت کی جو کہ تحریر ہے، اس کے لئے کیا حکم ہے؟

(۴) زید نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے اپنی جائیداد پر تمہارے نوٹ لگوا دئے ہیں، جس کے تمام کاغذات سوتیلی لڑکیوں نے اپنے قبضے میں کر لئے ہیں، اب وہ جائیداد کس کی ہوگی؟

(۵) مرحوم زید کے کچھ پیسے ڈاک خانہ میں ہوں مرحوم اور دوسری بیوی کے نام سے، اور وہ اس کو بیوی کے لئے کہہ گئے ہوں اور اس کی کتابوں پر بھی بیوی ہی قابض ہو، اب وہ رقم اسی کی ہے یا پھر اس رقم کا بھی بٹوارہ ہوگا؟

(۶) گھر کا پورا ہاؤس ٹیکس زید کی پہلی بیوی یعنی سوتیلی لڑکیوں کی سگی ماں کے نام تھا، پھر زید ہی نے اپنی دوسری بیوی کے نام کرادیا، اس کے بعد آدھا اپنے نام کرالیا اور آدھا دوسری بیوی کے نام یعنی لڑکیوں کی سوتیلی ماں کے نام کرادیا، جس پر وہ قابض ہے، اس کے لئے کیا حکم ہے، یعنی اپنے پورے گھر پر اور ہاؤس ٹیکس کی رسید پر بھی ایک نام تو زید کا ہے؛ لیکن وہ کسی اور کا ہے، اس کے لئے کیا حکم ہے؟ سو گنز زمین پر کسی کا گھر بنوایا جا چکا ہے، کاغذ نہیں ہوا، زید کے ہی نام پر ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وصیت رجسٹرڈ ہو اور باقی کام اس لئے چھوڑ دیا ہو کہ وہ تو خود ہو جائے گا، یعنی نام تو خود ہی ہو جائے گا، تو کیا حکم ہے؟ عبدالعلیم صاحب کی بیوی اپنی رائے پیش کرنا چاہتی ہے، اگر جائز ہو تو علماء اس کو مان لیں؛ کیوں کہ وہ مرحوم کو کسی عذاب آخرت میں مبتلا نہیں چھوڑنا چاہتی، عبدالعلیم صاحب کی دوسری بیوی نے ہاؤس ٹیکس کی رسید 2000 کی گھر کی رسیدوں میں دیکھی تھی، جو کہ بلقیس بیگم (جو کہ عبدالعلیم کی مرحومہ بیوی تھیں) کے نام سے تھی، اگر ہاؤس ٹیکس کو ہی مان لیا جائے تو ماں کے نام ہاؤس ٹیکس

ہونے کے ناطے گھر کی حق دار پانچوں لڑکیاں اور عبدالعلیم صاحب خود حصہ دار ہوتے ہیں، یہ مان کر جو لڑکیوں کا حق نکلتا ہے وہ لڑکیوں کو اور جو عبدالعلیم صاحب کا حق نکلتا ہے وہ اس کی دوسری بیوی کو دے دیا جائے؛ کیوں کہ پورا ہاؤس ٹیکس دوسری بیوی کے نام کر دیا تھا، یہ ان کو پیتے نہیں تھا کہ میرے نام پورے گھر کا ہاؤس ٹیکس ہے، پھر کوئی درخواست لکھ کر اس پر دستخط کرائے، جس کی کاربن کاپی اس کو مل گئی، جس میں لکھا تھا کہ ہاؤس ٹیکس آدھا آدھا کر دیا جائے، بلقیس بیگم کے انتقال کے بعد ان کے نام کی ہر چیز وارثوں کی ہوگی، اس طرح یہ لڑکیوں اور عبدالعلیم صاحب کی ہوئی، بنا سوچے زید نے قانوناً نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری بیوی کے نام پورا ہاؤس ٹیکس کر دیا، پھر خود ہی آدھا کر دیا، جس کا عبدالعلیم صاحب کی بیوی کو بعد میں علم ہوا، مرحوم عبدالعلیم صاحب کے ذمہ اسلامی لحاظ سے کچھ قرض نکلتا ہے، زید کی دوسری بیوی یہ چاہتی ہے کہ خاموشی سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔

عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، علیم صاحب نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ کھیتی کی زمین بیوی کی ہوتی ہے، کھیتی کی زمین تمہاری ہے، اس کو تم سے کوئی نہیں لے سکتا اور شاید ہر جگہ اس کے فوٹو لگوا دئے ہیں (جو کہ ساتھ میں روانہ ہے) جس کی کوئی رسید اس کے پاس نہیں ہے، ہاں زبانی کہا ہے، تو اس کا ہٹوارہ کیوں ہوگا؟

سوغز زمین پر ایک لڑکی کا گھر بنا ہوا ہے، جس کا کاغذ نہیں ہوا تھا، اس کا ہٹوارہ کیوں ہوگا؟ ایک ٹرک زید کے نام سے ہے، جس کا پیسہ داماد نے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کیا اور اب بھی کچھ باقی ہے، اس کا ہٹوارہ کیوں ہوگا؟ میری عقل ناقص کے حساب سے جو چیز یا مال دے دیا گیا ہو اس کا ہٹوارہ نہیں ہونا چاہئے۔

ڈاک خانہ کا پیسہ جو کہ دونوں کے نام سے ہے، اس میں سے مرحوم کا قرض نکال کر آدھا زید کی بیوی کا ہوا اور آدھے کا ہٹوارہ کر لیا جائے تو کیسا ہے؟ اگر علماء کی سمجھ میں میرا مشورہ کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہو تو اس کو مان لیا جائے، جو کمی بیشی ہو اس کو آپس میں معاف

کردیا جائے؛ کیوں کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور سب وارث بالغ ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) کسی کے نام وصیت سے کیا مراد ہے؟ اگر غیر وارث مراد ہے تو غیر وارث کے لئے ثلث مال میں وصیت نافذ ہو جاتی ہے۔ اور اگر وارث مراد ہے تو وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، جب کہ اس سے دوسرے ورثاء کا حق مارا جا رہا ہو۔

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (سنن الترمذي، باب ماجاء لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲/ ۳۲، دارالسلام، رقم: ۲۱۲۰، سنن ابن ماجه، باب لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲/ ۱۹۵، دارالسلام، رقم: ۲۷۱۳، سنن أبي داؤد، باب في الوصية للوارث، النسخة الهندية ۲/ ۳۹۶، دارالسلام، رقم: ۲۸۷۰)

لا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يعجزها الورثة. (عالمگیری،

کتاب الوصایا، زکریا قدیم ۶/ ۹۰، جدید ۶/ ۱۰۶)

(۲) کسی وارث کے لئے وصیت نافذ نہیں ہوتی جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، اس لئے زبانی وصیت کی بنیاد پر کسی ایک لڑکی کے لئے جائیداد کا کچھ حصہ الگ سے نکالنا شرعاً جائز نہیں، اگر زبردستی کی جائے گی تو وہ لوٹ اور غصب کے درجہ میں ہو جائے گا، جیسا کہ اوپر کی دلیل سے واضح ہوتا ہے۔

(۳) بیوی بھی وارث ہوتی ہے؛ اس لئے میراث سے الگ زائد چیز کے لئے وصیت نافذ نہیں ہوگی، جیسا کہ اوپر کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔

(۴) جس جائیداد کا ذکر سوال نامہ میں کیا جا رہا ہے وہ جائیداد زید کے مرنے کے بعد تمام ورثاء کے درمیان شرعی طور پر تقسیم ہوگی، شرعی طور پر جس کا جتنا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا اتنا ملے گا۔

(۵) اگر زندگی میں بیوی کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا ہے، تو وہ بیوی ہی کی ہے؛ اس لئے کہ یہ وصیت نہیں بلکہ ہبہ ہے۔ اور سرکاری بینک وغیرہ میں جمع شدہ رقم پر قبضہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس رقم کو کسی دوسرے کے نام سرکاری قانون کے اعتبار سے منتقل کر دیا جائے۔ اور جب سرکاری ضابطہ کے مطابق بیوی کے نام منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کا اکاؤنٹ بیوی کے نام سے بیوی کے قبضہ میں ہے، تو وہ بیوی کے نام سے ہبہ تام ہو چکا ہے؛ اس لئے وہ رقم بیوی ہی کی ہے، اس میں دوسروں کے لئے وراثت جاری نہ ہوگی۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسّمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸/ ۴۹۳، كراچی

۵/ ۴۹۰، هداية، اشرفي ۳/ ۲۸۳، مختصر القدوري، ص: ۱۳۵)

(۶) اگر مذکورہ مکان زید کی ملکیت ہے اور زید اس کا آدھا حصہ دوسری بیوی کو زندگی میں ہبہ کرنا چاہتا ہے اور ہبہ ہی کے واسطے ہاؤس ٹیکس کے کاغذات اس کے نام منتقل کر دیا ہے، تو آدھا مکان دوسری بیوی ہی کا ہے۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، مؤسسة علوم القرآن، جديد ۱۰/ ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸/ ۴۹۳، كراچی

۵ / ۴۹۰، ہدایۃ، اشرفی ۳ / ۲۸۳، مختصر القدوری، ص: ۱۳۵)

جس ٹرک کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ زید کے نام کیوں ہے؟ کسی اور کا ٹرک ہے، تو زید کے نام کیوں ہے؟ اس کو واضح کریں۔ سوگز زمین پر کسی دوسرے کا مکان بنایا گیا ہے، وہ زمین زید کی ہے یا کسی دوسرے کی؟ دوسرے کے لئے اس پر مکان کیوں بنایا گیا ہے؟ مستفتی سے گزارش ہے کہ ایسے سوالات نہایت غیر مناسب ہیں، ان سوالوں سے کیا مفتی کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ نہایت مہمل سوال ہے، اگر یہ واقعہ ہے تو بات کھل کر لکھنا چاہئے، کسی کے نام سے ٹرک کا کیا مطلب ہے؟ کسی دوسرے کے نام مکان کا کیا مطلب ہے؟ ان سب باتوں کو کھل کر وضاحت سے لکھنا چاہئے، اگر وصیت رجسٹرڈ ہو اور نام تو خود ہو جائے گا، یہ بھی غیر مناسب سوال ہے، اس کی بھی حقیقت ہے، تو حقیقت کو واضح کر کے واقعہ لکھنا چاہئے، تاکہ مفتی حقیقت پر واقف ہونے کے بعد حکم شرعی لکھ سکے، دو ایک مقامی علماء کو بٹھا کر مسئلہ کے ہر پہلو اور نزاکت کو سامنے رکھ کر جائیداد تقسیم کی جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے؛ لیکن ڈاک خانہ اور بیلنس میں جو پیسہ ہے، اگر وہ بیوی کے نام زندگی میں منتقل کر دیا ہے، تو وہ زندگی ہی میں اس کے نام سے ہبہ ہو چکا ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو دوسرے وارثین کو اپنی خوشی سے دے دے، یا نہ دے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۷ھ شعبان

(الف فتویٰ نمبر: ۹۱۲۲/۳۸)

زندگی میں تمام اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا

سوال [۹۵۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حافظ محمد یونس کے دولٹ کے پانچ لڑکیاں ہیں، سب ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور کھانا پینا سب کا الگ الگ ہے، ایک بیٹی ساتھ رہتی ہے، ساری جائیداد حافظ محمد یونس کے قبضہ میں

ہے، حافظ یونس اپنی ایک بیٹی سے ناراض ہیں، تو ان کو اپنی جائیداد سے الگ کرنا چاہتے ہیں، ان سے مکان خالی کرانا چاہتے ہیں، تو کیا شرعاً ان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے، یا لڑکی کو اس مکان میں رہنے کا حق ہے، شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

نوٹ:- مستفتی سے زبانی معلوم ہوا داماد سے خفا ہونے کی بناء پر لڑکی کو مکان میں نہیں رہنے دینا چاہتے۔

المستفتی: عبدالمنان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر حافظ یونس ابھی بحالت صحت صحیح تندرست ہے، تو وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس کو چاہے رکھے اور جس کو چاہے نکال دے۔

والمالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك.

(بیضاوی، کتب خانہ رشدیہ دہلی ۷/۱)

لیکن اگر زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنا ہے اور ان میں کوئی نافرمان نہیں ہے، تو سب کو برابر دینا لازم ہے، اگر یہ بیٹی نافرمان نہیں ہے؛ بلکہ صرف داماد سے ناراض ہونے کی وجہ سے بیٹی سے بھی ناراض ہے تو بیٹی کو محروم نہ کرنا چاہئے؛ البتہ داماد کو کچھ نہ دے وہ اپنا انتظام خود کرے۔

عن أنس بن مالک - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر

من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب

الحيث في الوصية، النسخة الهندية ۲/ ۱۹۴، دارالسلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا

فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا

فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ۱/ ۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

وروی المعلى عن أبي يوسف: أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن، وقال محمد - رحمه الله تعالى - يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى، والفتوى على قول أبي يوسف. (قاضى خان، الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية، زكريا ۳/ ۲۷۹، هندية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، شامي، زكريا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۲۶ھ

۶ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۵۲۳۰)

زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں اولاد کے درمیان برابری

سوال [۹۵۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) میرے والد بزرگوار نے ایک نصف مکان چھوڑا ہے، جس کا میں اور میری بہن مالک ہیں اور باقی نصف مکان میرے چچا صاحب نے صرف میرے نام کر دیا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بہن کا کتنا حق ہے اور میرا کتنا حق ہے؟

(۲) اس کے بعد وہ نصف حصہ باقی حصہ میں شامل کر دیا جائے؟

(۳) اور میرے دو لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں، وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے اور بتائیں لڑکیوں کا کتنا حق ہے اور کتنا حق لڑکوں کا ہے؟

المستفتی: عبدالحق ولد عبدالبہادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ کے سوال نامہ کے مطابق کل مکان چھ سہاموں میں تقسیم ہو کر آپ کی بہن کو ایک ملے گا، باقی ۵ سہام آپ کو ملیں گے اور اب اگر آپ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دینا لازم ہوتا ہے، تو کل چھ اولاد کے درمیان چھ حصوں میں تقسیم ہوگا اور کل مکان ۳۶ سہام میں تقسیم ہو کر آپ کی بہن کو ۶ سہام اور آپ کی چھ اولاد میں سے ہر ایک کو ۵-۵ ملے گا۔

سوی بینہم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن . (ہندیہ، کتاب الہبۃ، الباب

السادس في الہبۃ للصغیر، زکریا قدیم ۴ / ۳۹۱، جدید ۴ / ۴۱۶، قاضی خان جدید زکریا ۳ / ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۳ / ۲۷۹، شامی، زکریا ۸ / ۵۰۱-۵۰۲، کراچی ۵ / ۶۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۲/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ صفر ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳ / ۵۱۸۱)

زندگی میں تقسیم کی صورت میں برابری کا حکم

سوال [۹۵۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: سائل اپنی حیات میں اپنی تمام جائیداد اپنی اولاد لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، سائل کے مکانات مختلف جگہوں پر اور مختلف رقبہ کے ہیں، جو ناقابل تقسیم بھی ہیں اور سب مکانات کی مالیت بھی مختلف ہے، ایسی صورت میں سب لڑکے اور لڑکیوں کو اگر ایک ایک مکان دیا جائے تو کسی کے پاس زیادہ مالیت کا مکان جائے گا اور کسی کے پاس کم مالیت کا، کیا سائل کو ایسا کرنے کا حق ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے بتانے کی زحمت گوارا کریں۔

المستفتی: احقر جمیل احمد پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر آپ زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جتنا مال جائیداد ہر لڑکے کو دیں اتنا ہی ہر لڑکی کو بھی دیں، اگر مکانات مختلف مالیت کے ہیں، تو برابری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کے حصہ میں کم مالیت کا مکان آئے اس کو نقد پیسے الگ سے دے کر دوسروں کے حصے کے برابر کر دیا جائے۔

عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية -إلى- أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته. (صحيح البخاري، باب الإشهاد في الهبة، النسخة الهندية ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۷)

وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد يسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة، كراچی ۵/ ۶۹۶، زكريا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲)

وروى المعلى عن أبي يوسف: أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن، وعليه الفتوى، هكذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگیری، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، قاضي خان، الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية، زكريا ۳/ ۲۷۹)

وإذا كان أرض وبناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة؛ لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم، وعن أبي حنيفة أنه

يقسم الأرض بالمساحة؛ لأنه هو الأصل في الممسوحات، ثم يرد من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر، حتى يساويه، فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في المال، ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج، وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصه، وإذا بقي فضل ولا يمكن تحقيق التسوية بأن لا تبقى العرصه بقيمة البناء حينئذ يرد للفضل دارهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا بها، وهذا يوافق رواية الأصل. (هداية، كتاب القسمة، فصل في كفية القسمة ٤ / ٤١٦-٤١٧) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۰/۱۱۰۳۹)

زندگی میں تقسیم کرنے میں اولاد کے درمیان مساوات کرنے کا حکم

سوال [۹۵۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (الف) زید کے چھ لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور ان کے علاوہ ان کا کوئی شرعی وارث نہیں ہے، زید کو شبہ ہے کہ میری وفات کے بعد ان میں مخالفتیں پیدا ہوں گی؛ اس لئے اس نے اپنی زندگی میں ہی ان مکانات کو تقسیم کر کے اپنے بیٹوں کو ہبہ کر دیا اور مالکانہ قبضہ دے دیا اور وہ سب اس پر راضی ہو گئے اور ان لڑکوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بہنوں کو مبلغ پندرہ ہزار روپیہ فی کس ادا کریں گے، اس طرح ہر لڑکی کو تیس ہزار روپے مل جائیں گے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کا یہ عمل ہبہ خلاف شرع تو نہیں اور زید عند اللہ ماخوذ تو نہ ہوگا؟ جب کہ ان مکانات کا وہ خود مالک ہے اور ان لڑکوں کی کوئی جانی اور مالی محنت ان میں نہیں لگی۔

(ب): نیز ایک لڑکا نہایت ہی نافرمان اور تقریباً پچیس سال سے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے

اور مقابلہ آرائی پر تیار رہتا ہے، زید نے اس کو بھی بلا کر سب بھائیوں کے برابر اس کو بھی دینا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور لکھنے سے بھی منع کر دیا، تب زید نے وہ مکان بھی اپنے دو فرماں بردار بیٹوں کو دے دیا اور کہہ دیا کہ اگر وہ لینا چاہے تو اس کو دے دینا، ورنہ وہ بھی تمہاری ہی ملکیت ہے، زید کا یہ عمل خلاف شرع تو نہیں ہے اور زید عند اللہ ماخوذ تو نہ ہوگا؟

(ج): زید کے دو بیٹے نہایت فرماں بردار ہیں اور سات آٹھ سال سے زید اور اس کی زوجہ یعنی ماں باپ انہیں دونوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر قسم کی خدمت جانی اور مالی کرتے رہتے ہیں اور امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، زید نے اپنی تمام اشیاء منقولہ انہیں فرماں بردار بیٹوں کو ہبہ کر دی ہیں، یہاں تک کہ اپنے پہننے کے کپڑے بھی انہیں دونوں کو ہبہ کر دئے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تم سے مستعار لے کر پہن لیا کریں گے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جب کہ زید کی ملکیت میں اب کوئی چیز باقی نہیں ہے، تو کیا اب بھی زید کی وفات کے بعد مسئلہ میراث جاری ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محی الدین نہٹور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (الف) زید نے اپنے چھ لڑکوں کے درمیان جو جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کر کے مالک بنا دیا تو زید کا یہ فعل شرعاً درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم میں برابری کرنے کا حکم ہے۔ اور سوال میں ذکر کردہ صورت میں زید نے مکانات کو صرف مذکور اولاد ہی میں تقسیم کیا، لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا اور تیس تیس ہزار روپیہ لڑکیوں کو بھائیوں کی جانب سے دینے سے متعلق صرف وعدہ اور امید کا اظہار ہے، عملاً لڑکیوں کو کچھ نہیں ملا، اور زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر ملتا ہے؛ اس لئے باپ کی طرف سے یہ تقسیم شرعاً درست نہیں ہوئی اگرچہ اس تقسیم سے لڑکے اپنے اپنے حصے کے مالک بن چکے ہیں، مگر اس سے باپ گنہگار ہوگا۔

عن النعمان بن بشير -رضى الله عنه- قال: تصدق علي أبي بعض ماله -إلى- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. (صحيح مسلم، باب كراهة تفضيل بعض الوالد في الهبة، النسخة الهندية ۳۷/۲، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۲۳)

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ۲/۱۹۴، دارالسلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. (البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/۴۹۰، كوثه ۷/۲۸۸، خلاصة الفتاوى، اشرفيه ديوبند ۴/۴۰۰)

يعطى للابنة مثل ما يعطى للابن، وقال محمد رحمه الله: يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله. (قاضي خان، فصل في هبة الوالد لولده، والهبة للصغير، زكريا جديد ۳/۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/۲۷۹)

ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز، وهو آثم نص عليه محمد. (بزازية، كتاب الهبة، زكريا جديد ۳/۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/۲۳۷، قاضي خان، زكريا جديد ۳/۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/۲۷۹، شامي، زكريا ۸/۵۰۲، كراچی ۵/۶۹۶، هندية، زكريا قديم ۴/۳۹۱، جديد ۴/۴۱۶)

زيد نے جو اپنے نافرمان بیٹے کو مکان دینا چاہا اور اس نے لینے سے انکار کر دیا تو اپنے دو فرماں بردار بیٹوں کو دے دیا اس کا یہ عمل خلاف شرع نہیں ہے؛ اس لئے کہ نافرمان اور فاسق

بچہ کو نہ دینے میں باپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

وإن كان في ولدہ فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير
معيناً له في المعصية. (ہندیہ، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴ / ۳۹۱،
جدید ۴ / ۴۱۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۷ / ۲۸۸، زكريا ۷ / ۴۹۰، بزازیہ، زكريا جدید ۳ /
۱۲۳، وعلی هامش الہندیہ ۶ / ۲۳۷)

ج: میراث میت کے چھوڑے ہوئے مال میں جاری ہوتی ہے، جب زید نے حیات ہی میں
اپنی تمام منقولہ وغیر منقولہ جائیداد اپنی اولاد کو دے دیا اور زید کی ملکیت میں کچھ رہا ہی نہیں تو
میراث بھی جاری نہ ہوگی۔

لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال. (شامی، کتاب
الفرائض، زكريا ۱۰ / ۴۹۳، کراچی ۶ / ۷۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۳۵)

زندگی میں تقسیم کی صورت میں اولاد کے درمیان مساوات کرنا

سوال [۹۵۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ وصیت نامہ اپنی آراضی کا اس کے میں تین حصہ کرنا چاہتا ہوں، ایک حصہ لڑکے کا،
ایک حصہ برابر لڑکی کا، ایک حصہ خود کا، ان حصوں کے بعد میں اپنا حصہ مسجد میں دینا چاہتا
ہوں، اگر زندگی میں مجھے کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ مکان میں فروخت کر سکتا ہوں، اپنا حصہ
میں بیس ہزار روپے مسجد کو دے دوں گا، باقی حصہ جس کو چاہوں دے سکتا ہوں، اگر لڑکی کو
ضرورت پڑی تو جب چاہے رہ سکتی ہے۔ اور اگر آپس میں مکان دونوں میں سے خریدنا
چاہیں تو پہلے میرا حصہ نکال دیں مسجد کو، پھر آپس میں باٹیں، اگر کرایہ دار اس میں انہوں نے

رکھا تو تین حصوں میں جو میرا حصہ بنے مسجد کو پہنچائیں، اگر لڑکی اس میں رہی تو پچاس روپے لڑکا اور پچاس روپے لڑکی مسجد کو پہنچائیں، اور اگر مکان خالی رہے تو پچاس روپے مہینہ لڑکے کو مسجد کو دینا ہے میرے حصہ میں سے، قرآن وحدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں۔

المستفتی: عبدالجبار، مقبرہ دوئم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ اپنی زندگی میں ہی لڑکا لڑکی کو حصہ دینا چاہتے ہیں، تو دونوں کو برابر کر کے دینا جائز ہے۔ اور تین حصہ کر کے ایک حصہ اپنے لئے رکھنا اور اس کے بارے میں اس طرح وصیت کرنا بھی جائز ہے کہ زندگی میں ضرورت کے وقت فروخت کر کے اقرار کردہ رقم بیس ہزار روپے مسجد کو دے دے۔ اور اس کے ساتھ یہ وصیت بھی درست ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ایک تہائی مسجد کو دے دیا جائے، مگر اگر زندگی میں لڑکا لڑکی دونوں کو دے کر قبضہ نہیں دیا ہے اور مرنے کے بعد برابر ملنے کی وصیت ہے، تو مسجد کے حق میں ایک ثلث کی وصیت درست ہوگی، مگر لڑکی کو لڑکے کے برابر دینے کی وصیت درست نہ ہوگی؛ بلکہ ترکہ میں سے لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا؛ اس لئے کہ وارث کے حق میں وصیت درست نہیں ہے۔

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (سنن الترمذي، باب ماجاء لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲ / ۳۲، دار السلام، رقم: ۲۱۲۰) فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ صفر ۱۴۱۸ھ

۲۴/۳/۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۱۷۱/۳۳)

زندگی میں تقسیم کی صورت میں اولاد کے درمیان مساوات کرنے کا حکم

سوال [۹۵۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) حاجی عبدالقدیر صاحب اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی ایک بیوی تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جائیداد ان کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگی؟ (۲) کیا ان مذکورہ ورثاء کا حق سائل (عبدالقدیر) کے مال اور نقدی میں بھی ہے، اگر ہے تو کس طرح اور کس کس کا؟

(۳) انہیں کی ایک دوکان پگڑی کی ہے، تو کیا اس پر بھی ورثا کا حق ہے اور دوکان میرے اور میرے لڑکے کے نام ہے؟

(۴) اور جو مکان ہے وہ میری بیوی کے نام ہے، اسی مکان میں دو حصہ دار ہیں: (۱) میری پھوپھی کے لڑکے کی بیوی (۲) اور میری بیوی؛ لیکن سب کرایہ کے ہیں؛ البتہ نصف مکان میرے حصہ میں ہے۔

المستفتی: محمد ایوب مدرسہ اشاعت العلوم، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر زندگی میں دولت تقسیم کرنا ہے، تو اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے جتنا چاہیں دے دیں، اس کے بعد بقیہ مال کو لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیں؛ لہذا بقیہ مال کے چار سہام بنا کر ہر ایک لڑکی کو ایک ایک اور لڑکے کو ایک سہام دے دیں؛ اس لئے کہ زندگی میں تقسیم کرنے سے لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دینا لازم ہوتا ہے، ورنہ باپ گنہگار ہوتا ہے۔

فسوی بینہم يعطى البنت كالابن عند الثاني، و عليه الفتوى، ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (درمختار، کتاب الہبۃ، کراچی ۵/۶۹۶، زکریا ۸/۵۰۱، ۵۰۲، ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/۳۹۱، جدید ۴/۱۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۲۸۸، زکریا ۷/۴۹۰، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/۴۹۷)

(۲) اگر سائل اپنے نقدی اور مال دونوں کو تقسیم کرنا چاہے تو مذکورہ طریقہ سے ان کو بھی تقسیم کرنا لازم ہوگا۔

(۳) اگر پگڑی دے کر لی ہوئی دوکان ہے، تو دی ہوئی پگڑی واپس ملنے پر برابری کے ساتھ تقسیم کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر پگڑی لے کر دی ہوئی دوکان ہے تو پگڑی واپس کرنے میں اور دوکان کی حصہ داری میں سب بچے برابر کے حق دار ہوں گے۔

(۴) جو نصف حصہ آپ کے حصہ میں ہے، اس میں بھی اولاد کے درمیان برابری کا حصہ ہوا کرے گا، یہ سب اس وقت ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے زندگی میں بحالت صحت تقسیم کر دینا چاہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۳۲۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۱۱/۱۴۱۲ھ

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں برابری کرنے کا حکم

سوال [۹۵۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک عرصہ پہلے میں نے اپنے اور اپنی بیوی کے نام سے ایک رہائشی مکان خریدا تھا، میں نے اپنے خرچہ سے ان کی تعمیر نو کرائی، میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس مکان میں رہتا ہوں، اس مکان کے بالائی حصہ میں میری رہائش ہے اور نیچے حصہ میں میرا کارخانہ ہے، میں اپنے لڑکوں کے ساتھ کارخانہ میں پیتل کے برتن تیار کراتا ہوں، میری اولاد میں سات لڑکیاں اور پانچ لڑکے موجود ہیں، ان میں سے ایک لڑکی اور چار لڑکوں کی ابھی شادیاں کرنی باقی ہیں، دیگر ایک لڑکے اور چھ لڑکیوں کی میں شادی کر چکا ہوں۔

میں اپنے مکان اور اپنے دیگر اسباب کو شرعی اعتبار سے اپنے بیوی بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی کو بہت کم نظر آتا ہے، بہت کمزور رہتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جیتے جی میں اپنا مکان اور اپنا دیگر سارا مال اپنے بیوی لڑکے اور لڑکیوں

میں شرعی اعتبار سے جس کا جو حصہ بنتا ہو وہ اس کو دے دوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بعد میری لڑکیاں اپنی والدہ کی مزاج پرسی کے لئے ان کے پاس آتی رہیں۔

اس سال میراج بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہے، الحمد للہ درخواست منظور ہوگئی ہے، سفر حج پر جانے سے پہلے میں مکان اور دیگر اشیاء اپنے بیوی، اولاد میں تقسیم کر دوں، میرا مکان ۲۵۰ مربع گز ہے۔ آنجناب سے گزارش ہے کہ اس معاملہ میں میری رہبری فرمائیں۔

المستفتی: راحت جان خان جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دے دیں، کمی زیادتی نہ کریں اور بیوی کو جتنا چاہیں دے دیں؛ البتہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا کل ترکہ ۱۳۶/۱۳۶ سہام میں تقسیم ہو کر ۷۱/۱۳۶ سہام آپ کی بیوی کو ملیں گے اور ۱۴-۱۴ سہام لڑکوں کو اور ۷-۷ سہام لڑکیوں کو ملیں گے۔

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض - إلى - روى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار - إلى - يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن، والفتوى على قول أبي يوسف. (قاضي خان، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، والهبة للصغير، زكريا جديد ۳۲، ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹، شامي، زكريا ۸/ ۵۰۱، كراچی ۵/ ۶۹۶، هندية زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹ھ/۷/۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۰/۵۸۳۷)

کیا زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کے لئے مساوات لازم ہے؟

سوال [۹۵۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے والد اور والدہ حیات ہیں، جن کی کل سات اولادیں موجود ہیں، جن میں مجھ سمیت دو لڑکے اور پانچ لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی طلاق شدہ گھر میں ہے، ایک لڑکی شادی شدہ اپنے شوہر کے گھر ہے تین کنواری ہیں، ایک لڑکا مجھ سے چھوٹا شادی شدہ ہے، میرے والد کا ایک آبائی مکان ہے، جس کی مالیت تقریباً دو لاکھ روپے ہے، اس رقم کی شرعاً تقسیم تمام اولادوں پر کس طرح ہوگی؟

المستفتی: محمد سلیم ولد محمد لطیف، کنجری سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر آپ کے والد اپنی زندگی ہی میں اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو حسب مرضی بیوی کو جو کچھ دینا چاہیں دے دیں، اس کے بعد لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہوگا اور تمام جائیداد کی قیمت لگا کر یا آپس کی تراضی سے جو جدھر کا حصہ لینا چاہے تقسیم کر دیا جائے؛ لہذا دو لڑکے اور پانچ لڑکیوں کے درمیان کل جائیداد سات حصوں میں تقسیم ہوگی، ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ کے والد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد شرعی طور پر وارثین کے درمیان ترکہ تقسیم ہو جائے اور وہ زندگی ہی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد کس کو کتنا ملے گا، تو کل جائیداد حسب ذیل نقشہ کے مطابق تقسیم ہوگی:

والد می							
بیوی	لڑکا	لڑکا	لڑکی	لڑکی	لڑکی	لڑکی	لڑکی
$\frac{1}{9}$	۱۴	۱۴	۷	۷	۷	۷	۷
۲۵۰۰۰	$\frac{۸}{۹}$	$\frac{۸}{۹}$	$\frac{۴}{۹}$	$\frac{۴}{۹}$	$\frac{۴}{۹}$	$\frac{۴}{۹}$	$\frac{۴}{۹}$

مرنے کے بعد کل ترکہ ۲/۷ سہام میں تقسیم ہو کر ہر وارث کو اتنا ملے گا جو اس کے نیچے درج ہے، دونوں طرف کے مسئلے ہم نے بیان کر دئے، اب آپ کے والد کو اختیار ہے جو طریقہ چاہیں اپنالیں۔

یکرہ تفضیل بعض الأولاد علی البعض فی الہبۃ حالۃ الصحۃ إلا لزیادۃ فضل لہ فی الدین، وإن وہب مالہ کلہ لواحد جاز قضاء، وهو آثم -إلی قولہ- وفي الخلاصة، المختار المستویۃ بین الذکر والأُنثی فی الہبۃ.

(البحر الرائق، کتاب الہبۃ، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زکریا ۷/ ۴۹۰، شامی، کراچی ۵/ ۶۹۶،

زکریا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/ ۴۹۷) فقط واللہ علم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۱/۲۰ھ

(الف توئی نمبر: ۷۴۲۲/۳۶)

زندگی میں تقسیم سے متعلق ایک سوال و جواب

سوال [۹۵۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: فریق اول اکبر علی نے اپنا ایک بیان تحریر کیا، جس سے ان کے تین بھائی متفق ہیں، اکبر علی کا بیان حسب ذیل ہے: زہد ایک متمول اور مخیر شخص تھا، اس کے چھ لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک لڑکے کا انتقال زہد کی زندگی میں ہو گیا، مرحوم لڑکے کا ایک لڑکا اور لڑکی موجود ہے، جن کو زہد نے اپنی حیات ہی میں کچھ جائیداد دے دیا تھا، نیز زہد کی حیات ہی میں موجودہ پانچ لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے الگ رہنے اور الگ کاروبار کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو زہد نے اس لڑکے کا بھی کاروبار الگ کر کے اس کے حوالہ کر دیا، پھر ایک موقع پر ہارڈ کے مرض میں شدت بڑھ گئی اور زندگی سے مایوسی ہو گئی، لڑکوں کو بلا کر دریافت کیا کہ تم چاروں ساتھ رہنا چاہتے ہو، یا الگ؟ اگر الگ رہنا ہے تو تم لوگوں کا حساب و کتاب بھی الگ الگ کر دوں، اس

پر لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے، پھر زاہد نے ایک روز تینوں لڑکیوں کو بلا کر موٹی موٹی رقم ان کے حوالہ کیا اور زبانی فرمایا کہ اگر تمہارا حق میرے انتقال کے بعد زیادہ ہوتا اور میں نے زندگی میں کم دیا تو تم سب مجھے معاف کر دو، اس پر سبھی لڑکیوں نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا، بعد ازیں ایک اور لڑکے نے زاہد کی حیات ہی میں الگ رہنے کی خواہش ظاہر کی، زاہد نے اس کو اپنے اندازے کے مطابق اس کا حق دے کر الگ کر دیا اور بقیہ کاروبار اور جائیداد کے بارے میں زبانی بھی اس کا اظہار فرمایا کہ یہ سب کچھ ان بقیہ تینوں لڑکوں کے حوالہ ہیں۔ اور عملی طور پر بھی اپنے آپ کو بے دخل کر لیا، حتیٰ کہ زاہد نے باوجود بے انتہاء مخیر ہونے کے احباب و متعلقین اور ضرورت مندوں سے یہ کہہ دیا کہ اب مجھ سے لین دین کا معاملہ نہ رکھیں؛ بلکہ از سر نو اپنے روابط لڑکوں سے قائم کریں اور ان تین لڑکوں میں ذمہ دار بڑا لڑکا ہے؛ لہذا جو معمول میرا آپ حضرات سے رہا ہے، اس کے گوش گزار کر دیں، اب وہ جیسا مناسب سمجھیں ویسا کریں، میں دخل نہیں دے سکتا۔

فریق ثانی: اصغر علی کا کہنا ہے کہ مجھ سے میرے باپ زاہد نے بار بار کہا کہ میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ الگ سے دیا ہے، کاروبار میں تمہارا پورا پورا حصہ رہے گا؛ لہذا دریافت طلب امر یہ ہے: زاہد مال و جائیداد مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کے حوالہ کرنے کے بعد واصل بحق ہو گئے۔ اور ایسی صورت میں:

(۱) تقسیم میراث کا معاملہ ہو گا یا نہیں؟

(۲) اگر تقسیم میراث ہو تو کیا جو کچھ زاہد نے لڑکے لڑکیوں کو اپنی زندگی میں دیا اور اس میں جو ترقی ہوئی، ان سب کو اکٹھا کر کے وارثین کے درمیان میراث تقسیم ہوگی یا صرف اس کاروبار اور جائیداد کی تقسیم وارثین کے درمیان ہوگی جو زاہد نے اپنی زندگی میں تین لڑکوں کو مشترک طور پر دیا ہے؟

(۳) کیا تین بیٹوں کو مشترک طور پر بلا تقسیم کئے بقیہ کاروبار جملہ جائیداد اور نقدی رقم پر قابض و ذخیل بنا دینے سے بہہ شرعاً صحیح اور تام ہو گیا اور اب اس میں وراثت جاری نہیں

ہوگی، جب کہ ان تینوں بیٹوں نے زاہد کی حیات تک اس کو آپس میں تقسیم بھی نہیں کیا تھا؛ کیوں کہ (فتاویٰ رحیمیہ ۱۰/۲۶۳، احسن الفتاویٰ ۷/۲۶۱) دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ تام اور مفید ملک نہیں ہوگا۔

(۴) فریق ثانی اصغر علی کے بیان کا شرعاً اعتبار ہوگا یا نہیں؟ خلاصہ سوال یہ ہے کہ بقیہ کا روبرو اور جملہ جائیداد اور نقدی رقوم وغیرہ کے مالک زاہد کے صرف مذکورہ بالا تینوں بیٹے ہی ہوں گے یا زاہد کی سب اولادیں بیٹے، بیٹیاں اس میں حصے پانے کے حق دار ہوں گے؟

المستفتی: محمد ضیاء الدین قاسمی، مدرسہ وصیۃ العلوم روشن باغ، الہ آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کے مضمون کو شروع سے آخر تک بار بار غور کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی، اس کا پورا حاصل یہ نکلا کہ باپ نے اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کے بارے میں یہ انتظام کر دیا ہے کہ موت کے بعد وارثین اور اولاد میں کسی قسم کا جھگڑا اور اختلاف نہ ہونے پائے اور زندگی میں اولادوں کو دینے میں ان میں سے کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رہا ہے، پہلے ایک لڑکے کو ایک تخمینہ حصہ دے کر کے الگ کر دیا، پھر اس کے بعد تینوں لڑکیوں کو ایک موٹی رقم دے کر ان سے کمی بیشی کی معافی کرائی، پھر اس کے بعد باقی چار لڑکوں میں سے ایک کی خواہش پر اس کو بھی تخمینہ حصہ دے کر الگ کر دیا اور ما بقیہ تمام ملکیت کے بارے میں کہہ دیا کہ باقی لڑکوں کو دے کر انہیں قابض بنا دیا، چنانچہ لین دین کرنے والوں سے بھی کہہ دیا کہ اب میرا کچھ نہیں ہے، انہیں لڑکوں کی ملکیت ہے، انہیں کا قبضہ ہے، معاملات سب انہیں سے کیا جائے، میرے ساتھ نہیں، یہ سب باتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ زندگی میں سب اولاد کو دے کر کے انہیں قابض بنا دیا ہے۔ اور اپنے آپ کو ملکیت سے بالکل الگ کر لیا اور جس لڑکے سے یہ کہا تھا کہ اب جو دیا جا رہا ہے وہ تمہارا ہی ہے، اور کاروبار میں تمہارا حصہ رہے گا؛ لیکن بعد میں جب سب کو دے کر معاملہ صاف کر لیا اور جس کو کاروبار میں سے حصہ دینے کو کہا تھا، اس کو نہیں دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیٹے

سے ایک وعدہ کیا تھا، مگر وہ وعدہ باپ نے پورا نہیں کیا؛ بلکہ اپنی زندگی میں ما بقیہ دوسرے لڑکوں کو دے کر اس بات کو واضح کر دیا کہ کاروبار میں سے دینے کے لئے جو وعدہ کیا تھا وہ اسے نہیں دینا ہے۔ اور اس پر اس بیٹے نے کسی قسم کی پیش کش بھی نہیں کی، اگر پیشکش کرنا تھا تو باپ کی زندگی ہی میں کرنا چاہئے تھا، اب اس تفصیل کے بعد اصل مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جس لڑکے کو دیا ہے وہ بھی غیر مشترک ہونے کی وجہ سے ہبہ اور قبضہ بالاتفاق درست ہے اور صحیح ہو گیا، اس کے بعد تینوں لڑکیوں کو جو دیا ہے اس میں بھی ہبہ اور قبضہ بالاتفاق درست ہے، پھر اس کے بعد چار لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو الگ کر دیا ہے، اس میں بھی ہبہ اور قبضہ بالاتفاق درست ہو گیا۔ اور مرحوم بیٹے کی اولاد کو جو کچھ ہبہ کر دیا ہے وہ بھی درست ہو گیا، اب صرف مسئلہ ان تین بیٹیوں کے بارے میں ہے جن کو مشترک طور پر بقیہ ملکیت کا ہبہ کیا گیا ہے، جس میں وہ تینوں بیٹے ایک ساتھ رہنے پر رضامند ہیں، تو اب یہ مشترک ہبہ درست ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں صاحبین اور امام صاحب کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مشترک ہبہ فاسد ہے، باطل نہیں، واہب اور اس کے ورثاء کو رجوع اور استرداد کا حق باقی رہے گا؛ لیکن ہبہ فاسدہ میں قبضہ کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یہی مفتی بہ قول ہے۔

الہیة الفاسدة تفید الملک بالقبض ، وبہ یفتی . (الدرالمختار مع الشامی،

کتاب الہیة، زکریا ۸/ ۴۹۶، کراچی ۵/ ۶۶۲)

وفي جامع الفصولین، والبنزازیة: أن الہیة الفاسدة تفید الملک

بالقبض، وبہ یفتی، فقد اختلف التصحیح؛ لكن لفظ الفتوی أكد من لفظ

التصحیح، كما أفاده في بعض المعتمبرات . (مجمع الأنهر، کتاب الہیة، دارالکتب

العلمیة بیروت ۳/ ۴۹۵، مصری قدیم ۲/ ۳۵۶، تنقیح الفتاوی الحامدیة ۲/ ۸۵، درر

الحکام، شرح غرر الحکام ۲/ ۲۱۸-۲۱۹)

اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک یہ مشترک ہبہ قبضہ کی وجہ سے جائز اور درست ہوگا؛ لہذا صاحبین کے قول کے مطابق مسئلہ بالکل صاف شفاف ہو گیا کہ ہبہ بھی درست ہو گیا اور قبضہ بھی صحیح ہو گیا اور ملکیت بھی ثابت ہو گئی۔ اور سوال نامہ میں جس خاندان کا ذکر کیا گیا ہے اس خاندان میں ہر فرد کو اپنے اپنے حقوق مل چکے ہیں، اب اگر بعد کے مشترک تین افراد کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ کے قول کو پیش نظر رکھ کر مسئلہ بتایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تین کے علاوہ بقیہ دو لڑکے اور تینوں لڑکیوں کو جو کچھ مل چکا ہے وہ تو ان کی جیب میں رہے گا، اس کے بعد مشترک طور پر تینوں لڑکوں کو جو کچھ ملا ہے، اس میں سے بھی برابر کا حصہ ان دونوں لڑکوں کو مل جائے اور تینوں لڑکیوں کو بھی پھر دوبارہ ملے تو ایسی صورت میں مشترک تینوں لڑکوں پر ایک قسم کی زیادتی ہے؛ اس لئے احقر خاص طور پر مذکورہ خاندان کے بارے میں حضرات صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا مناسب سمجھتا ہے۔ اور اسی کو صحیح قرار دیتا ہے۔ عربی عبارات ملاحظہ فرمائیے:

و ذکر عصام: أنها تفيد الملك، وبه أخذ بعض المشايخ. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸ / ۹۵، كراچي ۵ / ۶۹۲، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۵ / ۹۴، زكريا ۶ / ۵۵)

هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة صحيحة عندهما، و فاسدة عند الإمام، وليست بباطلة، حتى تفيد الملك بالقبض، و ذكر صدر الشهيد: إذا وهب من رجلين ما يحتمل القسمة، حتى فسدت الهبة عنده، ثم قبضها يثبت الملك ملكا فاسدا، قال: وبه يفتى، ولا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض هو المختار. (هندية، الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وفيما لا يجوز، زكريا جديد ۴ / ۴۰۰، قديم ۴ / ۳۷۸)

ولو وهب داره من رجلين لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، و كذلك كل ما يقسم، وقال أصحابه رحمه الله تعالى: جاز. (قاضي

خان، کتاب الہیة، فصل فی ہبۃ المشاع، زکریا جدید ۳/ ۱۸۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/ ۲۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۲/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۵۵۰)

زندگی میں شرعی ورثاء کے درمیان نقدی رقم تقسیم کرنا

سوال [۹۵۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے پاس دو لاکھ پچیس ہزار روپے ہیں، ان روپیوں کو اپنے ورثاء میں زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میری ایک بیوی ہے، چھ لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں، شرعاً ہر ایک کو کتنا حصہ دوں اور اپنے پاس کتنا رکھوں؟ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: عبدالرشید رحمہ اللہ اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ اپنے پاس جتنا رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں اور بیوی کو بھی اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہیں دے دیجئے، اس میں بھی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اور اولاً اپنا اور بیوی کا حصہ حسب منشا نکال کر بقیہ رقم اپنی تمام اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیجئے۔ اور زندگی میں تقسیم کرنے سے لڑکی کو لڑکے کے برابر ملتا ہے؛ اس لئے بقیہ رقم آٹھ سہام میں تقسیم کر کے ہر ایک کو ایک ایک حصہ دید دیجئے۔

يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (درمختار، کتاب الہیة،

زکریا ۸/ ۵۰۱، کراچی ۵/ ۶۹۶، ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/ ۳۹۱، جدید ۴/ ۱۶۶، قاضی خان، زکریا جدید ۳/ ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/ ۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۴۹)

اولاد کے مابین زندگی میں فروخت شدہ مکان کی قیمت تقسیم کرنا

سوال [۹۵۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں اختر حسین اپنے مکان کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے لئے کتنا رکھوں اور چھ لڑکے چار لڑکیاں ہیں، ہر ایک کو کیسے تقسیم کروں؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: اختر حسین محلہ مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کی زندگی میں پورا مکان آپ کی ملکیت میں ہے، اس میں نہ کسی اولاد کا حق ہے اور نہ ہی کسی غیر کا۔ اور فروخت کر دینے کے بعد اس کی قیمت بھی مکمل آپ کی ملکیت ہے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے لئے کتنا رکھوں اور لڑکے لڑکیوں کو کتنا کتنا دوں صحیح نہیں؛ بلکہ یہ آپ کے اختیار کی بات ہے، ہاں البتہ زندگی میں جب اولاد کو کچھ دیا جائے تو سب کو برابر دینا چاہئے، آپ کے چھ لڑکے، چار لڑکیاں ہیں، کل دس ہیں، مثلاً اگر ۵۰ ہزار روپے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے اور لڑکی ہر ایک کو پانچ پانچ ہزار روپے ملیں گے۔ اور یہی چیز آپ کی وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، تو لڑکیوں کو لڑکے کا آدھا ملے گا، مثلاً ۳۲ ہزار روپے ہیں تو آپ کی وفات کے بعد لڑکوں کو چار چار ہزار روپے اور لڑکیوں کو دو دو ہزار روپے کے حساب سے تقسیم ہوگا۔

وان قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن،
وعليه الفتوى. (عالمگیری، کتاب الہیة، الباب السادس فی الہیة للصغیر، زکریا جدید
۴/ ۴۱۶، قدیم ۴/ ۳۹۱، شامی، زکریا ۸/ ۵۰۱، قاضی خان، زکریا جدید ۳/ ۱۹۴،
وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۲۵)

زندگی میں ہی لڑکے لڑکیوں کا حصہ متعین کرنا

سوال [۹۵۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اگر کوئی شخص اپنی حیات میں اپنے تمام لڑکوں کو اپنی زمین بانٹ دے اور لڑکیوں کا حصہ اپنی مرضی سے ایک جگہ متعین کر دے، تاکہ مرنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں میں اختلاف نہ ہو سکے اور وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد ہی اپنے اپنے حصوں کے مالک ہو گے، مرنے سے پہلے سب مشترک رہیں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا مفصل جواب مع دلیل کے عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد معراج الحق پورنوی، معلم مدرسہ شاہی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ کا مقصد زندگی میں مالک بنانا نہیں ہے؛ بلکہ مرنے کے بعد میراث کے جھگڑے اور اختلاف سے بچانا ہے، تو ایسی صورت میں شرعی میراث کے مطابق تقسیم نامہ بنا کر شرعی گواہوں کے ساتھ وصیت نامہ تحریر کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس وصیت نامہ کے مطابق متروکہ میراث وارثین کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، چونکہ یہ وصیت ہے، ملکیت نہیں؛ اس لئے اس میں برابری کی شرط نہیں؛ بلکہ آپ کے مرنے کے بعد اولاد کو جو شرعی حصہ ملے گا، اسی کی پیش قدمی کی وصیت ہے، تاکہ باپ کی وفات کے بعد اولاد میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور ایسا کرنا جائز ہے۔

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ . [سورة النساء: ۱۱]

﴿أو إصلاح بين الناس﴾ والمراد من الإصلاح بين الناس: التأييف

بينهم بالمؤدة إذ اتفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع

الشريف. الخ (روح المعاني، زكريا ۴ / ۲۱۲)

والصلح خیر: أي من الفرقة، وسوء العشرة، أو من الخصومة. (روح المعاني، زکریا ۴/ ۲۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶/ یقعدہ ۱۳۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/ ۱۰۵۶۳)

زندگی میں مکان تقسیم کرنا اور لڑکیوں کا حصہ

سوال [۹۵۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے دو لڑکے اور پانچ لڑکیاں ہیں اور سب شادی شدہ ہیں۔ اور زید کا ایک مکان ہے، جس میں تین کمرے ہیں، دو کمروں میں دونوں لڑکے رہتے ہیں اور ایک کمرہ میں خود رہتا ہے۔ اور اس پورے مکان کی قیمت تقریباً تین لاکھ روپے ہوگی۔ اور زید نے ابھی مکان تقسیم نہیں کیا ہے؛ بلکہ ایسے ہی رہتے ہیں اور دونوں لڑکے شادی کے بعد علیحدہ ہو گئے، اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے ہیں، اب زید یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اس مکان کو تقسیم کر دے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس مکان میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے اگر ہے تو لڑکیوں کا کتنا حصہ ہے؟ اور لڑکوں کا کتنا حصہ ہے؟

المستفتی: العبد شفیق احمد چوہیلہ کلاں، امر وہبہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ اپنی زندگی میں ساری جائیداد کے خود مالک ہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی ہی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر کے دینا چاہیں، تو لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہے، آپ کے مرنے کے بعد اگر تقسیم ہوگی، تو لڑکیوں کو لڑکوں کا آدھا ملے گا؛ لہذا اگر زندگی میں تقسیم کر کے دینا چاہتے ہیں تو دونوں لڑکوں کو ایک ایک اور لڑکیوں کو بھی ایک ایک حصہ ملے گا۔ اور اگر زندگی میں تقسیم نہیں کریں گے تو آپ کی

بیوی کا حصہ نکال کر بقیہ جائیداد و حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں لڑکوں کو دو دو اور پانچوں لڑکیوں کو ایک ایک حصہ ملے گا۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية.
(صحيح البخاري، كتاب الهبة، تحت ترجمة الباب الهبة للولد ۱/ ۳۵۲، رقم الباب: ۱۲)
وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد يسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة، كراچی ۵/ ۶۹۶، زكريا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، وكذا في العالمگیری، جديد زكريا ۴/ ۱۶، قديم ۴/ ۳۹۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۵/۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۰/ ۱۱۰۸۷)

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا اور لڑکیوں کو محروم کرنا

سوال [۹۵۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید کا انتقال ہو گیا، ان کے ورثاء میں تین بیٹے: (۱) عمر و (۲) بکر (۳) خالد، تین لڑکیاں: (۱) زینب (۲) فاطمہ (۳) عطیہ، ایک بیوی ذکیہ ہے، ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ (۲) زید کا معمول یہ رہا ہے کہ اپنی زندگی میں جو جائیدادیں یا مکانات خریدتے تھے وہ اپنے لڑکوں کے نام کر دیتے تھے، مقصد یہ تھا کہ بٹوارہ کرتے وقت لڑائی جھگڑانہ ہو، جیسا کہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے، جو جائیداد جس کے نام ہے اس کا مالک وہی ان کی زندگی سے ہی ہے اور اب بھی وہی اس کا مالک ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ ان جائیدادوں کے مالک وہی لڑکے ہیں یا پھر یہ جائیدادیں وراثت کے طور پر تقسیم ہوں گی؟

(۳) مرحوم کی تین لڑکیاں ہیں، جن میں سے دو کی شادی ہوگئی تھی، اور معیاری شادی کی تھی، زیورات جہیز وغیرہ بھی خوب دیا تھا؛ لیکن ایک لڑکی جس کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی، اس کے نام مرحوم نے اس مقصد سے ایک مکان خریدا اور اس کے نام رجسٹری بھی کرا دی اور اس کو کرایہ پر دے دیا اور اس کی آمدنی وغیرہ اسی کے کھاتے میں جمع کرتے تھے، تاکہ آئندہ زندگی میں اگر اس کی شادی نہ ہو سکے؛ اس لئے کہ عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو یہ کسی کی محتاج نہ رہے اور بھائیوں کے لئے بوجھ نہ رہے، اور اس کی زندگی اچھی طرح گذر جائے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ وہ مکان اس لڑکی کا ہوگا یا دیگر ورثاء بھی شریک ہوں گے؟

(۴) ایک مکان مرحوم نے اپنی بیوی کے نام خرید کر دیا تھا، تاکہ یہ بھی خالی ہاتھ نہ رہے، یہ مکان بیوی کا ہی ہوگا یا نہیں؟ مرحوم کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا خالد یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ والد نے جو چیزیں ہمارے نام کی ہیں، ان میں سے بہنوں کو دینا ہمارے ذمہ ہے یا نہیں؟ اگر دینا ہے تو صرف ان بہنوں کو دینا ہے جن کو والد نے کچھ نہیں دیا ہے یا سب کو؟

المستفتی: عبداللہ سمبلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مرحوم نے جائیداد وغیرہ ہر بچے کے نام سے خرید کر مالک بنا دیا ہے، تو ان جائیدادوں کے مالک وہی بچے ہیں، جیسا کہ سوال نامہ میں اس کی صاف وضاحت ہے، لہذا مرحوم کے مرنے کے بعد دی ہوئی جائیداد الگ سے وراثت کے طور پر تقسیم نہ ہوگی اور جن کو کچھ نہیں دیا ہے، مرحوم کا فرض تھا کہ ان کے نام بھی کچھ کر دیتے، تاکہ اپنی اولاد کے درمیان یکسانیت برقرار رہتی۔ اور مرحوم کی موت کے وقت میں مرحوم کی ملکیت کی جائیداد یارو پئے پیسہ رہ گئے ہوں وہ شرعی حصہ کے طور پر تقسیم کرنا لازم ہے، اور اس میں سب ورثاء مل کر اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ حصے ان لڑکیوں کو اضافہ کر کے دے دیں، جن کو مرحوم نے کچھ نہیں دیا ہے، تو بھائیوں کی طرف سے ایک اچھا کردار ثابت ہوگا۔ اور

مرحوم نے اپنی بیوی کے نام جو جائیداد کر دی ہے، بیوی کے انتقال کے بعد وہ جائیداد سارے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔

حکم الہبة ثبوت الملك للموہوب له. (تاتارخانیہ، زکریا ۱/۴، ۱۳/۴،

رقم: ۲۱۵۳۷)

لا بأس بتفضیل بعض الأولاد فی المحبة، وكذا فی العطايا إذا لم يقصد به الإضرار فسوی بينهم، يعطى البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى. (شامی، کتاب الہبة، زکریا ۸/۵۰۱-۵۰۲، کراچی ۵/۶۹۶، قاضی خان، زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ ۳/۲۷۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/۳۹۱، جدید ۴/۱۶، بزازیہ، زکریا جدید ۳/۱۲۳، وعلی ہامش الہندیہ ۶/۲۳۷)

المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الہبة. (البحر الرائق، کتاب الہبة،

کوئٹہ ۷/۲۸۸، زکریا ۷/۴۹۰، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/۴۰۰) فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷/زیلعقدہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۱۱/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۵۴۸)

لڑکی کو مکان مع دوکان دینا اور لڑکوں کو کھیت کی زمین

سوال [۹۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے پاس ایک دوکان مع مکان ہے اور پندرہ بیگز زمین ہے، کل زمین کی قیمت تقریباً بیس لاکھ روپے ہے اور دوکان مع مکان کی قیمت تقریباً دس لاکھ روپے ہے، میرے تین لڑکے اور ایک لڑکی ہے، دو لڑکے شادی شدہ ہیں، ایک لڑکی بھی شادی شدہ ہے، میرے تینوں لڑکے نالائق ہیں، کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھتا، میری اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، مجھے اس کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے زندگی میں بٹوارہ نہیں کیا تو تینوں لڑکے دوکان کو فروخت کر دیں گے،

میری خواہش یہ ہے کہ دوکان سے میری ہی اولاد فائدہ اٹھائے؛ لیکن لڑکوں میں یہ اہلیت نہیں ہے، دوکان بھی اس طرح ہے کہ ایک آدمی کودی جائے تو اس کو فائدہ پہنچے گا، تقسیم کرنے پر وہ دوکان بیکار ہو جائے گی؛ اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ دوکان مع مکان اپنی لڑکی کو دے دوں اور کھیت تین بیٹے ہیں، ان کو دے دوں، کیا ایسا کرنا میرے لئے جائز ہے؟ اگر ایسا کرنا میرے لئے جائز نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے جو شکل بنتی ہو اسے تحریر فرمائیں، میرا مقصود یہ ہے کہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔

المستفتی: محمد امجد دھانے پور، ضلع گونڈہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ زندگی میں دینا چاہیں تو لڑکی کو لڑکوں کے برابر دے دیں، ورنہ گنہگار ہوں گے، اس کا آپ تناسب دیکھ لیں کہ دوکان مع مکان دس لاکھ کی بیٹھتی ہے اور پندرہ بیگہ زمین بیس لاکھ کی بیٹھتی ہے تو ہر ایک کو ساڑھے سات سات لاکھ مل جائے گا، ایسا کرنا جائز ہے اور کوئی بچہ اگر زیادہ فرماں بردار ہے تو اس کو زیادہ دینا بھی بلا تردد جائز ہے۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلته ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه. (بخاري شريف، كتاب الهبة، باب الهبة للولد الخ ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۴، ف: ۲۵۸۶)

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك، لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا. وروى عن أبي حنيفة أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل

ما يعطى للابن، و عليه الفتوى. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم جديد ۴/ ۴۱۶، زكريا ۴/ ۳۹۱، البحر الرائق، زكريا ۷/ ۴۹۰، كراچی ۷/ ۲۸۸، قاضي خان، فصل في هبة الوالد لولده، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹) فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۹/۴/۱۲ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳۲۹/۴/۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۵۶۰)

زندگی میں بیوی اور لڑکیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم

سوال [۹۵۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میری پانچ لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، ایک بیوی ہے، میرے پاس صرف ایک مکان ہے، جس میں میں بیوی بچیاں رہتی ہیں، میرا کوئی بھائی اور نہ والد نہ والدہ ہیں، صرف بہن ہے، میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتا ہوں، وہ مکان اپنی بچیوں اور بیوی کے نام کر سکتا ہوں۔

المستفتی: حافظ اشتیاق حسین محلہ کنبہ مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ اپنی زندگی ہی میں اپنی بیوی اور لڑکیوں کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو حسب مرضی بیوی کو جو کچھ دینا چاہیں دے دیں، اس کے بعد کل جائیداد پانچ حصوں میں تقسیم ہوگی، ہر لڑکی کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کس کو کتنا ملے گا تو کل ترکہ ۱۲۰ سہام میں تقسیم ہو کر بیوی کو پندرہ ہر لڑکی کو سولہ سولہ اور بہن کو ۲۵ حصے ملیں گے، جیسا کہ درج ذیل نقشہ سے واضح ہوتا ہے:

اشتقاق می

بیوی	لڑکی	لڑکی	لڑکی	لڑکی	لڑکی	بہن
$\frac{۳}{۱۵}$	$\frac{۱۶}{۱۶}$	$\frac{۱۶}{۱۶}$	$\frac{۱۶}{۱۶}$	$\frac{۱۶}{۱۶}$	$\frac{۱۶}{۱۶}$	$\frac{۵}{۲۵}$

دونوں طرح کے مسئلہ ہم نے بیان کر دئے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے جو طریقہ چاہیں اختیار کر لیں۔

فسوی بینہم يعطى البنت كالا بن عند الثانی، وعلیہ الفتوی . (شامی، کتاب الہبۃ، کراچی ۵/۶۹۶، زکریا ۸/۵۰۱، ۵۰۲، ہندیۃ، زکریا قدیم ۴/۳۹۱، جدید ۴/۴۱۶، قاضیخان زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۳/۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷/ربیع الاول ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۵۵۱)

زندگی میں بیوی اور اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم

سوال [۹۵۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان مندرجہ ذیل مکانات تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میری زیر ملکیت دو مکان ہیں: (۱) مکان مربع ۱۴۳ رگز، جو دو کمروں، تین دوکانوں، ایک بیٹھک اور اوپر کی منزل پر دو کمرے بڑے اور ایک چھوٹا کمرہ پر مشتمل ہے، اسی مکان کے ایک کمرہ میں ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں۔ (۲) دوسرا مکان جس کی آراخی اٹھاسی رگز ہے، وہ دو کمروں، صحن، غسل خانہ ویٹرن وغیرہ پر مشتمل ہے، میرے تین لڑکے: عبدالسلام، محمد اقبال، محمد الیاس اور تین لڑکیاں، سردار جہاں، شمع بیگم، قمر جہاں ہیں، ان میں ایک لڑکا

دوسرا مکان لینے پر راضی ہے اور بقیہ فریق دینے پر بھی راضی ہیں، تو مندرجہ بالا صورت میں ان مکانوں کی شرعاً تقسیم کیسے ہوگی؟

المستفتی: عبدالرحمن اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عبدالرحمن اپنی زندگی ہی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو حسب مرضی بیوی کو جو کچھ دینا چاہیں دے دیں، اس کے بعد لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہوگا اور تمام جائیداد کی قیمت لگا کر یا آپس کی تراضی سے جو جدھر کا حصہ لینا چاہے برابر تقسیم کر دیا جائے؛ لہذا تین لڑکے اور تین لڑکیوں کے درمیان کل جائیداد چھ حصوں میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ اور اگر عبدالرحمن یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد شرعی طور پر وارثین کے درمیان ترکہ تقسیم ہو جائے اور وہ زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا تقسیم ہو تو کل جائیداد ۲۷ سہام میں تقسیم ہو کر بیوی کو نو اور ہر لڑکے کو چودہ چودہ اور ہر لڑکی کو سات سات حصے ملیں گے، جیسا کہ درج ذیل نقشہ سے واضح ہوتا ہے:

عبدالرحمن می

بیوی	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکا	لڑکی	لڑکی
$\frac{1}{9}$	۱۲	۱۲	۱۲	۷	۷	۷

عبدالرحمن کا ترکہ ۲۷ سہام میں تقسیم ہو کر، ہر وارث کو اتنا ملے گا جو اس کے نام کے نیچے درج ہے، دونوں طرح کے مسئلے ہم نے بیان کر دیئے، اب عبدالرحمن جو طریقہ چاہیں اپنا لیں۔

وروی المعلى عن أبي يوسف: أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن، وعليه الفتوى، وهو المختار. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/)

۳۹۱، جدید ۴/۱۶، شامی، کراچی ۵/۶۹۶، زکریا ۸/۵۰۱، ۵۰۲، قاضی خان
جدید زکریا ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۳/۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۲۰)

زندگی میں اولاد اور بیوی کے درمیان جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟

سوال [۹۵۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:
اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اولاد اور ایک بیوی کے درمیان جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شرعاً کیسے
تقسیم ہوگی، کیا بیوی کو بھی اولاد کی طرح برابر حصہ ملے گا؟ اور بذات خود کتنا رکھے گا؟
المستفتی: شبیر احمد جامع مسجد جل گاؤں، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر کوئی شخص اپنی جائیداد اپنی حیات میں تقسیم کرنا چاہے تو
تمام اولاد کے مابین مساوات کا معاملہ کرنا ضروری ہے، یعنی جتنا حصہ لڑکے کو دے اتنا ہی
لڑکی کو دے؛ البتہ بیوی کے سلسلہ میں وہ خود مختار ہے، اپنی صوابدید پر جتنا چاہے دے دے
اور اپنے لئے جتنا چاہے رکھ لے، اس پر کوئی قید نہیں۔

وإن قصدہ فسوی بینہم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعلیہ الفتویٰ.

(درمختار، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/۵۰۱، کراچی ۵/۶۹۶، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/۳۹۱،
جدید ۴/۱۶، قاضیخان زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ ۳/۲۷۹، بزازیہ،
زکریا جدید ۳/۱۲۳، وعلی ہامش الہندیہ ۶/۲۳۷)

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من

الملك. (بیضاوی، کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹/جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۰۹۵)

زندگی میں پوتے، نواسے اور نواسیوں کے درمیان مکان کی تقسیم

سوال [۹۵۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شوہر اور بیوی کا ایک مشترکہ ذاتی رہائشی مکان ہے، ان کی دو اولادوں لڑکے اور لڑکی کا ان کی زندگی میں ہی انتقال ہو چکا ہے، اور کوئی اولاد نہیں ہے، لڑکے کی اولاد میں صرف ایک پوتا ہے، لڑکی کی اولاد میں دونوں نواسیوں ہیں، دونوں کا اپنا یہ ذاتی رہائشی مکان اپنی زندگی ہی میں اپنی خوشی سے اپنے لڑکے مرحوم کی اولاد پوتے کو اور اپنی لڑکی مرحومہ کی اولاد میں نواسے اور نواسیوں کو دینے کا ارادہ ہے، تاکہ ان کے بعد پوتا اور نواسے دونوں نواسیوں اس مکان کی حق دار رہیں؛ لہذا از روئے شریعت اس رہائشی مکان کا پوتے کو کس قدر حصہ اور نواسے کو کس قدر حصہ تقسیم کر کے باضابطہ تحریر کرنا چاہئے؟

المستفتی: محمد شریف، ساکن کانگی نارہ، آندھرا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ دونوں اپنے مکان کے مالک ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اس مکان میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، آپ اپنی زندگی میں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں؛ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ آپ کے تصرف کرنے سے کسی مستحق کا حق نہ مارا جائے؛ لہذا مذکورہ بالا سوال میں آپ کے مرنے کے بعد صرف آپ کا پوتا وارث بنے گا، نواسے اور نواسیوں کو کچھ نہیں ملے گا، جب آپ کا وارث شرعی پوتا ہے، جو آپ کے بعد پورے مکان کا مالک بنے گا؛ تو اگر آپ نواسے اور نواسیوں کو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اس کی دو شکلیں ہیں: (۱) اپنی زندگی میں بطور ہبہ نواسے اور نواسیوں کو دے کر قبضہ دے دیں اور رجسٹری بھی کرادیں۔ (۲) ایک تہائی سے کم مقدار کے بارے میں نواسے، نواسیوں کے لئے وصیت کر دیں اور گواہوں کے ساتھ رجسٹری بھی کر دیں، تو آپ دونوں کی وفات کے بعد ایک تہائی سے کم مقدار جس کی وصیت کی گئی ہے، وہ نواسے، نواسیوں کو مل جائے گا، ان دونوں شکلوں

کے علاوہ آپ کے نواسہ اور نواسیوں کو آپ کی جائیداد میں سے ملنے کے لئے کوئی اور شکل نہیں ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتاب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

وإن كان ماله كثيراً، فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث، ويترك المال لورثته، وإن كان ورثته أغنياء، فالأفضل الوصية بالثلث، ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من الوصية به للأجانب. (بدائع الصنائع، كتاب الوصايا، ذكرها ۶/ ۴۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۶/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۵/۸۰)

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی صورت میں پوتوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟

سوال [۹۵۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: احقر کے چھ لڑکے، دو لڑکیاں، ایک بیوی ہے، میری کچھ میراث ہے، میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ (۱) چھ لڑکوں میں سے پانچ حیات ہیں، دو لڑکیاں ایک بیوی، میری میراث سے کس کا کتنا حق بنتا ہے؟ لڑکیاں شادی شدہ ہیں، میں بیمار رہتا ہوں، اپنے جیتے جی تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔

(۲) میرے بڑے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پانچ بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، اس کے بچوں کو کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے کوئی حق میری میراث میں بنتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: اشتیاق حسین سہسپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے

برابر دینا لازم ہے۔ اور آپ اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا اولاً بیوی کو دے دیں اور بڑے لڑکے کی اولاد کو بھی جتنا اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں دے دیں؛ اس لئے کہ ان کے لئے کوئی شرعی حق نہیں ہے؛ بلکہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے، اس کے بعد بقیہ جائیداد سات سہام میں تقسیم کر کے ہر ایک لڑکے اور لڑکی کو ایک ایک سہام دے دیں۔

فسوی بینہم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعلیہ الفتوی، ولو
 وهب في صحته كل المال للولد جاز واثم. (درمختار، کتاب الہیبة، کراچی ۵/ ۶۹۶،
 زکریا ۸/ ۵۰۱، قاضی خان، زکریا جدید ۳/ ۱۹۴، وعلی ہامش الہندیہ ۳/ ۲۷۹،
 البحر الرائق، کوئٹہ ۷/ ۲۸۸، زکریا ۷/ ۴۹۰، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/ ۴۰۰)
 فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۳۳)

زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی صورت میں پوتوں اور نواسوں کو دینا

سوال [۹۵۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عائشہ بیگم جن کا مکان ہے، ان کی تین اولادیں ہیں: (۱) لڑکا عبدالوحید (۲) صاحبزادی (۳) سائرہ خاتون، جگہ ۱۰۶ اکرز ہے، ہر کسی کے حصے میں کتنی زمین آتی ہے؟
 نوٹ:- عبدالوحید کا عائشہ کے سامنے ہی انتقال ہو گیا؛ لیکن عائشہ بیگم اپنے پوتوں کو حصہ دینا چاہتی ہیں، شرعاً کتنا کتنا حق ملے گا؟ اور صاحبزادی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کی اولاد کو بھی دینا چاہتی ہے، کتنا کتنا دیں؟ جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: انور حسین اصلت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں عائشہ کو اختیار ہے، چاہے جتنا حصہ

دے دیں؛ لیکن کسی مستحق کو محروم کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، چنانچہ اپنی زندگی میں اپنے نواسے اور پوتوں کو بھی کچھ حصہ دے سکتی ہیں، شرعاً ان لوگوں کے لئے کوئی حصہ متعین نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۴۳۷، جدید ڈابھیل ۲۰/۴۷۵)

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتاب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

کل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحجلة رستم ۱/۶۵۴، رقم

المادة: ۱۱۹۲)

الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (الموسوعة

الفقهية الكويتية ۱۴/۲۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ رذیقعدہ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۳۳)

زندگی میں بیٹے پوتے اور بہو کو کچھ دینا

سوال [۹۵۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: جناب چودھری خلیل احمد صاحب کے دو صاحبزادے تھے، جمیل احمد صاحب، وکیل احمد صاحب، ان میں سے بڑے صاحبزادے جمیل احمد صاحب کا عرصہ بارہ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کی حیات میں گھر و جائیداد کی کوئی تقسیم نہیں ہوئی تھی، کچھ آراضی کے وہ بھی مالک تھے، ان کے نام بھی آج تک سرکاری کاغذات میں زمین درج ہے، ان کے پسماندگان میں ان کی بیوی مسماة سلمیٰ خاتون اور ایک لڑکا عباد الرحمن اور ایک لڑکی گلشن بانو بقید حیات ہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب چودھری خلیل احمد صاحب اپنی حیات میں اپنی جائیداد وغیرہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور خود اپنا بھی حصہ رکھنا چاہتے ہیں، اب یہ حضرات بقید حیات

ہیں، ان کا لڑکا وکیل احمد مرحوم جمیل احمد کی بیوی سلمیٰ مرحوم کا لڑکا عباد الرحمن مرحوم کی ایک لڑکی گلشن بانوان مذکورہ بالا حضرات کے مابین جائیداد مذکورہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ اور کس کو کتنا حصہ پہنچے گا؟ ہم صرف چودھری خلیل احمد صاحب کی جائیداد سے متعلق معلوم کر رہے ہیں، مرحوم جمیل احمد کی جائیداد سے متعلق نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آدمی اپنی حیات میں اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، اس میں اس کو ہر طرح کے تصرفات کی اجازت ہے؛ اس لئے خلیل احمد صاحب اپنے بیٹے، پوتے، پوتیاں اور بہو کے درمیان جس طرح اپنی ملکیت تقسیم کرنا چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں اور جتنا مال اپنے لئے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں؛ البتہ خلیل احمد کے انتقال کے وقت اگر وکیل احمد زندہ رہے تو اس صورت میں وہ تمام مال کے مالک ہو جائیں گے اور پوتے، پوتیاں سب محروم ہو جائیں گی؛ البتہ خلیل احمد اپنی زندگی میں پوتے، پوتیاں اور بہو کو جو کچھ دے دیں گے اس کے وہ مالک ہو جائیں گے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

المالک للشيء هو الذی يتصرف فيه باختياره ومشيئته. (بدائع

الصنائع، کتاب النفقة، فصل في بيان ما يبطل به الخيار، زكريا ۲/۶۳۸، کراچی ۲/۳۲۷)

يتصرف المالک في ملكه كيف شاء. (البنایة، أشرفيہ ديوبند ۸/۲۱۹)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۸/۱۷ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ شعبان ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۵۸۷۹)

زندگی میں جائیداد بھانجی بھانجیوں کو ہبہ کرنا

سوال [۹۵۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سید محمود حسن نے اپنی زندگی میں بحالت ہوش و حواس اپنا مملوکہ مکان ۱۸۸ رگزار اپنے چار بھانجے: (۱) اشرف علی (۲) مسرت علی (۳) انجم علی (۴) منور علی، ایک بھانجی قمر جہاں کے درمیان برابر برابر ہبہ کر کے قابض و مالک بنا دیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔

(۲) اس کے بعد قمر جہاں کا بغیر شادی ہوئے انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء میں چار بھائی: (۱) اشرف علی (۲) مسرت علی (۳) انجم علی (۴) منور علی، دو بہنیں: (۱) آفتاب جہاں (۲) مہر جہاں ہیں۔

(۳) پھر اشرف علی کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں دو لڑکے فیصل اشرف (۲) سید کمال اشرف اور ایک لڑکی ارم اشرف ہیں۔

(۴) پھر مسرت علی کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں ایک بیوی فرحت جہاں، تین لڑکے: (۱) صدق علی (۲) صد علی (۳) عمر آصف اور چار لڑکیاں: (۱) شائستہ مسرت (۲) شگفتہ مسرت (۳) ثمرین مسرت (۴) امین مسرت کو چھوڑا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ مکان میں سے ہر وارث کو کتنا کتنا ملے گا؟

المستفتی: فیصل اشرف محلہ لاکڑی والان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محمود حسن کی طرف سے اپنے چار بھانجیوں اور ایک بھانجی کے لئے جو ہبہ ہوا ہے، وہ ہبہ مشاع کی ایک شکل ہے اور اس طرح ہبہ حضرات صاحبین کے نزدیک جائز اور درست ہے؛ لیکن جب ہبہ مبہم ہے کس کے لئے کتنا کتنا ہے، اس کی صاف وضاحت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سب کو برابر ملے گا، بھانجی کو بھی بھانجیوں کے برابر ملے گا؛ لہذا کل مال برابر ۵ حصوں میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا جو آگے آنے والے نقشہ سے واضح ہوتا ہے۔ عربی عبارات ملاحظہ فرمائیے:

ولو وهب من اثنين إن كانا فقيرين يجوز بالإجماع كالصدقة، وإن كانا غنيين فوهب لكل واحد منهما نصفاً أو أبهم، فقال: وهبت منكما، أو وهب على النفاضل، فقال: لهذا ثلثها، ولهذا ثلثاها، قال أبو حنيفة: لا تجوز في الفصول الثلاثة، وقال محمد: تجوز في الثلاثة، وقال أبو يوسف: تجوز في فصلين، وهما إذا وهب بهما أو نصفين. (هندية، كتاب الهبة، الباب الثاني، زكريا قديم ۴/۳۷۸، جديد ۴/۴۰۰، بدائع الصنائع، زكريا ۵/۷۴، الفقه الإسلامي ۴/۶۸۸)

ذیل کے نقشوں سے حصوں کی تعیین ملاحظہ فرمائیے اور مرنے والوں کی ترتیب سے مسئلہ مناسخہ بھی ملاحظہ فرمائیے:

میت				
بھانجہ	بھانجہ	بھانجہ	بھانجہ	بھانجہ
اشرف	منور	انجم	مسرت	قمر جہاں
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	۱
	$\frac{50}{200}$	$\frac{50}{200}$	۵۰	

قمر جہاں میت					
بھائی	بھائی	بھائی	بھائی	بھائی	بھائی
اشرف	مسرت	انجم	منور	آفتاب جہاں	مہر جہاں
۲	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{20}$
	۱۰	$\frac{10}{40}$	$\frac{10}{40}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{5}{20}$

ت

لڑکی	لڑکا	لڑکا
ارم	کمال اشرف	فیصل
$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{23}$	$\frac{2}{22}$
۴۸	۹۶	۹۶

ت

لڑکی	لڑکی	لڑکی	لڑکی	لڑکا	لڑکا	لڑکا	بیوی
فرحین	ثمرین	شگفتہ	شائستہ	عمر	صمد	صدف	فرحت
$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{12}{22}$	$\frac{12}{22}$	$\frac{12}{22}$	$\frac{1}{30}$
۷	۷	۷	۷	۱۴	۱۴	۱۴	۳۰

الاحیاء

ترکہ	سہام	ورثاء	ترکہ	سہام	ورثاء
۷	۴۲	صدف علی	۴۵	۲۴۰	انجم علی
۷	۴۲	صمد علی	۴۵	۲۴۰	منور علی
۷	۴۲	عمر آصف	۳	۲۰	آفتاب جہاں
۳	۲۱	شائستہ	۳	۲۰	مہر جہاں
۳	۲۱	شگفتہ	۱۸	۹۶	فیصل اشرف
۳	۲۱	ثمرین	۱۸	۹۶	کمال اشرف
۳	۲۱	فرحین	۹	۴۸	ارم اشرف
			۵	۳۰	فرحت جہاں

کل مکان ۱۰۰۰ ارحصوں میں تقسیم ہو کر، ہر وارث کو اتنا اتنا ملے گا جتنا اس کے نام کے سامنے درج ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۱۶/۴۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۱/۱۸ھ

زندگی میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق چند سوالات کے جوابات

سوال [۹۵۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے والد صاحب نے تین شادیاں کیں، پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے اور بیوی بھی انتقال کر گئی، دوسری بیوی سے صرف ایک لڑکا اور والدہ انتقال کر گئیں، پھر میرے والد صاحب نے تیسری شادی کی، ان سے چھ لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور ماں بھی حیات ہیں۔

(۱) تو کیا دونوں سے ہم ساتوں بھائی کے حق برابر ہیں اور ماں بھی با حیات ہیں اور تین بہنوں کے کیا حقوق ہیں؟

(۲) کیا میرے والد اپنی وراثت کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم سب بھائی بہن ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(۳) کیا ہمارے والد صاحب اپنے حقوق کسی ایک لڑکا یا لڑکی کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(۴) اگر کوئی اولاد والد کو پریشان کرے تو اسے وراثت سے بے دخل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(۵) اگر والد صاحب اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہیں تو کس طرح تقسیم کریں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: نفیس احمد بارہ درمی سرائے حسینی بیگم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) والد صاحب کی وفات کے بعد دونوں بیویوں کی اولاد اور دونوں بیویاں حصص شرعیہ کے حق دار ہیں، یعنی بیویاں آٹھویں حصہ اور لڑکے لڑکی کے مقابلہ میں ڈبل کے حق دار ہوں گے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. [النساء: ۷]

ثم يقسم الباقي بين ورثته الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسنة. (درمختار، کتاب الفرائض، زکریا ۱۰ / ۱، ۴۹۷، کراچی ۶ / ۷۶۱، سراجی ص: ۵، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۴ / ۴۹۵، مصری قدیم ۲ / ۷۴۷، البحر الرائق، کوئٹہ ۸ / ۴۸۹، زکریا ۹ / ۳۶۴)

لہذا دونوں بیویوں کی اولاد میں تفریق کرنا شرعاً درست نہ ہوگا۔

(۲) آپ کے والد صاحب کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے سلسلے میں مکمل اختیار ہے کہ وہ اس کو فروخت کر دیں، اولاد کو اس سلسلے میں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا شرعاً کوئی حق نہیں ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشدیہ دہلی ۱ / ۷)

(۳) اولاد میں سے صرف ایسی اولاد کو اپنی جائیداد فروخت کرنا جائز ہے کہ جو باپ کی فیملی سے علیحدہ ہو۔ اور جو اولاد باپ کی فیملی میں شریک ہو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس بیٹے کی تمام کمائی کا مالک شرعاً باپ ہی ہے۔

(۴) اگر کوئی لڑکا باپ کا نافرمان ہے، تو باپ کو شرعاً اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس نافرمان اولاد کو نہ دے کر دیگر فرماں بردار اولاد کو مال تقسیم کر دے؛ لیکن اگر بیٹے نے نام ہو کر باپ سے معافی تلافی کر لی ہے، تو باپ کو شفقت اور رحم کا معاملہ کرتے ہوئے بیٹے کو معاف کر دینا چاہئے۔

ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له. (البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷ / ۴۹۰،

کوئٹہ ۷ / ۲۸۸)

لابأس - بأن - لا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر،

كتاب الهبة، دارالکتب العلمیة بیروت ۳ / ۴۹۷، مصري قديم ۲ / ۳۵۸)

(۵) اگر آپ کے والد اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کریں، تو یہ ہبہ اور عطیہ ہے، جس میں تمام اولاد کے درمیان برابری کرنا لازم ہے، خواہ لڑکی ہوں یا لڑکا، تمام کو برابر برابر دینا چاہئے۔

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷ / ۴۹۰، كراچی ۷ / ۲۸۸، خلاصة الفتاوى ۴ / ۴۰۰)

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند أبي يوسف

أن يعطيهم على السواء، وهو المختار كما في الخلاصة. (مجمع الأنهر،

كتاب الهبة، دارالکتب العلمیة بیروت ۳ / ۴۹۷، مصري قديم ۲ / ۳۵۸) فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ / رجب ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۷/۲۳

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۲۸۵۴)

زندگی میں تقسیم میراث اور وراثت کے حق میں وصیت کیسے ہو؟

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ!

مورث کی موت کے بعد عام طور پر تقسیم میراث کے بارے میں اعتدال باقی نہیں رہتا، لڑکیوں کو تو حیلہ بہانہ سے کسی طرح دست بردار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لڑکوں کے درمیان میں بھی صحیح طور پر مساوات قائم نہیں ہوتی؛ اس لئے مورث اپنی زندگی میں ضابطہ شرعی کے مطابق تقسیم کر کے حصوں کی تعیین کر دے۔ اور وراثت کو موت کے بعد اسی تقسیم کو بروئے عمل لانے کی وصیت کر دے تو کیسا ہے؟ اسی طرح بیوی اور اجنبی کے حق میں بھی کبھی وصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مضمون اسی طرح کے مسائل سے متعلق ہے۔ تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیے:

زندگی میں ترکہ تقسیم کرنا

اگر آدمی اپنی موت سے قبل زندگی میں اپنی جائداد اور مال متروک اولاد کے درمیان تقسیم کر دینا چاہتا ہے، تاکہ اس کی موت کے بعد اولاد کے درمیان کسی قسم کے جھگڑے اور لڑائی کی نوبت نہ آسکے، تو اس کی دو شکلیں ہیں: (۱) ہبہ کی شکل (۲) وصیت کی شکل۔

(۱) ہبہ کی شکل: زندگی میں تقسیم کر کے مالک بنا دینا

زندگی میں اولاد کے درمیان جائداد اور سرمایہ کو تقسیم کر کے مالک بنا دیا جائے، تاکہ مرنے کے

بعد کسی قسم کے جھگڑے کی نوبت نہ آسکے، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ہبہ کے حکم میں ہو جائے گا۔ اور زندگی میں جب اولاد کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا جائے تو اس حصہ اور عطیہ میں اولاد کے درمیان مساوات اور برابری قائم رکھنے میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے، مگر اس میں دو باتوں میں اختلاف ہے: (۱) یہ حکم مستحب ہے یا واجب؟ (۲) ذکور و اناث دونوں میں مساوات کا حکم ہے یا لگ الگ؟

پہلی بات: یہ حکم مستحب ہے یا واجب؟

حضرت امام احمد بن حنبلؒ، اسحاق بن راہویہؒ، سفیان ثوریؒ، مجاہد بن جبیرؒ، عروہ بن زبیرؒ، طاؤس بن کیسانؒ اور داؤد بن علی ظاہریؒ وغیرہ کے نزدیک تساوی اور برابری قائم رکھنا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم واجب نہیں ہے؛ بلکہ صرف مستحب ہے اور اس کی خلاف ورزی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور دونوں فریق حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں حضرت سید الکونین علیہ السلام کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلَادِكُمْ. (بخاری ۱/۳۵۲، مسلم ۲/۲۷)

پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان
برابری قائم رکھو۔

اس عبارت کو فریق اول و دوم پر محمول کرتے ہیں۔ اور جمہور علماء اس کو استتباب اور ندب پر محمول فرماتے ہیں؛ کیوں کہ مسلم شریف میں اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں:

فَأَشْهَدُ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ:
أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي
الْبُرِّ سَوَاءً قَالَ: بَلَىٰ، فَقَالَ فَلَا إِذْنَ.

لہذا تم اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو پھر فرمایا
کیا تم کو یہ بات اچھی لگے گی کہ تمہاری اولاد
تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں برابر ہوں؟ تو

کہا: جی ہاں تو آپ نے فرمایا: یہ بھی ایسا ہی ہے۔

(مسلم ۲/۲۷، رقم: ۱۶۲۳)

حدیث شریف کی اس عبارت پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے

لئے نہیں ہے؛ بلکہ ترغیبی اور استجابی ہے؛ کیوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولادیں تمہارے ساتھ بھلائی اور تمہاری خدمت کرنے میں برابر ہوں، ایسا ہی اولادیں بھی چاہتی ہیں کہ عطیہ دینے میں ان کے درمیان برابری ہو؛ لہذا ”فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ“ میں امرکا صیغہ و جواب کے لئے نہیں بلکہ اس میں امرکا صیغہ ترغیب کے لئے ہے، جو ندب و استجاب کو ثابت کرتا ہے۔

اب حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

(۱) عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي هَذَا مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. (بخاری شریف

۱/۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۲،

مسلم ۲/۲۷، رقم: ۱۶۲۳)

حضرت امام عامر شعیبیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیرؒ کو منبر پر خطبہ دینے میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ایک چیز عطا کر دی تو عمرہ بنت رواحہ (میری والدہ) نے کہا کہ اس وقت تک اس پر راضی نہیں ہوں جب تک اس پر حضور ﷺ کو گواہ نہ بنا لو گے، تو حضور ﷺ کے پاس حاضر ہو کر فرمایا: بے شک میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک چیز عطا کر دی ہے، اس پر عمرہ بنت رواحہ نے مجھے حکم کیا کہ یا رسول اللہ میں اس پر آپ کو گواہ بنا لوں، تو آپ نے فرمایا: کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس کی طرح دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری قائم رکھو، فرمایا کہ انہوں نے لوٹ کر آ کر اپنے عطیہ کو واپس کر لیا۔

(۲) وَتَحْتَهُ فِي النَّوَوِيِّ: فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَالْهَبَةُ صَحِيحَةٌ، وَقَالَ طَاوُسٌ وَعُرْوَةُ وَمَجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ هُوَ حَرَامٌ، وَاحْتَجُّوا بِرَوَايَةِ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ. (وقوله) أَنْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْجَوْرِ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً. (النووي ۲/ ۲۷، حاشیہ بخاری ۱/ ۳۵۲)

اس کے نیچے نوویؒ میں ہے: پس امام شافعیؒ اور امام مالکؒ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور حرام نہیں اور ہبہ صحیح ہو جاتا ہے۔ امام طاووسؒ، عروہ، مجاہدؒ، ثوریؒ، احمدؒ، اسحاقؒ اور داؤدؒ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے ’لا اشہد علی جور‘ سے استدلال کرتے ہیں (میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا)۔ (جمہور استدلال کرتے ہیں) حضور ﷺ کے اس قول سے کہ تم اس پر کسی دوسرے کو گواہ بنا لو، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یقیناً یہ حرام نہیں ہے، پس لفظ جور کی تاویل کرنا لازم ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہی کے طور پر مکروہ ہے۔

دوسری بات: زندگی میں اولاد کو ہبہ کرنے میں مساوات

دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں اولاد کو ہبہ اور عطیہ دینے میں مساوات اور برابری قائم رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں دو صورتیں پیش آتی ہیں:

(۱) مذکور اولاد میں کم و زیادہ کا فرق، ساری اولاد ماں باپ کی خدمت گزاری اور فرماں برداری اور دینداری میں تقریباً برابر ہیں اور ایسے حالات میں بعض کو دے دے اور بعض کو نہ دے کر محروم کر دے تو ہبہ تو فی نفسہ صحیح اور درست ہو جائے گا، مگر باپ گنہگار ہو جائے گا، ہاں البتہ اگر کوئی اولاد نافرمان ہے، یا بے دین ہے، تو اس کو نہ دے کر محروم کر دیتا ہے اور صرف با ادب، دیندار کو دیتا ہے، تو بلا کراہت جائز ہے، باپ گنہگار بھی نہ ہوگا۔

اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

(۱) وَلَوْ وَهَبَ فِي صِحَّتِهِ كُلَّ الْمَالِ لِلْوَلَدِ جَازٍ وَأَثِمٌ . وَفِي الشَّامِيَةِ: وَلَوْ وَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ مِنْ ابْنِهِ جَازٌ قَضَاءً، وَهُوَ آثِمٌ .
(الدر المختار مع الشامی زکریا

۱۲/۶۰۷، کراچی ۸/۴۵۵)

(۲) لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَنْ كَانَ عَالِمًا مُتَادِّبًا وَلَا يُعْطِي مِنْهُمْ مَنْ كَانَ فَاسِقًا فَاجِرًا .
اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنی اولاد میں سے با ادب عالم کو دے دے اور ان میں سے جو فاسق و فاجر ہو اس کو کچھ بھی نہ دے۔

(مجمع الأنهر بیروتی ۳/۴۹۷)

اور اگر ساری اولاد برابر ہیں کوئی بھی نافرمان نہیں ہے اور باپ زندگی میں تقسیم کر کے سب کو دیتا ہے، مگر بعض کو کچھ زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے اور دینے میں مساوات اور برابری قائم نہیں رکھتا ہے، مثلاً کوئی لڑکا حصول علم میں مشغول ہے اور اس کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے، یا کوئی معذور اور مجبور ہے، یا کوئی ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے؛ اس لئے اس کو دوسروں سے زیادہ دیتا ہے اور اس میں کسی کو نقصان اور ضرر پہنچانا بھی مقصد نہیں ہے، تو اس طرح زیادہ دینا مباح اور ”للبأس بہ“ کے درجہ میں ہے۔ اور اگر ایسی کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے؛ بلکہ ساری اولاد کے حالات تقریباً برابر ہیں، اس کے باوجود بلا وجہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، تو جس کو کم دیا جائے اس کو بالقصد نقصان و ضرر پہنچانے کے مرادف ہوگا؛ کیوں کہ اس سے اندورنی طور پر اس کی دل شکنی اور دل آزاری لازم آئے گی، ایک باپ کے لئے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے؛ اس لئے ایسا کرنا حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور جمہور علماء کے نزدیک مکروہ ہے؛ کیوں کہ اس میں بلا وجہ بعض اولاد کی دل شکنی ہے اور حدیث شریف کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے:

پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان
برابری کا معاملہ کرو۔

کیا تم کو یہ بات خوش کر دے گی کہ وہ سب کے
سب تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں برابر ہوں، تو
کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا: یہ بھی ایسا ہی ہے۔

اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

حضرت امام ابوحنیفہؒ سے یہی مروی ہے کہ کسی کو
دینی حیثیت سے فضیلت زیادہ ہونے کی وجہ
سے اس کو زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے؛
لہذا اگر دونوں برابر درجہ کے ہیں تو مکروہ ہوگا۔

اور حضرت معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے امام
ابویوسفؒ سے یہی روایت فرمائی ہے کہ اگر
زیادہ دینے میں ضرر و نقصان کا قصد نہ ہو تو
کوئی حرج نہیں اور اگر ضرر و نقصان کا قصد
ہے تو ان کے درمیان مساوات قائم کریں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلَادِكُمْ. (بخاری ۱/۳۵۲)

أَيُّسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي
الْبُرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ:
فَلَا إِذْنَ. (مسلم ۲/۲۷)

(۳) رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ التَّفْضِيلُ
لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي الدِّينِ،
فَإِنْ كَانَا سَوَاءً يُكْرَهُ.

وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي
يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ
يَقْصِدْ بِهِ الْإِضْرَارَ، وَإِنْ قَصَدَ
بِهِ الْإِضْرَارَ سَوَى بَيْنَهُمْ.

(قاضیخان زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلیٰ

ہامش الہندیۃ ۳/۲۷۹، تکملہ شامی

زکریا ۱۲/۶۰۸، کراچی ۸/۴۵۵)

مذکر و مؤنث کے درمیان مساوات

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مذکر و مؤنث اولاد کے درمیان فرق کرتا ہے کہ مذکر کو زیادہ اور
مؤنث کو کم دیتا ہے، تو اس طرح میراث کے اصول کے مطابق مذکر کو مؤنث کے مقابلہ میں دو
گنا اور مؤنث کو مذکر کا نصف اور آدھا دینا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں جمہور علماء کے درمیان

اختلاف ہے، چنانچہ اس میں دو فریق ہیں:

فریق اول: حضرت امام شافعیؒ، امام مالکؒ کے قول مشہور کے مطابق اور حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر کے مالک بنا دینے میں مذکور مؤنث کے درمیان مساوات اور برابری قائم رکھنا مستحب ہے؛ لہذا لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا مستحب ہوگا، اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہوگا۔ اور امام نوویؒ نے کراہت تنزیہی نقل فرمائی ہے۔ اور حنفیہ کا فتویٰ حضرت امام ابو یوسفؒ کے قول پر ہے۔ اور وہ حضرات، حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت سے یہی مراد لیتے ہیں کہ مذکور مؤنث دونوں میں برابری لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے درمیان ہبہ اور عطیہ میں مساوات اور برابری قائم رکھو؛ لہذا اگر میں کسی کو عطیہ میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو مردوں پر فضیلت دیتا۔

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ. (المعجم

الكبير ۱۱/۲۸۰، رقم: ۱۱۹۷)

فریق ثانی: حنا بلہ اور حنفیہ میں سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ کے نزدیک لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دینا مستحب نہیں؛ بلکہ تقسیم میراث کے اصول کے مطابق لالذکر مثل حظ الأنثیین کے ضابطہ سے ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر دینا ہوگا، یہی امام شافعیؒ کا بھی ایک قول ہے؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تاکید کے ساتھ یہی حکم بیان فرمایا ہے؛ لہذا اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ تقسیم کے طریقہ کو اختیار کرنا زیادہ اولیٰ اور زیادہ بہتر ہوگا، اور اس لئے بھی یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اب موت کا وقت قریب ہے اور موت کے بعد اولاد کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے؛ لہذا اس طرح جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لئے پہلے ہی تقسیم کر کے ان کو دے دیا جائے اور آئندہ کسی طرح کے اختلاف کا خطرہ نہ ہو تو یہ بہتر اور مناسب اقدام ہے۔ حضرات فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیے:

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی کو لڑکے کے برابر دے دے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور حاشیہ میں ہے یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، مذکر و مؤنث کے درمیان نصف نصف کرنا اس تثلیث سے بہتر ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بزازیہ میں کہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو ہبہ کرنے میں میراث کی طرح تین حصے کرنا زیادہ افضل ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو حصے کرنا ہے، وہی قول مختار ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذکر کو اس کا دو چند دیا جائے جو مؤنث کو دے اور قول ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ ہے۔

(۲) يُعْطَى الْبِنْتُ كَالابْنِ عِنْدَ الثَّانِي، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَتَحْتَهُ فِي هَامِشِهِ: أَيُّ عَلِيٍّ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ التَّنْصِيفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَفْضَلُ مِنَ التَّثْلِيثِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: الْأَفْضَلُ فِي هِبَةِ الْبِنْتِ وَالابْنِ التَّثْلِيثُ كَالْمِيرَاثِ، وَعِنْدَ الثَّانِي التَّنْصِيفُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ (إِلَى قَوْلِهِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُعْطَى لِلذَّكَرِ ضِعْفَ مَا يُعْطَى لِلْأُنْثَى وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. (درمختار

مع ہامشہ، زکریا ۱۲/۶۰۷، قاضیخان زکریا

جدید ۳/۱۹۴، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۲۷۹)

شیخ و ہبہ زحلی نے اس کو بہت واضح الفاظ سے نقل فرمایا، ملاحظہ فرمائیے:

حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ، شافعیہ نے کہا اور یہی جمہور کی رائے ہے کہ باپ کے لئے مستحب یہی ہے کہ اپنی اولاد مذکر و مؤنث کے درمیان عطیہ اور ہبہ کرنے میں مساوات اور

(۳) قَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رَأْيُ الْجَمْهُورِ يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ

وَإِنَّا فِي الْعَطِيَّةِ فَتُعْطَى
 الْأُنثَىٰ مِثْلَ مَا يُعْطَى الذَّكَرَ
 (إلى قوله) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ
 وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ: لِلْأَبِ
 أَنْ يُقَسِّمَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ عَلَى
 حَسَبِ قِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي
 الْمِيرَاثِ فَيَجْعَلُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ
 حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
 قَسَمَ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ وَأَوْلَىٰ
 مَا اقْتَدَى بِهِ هُوَ قِسْمَةُ اللَّهِ

الخ. (لفقه الإسلامي ۴ / ۷۰۴)

برابری قائم رکھے؛ لہذا مؤنث کو مذکر کے
 ہم مثل دے دے۔ اور حنابلہ اور حنفیہ میں
 سے امام محمدؒ نے فرمایا باپ کے لئے افضل
 یہی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان اسی طرح
 تقسیم کر دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
 میراث میں تقسیم فرمایا ہے؛ لہذا مذکر کو دو
 مؤنثوں کے حصے کے برابر دیا کرے؛ اس
 لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسے
 ہی تقسیم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی
 پیروی کرنا زیادہ اولیٰ اور زیادہ افضل ہے۔

الحاصل: پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ صرف مذکر اولاد کے درمیان تقسیم میں مساوات
 قائم رکھنا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے اور کم زیادہ دینا مکروہ تنزیہی ہے، اور کسی کو دینا اور
 کسی کو بالکل محروم کر دینا ظلم ہے اور باپ گنہگار ہوگا بشرطیکہ کوئی بھی نافرمان نہ ہو، اسی طرح
 مؤنث اولاد میں بھی برابری قائم رکھنا مستحب ہے اور مذکر و مؤنث کے درمیان مساوات کا
 مسئلہ اختلافی ہے، فریق اول حدیث نعمان بن بشیرؓ کے پیش نظر مساوات کے قائل ہیں۔ اور
 فریق ثانی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ تقسیم میراث کے پیش نظر مساوات کے قائل نہیں، اگرچہ
 اکثریت فریق اول کی ہے، مگر دلیل فریق ثانی کی زیادہ مضبوط ہے۔

(۲) وصیت کی شکل: زندگی میں تقسیم کر کے وصیت کر دینا

سوال نامہ میں اسی شکل کی وضاحت طلب کی گئی ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان

تقسیم کر کے ہبہ کرنا نہیں چاہتا اور پوری زندگی مالک ہی رہنا چاہتا ہے اور یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد اور وراثہ کے درمیان کوئی اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آجائے اور اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی موت کے بعد وراثہ کے درمیان تقسیم میراث کا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا اور ہر وارث کو اپنا اپنا حق میراث صحیح طور پر نہیں مل پائے گا، تو اس کے لئے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ تقسیم میراث کے اصول کے مطابق اپنی نگرانی میں زندگی ہی میں تقسیم نامہ تیار کر کے ہر ایک کا شرعی حصہ متعین کر کے وصیت کر دے اور اس کی موت کے بعد اسی وصیت کے مطابق ہر وارث اپنے اپنے متعین حصہ کو حق میراث کے طور پر قبضہ کر لے، آیا اس کے لئے اس طرح زندگی میں وراثہ کے درمیان پیشگی میراث تقسیم کر کے وصیت کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ ”لَا وَصِيَّةَ لِّلرِّجَالِ إِلَّا أَن يُحِيزُوا لِرِّجَالِهِمْ“ الحدیث (دارقطنی ۴/۸۶، رقم: ۲۳۵۲، سنن بیہقی رقم: ۱۲۸۰۳) کے خلاف تو نہیں، تو اس بارے میں کوئی صریح جزیئہ جواز اور عدم جواز سے متعلق احقر کی نظر سے نہیں گذرا، مگر خود اسی حدیث شریف کے ہر پہلو پر غور کرنے سے اس کا جواز سمجھ میں آ جاتا ہے، پہلے پوری حدیث شریف نقل کر دیتے ہیں تاکہ اس کے الفاظ پر اچھی طرح غور ہو سکے۔ حضرت ابو امامہ باہلیؓ کی روایت ترمذی اور ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحبِ حق کو اس کا حق متعین کر کے دے دیا ہے؛ لہذا کسی بھی وارث کے لئے وصیت درست نہیں۔

(۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِّجَالٍ. (ترمذی ۲/۳۲، رقم:

دارقطنی شریف اور سنن بیہقی میں حضرت عمرو بن خارجگی کی روایت میں ”إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةَ“ کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ”إِلَّا أَنْ يَجِيزَ“ کے بجائے ”إِلَّا أَنْ يَشَاءَ“ کے الفاظ ہیں۔ اب حدیث شریف کے الفاظ پر دو طرح سے غور کرنا ہے:

(۱) ”قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ“ ان الفاظ میں صاحب شریعت نے واضح فرمایا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق متعین کر کے مقرر کر دیا ہے، اس کو اس متعین حق سے زیادہ نہیں ملے گا؛ لہذا ”لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ“ کا مطلب واضح ہو گیا کہ اس متعین حصہ سے ہٹ کر وصیت کے ذریعہ الگ سے کچھ نہیں ملے گا، اب اگر مورث اپنی موت سے قبل زندگی میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کو ہر متوقع وارث کے لئے متعین کر کے نامزد کر دے اور مورث کی موت کے بعد ورثاء آپس میں مورث کے تیار کردہ تقسیم نامہ کو وصیت کے مطابق عملی جامہ پہنادیں تو حدیث مذکور کی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی؛ بلکہ اس حدیث پر صحیح طور پر عمل کے لئے ایک خوبصورت پیش قدمی ہے؛ اس لئے زندگی میں اس طرح میراث کے اصول کے مطابق تقسیم کر کے اس پر عمل کرنے کی وصیت کر دینا بلاشبہ جائز اور درست ہوگا۔

(۲) حدیث شریف کا دوسرا جزو ”فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةَ“ اس جزو پر غور کرنا ہے کہ وارث کے لئے نفس و وصیت جائز ہے یا نہیں؟ حرف استثناء سے واضح ہوا کہ ورثاء کے لئے نفس و وصیت جائز ہے، بس اس کا نفاذ دیگر ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے؛ کیوں کہ جن ورثاء کے متعین حق میں وصیت کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے ان کی مرضی کے بغیر نفاذ ممکن نہیں اور جب وہ بخوشی اپنا حق چھوڑ کر نفاذ و وصیت پر راضی ہو جائیں تو وصیت نافذ بھی ہو جاتی ہے؛ لہذا اس سے واضح ہو گیا کہ ورثاء کے حق میں نفس و وصیت بہت حد تک اتفاق صحیح اور درست ہے۔ اور ممانعت کے پہلو کا تعلق صرف کسی وارث کے حق میں نقصان پہنچنے سے ہے۔ اور جب مورث نے اپنی زندگی میں اولاد ذکور اور اولاد اناث اور بیوہ کے درمیان تقسیم کر دیا اور موت کے بعد اسی تقسیم کے مطابق میراث وصول کرنے کی وصیت کر دی تو کسی بھی وارث کے حق میں نقصان نہیں پہنچتا؛ بلکہ ہر ایک کو اپنا اپنا حق شریعت کے قانون کے

مطابق مکمل مل جاتا ہے، کسی کو کسی قسم کے نقصان کا خطرہ نہیں ہے؛ اس لئے زندگی میں نصّ قرآنی کے ضابطہ کے مطابق تقسیم کر کے وصیت کر دینا بلاشبہ جائز ہوگا۔

مسلمان غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں؟

تمام اُمت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ غیر مسلم کسی بھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور اُمت میں کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا؛ البتہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں؟، چنانچہ اس مسئلہ میں دو فریق ہیں:

فریق اول: جمہور اُمت جمہور صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک جس طرح غیر مسلم کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اسی طرح مسلمان بھی کسی غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا، ان کی دلیل وہ حدیث مشہور ہے جو صحاح کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ حدیث

شریف ملاحظہ فرمائیے:

(۱) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (بخاری

۱۰۰۱ / ۲، رقم: ۶۵۰۷، مسلم

شریف ۳۳ / ۲، رقم: ۱۶۱۴،

ترمذی ۳۱ / ۲، رقم: ۲۱۰۷)

دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں اصولی الفاظ کے ساتھ موجود ہے:

(۲) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ

الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَانِ. (مصنف ابن

أبي شيبة ۱۶ / ۳۳۰، رقم: ۳۲۰۸۸)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دو مختلف ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔

فریق ثانی: دوسرے فریق میں حضرات صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ اور تابعین میں سے حضرت امام حسن بصریؒ، امام سعید بن مسیبؒ، امام مسروق بن اجدعؒ، امام محمد بن الحنفیہؒ اور امام باقر محمد بن علی بن حسینؒ کے نزدیک کافر تو مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، مگر مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند فرمایا اور مسلمانوں کو کافروں پر عزت و شرف اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرات اپنے مدعی کے ثبوت میں مختلف دلائل پیش کرتے ہیں:

(۱) سنن دارقطنی اور سنن بیہقی کی مشہور روایت ہے ملاحظہ فرمائیے:

حضرت عائد بن عمروؓ سے مروی ہے کہ بیشک وہ فتح مکہ کے دن ابوسفیان بن حرب کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ آپ ﷺ کے اردگرد صحابہ کرامؓ موجود تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا: کہ یہ ابوسفیان اور عائد بن عمرو ہیں (جو قریش کے باعزت سردار ہیں) اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام (میں داخل ہونے والے) ان سے زیادہ باعزت ہیں، اور اسلام عزت و شرف میں بلند و برتر ہے اور اسلام پر کوئی چیز بلند و برتر نہیں۔

(۱) عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ جَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ وَعَائِدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا عَائِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سُفْيَانَ الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى. (السنن الكبرى للبيهقي ۹/۲۳۳، رقم: ۱۲۳۹۹، سنن دارقطنی ۳/۱۷۲، رقم: ۳۵۷۸، بخاری شریف تحت

ترجمة الباب، الجنائز ۱/۱۸۰)

اس کو صاحب شریفیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

اور قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان وارث بن جائے آپ کے قول: اسلام بلند ہوتا ہے اور

(۲) وَالْقِيَاسُ أَنْ يَرِثَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو

اس کے اوپر کسی کی بلندی نہیں ہوتی اور بلندی میں سے یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث بن جائے اور کافر مسلمان کا وارث نہ بنے، اور یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام باقر محمد بن علی بن حسینؑ اور امام مسروقؑ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

وَلَا يُعْلَى، وَمِنَ الْعُلُوِّ أَنْ يَرِثَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا يَرِثَ الْكَافِرُ مِنْهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعَاذُ بَنُ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ وَمَسْرُوقٌ.

(شریفیہ / ۱۴)

اس کو امام نوویؒ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

اور ایک جماعت کا مذہب ہے کہ کافر کی میراث کا مسلمان وارث بنے گا اور وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت معاویہؓ حضرت امام سعید بن مسیبؓ، امام مسروقؓ وغیرہ کا مذہب ہے اور وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: کہ اسلام بلند و برتر ہے اور اس پر کسی کو برتری حاصل نہیں۔

(۳) وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ وَهُوَ مَذْهَبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِمْ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ "الْإِسْلَامُ يُعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ".

(نووی علی المسلم ۲/۳۳)

اس کو فتاویٰ تاتارخانیہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں کا کسی بھی حال میں وارث نہیں بن سکتا اور ایسا ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول کے مطابق مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا

(۴) لَا خِلَافَ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمِينَ بِحَالٍ، وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ

اور یہی فقہاء کرامؒ کا مذہب ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے فرمایا کہ مسلمان وارث کا فرکا وارث بن سکتا ہے۔

الْفُقَهَاءِ. وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: يَرِثُ الْوَارِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(الفتاویٰ التاتارخانية ۲۰/۳۹۵،

رقم: ۳۳۵۳۴)

اور یہ حضرات حسب ذیل روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں:

مصنف ابن ابی شیبہ میں ان دونوں صحابہ کرامؓ کی کئی روایات ہیں، ملاحظہ فرمائیے:

حضرت ابوالاسود دیلیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ یمن میں تھے، لوگوں نے ایک یہودی کا معاملہ ان کے پاس پیش فرمایا، جو یہودی مر گیا تھا اور اس نے ایک مسلمان بھائی کو چھوڑا تھا، تو حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام زیادہ اور اضافہ ہو کر آگے بڑھتا ہے اور اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، پھر حضرت معاذؓ نے مسلمان بھائی کو اس یہودی کا وارث بنا دیا۔

(۴) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ اخَاهُ مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ.

ابن أبي شيبه ۱۶/۳۳۴، رقم: ۳۲۱۰۱،

السنن الكبرى للبيهقي ۹/۳۳۷، رقم: ۱۲۷۲۳)

حضرت عبداللہ بن معقلؓ فرماتے ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فیصلہ کے بعد حضرت معاویہؓ کے فیصلہ سے بہترین اور خوبصورت فیصلہ ہم نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا اور انہوں نے مسلمان کو اہل کتاب کا وارث بنا کر فرمایا کہ ہم ان کے وارث ہوتے ہیں اور وہ ہمارے وارث نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فیصلہ کے بعد کوئی بھی فیصلہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ سے زیادہ خوبصورت فیصلہ نہیں دیکھا، انہوں نے اہل

(۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءِ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ

الْكِتَابِ، قَالَ: نَرْتُهُمْ وَلَا
يَرْتُونَنَا. (مصنف ابن أبي شيبة ۱/۶)
کتاب کے بارے میں فیصلہ کر کے فرمایا: کہ
ہم ان کے وارث ہوتے ہیں اور وہ ہمارے
وارث نہیں ہو سکتے۔ (رقم: ۳۳۴، ۲۰۲، ۳۲۱)

الحاصل: اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ فریق اول کے نزدیک جس طرح غیر مسلم کسی
مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اسی طرح مسلمان بھی غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا، یہی امت
میں تو اتر کے ساتھ مشہور ہے۔ اور فریق ثانی کے نزدیک کافر تو مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا،
مگر مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ اور جانین کے دلائل بھی سامنے آچکے ہیں۔ اب اس
تناظر میں علماء وقت کو غور کرنا ہے کہ ہندوستان جیسے غیر اسلامی ممالک میں فریق ثانی کی
رائے پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر فریق ثانی کی رائے پر ان ممالک میں پیش آمدہ مسائل
اور مشکلات میں دینی مصلحت کے پیش نظر عمل کیا جائے تو شاید نامناسب نہ ہوگا۔ اور نو
مسلموں کی پریشانیاں اس سے ختم ہو سکتی ہیں۔

وارث کے لئے دیگر ورثاء کی مرضی سے وصیت

کسی شرعی وارث کے حق میں دیگر ورثاء کی مرضی اور اجازت کے بغیر وصیت کرنا شرعاً معتبر
نہیں، ہاں البتہ اگر اس وارث کی کسی مجبوری یا زیادہ خدمت کی وجہ سے مورث کی خواہش ہے
کہ اس کو کچھ زیادہ مل جائے اور مورث زندگی میں بہہ کر کے قبضہ بھی نہیں دینا چاہتا ہے؛ بلکہ
یہ چاہتا ہے کہ موت تک اپنی ملکیت سے خارج نہ ہو اور مرنے کے بعد موصی لہ کو حاصل بھی
ہو جائے اور مورث دیگر تمام ورثاء سے رابطہ قائم کر کے سب کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار
کر دے اور دیگر تمام ورثاء نے مورث کے سامنے اس کی زندگی میں بخوشی تحریری رضامندی
ظاہر کر دی اور سب نے بخوشی اجازت دیدی، تو کیا مورث کی موت کے بعد اسی اجازت
اور رضامندی سے وصیت نافذ ہو جائے گی؟ یا مورث کی موت کے بعد دوبارہ اجازت لازم
اور ضروری ہوگی؟ تو اس بارے میں جمہور فقہاء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ موت سے قبل
زندگی میں جو اجازت دی گئی تھی، اس کا اعتبار نہیں؛ بلکہ موت کے بعد کی اجازت کا اعتبار ہوتا
ہے۔ اور دیگر ورثاء کو پورا اختیار ہے کہ چاہے مورث کی اجازت کو نافذ کر دیں یا زندگی کی

اجازت کو مسترد کر دیں؛ لہذا زندگی کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں بلکہ وہ اجازت کا عدم ہے۔ اور موت کے بعد کی اجازت معتبر ہوتی ہے۔ یہ حکم حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ان الفاظ سے وارد ہوا ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ کسی بھی وارث کے لئے وصیت صحیح نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کہ دیگر ورثاء اس پر رضامندی ظاہر کر دیں۔

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ
لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ.
(السنن الكبرى للبيهقي ۹/ ۳۵۶،
رقم: ۱۲۹۷-۱۲۷۹۸، دارقطني

۸۶/۴، رقم: ۴۲۵۱)

اور حضرت عمرو بن خارجہؓ کی روایت میں کچھ فرق کے ساتھ یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:

حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ کسی وارث کے حق میں وصیت درست نہیں ہے، مگر یہ کہ دیگر ورثاء بخوشی اس کی اجازت دے دیں۔

(۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا
أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةُ. (السنن الكبرى
للبيهقي ۹/ ۳۵۸، رقم: ۱۲۸۰۳، دارقطني

۸۶/۴، رقم: ۲۴۵۲)

موت کے بعد کی اجازت پر فقہاء کی وضاحت

حضرات فقہاء بھی اس کو خوب وضاحت سے نقل فرماتے ہیں، چنانچہ علامہ شمس الدین آفندیؒ تکمّل فتح القدر میں صاف الفاظ سے نقل فرماتے ہیں: کہ زندگی کی اجازت درحقیقت اجازت ہی نہیں ہے؛ بلکہ موت کے بعد ہی کی اجازت درحقیقت اجازت ہے۔ ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

بے شک ان کی اجازت مورث کی زندگی کی حالت میں ساقط الاعتبار ہے؛ اس لئے کہ اس وقت ان کی اجازت سرے سے معتبر ہی نہیں ہے۔

(۳) إِنَّ إِجَازَتَهُمْ فِي حَالِ حَيَاةِ الْمُورِثِ سَاقِطَةٌ؛ لِأَنَّ إِجَازَتَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُعْتَبِرَةٍ أَصْلًا. (تکملة فتح القلیدز کربا ۱۰/۴۴۸،

درالفکر ۱۰/۴۱۷، کوئٹہ ۹/۳۴۷)

اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی اجازت بے محل ہے؛ اس لئے کہ زندگی میں ورثاء کو اس مال میں کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہے اور جس چیز میں کوئی حق نہیں ہے اس میں کسی کو اجازت دینے اور نہ دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور ورثاء کو مورث کی موت کے بعد ہی حق حاصل ہوتا ہے؛ لہذا زندگی کی اجازت کا عدم ہوگی اگرچہ اس پر تحریری دستخط بھی ہو گئے ہوں۔ اور مورث کی موت کے بعد ہی کی اجازت صحیح ہو سکتی ہے، اس وجہ سے مورث کی موت کے بعد دیگر ورثاء کو پورا اختیار ہے کہ چاہے موت کے بعد اجازت دے دیں اور چاہے نہ دیں، اگر اجازت دیں گے تو اس وارث کے حق میں وصیت نافذ ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ عبارت ملاحظہ فرمائیے:

اور اس کی زندگی کی حالت میں ان کی اجازت معتبر نہیں؛ اس لئے کہ یہ اجازت ثبوت حق سے قبل ہے؛ کیوں کہ حق موت کے وقت ثابت ہوتا ہے؛ لہذا ان کے لئے مورث کی وفات کے بعد اجازت کو مسترد کر دینے کا حق حاصل ہے، بخلاف ما بعد الموت کے اس لئے کہ موت کے بعد کی اجازت حق کے ثابت ہونے کے بعد ہوتی ہے؛ لہذا موت کے بعد کی اجازت کے بعد رجوع کرنا ان کے لئے جائز نہیں۔

(۴) وَلَا مُعْتَبَرٌ بِإِجَازَتِهِمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ إِذِ الْحَقُّ يَنْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْهُ الْخ. (هدایہ رشیدیہ

۴/۶۳۹، الامین کتاہستان ۴/۶۵۵)

صاحب بدائع جمہور علماء کی رائے نقل فرمانے کے ساتھ علامہ ابن ابی لیلیٰ کا قول بھی نقل

فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک زندگی کی اجازت معتبر نہیں بلکہ موت کے بعد کی اجازت ہی معتبر ہوتی ہے، مگر علامہ ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کی اجازت بھی معتبر ہوتی ہے۔ ان کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

(۵) ثُمَّ وَقْتُ الْإِجَارَةِ هُوَ مَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَلَا تُعْتَبَرُ الْإِجَارَةُ حَالَ حَيَاتِهِ حَتَّىٰ أَنَّهُمْ لَوْ أَجَازُوا فِي حَيَاتِهِ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: تَجُوزُ إِجَارَتُهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَالَ حَيَاتِهِ، فَإِذَا أَجَازُوا فِي حَيَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ إِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ ذَلِكَ

الخ. (بدائع زکریا ۶/ ۸۳، ۴)

کراچی ۷/ ۳۷۰)

جمہور کا قول راجح اور مفتی بہ ہے اور اعلیٰ السنن بیروت ۱۸/ ۳۲۹، میں ابن ابی لیلیٰ کے ساتھ حسن بصری، عطاء، حماد اور اوزاعی وغیرہ کو ذکر فرمایا ہے، مگر ان کا قول مرجوح ہے؛ لہذا زندگی کی اجازت معتبر نہ ہوگی۔ اور موت کے بعد کی اجازت معتبر ہو سکتی ہے۔

وارث کے حق میں وصیت کے عدم جواز کی حکمت

شریعت اسلامی نے قانون بنا دیا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اور اجنبی افراد کے حق میں نافذ ہو جائے گی، اس کے پیچھے کیا حکمت اور کیا راز ہے؟ اسلام نے ہر ایک

کاحق اعتدال میں رکھا ہے۔ ”لا ضرر ولا ضرار“ نہ تم خود نقصان کا شکار بنو اور نہ ہی تم سے کسی کو نقصان پہنچے، چنانچہ وارث کے حق میں وصیت نافذ نہ ہونے اور اجنبی کے حق میں نافذ ہونے کی دو حکمتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) پہلی حکمت: حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحبِ حق کاحق متعین کر دیا ہے، چنانچہ ہر وارث کاحق قرآن مقدس کی سورہ ”نساء“ میں واضح کر کے بیان فرما دیا ہے، ان کو وہی متعین حق ملا کرے گا؛ لہذا اگر کسی ایک کے حق میں وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس متعین حق میں ترمیم کرتا ہے، جس سے اس وارث کے حق میں اضافہ ہوگا اور دوسرے وارث کے حق میں کمی لازم آجائے گی جسکی وجہ سے اعتدال سے ہٹ جانا لازم آتا ہے۔ اور اجنبی کے لئے کوئی حق اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا؛ اس لئے اس کے حق میں وصیت کی اجازت دی گئی، مگر اس میں موصی کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ تہائی سے زائد کی اجازت نہیں، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے، جو اپنی جگہ پیش کی جائے گی۔ حکمت کی حدیث ملاحظہ فرمائیے:

(۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ.

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال حضور ﷺ سے اپنے خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کاحق متعین کر دیا ہے؛ لہذا کسی بھی وارث کے حق میں وصیت درست نہیں۔

(ترمذی ۲/۳۲، رقم: ۲۱۲۰، أبو داؤد)

(۲۸۷۰، رقم: ۳۹۶/۲)

(۲) دوسری حکمت: یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وارث کاحق متعین کر کے مقرر کر دیا ہے تو ہر وارث کو مترکہ مال میں سے اپنا اپنا حق مکمل وصول کرنے کا حق ہے؛ لیکن

جب کسی وارث کے حق میں وصیت کی جائے گی تو اس کو اپنے مقررہ حق سے زیادہ مل جائے گا اور دوسرے ورثاء کو متعین اور مقررہ حق پورا نہیں ملے گا؛ بلکہ ان کے حق میں کچھ حصہ اس وارث کے حصہ میں پہنچ جائے گا جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے۔ اور ایسی صورت میں دیگر ورثاء کا حق مارا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دل شکنی اور ان کے ساتھ قطع رحمی لازم آجاتی ہے، جس سے ان کو سخت ایذا اور تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، اس سے بچنے کے لئے شریعت نے وارث کے حق میں وصیت کی اجازت نہیں دی، تاکہ اعتدال باقی رہے۔ اس کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

(۲) لِأَنَّهُ يَسَادَى الْبَعْضُ بَابِنَارِ
الْبَعْضِ، فَفِي تَجْوِيزِهِ قَطِيعَةٌ
الرَّحْمِ. (هدایہ رشیدیہ ۴/۶۴۱،
الأمین کتابستان ۴/۶۵۷)

اس لئے کہ بیشک بعض ورثاء کو ترجیح دینے سے دوسرے بعض کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، پس اس کو جائز قرار دینے میں قطع رحمی لازم آتی ہے۔

بعض نے اجازت دی بعض نے نہیں دی

اگر مورث موصی کے انتقال کے بعد دیگر ورثاء میں سے بعض نے موصی کی وصیت کے مطابق اجازت دے دی اور بعض نے اجازت نہیں دی، تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ جن ورثاء نے اجازت نہیں دی ہے، ان کو متروکہ مال میں سے جو شرعی حق ملنا تھا وہی مکمل مل جائے گا اور جن ورثاء نے اجازت دی ہے ان کو جو میراث میں سے شرعی حق ملنا تھا اس میں سے حق کے تناسب کے حساب سے کم کر کے وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اس کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

(۱) وَلَآنَ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِمْ
فَتَجَوُّزُ بِإِجَازَتِهِمْ، وَلَوْ أَجَازَ
اور بیشک وصیت پر رکاوٹ پیدا کرنا ان کے اپنے حق کی وجہ سے ہے؛ لہذا ان کی اجازت سے

بَعْضٌ وَرَدَّ بَعْضٌ تَجُوزُ عَلَى
الْمُجِيزِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لَوْلَا يَتَّهَمُ
عَلَيْهِ، وَبَطُلَ فِي حَقِّ الرَّادِّ.

(ہدایہ رشیدیہ ۴ / ۶۴۱، الامین)

کتابستان ۴ / ۶۵۷)

جائز اور جاری ہو جائے گی اور اگر بعض وراثت نے
اجازت دے دی اور بعض نے مسترد کر کے روک
لگا دی ہے، تو جس نے اجازت دی اسکے حصہ
کے تناسب سے کمی کر کے وصیت نافذ ہو جائے
گی اور جس نے رد کر کے اجازت نہیں دی اس
کے حق میں وصیت باطل ہو جائیگی۔

بیوہ کے لئے شوہر کی وصیت

یہ مسئلہ بھی آج کے دور میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب آدمی لا اولد ہو اور اس کے پاس
کچھ سرمایہ ہو تو قریب یا دور کے رشتہ داروں کی نگاہ اس کے سرمایہ پر ہوتی ہے۔ اور اس کی
وفات کے بعد ہر طرف سے حقدار نکل آتے ہیں اور اس کی بیوہ بے سہارا ہو جاتی ہے، اب
اس تناظر میں شوہر اپنی زندگی میں پیش قدمی کر کے بیوی کے حق میں کچھ انتظام کر دے، اسکے
لئے سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ بیوی کو حسب مناسب سرمایہ کا معقول حصہ ہبہ کر کے قبضہ
دے دے؛ لیکن اگر ہبہ کی شکل اختیار کرنا نہیں چاہتا ہے؛ اس لئے کہ آج کے زمانہ میں ہبہ کی
رجسٹری کے لئے بھی تقریباً بیع نامہ کی رجسٹری کے برابر اسٹامپ فیس لازم ہے، اس خرچہ
سے بچنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں مالِ مترکہ اس کے قبضہ اور اختیار سے باہر نہ نکل
جائے؛ اس لئے وہ یہی مناسب سمجھتا ہے کہ بیوی کے نام سرمایہ کا کچھ حصہ وصیت کر دے، تو
ایسے حالات میں اگر شوہر کا کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، تو جتنے سرمایہ اور مال کی وصیت کریگا
اتنے میں وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اور بیوی کو شوہر کی وفات کے بعد وصیت کی وجہ سے
مترکہ مال سے وہ مقدار مل جائے گی اور اس کے بعد باقیہ کی چوتھائی بھی میراث کی وجہ سے
مل جائے گی؛ کیوں کہ اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا حق میراث میں چوتھائی
حصہ ہے؛ لہذا بیوہ کو دو طرح کے مال مل جائیں گے: (۱) وصیت سے (۲) میراث سے۔ اور
اگر شوہر کا دوسرا وارث بھی ہو تو شوہر کی وفات کے بعد وارث کی اجازت کے بغیر بیوہ کے حق

میں وصیت نافذ نہ ہوگی، ہاں البتہ اگر بیوہ کا حق میراث کے کل مال کا چوتھائی حصہ ہے اسی کے لئے وصیت نامہ بنا کر رجسٹری کر کے قانونی شکل دیدی ہے، تو اس کے نفاذ میں وارث کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ حضرات فقہاء کی اس طرح کی عبارات سے مستفاد ہوتا ہے۔ تاتارخانیہ میں ہے:

(۱) اِمْرَاةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا
وَلَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ (قوله) فَإِنْ
كَانَتْ أَوْصَتْ لِلزَّوْجِ بِنِصْفِ
الْمَالِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ
النِّصْفُ بِحُكْمِ الْإِرْثِ،
وَالنِّصْفُ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ،
وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَتْ عَبْدَيْنِ
قِيَمَتُهُمَا سَوَاءً أَوْصَتْ لِزَوْجِهَا
بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بَعَيْنِهِ فَهُمَا جَمِيعًا
لِلزَّوْجِ أَحَدُهُمَا بِحُكْمِ الْإِرْثِ
وَالْآخَرُ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ. (تاتارخانیہ)

۲۰/۱۶۲، رقم: ۳۲۸۸۸

اور اسی طرح کی عبارت مبسوط سرہسی میں بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۲) قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ: فِي امْرَأَةٍ
لَا وَارِثَ لَهَا إِلَّا زَوْجُهَا فَأَوْصَتْ
لَهُ بِنِصْفِ مَالِهَا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ
النِّصْفَ بِالْمِيرَاثِ ثُمَّ النِّصْفَ
الْبَاقِي بِالْوَصِيَّةِ. (مبسوط ۲۹/۲)

ایک عورت کی موت ہوگئی اور شوہر کو وارث
چھوڑا اور اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں، پس
اگر اس نے شوہر کے لئے نصف مال کی
وصیت کی ہے تو کل ترکہ شوہر کو مل جائے گا،
نصف حصہ میراث کی وجہ سے اور دوسرا نصف
وصیت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اگر عورت
نے دو غلام چھوڑیں دونوں کی قیمت برابر ہے
اور دونوں میں سے متعین ایک کی وصیت شوہر
کے لئے کر دی ہے، تو دونوں شوہر کو مل
جائیں گے، ایک میراث کی وجہ سے دوسرا
وصیت کی وجہ سے

زیادات میں اس عورت کے بارے میں کہا
ہے، جس کا شوہر کے علاوہ کوئی وارث
نہیں ہے، پس اس نے شوہر کے لئے اپنے
نصف مال کی وصیت کر دی، تو شوہر نصف
مال میراث کی وجہ سے لے لیگا، پھر باقی
نصف وصیت کی وجہ سے حاصل کر لے گا۔

اور درمختار میں ہے کہ زوجین کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو اور میاں بیوی دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لئے وصیت کر دی ہے، تو وصیت درست ہو جاتی ہے۔ اس کو علامہ حصفیؒ نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

حَتَّىٰ لَوْ أُوصِيَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ هِيَ لَهُ
وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ وَاثِرٌ آخِرُ تَصِحُّ
الْوَصِيَّةُ. (درمختار مع الشامی،
زکریا ۱۰/۳۴۷، کراچی ۶/۶۵۶)

حتیٰ کہ اگر شوہر نے اپنی زوجہ کے لئے یا بیوی نے شوہر کے لئے وصیت کر دی ہے اور وہاں دوسرا وارث نہیں ہے، تو بلاشبہ وصیت صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔

وارث اور اجنبی کے حق میں ایک ساتھ وصیت

یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ وارث کے حق میں دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے۔ اور اجنبی غیر وارث کے حق میں ثلث مال میں وصیت نافذ ہو جاتی ہے۔ اگر ثلث مال سے زائد کی وصیت کرے گا تب بھی صرف ثلث ہی کے دائرہ میں وصیت نافذ ہوتی ہے، اب اگر مالک نے اپنے ورثاء و اجنبی شخص دونوں کو ایک ساتھ وصیت کر دی ہے، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ پورا ثلث مال اجنبی کو مل جائے گا اور وارث کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں: وارث محل وصیت ہی نہیں ہے۔ (بدائع زکریا دیوبند ۶/۴۳۴) تو ان کا یہ قول درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے وصیت کا وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ محل وصیت ہی نہیں ہوتا؛ بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیگر ورثاء کی اجازت پر وصیت موقوف رہتی ہے اور جب دیگر ورثاء اجازت دیں گے تو اس کے حق میں بھی نافذ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پورا ثلث مال اجنبی کو کیسے مل سکتا ہے؟ اور وارث کو محل وصیت سے خارج کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور جہور امت کا قول یہ ہے کہ: اگر مالک نے اجنبی اور وارث دونوں کے حق میں وصیت کر دی ہے اور موصی کی موت کے بعد دیگر ورثاء وارث کے حق میں نفاذ وصیت کی اجازت

دے دیں تو ثلث مال وصیت کی وجہ سے اجنبی اور وارث کے درمیان نصف نصف کے حساب سے تقسیم ہو جائے گا، یعنی اجنبی اور وارث دونوں کو کل مال میں سے چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا اور اگر موصی کی موت کے بعد دیگر ورثاء اجازت نہ دیں تو وارث کے حصہ میں وصیت باطل ہو جائے گی اور اجنبی کے حصہ میں نافذ ہو جائے گی اور اجنبی کو ثلث مال کا نصف حصہ یعنی کل مال کا چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اس کو صاحب بدائع نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

اور اگر اپنے ثلث مال کی بعض ورثاء اور اجنبی کے لئے وصیت کر دی تو اگر بقیہ ورثاء نے موصی کی موت کے بعد اجازت دے دی ہے، تو وصیت وارث اور اجنبی دونوں کے حق میں نافذ ہو جائے گی اور ثلث مال وارث اور اجنبی دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر دیگر ورثاء (موت موصی کے بعد) مسترد کر دیں تو اجنبی کے حصہ میں وصیت نافذ ہو جائے گی اور وارث کے حصہ میں باطل ہو جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ثلث مال کل کل اجنبی کو مل جائے گا؛ اس لئے کہ وارث محل وصیت نہیں ہے۔

(۱) وَلَوْ أَوْصَى بِثُلْثِ مَالِهِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَلَا جُنْبِيَّ، فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَبَيْنَ الْوَارِثِ نِصْفَيْنِ، وَإِنْ رَدُّوا جَازَتْ فِي حِصَّةِ الْأَجْنَبِيِّ وَبَطَلَتْ فِي حِصَّةِ الْوَارِثِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُصْرَفُ الثُّلُثُ كُلُّهُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْوَصِيَّةِ الْخ. (بدائع زکریا ۶/ ۴۳۴، کراچی ۷/ ۳۳۸،

میسوٹ سرخسی ۲۷/ ۱۷۵)

اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ کل ثلث اجنبی کو مل جائے گا اور وارث کو محل وصیت سے خارج کر دیا ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، جیسا کہ مذکورہ عبارات سے واضح ہو چکا ہے۔

ایک تہائی سے زائد کی وصیت

ہر شخص کو شریعت نے اس بات کا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنے مالِ متروکہ میں سے ایک تہائی کسی کو دینے کے لئے وصیت کر دے، چاہے کسی مسجد یا مدرسہ یا دیگر کار خیر میں یا کسی انسان کو دینے کی وصیت کر دے، تو اس کو تہائی کے دائرہ میں اختیار ہے اور تہائی سے زائد میں اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور تہائی سے زائد میں نفاذِ وصیت کا مدار اس کے ورثاء کی اجازت پر ہے، اب اس پس منظر میں اگر مالکِ مال نے ورثاء سے اجازت لے کر تہائی سے زائد میں وصیت کر دی ہے، تو اس کی موت کے بعد یہ وصیت نافذ ہوگی یا نہیں؟ تو اس بارے میں موسیٰ لہ و طرح کے ہو سکتے ہیں:

(۱) موسیٰ لہ جس کے لئے وصیت کی جا رہی ہے وہ مالکِ مال (موسیٰ) کا وارث ہو، تو ایسی صورت میں وصیت مقدار تہائی کے دائرہ میں ہو یا تہائی سے زائد، دونوں صورتوں میں موسیٰ کی موت کے بعد دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر وصیت نافذ نہیں ہوگی، اگر اجازت دے دیں تو تہائی میں اور تہائی سے زائد دونوں میں نافذ ہو جائے گی۔ اور اگر دیگر ورثاء مورث موسیٰ کی موت کے بعد اجازت نہ دیں تو وصیت نہ تہائی میں نافذ ہوگی اور نہ ہی زائد میں؛ بلکہ پوری وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور اگر زندگی میں دیگر ورثاء سے تحریری اجازت بھی لے لی ہے، تو اس کا بھی اعتبار نہ ہوگا۔ اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

(۱) إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَيْنِ فَأَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِ مَالِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ لَهُ أَخُوهُ أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ بِالْوَصِيَّةِ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثَّلْثِ وَالْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ إِنَّمَا تَمْتَعُ لِحَقِّ الْوَرِثَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةَ فَإِذَا أُجِدَتْ الْإِجَازَةُ فَقَدْ زَالَ الْمَنْعُ فَيَأْخُذُ الْمَوْصِي لَهُ نِصْفَ الْمَالِ بِطَرِيقِ

جب مورث آدمی نے اپنے دو لڑکوں کو چھوڑا پس دونوں میں سے ایک کیلئے اپنے نصف مال کی وصیت کر دی، پھر (موت) کے بعد اس کے بھائی نے اس کے لئے وصیت جائز رکھا ہے، تو وہ وصیت کی جہ سے مال کا نصف حصہ لے لے گا اور باقی دوسرا نصف دونوں بھائیوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہو جائیگا؛ کیوں کہ یہ وصیت ثلث مال پر زائد ہے اور وارث کے حق میں دیگر ورثاء کے حق کی وجہ سے وصیت ممنوع ہوتی ہے، اسلئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وارث کیلئے وصیت نہیں، مگر یہ کہ دیگر ورثاء اس کو جائز رکھیں، پس جب اجازت پائی گی تو یقیناً مانع اور رکاوٹ زائل ہوگی؛ لہذا موسیٰ لہ وصیت

کی وجہ سے نصف مال لے لیگا اور رہ گیا مال کا باقی
نصف تو یہ نصف دونوں کے درمیان میراث کی
وجہ سے نصف نصف تقسیم ہو جائے گا۔

الْوَصِيَّةُ، وَيَبْقَى مَالُهُ النِّصْفُ الْبَاقِي
فَيَكُونُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ
بِالْمِيرَاثِ . (مسبوط للسرخسي ۲۹ / ۲)

(۲) ایسا موصی لہ جو موصی کا وارث نہ ہو؛ بلکہ اجنبی غیر وارث ہو، اور اس کے حق میں تہائی سے زائد کی وصیت کر دی ہے، تو ایسی صورت میں وراثت کی اجازت کے بغیر تہائی کے دائرہ میں وصیت نافذ ہو جائے گی؛ اس لئے کہ شریعت نے مورث موصی کو تہائی میں پورا اختیار دے رکھا ہے، البتہ تہائی سے جو کچھ زائد ہے اس میں وصیت نافذ ہونے کے لئے وراثت کی اجازت لازم اور شرط ہے۔ اور اگر مورث (موصی) نے زندگی میں وراثت سے تحریری طور پر بھی اجازت لے لی ہے، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ زندگی میں مال متروکہ میں وراثت کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا اور حق کے ثبوت سے قبل اس میں اجازت کا تصرف بھی ثابت نہیں ہو سکتا؛ لہذا زندگی کی اجازت سرے سے کالعدم ہے اور موت کے بعد مستقل اجازت لازم ہوگی۔ اس کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

اور ثلث مال سے زائد وصیت جائز نہیں، مگر یہ کہ موصی کی موت کے بعد وراثت اس کی اجازت دیں، اس حالت میں کہ سارے وراثت بڑے ہوں؛ کیوں کہ ممانعت انہیں کے حق کی وجہ سے ہے۔ اور انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا اور موصی مورث کی حالی حیات میں ان وراثت کی اجازت معتبر نہیں؛ اس لئے کہ یہ اجازت ثبوت حق سے پہلے ہے؛ کیوں کہ حق موت کے بعد ثابت ہوتا ہے؛ لہذا ان وراثت کے لئے اس موصی کی وفات کے بعد اجازت کو مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔

(۲) وَلَا تَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَهُمْ كِبَارٌ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِمْ،
وَهُمْ أَسْفَطُوهُ وَلَا مُعْتَبَرَةٌ بِاجْزَائِهِمْ
فِي حَالِ حَيَاتِهِ لِأَنَّهَا قَبْلَ ثُبُوتِ
الْحَقِّ إِذَا الْحَقُّ يَثْبُتُ عِنْدَ
الْمَوْتِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ
بَعْدَ وَفَاتِهِ . (هدایہ رشیدیہ ۴ / ۶۳۹)

ضروری وضاحت

وراثت کی اجازت معتبر ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اجازت دینے والے سارے وراثت عاقل بالغ ہوں اور کوئی بھی وارث نابالغ نہ ہو؛ لہذا اگر کوئی نابالغ ہو تو اس کے حصہ میں وصیت کی وجہ سے کمی نہیں آئیگی، اس کو اپنا مکمل شرعی حق مل جائے گا، جیسا کہ ”ہم کبار“ کے الفاظ سے واضح ہو چکا ہے۔

مقالہ کا خلاصہ

(۱) اگر زندگی میں اولاد کے درمیان سرمایہ تقسیم کرنا ہے، تو اس کی تفصیل مضمون کے شروع میں دلائل کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ساری زینہ اولاد باپ کے حق میں برابر ہیں، کوئی نافرمان نہیں تو سب کے درمیان مساوات باپ پر لازم ہے اور اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کو نہ دے کر محروم کر دیا جائے اور فرماں بردار اور باادب کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی علم دین میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس معاشی ذرائع نہیں ہے، یا کوئی معذور اور مجبور ہے اس کو دوسروں سے زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) زندگی میں تقسیم کر کے مالک بنانے میں مذکر و مؤنث کے درمیان مساوات کا مسئلہ اختلافی ہے۔

حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اور حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ کے قول مشہور کے مطابق لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا مستحب ہے اور اس کے خلاف لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ دینا مکروہ تخریہی ہے۔

حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ اور حنابلہ کے نزدیک اولیٰ اور افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطہ کے مطابق تقسیم میراث کے اصول کی رعایت کرتے ہوئے ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دینا چاہئے۔ دونوں فریق کے دلائل تفصیلی طور پر مضمون میں پیش کئے جا چکے ہیں۔

(۳) زندگی میں تقسیم کر کے مالک نہ بنایا جائے؛ بلکہ زندگی میں ملکیت اپنی رہے گی اور موت کے بعد ورثاء کو شرعی حق بلا کسی اختلاف اور نزاع کے پورا پورا مل جائے، اس کے لئے زندگی ہی میں انتظام کر دیا جائے۔

چنانچہ تقسیم میراث کے اصول کے مطابق زندگی میں تقسیم کر کے ہر متوقع وارث کا حصہ متعین کر دیا جائے اور اس بات کی وصیت کر دی جائے کہ موت کے بعد اسی تقسیم نامہ کے مطابق ہر وارث اپنے اپنے حصے پر قبضہ کر لے، تو اس طرح تقسیم نامہ تیار کر کے وصیت کر دینا بلا کراہت جائز اور درست ہے، تاکہ موت کے بعد کسی وارث کی حق تلفی کی نوبت نہ آسکے، اس کے بھی تفصیلی دلائل مضمون میں مذکور ہیں۔

(۴) مسلمان غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک مسلمان بھی اسی طرح غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا ہے کہ جس طرح غیر مسلم مسلمان کا نہیں بن سکتا، مگر حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت امام حسن بصریؓ، امام سعید بن مسیبؓ، امام محمد بن الحنفیہؓ، حضرت محمد بن علی بن حسینؓ (امام باقر) وغیرہ کے نزدیک مسلمان غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے؛ لہذا ہندوستانی نو مسلموں کی مشکلات کے تناظر میں مصلحت اور مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فریقِ ثانی کی رائے پر عمل کی گنجائش کے بارے میں غور کیا جائے، اگر اس قول پر علماء کا اتفاق ہو جائے تو بہتر معلوم ہوتا ہے۔

(۵) کسی وارث کے لئے دیگر وراثہ کی مرضی کے بغیر وصیت درست نہیں، نیز دیگر وراثہ کی اجازت اور مرضی کا اعتبار بھی موت کے بعد ہی کا ہے۔ اور موت سے قبل کی اجازت معتبر نہیں، اسی طرح موت کے بعد اگر کسی نے اجازت دی ہے، تو اس کے حصہ میں وصیت کا اعتبار ہوگا اور جس نے اجازت نہیں دی اس کے حصہ میں وصیت کا اثر نہیں پڑے گا۔

(۶) دیگر وراثہ کی عدم موجودگی میں بیوہ کے حق میں وصیت درست ہے۔

(۷) وارث اور اجنبی کے حق میں ایک ساتھ وصیت کر دی ہے، تو وارث کے حق میں جو وصیت ہے وہ موت کے بعد دیگر وراثہ کی اجازت پر موقوف رہے گی اور اجنبی کے حق میں ثلث مال کے نصف یعنی سدس میں وراثہ کی اجازت کے بغیر وصیت نافذ ہو جائے گی۔

(۸) ایک تہائی سے زائد کی وصیت کے نفاذ کا مدار وراثہ کی اجازت پر ہے؛ لہذا اگر وارث کے حق میں تہائی سے زائد وصیت کی گئی ہے تو دیگر وراثہ کی اجازت موتِ مورث کے بعد لازم ہے، ورنہ نافذ نہ ہوگی۔

اور اگر اجنبی کے حق میں تہائی سے زائد وصیت کی گئی ہے، تو تہائی کے اندر اندر وصیت نافذ ہو جائے گی، اس میں وراثہ کی اجازت شرط نہیں ہے، ہاں البتہ تہائی سے زائد میں وصیت کا نفاذ وراثہ کی اجازت پر موقوف رہے گا۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الموفق والمعین

(مفتی) شبیر احمد قاسمی

دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

۲۸/ ذی الحجہ ۱۴۳۲ھ

۶/باب: اشیائے موہوبہ میں وراثت کا بیان

موہوبہ مقبوضہ میں وراثت کا شرعی حکم

سوال [۹۵۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد ہارون صاحب نے اپنی حیات میں اپنی جائیداد میں سے تھوڑا سا حصہ جس میں ایک مکان اور چار دوکان ہیں، اپنے لڑکے شاہنواز کی بیوی ریحانہ پروین کے نام کر دیا ہے، جس کے کاغذات اور گواہ موجود ہیں، اب اس نام کردہ جائیداد میں مرحوم محمد ہارون صاحب کے وارثوں سے کسی کا کوئی حصہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بنتا ہے یا نہیں؟ نیز اس ہبہ پرواہب کے بڑے بھائی بھی راضی ہیں اور ان کی موجودگی میں ہبہ ہوا اور جس بیٹے کی بیوی کو ہبہ کیا ہے اس بیٹے کے دیگر ایک بڑے بھائی اور ایک چھوٹے بھائی بھی اس ہبہ پر راضی ہیں، ان دونوں بڑے اور چھوٹے بیٹے کو بھی الگ سے ہبہ کیا ہے، سب کے دستخط درج ذیل ہیں۔ محمد عاصم، محمد یوسف، محمد نبی۔

المستفتی: محمد شاہنواز کنگھڑ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: محمد ہارون صاحب نے اپنے لڑکے شاہنواز کی اہلیہ ریحانہ پروین کو چار دوکانیں ہبہ کرنے کے بعد چونکہ اس پر قبضہ دے کر مالک بنا دیا ہے، جس سے ہبہ تام ہو گیا ہے۔ اور اس کے اوپر گواہان موجود ہیں؛ اس لئے اب اس میں صرف ریحانہ پروین کا حق ہے، اس کے علاوہ دیگر شرعی ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ سوال نامہ میں مکان کو ہبہ کرنے کا بھی ذکر ہے؛ لیکن ہبہ نامہ میں کہیں بھی مکان کا نہ تذکرہ ہے اور نہ ہی اس کے ہبہ کرنے کا ذکر ہے؛ اس لئے مکان میں تمام شرعی وارثان کا حق متعلق ہوگا۔ اور محمد ہارون کی وفات کے وقت جتنے شرعی وارث موجود تھے، ان سب کا شرعی حق اس مکان میں سے نکلے گا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

وتصح بالإيجاب والقبول والقبض قوله عليه السلام: لا يجوز الهبة إلا مقبوضة. (هداية، كتاب الهبة، أشرفي ديوبند ۳/ ۲۸۳)

وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المحجلة رستم، اتحاد ۱/ ۶۶۲، رقم المادة: ۸۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ رجب الثانی ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۰۵/۴۰)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۴/۱۴۳۵ھ

شی موہوب میں وراثت کی شرعی حیثیت

سوال [۹۵۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے والد صاحب نے ایک مکان تقریباً ۱۶۰ گز (ایک سو ساٹھ گز) میرے نام ہبہ کیا اپنی حیات میں باہوش وحواس، میرے والد کی پہلی بیوی میری والدہ ہاجرہ خاتون تھیں، ان سے میں اور میری بڑی بہن جمیلہ خاتون تھیں، دوسری بیوی افسری بیگم تھیں، ان کے چار لڑکے: اظہر الدین، رئیس الدین، منہاج الدین، نعیم الدین اور تین لڑکیاں: ناظرہ بی، شبانہ بی، ریحانہ بی پیدا ہوئے۔ رئیس الدین کا انتقال ہو چکا ہے، والد صاحب نے یہ مکان ۱۹۷۸ء میں ہبہ کیا اور ۱۹۸۰ء میں بذریعہ عدالت بیان دے کر پختہ کیا، افسری بیگم کا انتقال ۱۹۸۵ء میں ہوا اور میرے والد صاحب کا انتقال ۱۹۸۳ء میں ہوا، اس سلسلے میں میرے اور

مندرجہ بالا کے درمیان مقدمہ عدالت میں زیر سماعت رہا اور اظہر الدین وغیرہ کے خلاف ڈگری ہوئی اور کمرہ خالی کرنے کے لئے حکم ہوا، میری خدا کے فضل و کرم سے فتح ہوئی۔ براہ کرم فتویٰ عنایت فرمائیں کہ اس ہبہ شدہ مکان میں میرے اور بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نکلتا ہے یا میں تنہا مالک ہوں؟

المستفتی: ممتاز الدین محلہ کسرول کا ٹھکاپل نزد مسجد بڑھیا والی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ نے ممتاز الدین کو پورا مکان ہبہ کر کے قبضہ دے دیا تھا اور جس حصہ میں آپ کے والد رہا کرتے تھے، اس کا آپ کے والد آپ کو کرایہ ادا کرتے تھے اور یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست بھی ہے، تو آپ کے حق میں پورے مکان کا حصہ صحیح ہو گیا ہے، دوسرے ورثاء کا حق اس میں متعلق نہ ہوگا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، موسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

و تتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار، کتاب الهبة، زکریا ۸ / ۴۹۳، کراچی

/ ۵، ۶۹۰، ہدایہ، اشرفی ۳ / ۲۸۳)

و التبرع لا يتم إلا بالقبض، فإذا وهب أحد لآخر شيئاً لا تتم هبة إلا

بقبضه. (شرح المحلة رستم، اتحاد ۱ / ۴۲، رقم المادة: ۵۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱/۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۹۶/۳۳)

شئی موہوب میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟

سوال [۹۵۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے ایک لڑکا اور تین لڑکیاں ہیں۔ اور زید کے دو طرح کی جائیداد ہیں، رہائشی اور زرعی، زید نے ان تین لڑکیوں میں سے ایک کو اپنی حیات میں کچھ جائیداد (زمین کی شکل میں) سرکاری رجسٹری کے ذریعہ اس کے نام کر دیا، بقیہ وراثت اس سے راضی ہیں یا نہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زید کی موت کے بعد تقسیم ترکہ میں اس لڑکی کے نام کی ہوئی زمین کو شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ اور صرف زرعی زمین تقسیم ہوگی یا دونوں؟ اس سلسلے میں مدلل و مفصل شرعی حکم بیان فرما کر شکر یہ کا موقع دیں؟

المستفتی: عبدالاحد قاسمی مدھونی، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں اگر باپ نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ ایک بیٹی کے نام رجسٹری کرا کے بہہ کی نیت سے اسے قبضہ دلایا تھا، تو وہ لڑکی اس زمین کی شرعاً مالک ہوگئی، اب والد کے انتقال کے بعد بہہ کردہ زمین مذکورہ لڑکی کو دے کر باقی ماندہ جائیداد (رہائشی اور زرعی دونوں) وارثین کے درمیان حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگی؛ البتہ زندگی میں ایک لڑکی کو دے کر دوسری اولاد کو محروم کرنے کے سبب باپ عند اللہ مواخذہ دار ہوگا۔

عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلته ابني هذا غلاماً، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فارجه. (بخاري شريف، كتاب الهبة، باب الهبة للولد الخ / ۱ / ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۴، ف: ۲۵۸۶)

الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه. (البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ديوبند

حکم الہبۃ ثبوت الملک للموہوب لہ۔ (الفتاویٰ التاتارخانیۃ، زکریا

۱۴/۴۱۳، رقم: ۲۱۵۳۷)

یکرہ تفضیل بعض الأولاد علی البعض فی الہبۃ حالۃ الصحۃ۔

(البحر الرائق، زکریا ۷/۴۹۰، کوئٹہ ۷/۲۸۸)

لا شک أن أعیان الأموال یجرى فیہا الإرث۔ (تاتارخانیۃ ۲۰/۲۱۳،

رقم: ۲۳۰۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۵/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۲۲/۳۹)

ہبہ مکمل ہونے کے بعد وہ ترکہ میں شامل نہ ہوگا

سوال [۹۵۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: گزارش یہ ہے کہ ہمارے والد نور الہی صاحب مرحوم نے ایک مکان اپنے ذاتی سرمایہ سے خریدا، نور الہی صاحب مرحوم کی اولاد میں صرف ہم دو قمر جہاں و چندابی لڑکیاں ہیں، ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں چند احباب کے سامنے زبانی ہبہ کر کے ہم دونوں بہنوں کو قمر جہاں و چندابی کا مکان پر قبضہ کرا دیا اور کہا کہ تم دونوں قمر جہاں و چندابی بہنیں اس مکان کی مالک و مختار ہو، ہمارے والد صاحب کے دو بھائی احسان الہی صاحب مرحوم اور محبوب الہی اور ایک بہن شاہجہاں ہیں۔ والد صاحب کے مرنے کے بعد ہمارے چچا احسان الہی صاحب نے ہم پر دعویٰ تقسیم کا عدالت میں کر دیا، کچھ عرصہ بعد ہمارے چچا احسان الہی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بعد ایک بھائی ایک بہن اور بیوی ایک لڑکی جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ مکان میں رہتی ہے، ان کو اس مکان کا وارث مقدمہ بنا دیا گیا، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دعویٰ تقسیم اور وارث قائم کرنا کس حد تک جائز ہے، یا یہ کہ اس مکان میں ان کا

حصہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جب کہ کچھ آدمیوں عزیزوں کے سامنے مکان کو ہبہ کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں علماء دین؟ فقط والسلام۔

المستفتی: دختران نور الہی مرحوم، قمر جہاں، چندابی، فیمل خانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب نور الہی مرحوم نے اپنی زندگی میں بحالت صحت مکان مذکور اپنی لڑکی قمر جہاں اور چندابی کے نام ہبہ کر کے قبضہ بھی دے دیا ہے، تو شرعی طور پر ہبہ کامل و مکمل ہو چکا ہے؛ لہذا نور الہی کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں سے کسی کا کوئی حق ہبہ شدہ جائیداد کے ساتھ متعلق نہ ہوگا۔ اور ان کا اپنے حق کے لئے دعویٰ کرنا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، موسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

الهبة تصح بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض. (الجوهره، كتاب الهبة، إمداديه ملتان ۲ / ۹، دارالكتاب ديوبند ۲ / ۱۰، مختصر القدوري، ص: ۱۳۵، هداية، أشرفي ۳ / ۲۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳ھ / ۱۱ / ۱۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ / محرم الحرام ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸ / ۲۹۷۹)

ہبہ تام میں وراثت جاری نہیں ہوتی

سوال [۹۵۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے والد صاحب صرف دو بھائی ہیں، میرے دادا صاحب نے اپنی حیات میں ہی کچھ

زمین میرے والد صاحب کے نام بطور تبرع کے کر دی تھی، چونکہ وہ معاشی اعتبار سے کمزور تھے، جب دادا صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی تمام متروکہ اشیاء میرے چچا صاحب کے قبضہ میں تھیں، انہوں نے ان کو اپنے صرفہ میں کر لیا اور میرے والد صاحب کو کچھ بھی نہیں دیا اور اب وہ والد صاحب سے اس زمین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں جو دادا صاحب نے اپنی زندگی میں انتقال سے تقریباً تیس پینتیس سال پہلے رجسٹری یعنی بیع نامہ کر دی تھی، اس وقت سے مالک وقابض والد صاحب ہی چلے آ رہے تھے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس زمین میں بھی میراث جاری ہوگی یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ وہ تمام اشیاء جو چچا صاحب کے پاس قبضہ میں تھیں، ان میں والد صاحب کا حصہ تھا یا نہیں؟

المستفتی: شفیق احمد قاسمی، کوتوالی بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کے دادا نے جب باضابطہ بیع نامہ کر کے قبضہ میں دے دیا تھا، تو شرعاً وہ جائیداد آپ کے والد کی تنہا ملکیت ہو چکی ہے، اس میں کسی وارث کا حق نہیں ہے۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفکر ۹/ ۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

الهيئة: عقد مشروع - إلى قوله - وتصح بالإيجاب والقبول والقبض.

(هداية، كتاب الهبة، أشرفی ۳/ ۲۸۳، مختصر القدوري، ۱۳۵)

اور پھر آپ کے دادا کی وفات کے وقت ان کی ملکیت میں جو کچھ تھی، اس میں آپ کے والد کا بھی شرعی حق ہے، جو میراث میں حصص شرعی کے طور پر ملتا ہے؛ لہذا دادا کا ترکہ

جس کے قبضہ میں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام حق داروں کو ان کا حق دے دے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ شوال ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۴۴/۳۴)

شی موہوب میں موہوب لہ کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں

سوال [۹۵۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے یعنی ساجد و خالد کے والد محمد یونس مرحوم کی نانی صاحبہ جمینی بی نے اپنی بیٹی ہاجرہ بی اور داماد جان محمد کے ہوتے ہوئے اپنی جائیداد مکان نمبر: ۱۵۰۰/۱ اپنے تین نواسوں (محمد یونس، محمد متین، محمد ایوب) کو Gift (تحفہ) کے طور پر جرٹی کرا کے دے دیا تھا، ۵۰۰/۱ سال پہلے سرکاری ریکارڈ پر انہیں تین نواسوں کا نام باقاعدہ خسرا کا پی پر لکھا ہوا ہے، یہ تین نواسے جمینی بی کی بیٹی ہاجرہ کے بیٹے ہیں، ان تینوں کے علاوہ اور بھی بیٹی اور بیٹے ہاجرہ کے ہیں، ہم دونوں بھائی ساجد و خالد اسی مکان میں رہتے ہیں، یہ مکان ہمارے دادا جان محمد کی ساس صاحبہ جمینی بی کا تھا، جنہوں نے اپنے تین نواسوں کو دیا ہے، جان محمد کی اپنی کوئی جائیداد نہیں تھی، ہمارے والد محمد یونس صاحب کا انتقال جمینی بی کے انتقال کے بعد اور جان محمد کے انتقال سے پہلے ہوا ہے، جان محمد کی اولاد ان تینوں کے علاوہ اور بھی ہے، متین اور ایوب، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مکان نمبر: ۷-500 جان محمد کے تمام وارثوں میں تقسیم ہونا چاہئے، ان لوگوں نے مقامی پنچ صاحبوں کو جمع کیا، پنچ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جان محمد کے تمام وارثین کا حصہ ہونا چاہئے، ہمیں اس پر مجبور کیا جا رہا ہے، جب کہ یہ جائیداد جمینی بی کی ہے، نہ کہ جان محمد کی۔ اور پنچ صاحبوں کو شرعی جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی شرعی طور پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مذکورہ مکان کی

شرعی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا مکان صرف ان تین نواسوں کا ہے (محمد یونس، محمد متین، محمد ایوب) یا اور بھی وارثین کا حصہ بنے گا شرعاً؟ پنچ صاحبوں کا شرعی فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں یا غیر شرعی فیصلہ پر مجبور کرنا ہے، کیا ہم ان کے فیصلے کو قبول کر لیں؟ مہربانی فرما کر شرعی تقسیم و فیصلے سے آگاہ کیا جائے۔

المستفتی: محمد خالد و محمد ساجد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر جہنمی بی نے صرف مذکورہ تینوں نواسوں ہی کو حصہ کر دیا تھا اور زندگی میں ان کو قبضہ دے دیا تھا، تو اس جائیداد میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہوگا، صرف انہیں تینوں کی ملکیت ہوگی۔

عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرک أن تجوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع والأقضية من قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، موسسة علوم القرآن، جديد ۱۰ / ۵۲۱، رقم: ۲۰۵۰۲)

والقبض لا بد منه لثبوت الملك (قوله:) ولا يجوز الهبة إلا مقبوضة الخ. (هداية، كتاب الهبة، أشرفي ۳ / ۲۸۳، شرح المحلة رستم، مكتبه اتحاد ۱ / ۴۲، رقم المادة: ۵۷، هندية، زكريا قديم ۴ / ۳۷۴، جديد ۴ / ۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۴ / ۶۲۳۶)

شی موہوب پر قبضہ کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی

سوال [۹۵۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: زید نے اپنے قدیمی مکان سے رہائش ختم کر کے دوسرا مکان بنا لیا ہے اور چند سال سے رہائش بھی ہے، اپنی بیوی اور لڑکے لڑکیوں کی رضامندی سے کسی صاحب کو ہبہ کر دیا اور تحریر لکھ دی، زید کا ایک لڑکا جو ہندوستان سے باہر ملازمت کرتا ہے، وہ باپ کی اس عطا پر راضی نہ تھا اور نہ ہے، مگر جب باپ کو اس کی ناراضگی کا علم ہوا تو کہا کہ میں زمین خرید کر اس کو دے چکا ہوں، جس پر اس نے مکان بنوایا ہے، اس مکان میں کوئی حصہ نہیں۔ زید کا تقریباً ایک ماہ بعد انتقال ہو گیا اور اس کی ناراضگی بحال رہی، تو اس کی والدہ یعنی زید کی بیوی نے شوہر کی بات کو مضبوط کرنے کے لئے رجسٹری کرادی، علاوہ ازیں زید کے مرحوم لڑکے کا ایک یتیم لڑکا ہے جو دادا، دادی اور چچاؤں کی کفالت میں تھا اور ہے۔ یتیم بچہ کی ماں دوسری جگہ نکاح کر چکی ہے، بچہ دادی کے پاس رہتا ہے، کیا وراثت میں اس یتیم کا بھی حصہ ہے، اگر ہے تو کتنا؟ اب موجودہ صورت میں جب کہ زید کی بیوی نے لڑکے اور لڑکیوں کی رضامندی سے رجسٹری کرادی ہے اور اس لڑکے کو جو متفق نہیں بقول مرحوم باپ نے زمین خرید کر دے دی تھی اور یتیم بچہ کے لئے دادی اور چچا زمین خرید کر دینے کو تیار ہیں کہ بعد بلوغت وسعت ہونے پر مکان بنوالے جب تک دادی اور چچا پرورش کر رہے ہیں، کیا اس صورت میں جو ہبہ کرنے کے بعد قبضہ ہے، صحیح ہے لینے والا گنہگار ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: نور العابدین، بارود گردان کالونی نو لکڑھ، جھن جھنوں، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید نے اگر ہبہ کر کے موہوب لہ کو قبضہ دے دیا تھا اور اب بیوی اور بچوں نے محض قانونی خانہ پری کرنے کے لئے رجسٹری کر دیا ہے، تو ان کا یہ کرنا صحیح ہے اور لینے والا گنہگار نہ ہوگا۔ اور اگر اپنی زندگی میں قبضہ نہیں دیا تھا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے رجسٹری کر دینے سے ہبہ تام نہیں ہوگا؛ بلکہ ایسی صورت میں اس مکان میں زید کے ناراض لڑکے اور دیگر وارثین کا حق متعلق ہو جائے گا۔

عن عبدالرحمن بن عبدالقاری قال: قال عمر -رضي الله عنه- ما

بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيهقي، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، مؤسسة علوم القرآن ۱۰/۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

قال ابن عابدين تحت قوله: بطل يعني عقد الهبة، أي لا انتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة. (شامي، كتاب الهبة، ذكرها ۸/۵۰۷، كراچی ۵/۷۰۱)

نیز زید کے مرحوم لڑکے کے یتیم بچے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں؛ اس لئے کہ زید کے بیٹے موجود ہیں اور بیٹوں کی موجودگی میں پوتے محروم ہوتے ہیں۔

أولهم بالميراث جزء الميت، أي البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي، نعيميه، ص: ۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۱/۲۹ھ

۱۴۲۰/۱/۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۶۰۰۴)

پوتے کے نام کردہ زمین میں وراثت کا حکم

سوال [۹۵۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک عالم دین ہے، زید کے دادا کی بہن نے اپنی جائیداد اپنی حیات میں زید کے نام کر دی تھی اور زید کے پاس بیچ نامہ موجود ہے، اس نیت سے کہ وہ اس میں مدرسہ قائم کر کے صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع کرے گا، زید کے دادا کی بہن کے وارثین میں صرف ان کے تین بھتیجے موجود ہیں اور کوئی نہیں ہے، نہ ان کا شوہر ہے اور نہ ہی کوئی آل و اولاد ہے، دادی کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے بھتیجے زید سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیداد ہماری میراث ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، بقیہ دوسرے دو بھتیجے زید کے لئے اس ہبہ پر

راضی ہیں، جب کہ ان کے بڑے بھتیجے نے دادی کی زندگی میں ان کی خوب نافرمانی کی تھی اور آخر کار تنگ آ کر زید کے گھر رہنے لگی اور زید کے گھر والوں نے دادی کی ۶ رسال تک پوری خدمت کی ہے اور زید ہی کے گھر میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو مفتی صاحب سے دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اس صحرائی جائیداد میں دادی کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجوں کا وراثت کا دعویٰ کرنا درست ہے، جب کہ دادی نے وہ صحرائی جائیداد اپنی حیات میں زید کے نام کر دی تھی، اب زید ان کی منشاء کے مطابق اس زمین پر مدرسہ قائم کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا زید کا یہ ارادہ درست ہے؟ اس بارے میں جو بھی حکم شرعی ہو بیان فرمائیں۔

المستفتی: محمد ارشد میرٹھی ذاکر کالونی، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زید کے نام رجسٹری کر کے بیع نامہ کر دیا ہے، تو زید اس کا مالک ہو چکا ہے، اس میں کسی وارث یا غیر وارث کا حق متعلق نہیں ہو سکتا؛ لہذا زید کا اس زمین پر مدرسہ وغیرہ قائم کرنا بلا تردد جائز ہے۔

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال: قال عمر - رضي الله عنه - ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، أو الوالد. (المصنف لابن أبي شيبة، البيوع، من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، موسسة علوم القرآن ۱۰ / ۵۲۰، رقم: ۲۰۴۹۵)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحجلة رستم ۱ / ۶۵۴، رقم

المادة: ۱۱۹۲)

المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشيتته. (بدائع

الصنائع، كتاب النفقة، فصل في بيان ما يبطل به الخيار، زكريا ۲ / ۶۳۸، كراچی ۲ / ۳۲۷)

ولو كان ولده فاسقا، وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه

عن الميراث، هذا خير من تركه. (البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸، ہندیہ، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، بزازية، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵، قاضي خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۲۴/۱۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۰۴۹/۴۰)

بیوی کو ہبہ کئے گئے مکان میں لڑکے کا حصہ مانگنا

سوال [۹۵۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے ایک مکان خرید کر اپنی بیوی کے نام رجسٹری کر کے دے دیا تھا، میرے تین لڑکے ہیں، ایک لڑکی ہے، ہم دونوں میاں بیوی حیات ہیں، ہمارا بڑا لڑکا شادی شدہ نافرمان ہے اور اپنے بھائی بہن سے بھی جھگڑا کرتا ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ وہ مکان مذکور میں اپنا حصہ مانگتا ہے، جب کہ ابھی ہم دونوں میاں بیوی حیات ہیں، دیگر لڑکے لڑکی کی شادی وغیرہ ہونی ہے، تو کیا اس کو شرعاً کوئی حصہ مل سکتا ہے؟ جب کہ نافرمان ہے، برا سلوک کرتا ہے، شریعت کا حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: محمد زاہد اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو مکان آپ نے خرید کر اپنی بیوی کے نام رجسٹری کر کے مکمل طور پر ان کو مالک بنا دیا ہے، تو وہ ان کی ملک میں داخل ہو گیا اور اس مکان یا ان کی دوسری کسی جائیداد میں آپ کی بیوی کی حیات تک کسی کو مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے،

ان کو اس میں ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے، اگر وہ زندگی میں اس نافرمان لڑکے کو نہ دیں اور بقیہ کو دے دیں، تو اس پر کوئی گناہ ان کو نہیں ہوگا۔

إن القبض شرط جواز الهبة. (بائع، کتاب الهبة، زکریا ۵ / ۱۷۰، کراچی ۶ / ۱۱۹)
وتتم الهبة بالقبض الكامل، فيشترط القبض قبل الموت. (شامی، کتاب

الهبة، زکریا ۸ / ۴۹۳، کراچی ۵ / ۶۹۰، الجوهرة للنيرة، إمدادیه ۲ / ۹، دارالکتب دیوبند ۲ / ۱۰)

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، دارالکتب العلمية بیروت ۳ / ۴۹۷، مصري قديم ۲ / ۳۵۸، بزازية، زکریا جدید ۳ / ۱۲۳، وعلی هامش الهندية ۶ / ۲۳۷، الفتاوی التاتارخانية، زکریا ۱۴ / ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶ / ۷۹۷)

تکمیل ہبہ کے ثبوت سے قبل اپنے حصہ کا مطالبہ کرنا

سوال [۹۵۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس نے دوکانیں اور دو مکانات چھوڑے ہیں، وراثت میں ایک لڑکا، ایک لڑکی ہے، زندگی میں وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ ایک ایک مکان دونوں بھائی بہن لے لو، دوکانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس پر عمل نہیں ہوا؛ کیوں کہ اس کی کچھ تحریر نہیں تھی، کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری والدہ نے ایک مکان تمہارے بھائی کو دے دیا ہے اور اس بات کا گواہ اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات میرے سامنے ہوئی ہے، اس آدمی کا میرے بھائی کے گھر آنا جانا ہے، بھائی نے اس مکان کو بیچ دیا ہے، کیا میں اس مکان میں حصہ دار ہوں

یا نہیں؟ جب کہ اس دوسرے مکان میں سے بھی میرے بھائی نے ساڑھے چھیا سٹھ فیصدی حصہ لے لیا ہے؟

المستفتیہ: انور جہاں، محلہ بھٹی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مکان ماں کی طرف سے بھائی کو ہبہ کرنے کا جب تک پختہ ثبوت نہ ہو اس وقت تک اس پورے مکان پر آپ کے بھائی کی ملکیت ثابت نہ ہوگی۔ اور آپ کو اس مکان میں اپنے حصہ کے مطابق کا حق حاصل ہے۔

وَأَسْتَشْهِدُ وَآشْهِيْدِيْنَ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ. [البقرة: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل
وامرأتين، سواء كان الحق مالا أو غير مال. (هداية، كتاب الشهادة، أشرفي ۳/۱۵۴)
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۸/۲/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ صفر ۱۴۲۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۱۶۸)

ہبہ تام ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کا حصہ طلب کرنا

سوال [۹۵۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے دادا نے مجھے ایک مکان ۵۵/۵۵ گز دے دیا، اسی میں ہم رہتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اسی میں رہ رہے تھے، میرے دادا نے یہ مکان مجھے دے دیا تھا، اس پر گواہان بھی موجود ہیں اور قبضہ بھی مجھے دے دیا تھا، اب ہمارے بھانجے حصہ طلب کر رہے ہیں، شرعاً انہیں ملے گا یا نہیں؟

المستفتی: شفیق احمد کاٹھ کی پلایا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جب دادا نے بطور ہبہ ۵۵/۸ گز مکان دے کر قبضہ کرا دیا، مزید براں دادا صاحب نے آئندہ نزع کو ختم کرنے کے لئے دو گواہ بھی بنا کر دنیا سے چلے گئے، ایسی صورت میں ہبہ شرعاً تام ہو گیا ہے، اس میں بھانجے کا حصہ طلب کرنا ناحق مطالبہ ہے، شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد المفتیین ۱/۴۲۹)

عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الانحلال أن ما قبض منه، فهو جائز، وما لم يقبض، فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك، فقسمها. (السنن الكبرى للبيهقي، الهبات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ۹/۱۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار مع الشامی، کتاب الهبة، زکریا ۴۹۳/۸، کراچی ۵/۶۹۰، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/۳۷۴، جدید ۴/۳۹۵، بدائع الصنائع، زکریا ۵/۱۷۶، کراچی ۶/۱۲۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۷۱۰)

نابالغ کے ہبہ والی رقم میں تصرف کرنا

سوال [۹۵۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: والد صاحب کے انتقال کے وقت تقریباً ہم تین بھائی (۱) محمد یوسف (۲) حافظ عبدالحفیظ (۳) رحمۃ اللہ نابالغ تھے۔ اور آج تک جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی ہے اور یتیم نابالغ کا مال کھایا گیا ہے، تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ اگر گناہ ہوگا تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہوگی؟ اب فی الحال ایک چھوٹا بھائی رحمۃ اللہ ہی نابالغ ہے، اس کے حصہ کی کیا شکل ہوگی؟

المستفتی: محمد یوسف قاسمی مدرسہ عربیہ تعلیم المسلمین، ضلع پنج محل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر نابالغ کے بہہ میں اس کے خرچ سے زائد خرچ کیا گیا ہے، تو خرچ کرنے والے بالغ و رثاء گنہگار ہوں گے، اس کی تلافی یوں ہوگی کہ جو زائد خرچ کیا گیا ہے اس کا تخمینہ لگا کر ان کے حوالہ کر دیا جائے اور اب رحمت اللہ نابالغ کا حصہ حفاظت سے رکھنا لازم ہے۔ (مستفاد: بہشتی زیور اختری ۷/۴۲، معارف القرآن ۲/۳۱۶، کفایت المفتی قدیم ۸/۱۸۷، جدید زکریا ۸/۱۷۵)

وَأَنْتُمْ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَبِيبَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. [النساء: ۲]
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِلُونَ سَعِيرًا. [النساء: ۱۰]

رجل اشتری لنفسه من مال ولده الصغير أو استهلك مال ولده الصغير، أو اغتصب حتى وجب عليه الضمان. (قاضی خان، الوصایا، فصل فی تصرفات الوصی فی مال الیتیم و تصرفات الوالد فی مال ولده الصغير، زکریا ۳/۳۹۲، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۵۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۷۴/۲۵)

موہوب شئی میں حق کا دعویٰ کرنا

سوال [۹۵۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: چھدا کے تین بیٹے تھے: امجد حسین، علی حسین، لیاقت حسین، نواب کی زمین ٹھیکہ دار کی معرفت امجد حسین ۱/۲۵ ایکڑ اور علی حسین کو ۱/۱۳ ایکڑ اور لیاقت حسین کو ۱/۹ ایکڑ زمین ملی، چھدا کے کوئی زمین وغیرہ نہیں تھی، اس کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، اب امجد حسین کے ایک لڑکا

شفیع احمد، ایک لڑکی نارنگیم ہیں، علی حسین کے دولڑکے بچھن اور احمد حسین ہیں اور دولڑکی صغریٰ اور چھوٹی ہیں اور لیاقت حسین کے ایک لڑکا کلن ہے، لیاقت حسین کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے کلن کی پرورش اس کے تایا امجد حسین نے کی تھی، اس کے بعد امجد حسین کا انتقال ہو گیا، اب کلن اپنے تایا زاد بھائی محمد شفیع کے ساتھ رہا کرتے تھے، امجد حسین کی جائیداد ۱/۲۵ ایکڑ زمین جو ٹھیکیدار کی معرفت ملی تھی، اس سے سات ایکڑ زمین اس کے لڑکے شفیع احمد نے اپنے چچا زاد بھائی کلن کو دے دی تھی۔ نیز ایک دوسرے ٹھیکیدار نے ۱/۱۳ ایکڑ زمین شفیع احمد کو بطور ہدیہ کے دی تھی، اب اس وقت کلن کے آٹھ لڑکے موجود ہیں، وہ اپنے تایا شفیع احمد سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ۱/۱۳ ایکڑ زمین میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہئے، نیز شفیع احمد نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے ۳/۱ ایکڑ زمین مسجد کو دینے کا وعدہ کیا ہے، باقی پندرہ ایکڑ میں سے بھی یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا شرعاً انہیں مطالبہ کا حق پہنچتا ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔

المستفتی: محمد شفیع شکار پور ضلع نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کی درج شدہ صورت میں ۱/۱۳ ایکڑ زمین جو شفیع احمد کو بطور ہبہ کے مل گئی ہے اور شفیع احمد نے اس میں مالکانہ قبضہ کر کے تصرف بھی شروع کر دیا ہے، تو شرعاً شفیع احمد اس کا مالک ہو چکا ہے، تو اب کلن کی اولاد کو اس میں حق کا دعویٰ کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس میں ان کا کوئی حق ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال

امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان للبيهقي، دارالكتب العلمية بيروت

۳۸۷/۴، رقم: ۵۴۹۲، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر بيروت ۵۰۶/۸، رقم: ۱۱۷۴۰)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، قديم ۲/۳۵۳،

جدید دارالكتب العلمية بيروت ۳/۴۹۱، درمختار مع الشامی، كتاب الهبة، زكريا ۸/۴۹۳،

کراچی ۵/۶۹۰، ہندیہ، زكريا قديم ۴/۳۷۷، جدید ۴/۳۹۹، الجوهرۃ النيرة، إمدادیہ

ملتان ۲/۹، دارالکتاب دیوبند ۲/۱۰، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/۹۱، زکریا
۶/۹۹ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ رجب ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۳۹/۲۵)

شئی موہوب کو واہب کے مقصد میں صرف کرنا

سوال [۹۵۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مدرسہ کے مطبخ کے لئے ایک صاحب خیر نے ایک بکرا ہبہ کیا یا صدقہ کیا اور اس کی نیت طلباء کے استعمال کی ہے؛ لیکن کم عمر بچہ ہونے کی وجہ سے اس کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو وہ رقم صرف طلباء کے کھانے میں صرف ہوگی یا کسی اور مصرف میں بھی صرف کر سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: عبدالقدوس مراد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب معطی نے بکرا طلباء کے کھانے کے لئے دیا ہے، تو اس بکرے کو طلبہ کے کھانے میں ہی صرف کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ دوسرے مقام پر صرف کرنا یا فروخت کرنا جائز نہیں، ہاں البتہ معطی کی اجازت سے فروخت کرنے کی گنجائش ہے۔ (ایضاح النوادر ۲/۵)

كما استفيد من هذه العبارة: ولو أن قوما بنو مسجداً وفضل من خشبهم شيء حتى قالوا: يصرف الفضل في بناءه ولا يصرف إلى الدهن والحصير. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، زكريا ۵/۲۰، كوئٹہ ۵/۲۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۱۹/۳۵)

۷/ باب الهبة للصغير

خدمت گذار لڑکے کو جائیداد زیادہ دینا

سوال [۹۵۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے زندگی میں چار لڑکوں میں سے تین لڑکوں کو پڑھایا اور ایک کو پڑھا نہیں پایا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو پڑھا نہیں پایا اس کو کچھ زیادہ جائیداد دے دوں، کیا میں دے سکتا ہوں؟ جب کہ نہ پڑھنے والا اور اس کے بچے میری خدمت کرتے ہیں۔

المستفتی: خلیل احمد معصوم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اولاد ہونے میں سب برابر ہیں؛ اس لئے ان میں سے ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینے کی صورت میں ان کے ساتھ حق تلفی اور زیادتی ہے، جو شریعت میں جائز نہیں ہے؛ اس لئے ان کو جائیداد دینے میں برابری اور مساوات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؛ البتہ اگر کوئی لڑکا دیندار، با ادب، عالم دین ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ دینا ہے، تو اس کی گنجائش ہے؛ لیکن دوسروں کو اس سے ضرر نہ ہو اور دوسرے لڑکے اس پر ناخوش بھی نہ ہوں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۴/۱۳، ۴۳۶، ڈبھیل ۱۶/۱۶، ۴۹۸-۴۹۹، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/

۱۲۸-۱۲۹، جدید ۹/۳۱۲، امداد الفتاویٰ ۳/۳۷۰)

عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله! قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال:

فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، قال: فرجع فرد عطيته. (صحيح البخاري،

باب الإشهاد في الهبة، النسخة الهندية ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۷)

ويكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، كوثته ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰)

لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا

في العطايا إن لم يقصد به الإضرار. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸/ ۵۰۱، كراچی

۶۹۶/ ۵، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/ ۳۹۱، جدید ۴/ ۴۱۶، قاضی خان زکریا جدید ۳/ ۱۹۳،

وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۲۲۲ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۵/۶۱۱)

خدمت گزار اولاد کو ہبہ میں زیادہ دینا

سوال [۹۵۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: شفیق الدین ولد نصیر الدین ساکن محلہ ڈیر یا مراد آباد میری شادی ۱۹۴۹ء میں چھوٹی نام کی

عورت کے ساتھ ہوئی، جس سے چار لڑکیاں اور ایک لڑکا پیدا ہوا، جن میں تین لڑکیوں کا

انتقال ہو گیا، صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی حیات رہی، لڑکے کا نام رفیق الدین رکھا اور لڑکی کا

نام رئیسہ رکھا گیا۔ ۱۹۵۶ء میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ۱۹۶۱ء میں میں نے دوسری شادی

کر لی اور پہلی بیوی کی جو اولاد تھی رفیق الدین اور رئیسہ ان دونوں کی شادی ۱۹۶۵ء میں

کر دی، رفیق الدین کی پانچ اولادیں ہوئیں، جس میں تین لڑکیاں اور دو لڑکے ہیں اور رئیسہ

کے بھی پانچ اولادیں ہیں، جس میں تین لڑکے دو لڑکیاں ہیں۔

اور میں شفیق الدین نے دوسری شادی ۱۹۶۵ء میں کی تھی، میری دوسری بیوی کا نام شکیلہ ہے،

اس سے بھی پانچ اولادیں ہیں، دو لڑکیاں تین لڑکے، اس میں سے لڑکیوں کی شادی کر دی ہے اور دو لڑکوں کی بھی شادی کر دی ہے، صرف ایک لڑکا کنوارہ ہے، اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں وہ تقریباً ۱۹۰ گز ہے، جس میں دو کمرہ اور دو دروازہ ہیں، میری پہلی بیوی کا لڑکا رفیق الدین جس کی شادی میں نے ۱۹۶۵ء میں کر دی تھی، اس کی پانچ اولادیں ہیں، میرے ہی گھر میں دوسری منزل میں رہتی ہیں، اس لڑکے کا ۱۹۸۵ء میں انتقال ہو گیا، صرف اس کی بیوی دولڑکے، جن کی عمر ۱۸-۲۰ سال ہے اور تین لڑکیاں ہیں۔ اور دوسری بیوی کے تین لڑکے: نعیم الدین، فہیم الدین، معین الدین اور دو لڑکیاں چلی منزل میں رہتے ہیں، جس میں نعیم الدین کی بھی چار اولادیں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا میری پہلی بیوی کی جو اولادیں ہیں ان کو اس مکان میں سے شرعی حصہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ان کا حق بنتا ہے تو وہ کتنی مقدار میں بنتا ہے؟ چونکہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، میری کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، صرف نعیم الدین اور معین الدین کی کمائی پر گھر کا خرچ چلتا ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں کہ میں کس طرح ان سب کا حق ادا کروں اور کوئی ناراض بھی نہ ہو؟

المستفتی: شفیع الدین صاحب ڈیریا، مراد آباد

دارالافتاء جامعہ نعیمیہ کا جواب

بعون الملک الوہاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم: آپ کی زندگی میں کوئی حصہ اولاد کا نہیں، ابھی آپ مکان کے تنہا مالک ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہبہ کر سکتے ہیں، جس میں بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دیں۔ درمختار جلد رابع، ص: ۵۱۳ میں ہے:

وإن قصده يسوی بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى.

ہاں اس میں حرج نہیں کہ جو اولاد زیادہ خدمت کرتی ہو اسے کچھ زیادہ دے دیں، اسی میں

ہے:

وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب، وكذا في العطاء الخ. والله سبحانه وتعالى اعلم.

کتبہ: الفقیر محمد ایوب العجمی غفرلہ
دارالافتاء جامعہ نعیمیہ، مراد آباد
مورخہ ۱۱ اگست ۲۰۰۴ء

دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے لطن سے جو آپ کے نطفہ سے اولاد ہیں، سب کا حکم برابر ہے، آپ کی موت کے بعد وہ سب آپ کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلہ میں دو گنا ملے گا، ہاں البتہ رفیق الدین جس کا ۱۹۸۵ء میں انتقال ہو گیا ہے، اس کی اولاد اور اس کی بیوی کا آپ کی جائیداد میں شریعت اسلامی میں کوئی حق نہیں ہے، آپ کی موت کے بعد وہ لوگ آپ کے وارث نہیں ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ باقی پہلی بیوی کی اولاد اور دوسری بیوی کی اولاد جو زندہ ہیں وہ آپ کے ترکہ سے میراث کے حق دار ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برابر حصہ دینا آپ کا فرض بنے گا کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر حصہ دینا ضروری ہے، جیسا کہ جامعہ نعیمیہ کے جناب مفتی محمد ایوب صاحب کے جواب میں واضح کیا گیا ہے، ہاں البتہ جو خدمت گذار اولاد ہیں، ان کو اگر زیادہ دینا چاہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأدباً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، ۹۸، ۹۹)

مصری قدیم ۲/ ۳۵۸، وھکذا فی البزازیۃ، زکریا جدید ۳/ ۱۲۳، وعلی ہامش الھندیۃ

۶/ ۲۳۷، الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، زکریا ۱۴/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵)

ویسقطن بالا بن . (سراجی فی المیراث، ص: ۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۴۷۸/۳۷)

خدمت گزار اولاد کو زیادہ حصہ دینا

سوال [۹۵۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرا ایک مکان ہے، جس کی تقسیم تمام اولاد کو کر دی گئی، سب کے حصے ان کی رضامندی سے دے دئے گئے، ایک قطعہ آراضی باقی بچا ہے، ایک صاحب زادے جو بے روزگار ہیں، اس میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اپنے نام منتقل کرانے کو کہتے ہیں، میں تو ان کی ضرورت کے پیش نظر تیار ہوں، مگر دوسرے صاحب زادے راضی نہیں، اگرچہ یہ دونوں بڑے خوش حال و فارغ البال ہیں، میں نے ان دونوں سے ایثار و قربانی کے طور پر دینے کو کہا جس کا آخرت میں اجر بھی ملے گا، مگر وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں، کچھ ان حاجت مند صاحب زادے کی سخت مزاجی اور تلخ کلامی کی وجہ سے جس کے لئے بھی میں ان آسودہ حال صاحبزادوں سے درگزر کرنے کی درخواست کر رہا ہوں، مگر وہ حاجت مند صاحبزادے کے رویہ سے اس قدر آزرده ہیں کہ راضی نہیں ہو پا رہے ہیں، اگرچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنا دیا کہ جنت کا عمل یہ ہے کہ ”جو برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو“ فارغ البال صاحبزادوں کے یہاں اپنے حصوں میں آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے؛ کیوں کہ ان کے پاس دہلی دہرادون وغیرہ میں کافی رہائشی گنجائش ہے اور ان کے لئے ایثار کرنا آسان ہے، مگر وہ رضامندی دینے کو تیار نہیں اور یہ حاجت مند اپنی بے روزگاری سے بدحواس و پریشان ہیں اور چڑچڑانے لگے ہیں اور اسی وجہ سے سخت کلامی پر اتر آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ

اپنی سخت کلامی پر معافی مانگ لو، تو اس پر بھی اپنی ہٹی سمجھ کر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا میں ان کی حاجت مندی دینی پریشانی کے پیش نظر بقیہ زائد قطعہ ان کو دے دوں جو دوسروں سے زائد ہوگا؟ کیا میری گرفت تو نہیں ہوگی؟ میں نے ایک کو زائد دے دیا، تین فارغ البال میں سے ایک تو رضا مند ہیں، علاوہ اس کے ایک جائیداد سے جس کے حصوں کے لئے حاجت مند صاحبزادے نے ہی جدوجہد کی ہے، اسی سے حاصل ہونے والے سرمایہ سے ان دونوں معترض صاحبزادوں کو بھی دے دینے کی پیشکش کی ہے، جن کا اس کے حصوں کی کوشش میں کوئی حصہ بالکل نہیں ہے، مگر بد اخلاقی کے رویہ سے اس قدر آرزوہ ہیں کہ راضی ہونا گوارا نہیں ہے، یہ حاجت مند صاحبزادے ۲۰ سال سے میری خدمت کی وجہ سے کہیں باہر بیرون ملک بھی نہیں جاسکے، اس کا اجر بھی اس زائد عطیہ سے شاید کچھ پورا ہو جائے۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: تلخیص احمد قاضی ٹولہ بیلداران، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں لڑکیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر لڑکیاں بھی ہیں تو زندگی میں تقسیم کر کے دینے کی صورت میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینے کا حکم ہے، اگر سائل کی لڑکیاں بھی ہیں اور ان کو نہ دے کر صرف لڑکوں کو دے دیا ہے، تو اللہ کے دربار میں سخت پکڑ کا خطرہ ہے، اب رہی یہ بات کہ کمزور لڑکے کی بے روزگاری کی وجہ سے دوسروں کے مقابلہ میں اس کو کچھ زائد دینے میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، مگر لڑکے پر ضروری ہے کہ اپنی زبان پر کثرت لڑے۔ اور سوال نامہ کے مطابق اس نے باپ کی خدمت بھی زیادہ کی ہے؛ اس لئے اس کو زیادہ دینے میں باپ گنہگار نہیں ہوگا۔

لا بأس بتفضیل بعض الأولاد..... إن لم یقصد به الإضرار. (شامی،

کتاب الہبۃ، زکریا ۸/۵۰۱، کراچی ۵/۶۹۶)

ولو وهب شیئاً لأولاده فی الصحۃ، وأراد تفضیل البعض علی

البعض عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين، وإن كانا سواء يكرهه، وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم، وهو المختار. (هنديّة، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، البحر الرائق، كونه ۷/ ۲۸۸، زكريا ۷/ ۴۹۰، فتاوى بزازية، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، قاضي خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۲/۲۸ھ

۱۴۳۵/۲/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۵۳/۴۰)

نافرمان بیٹے کو جائیداد نہ دے کر فرماں بردار لڑکے کو دینا

سوال [۹۵۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے چار لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں، دو لڑکوں کی شادی ہو چکی اور تین لڑکیوں کی شادی سے فارغ ہو گیا ہوں باقی دو لڑکے اور ایک لڑکی شادی کرنے کو باقی ہیں اور میں فالج کا مریض ہوں، کچھ نہیں کر سکتا اور آنکھوں سے بھی مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بڑا لڑکا علیحدہ رہتا ہے، اس کے پانچ بچے ہیں اور بڑا نافرمان ہے، میرے مکان میں دو کراہیہ دار رہتے تھے، اس نے ان کو پریشان کر کے بھگا دیا، جس سے میری گذر اوقات ہوتی رہتی تھی اور میرا قطع خیال نہیں کرتا اور اوپر سے سینہ زوری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم سے بولنے کی میری طبیعت نہیں کرتی اور تم سے واسطہ رکھنے میں مجھے نقصان ہے اور چھوٹے بھائی کی بیوی کو مارا پیٹا اور بھائیوں کو بھی آئے دن مارتا رہتا ہے، میں اس سے سخت پریشان ہوں اور میرے اوپر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ آپ چھوٹے بھائی کی بیوی سے ملے ہوئے ہو، اس لڑکے سے پورا گھر

پریشان ہے، نہ تو آج تک مکان کا ہاؤس ٹیکس ادا کیا اور نہ ہی بجلی کا بل ادا کرتا ہے، اور بجلی کے بل کا اور ہاؤس ٹیکس کا کل روپیہ لگ بھگ -/7500 روپے اس وقت موجود ہے، آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھ کو اس کا جواب دیں عین نوازش ہوگی۔ اور آدھے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، میں مکان کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، محلہ والوں نے بھی کافی سمجھایا، مگر وہ کسی بات پر تیار نہیں ہے، میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، اس کو اس میں حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ مطلع فرمائیں۔

المستفتی: حاجی اختر حسین مقبرہ اولیٰ آبادی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعی طور پر نافرمان لڑکے کو نہ دے کر دوسرے فرماں بردار اولاد کو دینا جائز ہے، اس سے باپ گنہگار نہ ہوگا۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأدياً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، ۴، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، وهكذا في الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴/ ۶۲، ۴، رقم: ۲۱۷۲۵) نیز آپ اپنی ملکیت کا مکان فروخت کرنے میں خود مختار ہیں، اس میں لڑکے یا کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي، کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱/ ۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۲/۲۱ھ

۱۴۱۸/۲/۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۱۸۲)

اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بحالت صحت جائیداد بیوی کو ہبہ کرنا

سوال [۹۵۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: (۱) اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو اور اس شخص کو یہ فکر لاحق ہو کہ بعد میرے مرنے کے میری بیوی کو اولاد پریشان کرے گی اور یہ سوچ کر وہ شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد یا مکان اپنی بیوی کے نام ہبہ کر دے، تو وہ شریعت اور قانون کی رو سے اس جائیداد کی مالک و مختار ہو جائے گی یا نہیں؟

(۲) مذکورہ جائیداد میں اولاد کو مداخلت کرنے کا حق حاصل ہوگا یا نہیں؟

(۳) ہبہ ہو جانے کے بعد مذکورہ خاتون کو یہ حق حاصل ہوگا یا نہیں کہ وہ کسی ایک اولاد کے نام جائیداد کر دے ایسا ہونے پر دیگر اولاد کو یہ حق حاصل ہوگا یا نہیں کہ وہ مذکورہ جائیداد میں سے اپنا حصہ طلب کریں، ان تمام باتوں کے لئے شریعت اور اسلامی قانون کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے تحریر کریں۔

المستفتیة: شبانہ پروین محلہ طباقیان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر اولاد صحیح معنی میں نافرمان ہیں، تو وہ شخص بحالت صحت اپنی پوری جائیداد بیوی کی ملکیت میں ہبہ کر کے قبضہ دیتا ہے، تو جائز ہے اور قانون شریعت کی رو سے بیوی اس جائیداد کی مالک ہو جاتی ہے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دار الكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، ۴، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، وهكذا في الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴/ ۶۲، ۴، رقم: ۲۱۷۲۵) المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتاب خانہ رشدیہ دہلی ۱/ ۷)

(۲) مداخلت کا حق نہیں۔ (۳) دیگر اولاد کو طلب کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۲/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر المظفر ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۱۷/۲۹)

لڑکا بد کردار ہو تو اپنی جائیداد لڑکی کو ہبہ کرنے کا حکم

سوال [۹۵۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میری دو اولادیں ہیں، ایک لڑکا عمران مجتبیٰ اور ایک لڑکی شیریں مجتبیٰ، میرا لڑکا انتہائی آوارہ اور شرابی ہے، مجھے خطرہ ہے میرے بعد میری جائیداد کو میرا یہ نافرمان شرابی و کبابی لڑکا خورد و خورد کر کے ضائع کر دے گا؛ اس لئے میں بحالت صحت بحالت ہوش و حواس بلا کسی دباؤ کے اپنی جدی رہائشی مکان واقع بازی گران مراد آباد اپنی لڑکی شیریں مجتبیٰ کو ہبہ کر کے مالک بنا دینا چاہتا ہوں، کیا میرے لئے نافرمان لڑکے کو نہ دے کر صرف لڑکی کو ہبہ کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: غلام مجتبیٰ پسر حاجی غلام مصطفیٰ مرحوم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر لڑکا نافرمان اور فسق و فجور اور شراب نوشی وغیرہ میں مبتلا ہے، تو اس کو نہ دے کر صرف لڑکی کو ہبہ کر دینا شرعاً جائز ہے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأدباً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دار الكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۹۷، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، وهكذا في الفتاوى الناتارخانية، زكريا ۱۴/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ شعبان ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/ ۱۹۳۳)

زندگی میں ایک اولاد کو کل جائیداد کا مالک بنا کر بقیہ کو محروم کر دینا

سوال [۹۵۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: عبدالحکیم مرحوم کے تین لڑکے ہیں، جن میں بڑے لڑکے نے اپنے والد کی کافی خدمت اور فرماں برداری کی ہے، مرنے سے دو سال پہلے مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنی ملکیت اپنے بڑے لڑکے کے نام بیع نامہ کر دی ہے، جس پر چھوٹے دو لڑکوں کو سخت اعتراض ہے، کیا یہ بیع نامہ شرعاً درست ہے؟ ازراہ کرم مطاع فرمائیں۔

المستفتی: محمد ابراہیم اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر بڑے لڑکے کے حق میں بیع نامہ کر کے مالک بنا دیا تھا اور دوسرے وارث کو محروم کرنے کے لئے کیا تھا تو بیع نامہ تو شرعاً جائز رہے گا، لیکن باپ سخت گنہگار ہوگا۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دارالسلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ۱ / ۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

ولو وهب في صحته كل المال لولده جاز وأثم. (الدر مع الرد، كتاب الهبة، مطبع نعمانيه ۴ / ۵۱۳، زكريا ۸ / ۵۰۲، كراچی ۵ / ۶۹۶، ہندیہ، زكريا قديم ۴ / ۳۹۱، جديد ۴ / ۴۱۶)

گناہ سے بچنے کی صورت یہ تھی کہ سب بچوں میں برابر حصوں کے حساب سے تقسیم کر کے بیع نامہ کر دیتے اور زندگی میں تقسیم کرنے میں لڑکی اور لڑکے کے سب کو برابر حصہ دینا ہوگا۔

عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضي

حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواح عطيّة، فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله! قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيّته. (صحيح البخاري، باب الإِشهاد في الهبة، النسخة الهندية ۱/ ۳۵۲، رقم: ۲۵۱۵، ف: ۲۵۸۷)

و كذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم، يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتاوى. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۸/ ۵۰۱-۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶، قاضي خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹، هندية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا جديد ۴/ ۴۱۶، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، فتاوى بزازية، زكريا جديد ۳/ ۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، البحر الرائق، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/ رمضان ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/ ۲۱۸)

اولاد کے درمیان ہبہ میں تفریق کا حکم

سوال [۹۵۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے جس کی سات اولادیں ہیں، جس میں چار لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور ایک عدد ان کی زوجہ۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایک عدد مکان خریدا اور اپنے لڑکے اور زوجہ کے نام کر دیا، باقی ایک لڑکا اور تین لڑکیوں کو کچھ نہ دیا (لڑکیاں تینوں شادی شدہ ہیں) اور ان لوگوں کو اپنی مالیت سے بالکل ناحق کر دیا۔ اب یہ لڑکیاں اور لڑکا اپنا حصہ یا حق مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے ایک مکان میں ہمارے تین بھائیوں کو حصہ دیا ہے تو ہمارا

بھی حصہ دو، جب کہ ہم بھی تمہاری ہی اولاد ہیں، پھر ہمیں کیوں ناحق کیا گیا؟ تو والد محترم فرماتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں میری زندگی میں کیوں مانگ رہے ہو؟ میں تم تینوں لڑکیوں کو تین دوکانیں بنا کر دوں گا۔ اور لڑکے کو اپنی بیوی کا حصہ لیکن ان لڑکیوں کی نظر میں یہ غلط ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں برابر سے ملے نہیں تو پھر شرعاً جو ہمارا حصہ ہوتا ہو وہ ملے، یہاں ہم کو نیچے لکھے کچھ سوالوں کے جواب بطور فتویٰ چاہئے، آپ کی مہربانی ہوگی شکر یہ۔

لڑکیوں کے والد نے ان کا حق نہ دے کر کیا گناہ کیا؟ اگر گناہ کیا تو کس سزا کے خدا تعالیٰ کے یہاں حق دار ہوں گے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بحالت صحت اگر باپ اپنی بعض اولاد کو دولت میں سے کچھ دے دے اور بعض کو نہ دے تو باپ کا دینا جائز و درست ہے؛ البتہ باپ اولاد کے درمیان یکسانیت اور برابری نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

عن النعمان بن بشیر - رضی اللہ عنہ - قال: تصدق علی أبي بعض مالہ - إلی - فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أفعلت هذا بولدک کلہم؟ قال: لا، قال: اتقوا اللہ واعدلوا فی أولادکم، فرجع أبي فرد تلک الصدقة. (صحیح مسلم، باب کراهة تفضیل بعض الوالد فی الهبة، النسخة الهندیة ۳۷/۲، بیت الأفكار، رقم: ۱۶۲۳)

و کذا فی العطايا إن لم یقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوی بینہم، یعطى البنت کالابن عند الثانی، وعلیہ الفتاوی. ولو وهب فی صحته کل المال للولد جاز، وأثم. الخ (الدرالمختار، کتاب الهبة، زکریا ۸/۵۰۱-۵۰۲، کراچی ۵/۶۹۶، قاضی خان، زکریا جدید ۳/۱۹۴، وعلی هامش الهندیة ۳/۲۷۹، ہندیة، کتاب الهبة، الباب السادس فی الهبة للصغیر، زکریا جدید ۴/۱۶، زکریا قدیم

۴ / ۳۹۱، فتاویٰ بزازیہ، زکریا جدید ۳ / ۱۲۳، وعلی ہامش الہندیہ ۶ / ۲۳۷،

البحر الرائق، زکریا ۷ / ۴۹۰، کوئٹہ ۷ / ۲۸۸)

اور سزا کیا ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

کیم ذی الحجہ ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۰۴۲/۲۶)

لڑکے کو الگ کرنے کی صورت میں جائیداد کی تقسیم

سوال [۹۵۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید اور عمر دونوں بھائی ہیں، ان کی ایک بہن زینب ہے اور ان کے والدین بھی حیات

ہیں، بھائی میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے والد صاحب اپنے لڑکے کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو ان

کے لڑکے اور لڑکی کو حصہ کتنا ملے گا؟ جب کہ زینب کی شادی ہو چکی ہے، زید اور عمر کے والدین

کے پاس صرف ۲۵ روپیہ ہے اور یہ سب آدمی زندہ ہیں، لڑکی کو حق کتنا ملے گا؟ اگر باپ اپنی

لڑکی کا حق ادا نہ کرے گا تو قیامت میں پکڑ بھی ہوگی؟

المستفتی: ضیاء الرحمن متعلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: باپ کو چاہئے کہ وہ لڑکوں کو اور لڑکی کو برابر حصہ دے، کسی

کے حصہ میں کمی زیادتی نہ کرے، اگر باپ اپنی لڑکی کو حصہ نہ دے گا تو گنہگار ہوگا اور اللہ کے

یہاں پکڑ ہوگی۔

عن أنس بن مالک - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر

من میراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب

الحيث في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دار السلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا

فرضہ اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنة. (سنن سعید بن منصور، باب من قطع میراثا فرضہ اللہ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

عن شعبي قال: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- يقول: أعطاني أبي عطية -إلى- فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، في الرجل يفضل بعض ولده على بعض، مؤسسة علوم القرآن ۱۶/۲۰۰، رقم: ۳۱۶۳۶)

ويكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، كونه ۷/۲۸۸، زكريا ۷/۴۹۰)

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷/۴۹۰، كراچی ۷/۲۸۸)

يعطي للابنة مثل ما يعطي للابن والفتوى على قول أبي يوسف.

(قاضي خان، فصل في هبة الوالد لولده، زكريا جديد ۳/۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/۲۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/رجب ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۳۹۱)

کیا والد کو نافرمان لڑکوں کو محروم کرنے کا حق ہے؟

سوال [۹۵۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے دو شادیاں کیں، پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے اور دوسری بیوی سے تین لڑکے ایک لڑکی ہے؛ لیکن پہلی بیوی بغیر طلاق دے اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، بچہ بھی ساتھ چلا

گیا، جب کہ زید سخت بیمار بھی رہتا تھا، اب لڑکا جوان ہے، زید نے کئی دفعہ اپنی بیماری کی وجہ سے لڑکے کو بلایا؛ لیکن لڑکا نہیں آیا، یہاں تک کہ زید نے کہا کہ اگر تم نہیں آئے تو تم کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے، اس کے باوجود لڑکا نہیں آیا، تو اب چونکہ زید بیمار رہتا تھا اور لڑکے نے کوئی آرام نہیں پہنچایا، اس لئے زید دوسری بیوی سے جو بچے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پوری جائیداد نام کر دینا چاہتا ہے اور پہلی بیوی سے جو لڑکا ہے اس کو کچھ بھی دینا نہیں چاہتا ہے، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پہلی بیوی جو شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اور بالغ لڑکے نے باپ کی حکم عدولی اور نافرمانی کے ساتھ زید سے گریز کیا ہے، جو لڑکے کے لئے کسی طرح جائز نہیں تھا، تو اس طرح نافرمان لڑکے کو کچھ نہ دے کر مطیع اور فرماں بردار لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان دولت تقسیم کر دینا جائز ہے؛ لہذا فرار شدہ بیوی کی اولاد میں سے جو بالغ نافرمان ہیں، ان کو محروم کر دینا جائز ہوگا اور نابالغ اور فرماں بردار کو محروم کر دینا جائز نہ ہوگا۔

عن أنس بن مالک - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر

من ميراث و ارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب

الحيث في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دارالسلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا

فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا

فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ۱ / ۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق، فالصرف إلى الخير

أفضل من تركه له؛ لأنه إعانة على المعصية، وكذا لو كان ابنه فاسقا لا يعطيه

أكثر من قوته. (بازایة، كتاب الهبة، الفصل الأول، الجنس الثالث زكريا، جديد ۳ / ۲۳، ۱

وعلى هامش الهندية ۶ / ۲۳۷، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۴ / ۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵)

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، ۴، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، وهكذا في الهندية، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۱۶، ۴، البحر الرائق، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئنه ۷/ ۲۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ

۷/ ۶/ ۱۴۱۵ھ

(الف توئی نمبر: ۳۱/ ۲۰۶۵)

نافرمان اولاد کو محروم کرنے سے والدین گنہگار نہیں ہوں گے

سوال [۹۵۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نسیم احمد صابر ولد جمال احمد مرحوم، ساکن کسرول مراد آباد میرے چار لڑکے اور پانچ لڑکیاں ہیں، اور چاروں لڑکوں میں سے ایک لڑکا بنام محمد ناصر عرف نوری کو میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اعلیٰ تعلیم دلائی اور گلبرگہ کرناٹک کی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری دلائی، مگر اس لڑکے نے میرے اور میری بیوی دونوں کے ساتھ ایسی ایسی گندی حرکتیں کی ہیں کہ نافرمانی کی حد کردی، میں ایسے نافرمان لڑکے کو اپنی جائیداد اور سرمایہ میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتا اور میں اپنی ہی زندگی میں ساری جائیداد اور سرمایہ اس نافرمان لڑکے کو چھوڑ کر دیگر اولادوں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نافرمان بیٹے کو کچھ نہ دے کر فرماں بردار اولاد کے درمیان اپنا سرمایہ تقسیم کر دیا جائے؟

المستفتی: نسیم احمد صابری، محلہ کسرول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نسیم احمد صابری کے بیٹے محمد ناصر عرف نوری کے بارے میں سوال نامہ میں ماں باپ کا نافرمان اور سرکش ہونے کی جو وضاحت کی گئی ہے اور وہ بھی

لاکھوں روپے خرچ کر کے ماں باپ نے انجینئرنگ کی ڈگری دلائی، پھر بھی ماں باپ کا ایسا سخت نافرمان ثابت ہوا جس کے نتیجے میں ماں باپ پریشان پھر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی ساری جائیداد اور سرمایہ فرماں بردار اولاد کے درمیان تقسیم کر دیں اور نافرمان لڑکے کو کچھ نہ دیں اور شرعی طور پر نافرمان لڑکے کو کچھ نہ دینے سے ماں باپ گنہگار نہیں ہوں گے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأديباً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دار الكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، ۴، مصري قديم ۲/ ۳۵۸)

إن كان التفضيل بالزيادة فلا بأس بذلك، وإن كان في البر سواء لا ينبغي أن يفعل ذلك، وإن كان له ولد فاسق لا يعطيه. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۲۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ رجب ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/ ۸۹۱۳)

نافرمان بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنا

سوال [۹۵۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) محمد کلیم الدین اپنی حیات میں اپنی جائیداد اپنی اولادوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں، بیوی بھی حیات ہے، تو اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے، تو شرعاً کس طرح تقسیم کریں؟

(۲) ایک لڑکا نافرمان ہے، اس کو میں نے دو سال پہلے ناحق کر دیا ہے، اس کو نہ دے کر بقیہ اولادوں کو دے دوں، تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: کلیم الدین محلہ جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کلیم الدین اگر اپنی حیات میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اور بیوی کے لئے جو حصہ نکال کر رکھنا چاہیں رکھ لیں، اس کے بعد بقیہ جائیداد تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برابر تقسیم کر کے قبضہ دلا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکا نافرمان ہے، اس کو نہ دے کر دوسری اولادوں میں برابر کر کے تقسیم کر دیں، تو گنہگار نہ ہوں گے اور زندگی میں تقسیم کرتے وقت لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینے کا خیال رکھنا چاہئے۔

عن النعمان بن بشیر - رضی اللہ عنہ - قال: تصدق علي أبي بعض ماله - إلى - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. (صحيح مسلم، باب كراهة تفضيل بعض الوالد في الهبة، النسخة الهندية ۳۷/۲، بيت الأفكار، رقم: ۱۶۲۳)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحجلة رستم مكتبة اتحاد ۱/ ۶۵۴، رقم المادة: ۱۱۹۲)

ويكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة. (البحر الرائق، كتاب الهبة، كونه ۲۸۸/۷، زكريا ۴۹۰/۷)

قال الطيبي: فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على البعض. (شرح الطيبي، كتاب البيوع، باب الهبة، الفصل الأول، كراچی ۱۸۱/۶، تحت رقم الحديث ۳۰۱۹)

يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن، وعليه الفتوى، وهو المختار. (هندية، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۳۹۱/۴، جديد ۴۱۶/۴)

يعطي البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ۵۰۱/۸، كراچی ۶۹۶/۵)

وعلى جواب المتأخرين لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأديباً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب

العلمية بيروت ۳/ ۴۹۷، مصري قديم ۲/ ۳۵۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ رجب ۱۴۳۲ھ

۳۱/۷/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۴۳۹)

نافرمان بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۵۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرا ایک مکان ایک سو چالیس گز کا ہے، میرے ہی نام ہے، میرا ایک بیٹا ہے، دو لڑکیاں ہیں، بیٹا نافرمان ناخلف ہے، مجھے بھی مارتا ہے اور میری لڑکیوں کو بھی مارتا اور ستاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ اس مکان کا میں مالک ہوں یا نہیں؟ میں اپنے اس مکان کو اپنی زندگی میں فروخت کرنے کا اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: عبداللطیف عرف جمعہ بابو، بیگم والی مسجد اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد کے مالک تھا آپ (عبداللطیف عرف جمعہ بابو) ہیں، آپ کو اس میں ہر طرح کے تصرف کا مکمل اختیار ہے، جسے چاہیں، ہبہ کر دیں یا فروخت کر دیں؛ بلکہ اگر نافرمان لڑکے کو نہیں دیں گے، تو گنہگار نہ ہوں گے، آپ کے نافرمان بیٹے کا آپ کی حیات میں اس جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے، اس کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ کرنا سراسر ظالمانہ وغنا صبانہ دعویٰ کرنا ہے، وہ آپ اور بہنوں کے ساتھ بدسلوکی اور زد و کوب کرنے کے سبب سخت گنہگار اور فاسق ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ انتہائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ واستغفار کرے۔

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. (ترمذي، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، النسخة الهندية ٢/ ١٢، دارالسلام، رقم: ١٨٩٩، مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم ٦/ ٣٧٦، رقم: ٢٣٩٤، المستدرک للحاكم، كتاب البر والصلة، مكتبة نزار مصطفى الباز، جديد ٧/ ٢٥٨٩، قديم ٤/ ١٣٢، رقم: ٧٢٤٩)

عن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. (صحيح مسلم، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، النسخة الهندية ٢/ ٣٣، بيت الأفكار، رقم: ١٦١٠، صحيح البخاري، باب ماجاء في سبع أرضين، النسخة الهندية ١/ ٤٥٤، رقم: ٣٠٩٤، ف: ٣١٩٨، مشكوة المصابيح ٥/ ٢٥٥)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي، كتب خانة رشديه دهلي ١/ ٧)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة رستم مكتبة إتحاد ١/ ٦٥٤، رقم المادة: ١١٩٢)

إن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال، زكريا ٧/ ١٠، كراچی ٤/ ٥٠٢)

ولو كان ولده فاسقا، وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث، هذا خير من تركه. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ٤/ ٣٩١، جديد ٤/ ٤١٦، البحر الرائق، زكريا ٧/ ٤٩٠، كوئته ٧/ ٢٨٨)

فقط واللّه سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۱۱/۱۴۳۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸/ ذی قعدہ ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/ ۱۰۲۱۸)

نافرمان لڑکے کو جائیداد سے محروم کرنا

سوال [۹۵۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) میرے لڑکے ہیں دو، وہ ایک ہی جگہ تھے، اب جدا جدا ہو گئے، ان کی والدہ نے کہا میں چھوٹے لڑکے کے پاس رہوں گی، میری بابت کہا تم کہیں رہو میں نے کہا میں لڑکی کے پاس چلا جاؤں گا، میرے بڑے لڑکے نے کہا تم میرے پاس رہو، میری تیمارداری خدمت گذاری بڑا لڑکا ہی کرتا ہے، چھوٹے لڑکے نے میرا مقابلہ کیا، مجھے ناگوار گزارا، میں کچھ آمدنی کا سلسلہ رکھتا ہوں، تو ان روپیوں کا حق دار کون ہے؟ شریعت مطہرہ کی رو سے جواب مرحمت فرمائیں۔

(۲) میرا چھوٹا لڑکا ایک لڑکی لے آیا، اس کے والد نے مقدمہ دائر کر دیا، اس مقدمہ میں دونوں کا روپیہ لگا، لڑکی گرفتار ہو گئی، لڑکی کے بیان پر مقدمہ میرے چھوٹے لڑکے کے حق میں ہو گیا، اس کی دونوں بیوی ایک جگہ رہنے لگیں، چھوٹے لڑکے کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی، اب ان دونوں عورتوں نے اس کی والدہ کی خدمت میں بالکل کمی کر دی، بیماری میں تیمارداری بھی نہیں کی، ان کی والدہ بہت پریشان، بڑے لڑکے کو معلوم ہوا تو وہ اپنی والدہ کی خبر لینے گیا، اسے دیکھ کر وہ رونے لگیں اور کہا کہ تو مجھے اپنے ساتھ لے جا، وہ والدہ کو ساتھ لے آیا۔ ۱۹۹۷ء سے ہم دونوں ساتھ ہی بڑے لڑکے کے پاس رہتے ہیں، میرے والد کی جائیداد تھی، وہ میں نے فروخت کر دی، چھوٹا لڑکا کہتا ہے آدھا روپیہ مجھے دو، بڑا لڑکا کہتا ہے مقدمہ کا خرچ اور والدہ کے خرچ کا روپیہ، اب اس میں کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: برکت اللہ بانس کھیڑی، نوگاواں سادات، جے پی نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱-۲) باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ نہایت شفقت رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے سب اولادوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہئے۔ حدیث شریف میں اولاد کے

درمیان مساوات و شفقت کا معاملہ نہ کرنے والے کے لئے سخت ترین وعید آئی ہے، لڑکا اگر نافرمان ہے، تو اس کا یہ عمل عند اللہ وعند الناس بہت برا ہے۔ اور یہ سخت ترین گنہگار ہے، اس کو چاہئے کہ باپ سے تمام غلطیوں کی معافی کرا کے باپ کو راضی کر لے، باپ کی ملکیت میں جو کچھ ہے خواہ آمدنی کی شکل میں ہو یا باپ کی جائیداد فروخت کرنے کے نتیجے میں، اس میں باپ خود مختار ہے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اور باپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ چھوٹے بیٹے کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اس کو نہ دے کر بڑے کو دے دے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، کتاب الہیة، دار الکتب العلمیة بیروت ۳/۹۷، مصری قدیم ۲/۳۵۸)

وإن كان له ولد فاسق لا يعطيه. (الفتاویٰ التاتاریخانیة، زکریا ۱۴/۶۲،

رقم: ۲۱۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۱۲۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۳/۱۸ھ

نا فرمان بچوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی شرعی حیثیت

سوال [۹۵۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے چھ لڑکے اور ایک لڑکی ہے، میرے دو لڑکے نہایت بدتمیز اور مجھے پریشان کرنے والے ہیں، ان دونوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، ہر وقت ماں باپ کو ستانا اور تکلیفیں پہنچانا، گالیاں دینا اور جائیداد لینے کے لئے تھانہ میں رپورٹ کرنا ان کا معمول ہے، ان حالات

میں میں اپنا مکان وغیرہ اپنے فرماں بردار بچوں کے نام رجسٹری بیج نامہ کرانا چاہتا ہوں؛ اس لئے کہ فرماں بردار بچے ہی والدین کے خرچ و اخراجات برداشت کر رہے ہیں، میں تو کوئی کمائی نہیں کر پاتا ہوں، فرماں بردار بچوں میں سے تین بچوں کی ابھی شادی بھی باقی ہے، اہلیہ مستقل بیمار رہتی ہے، اس کے علاج میں کافی رقم لگ رہی ہے، ہمارے فرماں بردار بچے ہی دوا علاج کر رہے ہیں، اب دریافت یہ کرنا ہے کیا شرعاً میرے لئے اس کی اجازت ہے کہ اپنی تمام جائیداد وغیرہ فرماں بردار بچوں کو دے کر مالک و قابض بنا دوں؟

المستفتی: حاجی رفیق احمد عرف چھوٹے دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نافرمان بیٹوں کو کچھ نہ دے کر فرماں بردار اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر دینا جائز ہے اور آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے خود مالک و مختار ہیں، آپ کی زندگی میں کسی بھی اولاد کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے؛ لہذا آپ کو یہ اختیار ہے کہ فرماں بردار اولادوں کے درمیان جائیداد رجسٹری کر کے ان کو مالک بنا دیں اور نافرمان اولاد کو کچھ نہ دینے کا کوئی گناہ آپ پر نہیں ہوگا۔

ولو كان ولده فاسقا، فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير، ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية. (البحر الرائق، كتاب الهبة، زكريا ۷ / ۴۹۰، كوئثه ۷ / ۲۸۸، هندية، زكريا قديم ۴ / ۳۹۱، جديد ۴ / ۴۱۶، بزازية، زكريا جديد ۳ / ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶ / ۲۳۷)

وإن كان له ولد فاسق لا يعطيه، وينبغي أن لا يعطيه أكثر من قوته
كسى لا يصير معينا له على المعصية. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱ / ۴۶۲،
رقم: ۲۱۷۲۵)

وإن كان بعض أولاده مشغلا بالعلم دون الكسب لا بأس بأن يفضلته على غيره، وعلى جواب المتأخرين لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان

عالمًا متأدبًا، ولا يعطي من كان فاسقًا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة،

دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۴۹۷، مصری قدیم ۲/ ۳۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

۲۳/۴/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۰۶۶/۴۰)

نافرمان اولاد کو زندگی میں تقسیم جائیداد سے محروم کرنا

سوال [۹۵۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

زید کے تین بیٹے ہیں، عمر، بکر، طاہر، زید کے تینوں بیٹے شادی شدہ ہیں، زید کے پاس صحرائی و سکنائی جگہ ہے، زید کو یہ اختیار ہے یا نہیں کہ زید اپنی جگہ کاشت کی اور گھر کی اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دے اور ایک کو نہ دے یا دو کو نہ دے اور ایک کو دے دے یا تینوں کو نہ دیوے؟ ایک بیٹے کو نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیٹا ہم سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتا اور نہ ہم سے کلام کرتا ہے اور نہ ہمارا کسی طرح خیال رکھتا ہے، زید کو شرعی اعتبار سے کتنے اختیارات ہیں؟

المستفتی: حافظ حمید الدین محلہ چودھریان سلیم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کی زندگی میں اس کی ساری جائیداد اسی کی ملک ہے، وہ اپنی ملکیت کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، اولاد کے درمیان تقسیم کرنے یا کسی کو دینے یا نہ دینے کے بارے میں زید پر کسی کو دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے، ہاں البتہ اگر زید اپنی مرضی سے اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کر دینا چاہے تو لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے ساتھ برابر دینا لازم ہو جائے گا، ورنہ زید گنہگار ہوگا؛ البتہ اس کی گنجائش ہے کہ جو لڑکا نافرمان ہے اس کو کچھ نہ دے کر دوسری اولاد کے درمیان تقسیم کر دے۔

کل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحملة رستم مکتبہ اتحاد ۱/

وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة، ولو كان ولده فاسقاً، فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير، ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه. (عالمگیری، کتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴ / ۳۹۱، جديد ۴ / ۴۱۶، البحار الرائق، کتاب الهبة، زكريا ۷ / ۴۹۰، کراچی ۷ / ۲۸۸)

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل عند أبي يوسف أن يعطيهم على السواء، وهو المختار، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً. (مجمع الأنهر، کتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۴۹۷، قديم: ۲ / ۳۵۸) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱/۲/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ صفر ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸ / ۹۸۹۱)

نافرمان اولاد کو محروم کرنے کا شرعی حکم

سوال [۹۵۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں قمر الدین ولد مولانا بخش محلہ لال مسجد کارہنہ والا ہوں سائل کے تین جوان لڑکے ہیں، ان کی ماں انہیں بچپن میں چھوڑ کر مر گئی تھی، اس کے انتقال کے بعد میں نے عقد ثانی کر لیا تھا، میری دوسری بیوی نے ان تینوں لڑکوں کو مثل اپنی اولاد کے پالا، اب یہ بڑے ہو کر میرا مقابلہ کرنے لگے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتے ہیں، تمام اثاثہ چھین کر لے گئے اور بے روزگار کر دیا، اب صرف دو مکان ہیں، جس میں نصف کے حق دار بتاتے ہیں، پہلی بیوی کی اولاد ہوتے ہوئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے میں انہیں کچھ دینا نہیں چاہتا، ایک عرصہ قبل ان کو عاق کر چکا ہوں، میری دوسری بیوی سے تین لڑکے اور ایک

لڑکی ہوشیار اور بالغ ہو گئے ہیں اور شادی کے لائق ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے اور بیوی بھی حیات ہے، تو کیا پہلی بیوی کے لڑکے زندگی ہی میں اپنی سرکشی سے حصہ لے سکتے ہیں، شرعاً کتنا کتنا دینے کا سائل پابند ہے، زندگی میں بانٹ کر سائل کسی بھی وارث کا دست گریباں نہیں رہنا چاہتا۔

(۱) ایسی صورت میں سائل اپنے لئے کتنا بچا کر رکھے اور کیا عاق کر دینے کے بعد بھی پہلی بیوی سے لڑکے حق پانے کے مستحق ہیں؟

(۲) مجھ سے میری زندگی ہی میں یہ تینوں نافرمان لڑکے اپنا حق پاسکتے ہیں یا نہیں؟

(۳) کیا ان تینوں نافرمان لڑکوں کا حصہ ان کے بچوں کے نام یا معاوضہ ان کے نام کیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: قمر الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ اپنی زندگی میں تمام جائیداد کے خود مختار مالک ہیں، آپ کا دل نہ چاہے تو کسی کو نہ دیں اور آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ فرماں بردار اولاد کو دے کر قبضہ دے دیں اور نافرمانوں کو محروم کر دیں، نیز اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اختیار سے جتنا چاہیں اپنے لئے رکھ لیں اور جتنا اپنی مرضی سے موجودہ بیوی کو دینا چاہیں دے کر بقیہ کو اپنی فرماں بردار اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیں اور نافرمانوں کو محروم کر دیں۔

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا - إلى قوله - لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالماً متأديباً، ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً .

(مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۴۹۷، قدیم: ۲/ ۳۵۸، بزازية،

زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴ /

۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵، البحر الرائق، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئنه ۷/ ۲۸۸، هندية، زكريا قدیم

۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۲۱۶)

نیز اگر آپ نے نافرمان اولاد کو صرف عاق کر کے چھوڑ دیا ہے اور جائیداد آپ کی ملکیت میں رہنے کی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی میراث میں نافرمان اولاد بھی شریک ہو جائے گی اور شرعاً وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ترکہ سے محروم نہ ہوگی، ہاں البتہ اگر آپ اپنی زندگی میں فرماں بردار اولاد کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیں گے، تو محروم ہو سکتی ہے، نیز زندگی میں باپ کی ملکیت میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اس لئے ان کو اپنا حق مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

أما بيان الوقت الذي يجري فيه الإرث قال مشايخ بلخ: الإرث
يثبت بعد موت المورث. (البحر الرائق، كتاب الفرائض، زكريا ۹/ ۳۶۴، كوئٹہ ۸/ ۴۸۸)

الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. (تكملة رد المحتار، كراچی ۷/ ۵۰۵،
زكريا ۱۱/ ۶۷۸، تنقيح الفتاوى الحامدية ۲/ ۲۶، ۲/ ۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم رمضان ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/ ۴۱۶۹)

نافرمان اولاد کو محروم کرنے کی شرعی حیثیت

سوال [۹۵۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: سائل محبوب الاسلام، ساکن موضع سلیم پور کا ہے، میرے یہاں دو بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے تین لڑکے ایک لڑکی ہیں، مذکورہ تین لڑکوں میں سے بڑے دو لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ایک لڑکی کی بھی شادی ہو چکی ہے، تیسرا چھوٹا لڑکا غیر شادی شدہ ہے، دوسری بیوی سے دو لڑکے، دو لڑکیاں ہیں، جن میں سے صرف ایک لڑکی کی شادی ہوئی، دو لڑکے اور ایک لڑکی غیر شادی شدہ ہیں، دونوں بیویوں کی اولاد میں چار کی شادی ہوئی باقی ہے، پہلی بیوی کا بڑا لڑکا سخت نافرمان ہے اور میرا جانی دشمن ہے، ایک مرتبہ مجھ پر بندوق سے فائر بھی کر چکا

ہے، نشانہ خطا ہونے کی بنا پر میں بچ گیا، دوسری مرتبہ پھر مجھے ایک موقع پر مارنے کے ارادے سے بندوق اٹھا کر لایا، مگر لوگوں نے چھین لی اور مجھے بچالیا، یہی مذکورہ لڑکا مجھ سے اپنا بقدر حصہ آراضی صحرائی کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی ماں یعنی میری بڑی بیوی اس کو ابھارتی ہے کہ تمہارے باپ کے پاس جو جائیداد ہے وہ خریدی ہوئی تو نہیں ہے، آبا ئی ہے؛ لہذا باپ کے مرنے پر اس کو جس طرح ملی ہے تم بھی ان سے جبراً اپنا حصہ لو، مذکورہ بڑے لڑکے کی دیکھا دیکھی دوسری زینہ اولاد بھی چاہتی ہے کہ بٹوارہ ہو جائے؛ البتہ وہ کھل کر نہیں کہتے، ایسے حالات میں جب کہ مجھے چار نفر کی شادیاں کرنی ہیں، مذکورہ اولاد کو جائیداد تقسیم کرنی چاہئے یا نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بڑے لڑکے کو اس کی سخت نافرمانی اور عناد کے عوض اپنی جائیداد سے محروم کر دوں کیا میرے لئے مذکورہ حالات کے پیش نظر ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ معلوم ہو کہ میں نے دونوں لڑکوں کی شادیوں میں جو زیور چڑھایا تھا وہ انہیں کے پاس ہے، جس سے انہوں نے اور کچھ تھوڑی سی رقم شامل کر کے چوبیس چوبیس بیگہ زمین صحرائی خریدی ہے، جو انہیں کے نام ہے اور ایک زمین تقریباً سولہ بیگہ میں نے خریدی تھی، جب کہ میری دوسری اولاد چھوٹی تھی وہ سولہ بیگہ زمین اسی بڑے لڑکے اور اس سے چھوٹے لڑکے کے نام ہے، دونوں کی آٹھ آٹھ بیگہ ہوئی ہے، مگر اس پر قابض میں ہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کی گذراوقات کے لئے یہ کافی ہے جو لڑکا میرا جانی دشمن ہے، اس کو میں اپنی جائیداد سے محروم کرنا چاہتا ہوں، شرعاً اس کا جواز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محبوب الاسلام سلیم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بڑا لڑکا آپ کا جانی دشمن اور سخت نافرمان ہے، تو شرعاً آپ کو حق ہے، اپنی زندگی میں تمام جائیداد فرماں بردار اولاد میں برابر تقسیم کر دیں اور نافرمان کو کچھ بھی نہ دیں، ایسی صورت میں آپ گنہگار نہ ہوں گے اور جن کو دینا ہے، ان کو دے کر قبضہ بھی دے دینا لازم ہے، ورنہ ہبہ مکمل نہ ہوگا۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷، ۴، مصري قديم ۲/ ۳۵۸، وهكذا في الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴/ ۶۲، ۴، رقم: ۲۱۷۲۵، بزاية، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷)

نیز زندگی میں تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر دینا لازم ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے، ہاں البتہ لڑکیاں اپنی خوشی سے بھائیوں کو زیادہ دینے پر راضی ہو جائیں تو الگ بات ہے۔

فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى، ولو هب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (الدرالمختار، كتاب الهبة، زكريا ۸/ ۵۰۱، ۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶، قاضي خان، زكريا جديد ۳/ ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳/ ۲۷۹، ہندیة، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربيع الاول ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۶۳/۲۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۳/۱۴۱۳ھ

زندگی میں تقسیم کرنے پر نافرمان بیٹے کو محروم کرنا

سوال [۹۵۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرا ایک لڑکا جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے، یعنی گالم گلوچ اور مارتا پیٹتا ہے، ان کی بیوی سسرال والوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتی ہے، ان کی بیوی مجھے چوری وغیرہ کی تہمت بھی لگاتی رہتی ہے، میں حد درجہ پریشان ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، آیا میں اس بیٹے کو مال سے محروم کر سکتا ہوں جو مجھے مارنے اور پیٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، ایک دفعہ میرا گلابھی گھونٹ دیا کہ لوگ نہ پکڑتے تو میرا کام ہی تمام کر ڈالتا، دوسری دفعہ بھی اس نے ایسا ہی

کیا، وہ مجھے جان سے ختم کر ڈالتا، تو اس نافرمان لڑکے کے علاوہ چار لڑکے ایک لڑکی اور ہیں، کیا میں اپنی تمام جائیداد اس نافرمان لڑکے کے علاوہ سب کو دے دوں؟

المستفتی: امین الدین عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حدیث پاک میں آیا ہے، آقائے نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے:

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يؤقر كبيرنا. (سنن الترمذي، باب ما جاء في رحمة الصبيان، النسخة الهندية ۲ / ۱۴، دار السلام، رقم: ۱۹۲۱)

یعنی جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے اسلامی طریقے اور سنت کے دائرہ میں نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ مسئلہ میں اگر باپ نے بیٹے کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کیا ہے؛ بلکہ بے رحمی کا معاملہ کیا ہے، تو باپ بھی گنہگار ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف سے واضح ہے۔ اور اگر بیٹے نے باپ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کیا ہے، تو وہ سخت ترین گنہگار ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. [بني إسرائيل: ۲۳-۲۴]

یعنی باپ کے برا بھلا کہنے پر بیٹے کو اف تک کہنے کا حق نہیں؛ اس لئے بیٹے نے جو معاملہ باپ کے ساتھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے، اس کو باپ کے پیروں میں پڑ کر معافی تلافی کر لینا ضروری ہے، نیز باپ کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس میں باپ خود مختار ہے اور باپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ نافرمان بیٹے کو نہ دے کر فرماں بردار بیٹوں کو دے دے۔

لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من

كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۹۷،
مصري قديم ۲/ ۳۵۸)

إن كان التفضيل بالزيادة فلا بأس بذلك، وإن كان في البر سواء لا
ينبغي أن يفعل ذلك، وإن كان له ولد فاسق لا يعطيه. (الفتاوى التاتارخانية،
زكريا ۱۴/ ۶۲، رقم: ۲۱۲۷۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۳/۱۷ھ

(الف توئی نمبر: ۳۵/۶۵۴۵)

زندگی میں نافرمان اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا

سوال [۹۵۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: میرا ۸۸ گز زمین میں ایک مکان ہے اور میں نے شادی کی تھی، میری بیوی سے کوئی
اولاد نہیں ہوئی اور اس کے گزر جانے کے بعد میں نے دوسری شادی کی، اس بیوی سے ایک
لڑکا محمد شریف پیدا ہوا اور اس بیوی کے گزر جانے کے بعد تیسری شادی کی، جس سے سات
لڑکے اور ۵ لڑکیاں پیدا ہوئیں، محمد شریف اس وقت صاحب مال تھا اور ہے، میرے بارہ
بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے اپنی مالی پریشانی میں یہ مکان رہن رکھا اور میں کئی سال
تک بہت پریشان رہا، میں نے اپنے لڑکے محمد شریف سے خوشامدانہ طریقہ سے کہا کہ بیٹے محمد
شریف مجھے زمین ادا کرانے کے لئے رقم دے جو تیرے پاس ہے یا مجھے کچھ سہارا دے،
میرے لڑکے محمد شریف نے مجھے کوئی پیسہ دینے سے انکار کر دیا، میں اس وقت بہت ہی
پریشان تھا، میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محمد لیتق محمد حنیف کو مجبوری میں کام پر ڈال
دیا، جب وہ بچے کمانے کے لائق ہوئے تو انہوں نے مجھے بہت کچھ سہارا دیا، یعنی اپنی کمائی کا
سارا پیسہ دیا جس سے پانچ سال میں زمین کی آزادی کا سہارا لیا اور لڑکے محمد شریف نے مجھے

آج تک کوئی پیسہ نہیں دیا اور نہ ہی میری پانچ لڑکیوں کی شادی میں کوئی سہارا دیا اور جب میرے یہ سات لڑکے اور پانچ لڑکیاں ہوشیار ہو گئے، تو ان سے کہا اس گھر میں پیسہ لگاؤ اور رہو، تو محمد شریف نے منع کر دیا۔

اب ہمیں علماء دین بتلائیں ان حالات پر دھیان دیتے ہوئے کہ محمد شریف کو کتنا حصہ پہنچتا ہے؟ اور میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور میں نے خود اپنی مرضی سے یہ مضمون لکھوایا ہے اور یہ واقعہ رہن کا ۱۹۶۱ء سے ۱۹۶۶ء تک کا ہے۔ محمد شریف کے تین بچے اسی گھر میں پیدا ہوئے اور شادی بھی اسی رہن و پریشانی کے دور میں ہوئی۔

المستفتی: محمد رفیق اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ اپنی زندگی میں اپنے تمام مال و جائیداد کے خود مالک ہیں، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے کہ نافرمان لڑکے کو دیں یا نہ دیں اور اس کو نہ دے کر دیگر اولاد کو زندگی میں ہبہ کر دینے کا حق ہے؛ لیکن آپ کے مرتے وقت آپ کی ملکیت میں جو کچھ بھی باقی رہے گا، اس میں محمد شریف بھی دوسروں کی طرح حق دار ہوگا۔ اور دوسری اولاد کو اگر زندگی میں دے کر مالک بنا دیں گے، تو اس میں محمد شریف کا حق نہ ہوگا۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي،

کتب خانہ رشدیہ دہلی ۱/۷)

يتصرف المالک في ملكه كيف شاء. (البنایة، أشرفیہ ۸/۲۱۹)

المالک للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره و مشيئته. (بدائع

الصنائع، کتاب النکاح، فصل بیان مایبطل به الخیار، کراچی ۲/۳۲۷، زکریا

۲/۶۳۸ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ شوال ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۵۸۹۴)

کلمات کفریہ بکنے والے کو جائیداد سے محروم کرنا

سوال [۹۵۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کا لڑکا عالم دین مدرسہ اشرفیہ راندر سے فارغ التحصیل ہے، ۶ بچوں کا باپ ہے، عمر ۳۸ سال ہے، کام نہیں کرتا بوڑھے باپ سے صرف اور صرف خرچ مانگتا ہے، اب تک خرچ دیا، اس کے بال بچوں کی پرورش کی اب تین سال سے الگ ہے، خرچ نہ ملنے پر کفریہ کلمات لکھتا ہے اور بولتا ہے، مثلاً کہتا ہے کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، صرف ”اوم“ میں یعنی ہندو دھرم میں سب ہے، روزانہ صبح دس ہزار بار ”رام، رام، رام“ پڑھنا، روزانہ شام دس ہزار بار ”اوم، اوم“ پڑھنا، روزانہ دوپہر دس ہزار بار ”ہرے لکشمی“ پڑھنا، روزانہ سو بار ”کرشنا“ پڑھنا، اس سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ کلمات اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ عالم دین مسلمان ہے؟ اس کو باپ کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ اس نے لکھا ہے: ”بھگوان کرشنا کے نام سے، عبدالرحمن کا خط:

(۱) ”خدا گیا بھاڑ میں (۲) محمد صلی اللہ علیہ وسلم چولہے میں (۳) قرآن گیا گڈھے میں (۴) پردہ گیا آگ میں (۵) اسلام گیا تیل لگانے (۶) حدیث گئی مرنے کو (۷) فقہ گیا بھونٹری میں (۸) عربی گئی سنڈا اس میں (۹) مدینہ گیا جہنم میں۔ اسلام جھوٹا مذہب ہے، دہشت گرد مذہب ہے، اسلام مار پیٹ کرتا ہے، اسلام جھگڑے لگاتا ہے، اسلام غریب و فقیر بناتا ہے۔“ الخ

مذکورہ الفاظ خود اس کے قلم سے لکھے ہوئے لیٹر پیڈ میں ہیں۔

زید کے پاس ایک جائیداد ہے جو ۱۲/۱ ایکڑ زمین ہے، اور ۶/۱ لڑکیاں دولڑ کے والدین زندہ ہیں، اس زمین کی تقسیم ۱۰ افراد پر ہوگی، ۱۲/۱ ایکڑ زمین اور باغ کی قیمت چالیس لاکھ روپے ہے۔ اس نالائق لڑکے کی وجہ سے میں بیمار ہوں، اتنا دکھ اور غم ہے: اس لئے اس کو عاق کر دیا ہے، تو یہ عاق کر دینا صحیح ہے یا نہیں؟ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں کتنا کتنا ملے گا؟ اور اگر

باپ لینا چاہے تو کتنا ملے گا؟ ۲ لڑکے عفان، عبدالمعتین، لڑکیاں: عائشہ، عطیہ، سمیہ، طیہ، خدیجہ، شاہین والدہ جمیلہ، والد عبداللطیف، عاق کیا ہوا لڑکا عبدالرحمن۔

المستفتی: مولانا عبداللطیف بن اکبر ناکو ڈپورہ، بڑی مسجد کے بازو مستگم نیر، ضلع احمد نگر، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں باپ کے لئے بیٹے کے بارے میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، وہ اگر درست ہیں اور واقعی میں سوال نامہ میں ذکر کردہ کفریہ کلمات بیٹے نے استعمال کئے ہیں، تو وہ قطعی طور پر اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید لازم ہے۔ اور ساتھ میں سچی توبہ بھی لازم ہے، اس کے بغیر اس کے لئے بیوی کے ساتھ رہنا قطعاً جائز نہیں۔

ایما رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أو کذبہ أو عابه، أو تنقصہ فقد کفر باللہ تعالیٰ، و بانث منه امرأته. (شامی، کتاب الجہاد، باب المرتد، زکریا ۶/ ۳۷۳، کراچی ۴/ ۲۳۴)

یکفر إذا وصف اللہ تعالیٰ بما لا یلیق بہ أو یسخر باسم من أسمائہ، أو بأمر من أو امرہ. (ہندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین، زکریا جدید ۲/ ۲۷۱، قدیم ۲/ ۲۵۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/ ۱۲۰، زکریا ۵/ ۲۰۲)

من تکلم بکلمة الکفر ہازلا أو لاعبا کفر عند الکمل، ولا اعتبار باعتقاده، کما صرح بہ قاضی خان فی فتاواہ. (البحر الرائق، کتاب السیر، باب أحكام المرتدین، زکریا ۵/ ۲۱۰، کوئٹہ ۵/ ۱۲۵)

اور ایسے نافرمان اور بددین بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر دینے میں باپ گنہگار نہ ہوگا۔
(۲) باپ کی زندگی میں اس کی جائیداد اور ملکیت کے اولاد مالک نہیں ہوتے؛ اس لئے باپ کی زندگی میں وراثت کے طور پر اس کی جائیداد اور ملکیت تقسیم نہیں ہوگی، سب کا مالک باپ ہی ہے، ہاں البتہ جھگڑے سے اولادوں کو بچانے کے واسطے زندگی ہی میں نافرمان اور بد

دین بیٹے کو نہ دے کر دوسری اولادوں کے درمیان جائیداد تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، تو اپنی مرضی سے جتنا چاہیں اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے رکھ لیں اور بقیہ جائیداد فرماں بردار لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیں۔ اور زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر ہی دیا جاتا ہے؛ اس لئے چھ لڑکیاں اور دو لڑکوں کے درمیان آٹھ حصہ کر کے سب کو برابر دے دیں۔

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل عند أبي يوسف: أن يعطيهم على السواء هو المختار - إلى قوله - وعلى جواب المتأخرين لا بأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متأدبا، ولا يعطى منهم من كان فاسقا فاجرا. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۱۹۷، قديم: ۲/ ۳۵۸)

ولو كان ولده فاسقا، وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث، هذا خير من تركه. (هندي، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، البحر الرائق، زكريا ۷/ ۴۹۰، كوئٹہ ۷/ ۲۸۸)

وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق، فالصرف إلى الخير أفضل من تركه له؛ لأنه إعانة على المعصية، وكذا لو كان ابنه فاسقا لا يعطيه أكثر من قوته. (بزازية، كتاب الهبة، الفصل الأول، الجنس الثالث زكريا، جديد

۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴/ ۴۶۲، رقم: ۲۱۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۳/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۲۲/۳۸)

زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکیوں کو نہ دینا

سوال [۹۵۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: میرے والد عبداللطیف صاحب نے اپنی حیات میں اپنے تین لڑکوں کو الگ الگ مکان دے دیا تھا اور لڑکیوں کی صرف شادی کر دی تھی، ان کو مکان میں سے کچھ نہیں دیا تھا، مجھے بھی میرے والد نے ایک مکان دے دیا تھا، ان کی زندگی ہی میں اس میں رہنے لگا تھا اور میرا قبضہ تھا، اب میں کچھ ضرورتوں کے تحت اپنے حصہ کے مکان کو بیچ رہا ہوں، تو اس میں ہماری بہنیں (۱) سکندر (۲) تارہ ہم سے اپنا حصہ مانگتی ہیں، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا شرعاً اب ہمارے مکان میں بہنوں کا حصہ نکلتا ہے، جب کہ باپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیا تھا اور نہ مرنے کے بعد دینے کی کوئی صراحت کی تھی، ہمارے بھی چار لڑکیاں ہیں، شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: لیتق احمد محلہ فیل خانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: باپ کا اپنی زندگی میں تینوں بھائیوں کو مکان دے دینا یہ ہبہ ہے اور ہبہ میں لڑکے اور لڑکیوں کو برابر حصہ دینا چاہئے۔

عن النعمان بن بشیر - رضی اللہ عنہ - قال: تصدق علی أبي بعض مالہ - إلی - فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أفعلت هذا بولدک کلہم؟ قال: لا، قال: اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، فرجع أبي فرد تلک الصدقة. (صحیح مسلم، باب کراهة تفضیل بعض الوالد فی الهبة، النسخة الهندیة ۳۷/۲، بیت الأفكار، رقم: ۱۶۲۳)

المختار التوسیة بین الذکر والأُنثی فی الهبة. (البحر الرائق، کتاب الهبة،

کراچی ۷/۲۸۸، زکریا ۷/۴۹۰)

یعطی البنت کالابن عند الثانی، وعلیہ الفتوی. (شامی، کتاب الهبة، زکریا

۵۰۱/۸، کراچی ۵/۶۹۶)

باپ کا لڑکوں کو دے کر لڑکیوں کو محروم کرنا درست نہیں تھا؛ البتہ جب باپ نے ہبہ کر کے قبضہ دے دیا تو ہبہ صحیح ہو گیا۔

رجل و هب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكون آثما فيما صنع. (عالمگیری، کتاب الہبۃ، الباب السادس في الہبۃ للصغير، زکریا قدیم ۴ / ۳۹۱، جدید ۴ / ۱۶۷)

ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (الدرمع الرد، کتاب الہبۃ، زکریا ۸ / ۵۰۲، کراچی ۵ / ۶۹۶)

باپ اپنے اس عمل کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور لڑکیوں کو اس مکان میں کچھ نہیں ملے گا۔ (محمودیہ ۵ / ۶۲، ڈبھیل ۱۶ / ۵۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۰ جمادی الاول ۱۴۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵ / ۶۶۶۲)

باپ کا لڑکیوں کو حصہ نہ دے کر صرف لڑکوں کو دینا

سوال [۹۵۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے علاقہ میں یہ دستور ہے کہ والد اپنی زندگی میں اپنے لڑکوں کے نام اپنی زمین کرا دیتا ہے اور باقاعدہ لڑکوں کو قبضہ دے دیتا ہے۔ اور لڑکیوں کے نام زمین وغیرہ نہیں کراتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ والد کا ایسا کرنا درست ہے کہ صرف لڑکوں کو اپنی زندگی میں زمین دے دے اور لڑکیوں کو نہ دے؟ اور اسی طرح لڑکیوں کی حق تلفی تو نہیں ہوتی اور ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا فیصلہ ہے؟ نیز لڑکوں کو زمین دینے کے بعد لڑکیوں کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟

المستفتی: محمد مشرف خان بہرائچی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان مال اور جائیداد تقسیم کرنا ہے، تو جس طرح جتنی مقدار لڑکوں کو دیا جائے اسی طرح اتنی مقدار لڑکیوں کو دینا بھی باپ پر لازم ہے، ورنہ باپ سخت گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دارالسلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ۱ / ۹۶، رقم: ۲۸۵-۲۸۶)

فسوى بينهم يعطى البنت كالأبن عند الثاني، وعليه الفتوى، ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (الدرالمختار، كتاب الهبة، زكريا ۸ / ۵۰۱، ۵۰۲، كراچی ۵ / ۶۹۶، قاضي خان، زكريا جديد ۳ / ۱۹۴، وعلى هامش الهندية ۳ / ۲۷۹، هندية، زكريا قديم ۴ / ۳۹۱، جديد ۴ / ۱۶، البحر الرائق، كوئٹہ ۷ / ۲۸۸، زكريا ۷ / ۴۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۶/۲۲ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۴ / جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱ / ۴۰۵۱)

لڑکیوں کو محروم کر کے تمام جائیداد لڑکوں کے درمیان ہبہ کرنے کا حکم

سوال [۹۵۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد سعید صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی کل جائیداد متروکہ ۸۰۰ گز تھی، مرحوم نے اپنی زندگی میں اس جائیداد کو اپنے پانچ لڑکوں کے نام الگ الگ رجسٹری ہبہ کر کے قبضہ میں دے دیا تھا، محمد نسیم، محمد وسیم کو ۲۰۰-۲۰۰ گز دیا تھا۔ اور محمد سلیم، محمد پرویز عالم، محمد جاوید عالم کو تقریباً ۱۳۳-۱۳۳ گز دیا تھا، گزوں میں کمی زیادتی اس لئے تھی کہ جن کو کم دیا تھا ان کا حصہ فرنٹ کا تھا، محمد نسیم، محمد وسیم کا حصہ ۴۰۰ گز والا کرایہ دار کے پاس تھا، اس کا کرایہ جب تک والد صاحب کے قبضہ میں تھا ان کے پاس آتا رہا، اس کے بعد جب محمد نسیم و محمد وسیم کے قبضہ میں آ گیا تو کرایہ ان کے پاس آنے لگا تھا؛ لیکن کرایہ دار کے خالی نہ کرنے کی وجہ سے ان دونوں نے اسے پندرہ سال پہلے پچیس لاکھ روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ یہ واضح رہے کہ محمد سعید صاحب کی ان پانچ لڑکوں کے علاوہ چار لڑکیاں بھی تھیں، ان کو کوئی حصہ نہیں دیا تھا، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اس جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محمد وسیم بارہ درہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ باپ نے اپنی مذکورہ جائیداد زندگی میں لڑکوں کو ہبہ کر کے قبضہ دے کر مالک بنا دیا ہے، اس سے تمام لڑکے اپنے اپنے حصہ کے شرعی طور پر مالک ہو چکے ہیں؛ لیکن مرحوم نے اپنی جائیداد زندگی میں جب زینہ اولاد کو دے کر لڑکیوں کو محروم کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے مرحوم سعید احمد عند اللہ سخت گنہگار ہوں گے، اگر لڑکوں کو اس بات کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ باپ نے لڑکیوں کو نہ دے کر ان کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور باپ کو اس گناہ سے سبکدوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہر

لڑکا اپنے اپنے حصہ میں سے جتنا جتنا بہنوں کا حصہ آتا ہے، بہنوں کو دے دے تو اللہ سے امید ہے کہ باپ اللہ کے یہاں بری ثابت ہو جائیں گے۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ۲/ ۱۹۴، دار السلام، رقم: ۲۷۰۳، مشکوٰۃ/ ۲۶۶)

ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز، وهو أثم. (بزازية، كتاب الهبة، الفصل الأول الجنس الثالث في هبة الصغير، زكريا جديد ۳/ ۱۲۳، وعلى هامش الهندية ۶/ ۲۳۷، هندية، زكريا قديم ۴/ ۳۹۱، جديد ۴/ ۴۱۶، شامي، زكريا ۸/ ۵۰۲، كراچی ۵/ ۶۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۳/۲۲ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۵۹/۴۰)

لڑکیوں کو شادی میں جہیز دینے کی بنا پر جائیداد سے محروم کرنا

سوال [۹۵۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے پانچ سالے اور ایک سالہ سالی ہے، ان کے والدین بھی الحمد للہ باحیات ہیں، وہ اپنی حیات میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یوں سمجھئے کہ تقسیم کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی تقسیم قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تقسیم یوں عمل میں آئی کہ پانچ لڑکوں میں سے ہر لڑکے کو ڈھائی ایکڑ زمین جن کی قیمت ۶ لاکھ روپے ہے۔ اور والدین بھی ایک ایکڑ زمین اور ایک سڑکی مٹکی مڈگی جن کی قیمت بھی تقریباً ۶ لاکھ سے زائد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے والدین کی جائیداد شریعت کے مطابق لڑکیوں کو ملے گی یا نہیں؟ لڑکیوں سے ان کے والدین کا کہنا ہے کہ تمہاری شادیوں میں بہت خرچ ہوا ہے؛ اس لئے تم

کو حصہ نہیں ملے گا، حالانکہ لڑکوں کی شادی میں بھی خرچ ہوا ہے، تو کیا شرع اور قرآن وحدیث کے مطابق یہ تقسیم ہوئی ہے، کیا لڑکیاں حصہ دار ہیں یا نہیں؟ اگر لڑکیاں حصہ دار ہیں تو والدین سے اپنے حصے کے لئے لڑ سکتی ہیں یا نہیں؟

المستفتی: مرزا انصار بیگ صاحب، امام جامع مسجد نبی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر والدین اپنی حیات میں اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر برابر دینا لازم اور ضروری ہے اور والدین کا یہ کہہ کر لڑکیوں کو محروم کر دینا کہ ہم نے تمہاری شادی کے موقع پر جو خرچ کیا تھا وہ تمہارا حصہ دے دیا ہے درست نہیں ہے؛ کیوں کہ شادی کے موقع پر جو خرچ ہوا ہے وہ والدین کی طرف سے محض تبرع اور احسان ہے؛ اس لئے اب جائیداد کی تقسیم کے وقت لڑکیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ والدین سے اپنے حصہ کا مطالبہ کریں۔

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من فر

من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب

الحيث في الوصية، النسخة الهندية ۲ / ۱۹۴، دار السلام، رقم: ۲۷۰۳)

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - يخطب قال: قال رسول الله

ﷺ: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. (شعب الإيمان للبيهقي، باب

في حقوق الأولاد والأهلين، دار الكتب العلمية بيروت ۶ / ۴۰۸، رقم: ۸۶۹۱)

ويكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة.

(البحر الرائق، كتاب الهبة، كونه ۷ / ۲۸۸، زكريا ۷ / ۴۹۰)

قال الطيبي: فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل

بعضهم على بعض. (شرح الطيبي، كتاب البيوع، باب الهبة، الفصل الأول، كراچی ۶ /

۱۸۱، تحت رقم الحدیث (۳۰۱۹)

يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن، وعليه الفتوى، وهو المختار. (هندية،

الباب السادس في الهبة للصغير، زكريا قديم ۴ / ۳۹۱، جديد ۴ / ۴۱۶)

يعطى البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى. (شامي، كتاب الهبة، زكريا

۸ / ۵۰۱، كراچی ۵ / ۶۹۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ / جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹ / ۱۰۴۲۴)



۸ / باب ہبۃ المریض

مرض الموت میں ہبہ کا حکم

سوال [۹۵۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد نسیم صاحب ۲۲ دسمبر ۲۰۰۶ء کو انتقال کرتے ہیں اور اپنے پیچھے وارثین چھوڑ جاتے ہیں، ایک بیوی، تین بیٹے اور چھ بیٹیاں، جن میں ایک بیٹی غیر شادی شدہ ہے اور ترکہ میں دیگر اشیاء کے علاوہ ایک کرایہ کی دوکان ہے، جس کی پوزیشن فی الحال تقریباً دس لاکھ روپے ہوگی اور وہ دوکان محمد نسیم اینڈ سنس کے نام سے ہے، ابھی وراثت کی تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی کہ محمد نسیم کے ایک وارث بڑے لڑکے عبدالکریم ساڑھے تین سال بعد ۶ اگست ۲۰۱۰ء کو انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے وارثین میں ایک بیوی، ایک لڑکا اور دو لڑکی چھوڑ گئے، اب جب تقسیم وراثت کا مسئلہ آیا تو محمد نسیم صاحب کے چھوٹے بیٹے محمد جمال الدین نے کہا: میں ہر چیز میں تقسیم پر راضی ہوں سوائے اس دوکان کے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو یہ کہا کہ میرے والد نے یہ دوکان مجھے دے دی ہے، اس کے لئے انہوں نے ایک کورٹ پیپر پیش کیا، جس میں ۴ دسمبر ۲۰۰۶ء کی تاریخ پڑی ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ والد صاحب نے یہ کاغذ اپنی زندگی میں بنایا تھا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ دوکان میں بیوی دونوں بیٹوں اور چھ بیٹیوں کو چھوڑ کر صرف ایک بیٹا کو دے رہا ہوں۔ واضح ہو کہ محمد نسیم صاحب کے انتقال کے ڈھائی تین سال بعد محمد جمال الدین نے دوکان مالک سے محمد نسیم اینڈ سنس کا نام ہٹا کر محمد جمال الدین اینڈ سنس کر لیا ہے، جب کہ والد محمد نسیم صاحب کے زمانے سے دونوں بیٹے آج تک دوکان پر بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد نسیم صاحب کے انتقال کے چار برس بعد اچانک اس طرح کے کاغذ کا سامنے آنا جب کہ نہ گھر والوں کو معلوم، نہ محلے والوں کو معلوم، لوگوں کو شبہ میں ڈالتا ہے کہ یہ کاغذ ان کا تیار کردہ نہیں معلوم ہوتا، تاہم بالفرض اگر

انہوں نے ایسا کیا ہے، تو از روئے شرع ایسا کرنا کیسا ہے؟ اپنے تمام وارثین میں سے ایک وارث کے نام کر دینے سے تمام وارثین کا حق اس دوکان سے ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ نیز بڑے بیٹے عبدالکریم کی بیوی اور اولاد کو کتنا کتنا ملے گا؟ اور چھوٹی بیٹی جو غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی کے خرچ کے لئے رقم الگ کر کے وراثت تقسیم ہوگی یا بغیر الگ کئے ہوئے؟ حنفی مسلک سے جواب دینے کی زحمت گوارا کریں، کرم ہوگا۔

المستفتی: ماک پیئر، کانگی نارہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں جس بات کا حکم شرعی معلوم کرنے کی اہمیت دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ محمد نسیم کے چھوٹے بیٹے محمد جمال الدین کا والد کی وفات کے تقریباً چار برس کے بعد اس طرح کا کاغذ نکال کر پیش کرنا، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ”وفات سے بیس دن پہلے باپ نے محمد جمال الدین کو یہ ہبہ کیا ہے“، اگر اس وقت محمد نسیم بیمار اور کمزور چل رہے تھے اور اسی بیماری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو یہ ہبہ وارث کے حق میں وصیت کے حکم میں ہے، جو دوسرے وارثین کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتی؛ لہذا اس ہبہ اور وصیت کا شرعی طور پر اعتبار نہیں اور وہ دوکان بھی تمام ورثاء کے درمیان شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، نیز اگر مرض الوفات سے پہلے صحت اور تندرستی کے زمانہ میں یہ ہبہ کیا ہے، تو اس کے لئے شرعی ثبوت لازم ہے، محض کورٹ کا کاغذ بغیر شرعی ثبوت اور شرعی شہادت کے پیش کرنا معتبر نہیں؛ اس لئے وہ دوکان بھی تمام وارثین کے درمیان شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔

والہبة من المریض لو ارثه نظیر الوصیة؛ لأنه وصیة حکما. (مجمع

الأنهر، کتاب الوصایا، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/ ۴۲۴، مصری قدیم ۲/ ۶۹۶)

وفي الذخيرة: مریضة وهبت صداقها من زوجها، فهذا علی وجهین:

إما إن برأت من مرضها أو ماتت في مرضها، ففي الوجه الأول صح، وفي

الوجه الثاني، فالمسألة على قسمين: إما إن كانت مريضة غير مرض الموت، أو مريضة مرض الموت، ففي القسم الأول كذلك الجواب، وفي القسم الثاني لم يصح إلا بإجازة الورثة. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۴ / ۴۸۸، برقم: ۲۱۸۲۸)

مرحوم کی جو بیٹی غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی کے لئے ترکہ میں سے میراث کے علاوہ الگ سے کوئی سرمایہ متعین نہیں ہوگا؛ بلکہ میراث میں اس کو جو حصہ مل سکتا ہے وہی اس کا حق شرعی ہوگا۔ اور یہ بات الگ ہے کہ سب بھائی بہن مل کر اس بہن کا خرچ اپنے طور پر اٹھائیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اور وارثین میں سے ہر ایک کو کتنا کتنا ملے گا؟ اس سلسلے میں محمد نسیم کی بیوی اور اس کے لڑکے لڑکیوں کے نام لکھے جائیں اور عبدالکریم کی بیوی اور اس کے لڑکے لڑکیوں کے نام لکھ دیئے جائیں، اس کے بعد ہی سب کے حصے متعین کر کے لکھے جاسکتے ہیں۔

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ۱۱ / ۱۷۰، رقم: ۱۱۵۳۲، سنن الترمذي، باب ماجاء لا وصية لوارث، النسخة الهندية ۲ / ۳۲، دار السلام، رقم: ۲۱۲۰)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. (مصنف ابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن، وعلى ۱۳ / ۵۲۹، برقم: ۲۷۰۹۸، صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، النسخة الهندية ۲ / ۳۴۵، بيت الأفكار، رقم: ۲۶۹۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱۰/۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/ ذیقعدہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۱۱/۳۹)

حالت مرض میں وارث کو ہبہ

سوال [۹۵۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بستر علالت میں باپ نے ۶ اولادوں میں سے ایک اولاد کے نام جائیداد کردی اور اس کی شکل یہ ہے کہ جس لڑکے کے نام جائیداد کی ہے، اس لڑکے نے باپ کی ذہن سازی کر کے رجسٹرار کو گھر بلا کر تمام کارروائیاں پوری کرا دیں، تو کیا اس طرح ۵ لڑکوں کو محروم کر دینا اور صرف ایک لڑکے کے نام پوری جائیداد کر دینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حالت مرض میں وارث کو کیا ہوا ہبہ وصیت کے حکم میں ہے اور وارثین کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حالت مرض میں کیا ہوا ہبہ قبل القبض باطل ہوتا ہے؛ لہذا یہ ہبہ باطل ہے۔ (فتاویٰ عثمانی ۳/۳۶۸، محمودیہ ڈبھیل ۱۶/۲۸۹)

إذا وهب أحد في مرض موتہ شيئاً لأحد ورثته، وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وصية، ولا وصية للوارث. (شرح المجلة رستم باز، اتحاد ديوبند ۱/۸۳، رقم المادة: ۸۷۹)

إن الوصية للوارث لا تجوز بدون إجازة الورثة؛ لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة، فإن أوصى بعض ورثته ولأجنبي جازت حصة الأجنبي، وبطلت حصة الوارث. (المبسوط، دارالكتب العلمية بيروت ۲۷/۱۷۵، ۱۷۶)

وهب في مرض ولم يسلمه حتى مات بطلت الهبة. (بزازية، نوع في هبة المريض، جديد زكريا ۳/۱۲۶، وعلى هامش الهندية، زكريا ۶/۲۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف خاص فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۴۵۶)

چند اولاد کو جائیداد دے کر بقیہ کو محروم کر کے مرض الموت میں ان کے لئے وصیت کرنے کا حکم

سوال [۹۵۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مسماۃ شہزادی بیگم مرحومہ کے ۵ لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے، شہزادی بیگم مرحومہ کے شوہر کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا ہے اور ایک قطعہ زمین شہزادی بیگم کے نام ہے، شہزادی بیگم نے اپنی حیات میں ہی اپنی زمین کو دو حصوں میں منقسم کر کے اپنے دو چھوٹے صاحبزادوں کو دے دی۔ اور انہوں نے وہ زمین مرحومہ کی حیات میں ہی تعمیر بھی کر لی، مرحومہ نے ان دو صاحبزادوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنے تینوں بھائیوں کو دو دو سو روپے ادا کر دیں اور بہن کنیرہ بیگم کو بھی دو سو روپے دینے کے لئے کہا تھا اور ان تینوں صاحبزادوں نے ان کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کیا، اب شہزادی بیگم مرحومہ کے بعد سب سے بڑے بھائی کی اولاد روپیہ لینے کو تیار نہیں؛ بلکہ زمین لینے پر مصر ہے، اور دوسرے دونوں بھائی اور ان کی اولاد خاموش ہیں، نیز سب سے بڑے بھائی بھی خاموش ہیں اور سب سے بڑے بھائی کی اولاد زمین تقسیم کرنے کے لئے مصر ہے، آیا اس تیسرے بھائی کی اولاد زمین کی حق دار ہوگی یا ان کو روپیہ دیا جاسکتا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں، نیز مرحومہ شہزادی بیگم نے انتقال سے لگ بھگ ۲/ گھنٹہ پہلے بھی ۲۰۰ رو سو روپیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔

المستفتی: راحت علی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب والدہ نے اپنی مملوکہ زمین کو اپنی حیات میں دو لڑکوں کے درمیان تقسیم کر کے مالک بنا دیا ہے اور ان دونوں نے والدہ کی زندگی میں قبضہ

کر کے تعمیر بھی کر لی ہے، تو وہ لوگ قانون شرعی کی رو سے اس کے مالک بن گئے ہیں، اس میں اب کسی کا حق باقی نہیں رہا؛ البتہ والدہ نے اپنی جائیداد میں دوسری اولاد کو محروم رکھا ہے اس کا گناہ والدہ پر ہوگا، رہا دوسروں پر یہی وصیت تو شرعاً وراثت کے حق میں وصیت درست نہیں ہوتی؛ اس لئے اگر مذکورہ دونوں لڑکے دوسرے بھائی و بہن کو ۲-۲ سو روپے دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو لے کر خاموش ہو جائیں، یہ ان کی طرف سے تبرع ہے، اس سے زائد یا زمین کے مطالبہ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز، وأثم. (الدرالمختار، كتاب

الہبۃ، زکریا ۸/۵۰۲، کراچی ۵/۶۹۶)

رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكون آثما

فیما صنع. (قاضی خان، کتاب الہبۃ، فصل فی ہبۃ الوالد لولده، زکریا جدید ۳/۱۹۴،

وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۲۷۹، بزازیۃ، زکریا جدید ۳/۱۲۳، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۲۳۷)

ولو دفع إلى ابنه مالا، فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة

علی التملیک. (شامی، کتاب الہبۃ، زکریا ۸/۵۰۳، کراچی ۵/۶۹۷) فقط واللہ

سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۶/۲۴)



۳۱ / کتاب الإجارة

۱ / باب الإجارة الصحيحة

اجیر خاص اور اجیر مشترک کا فرق

سوال [۹۵۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اجیر خاص اور اجیر مشترک کسے کہتے ہیں اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے، واضح فرمائیں، نوازش ہوگی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اجیر خاص وہ اجیر ہے، جو متعین وقت کے اندر محض تسلیم نفس سے ہی اجرت کا مستحق ہو جائے اور اجیر مشترک وہ اجیر ہے جو عمل کرنے سے اجرت کا مستحق ہوتا ہے، محض تسلیم نفس سے اجرت کا مستحق نہیں ہوتا۔

أجير مشترك، الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل. أجير خاص، الأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم النفس وبمضى المدة، ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر. (تاتارخانية، زكريا ۱۵ / ۲۸۱، رقم: ۲۳۰۷۴، ۲۳۰۷۵، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۱۲ / ۳۸، رقم: ۱۴۰۳۶، ۱۴، ہندیہ، زكريا قديم ۴ / ۵۰۰، جديد ۴ / ۵۴۳) الأجير الخاص: هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، الأجير المشترك: هو الذي يعمل لأكثر من واحد، فيشتركون جميعا في نفسه كالصباغ والخياط. (فقه السنة، دارالكتاب العربي ۳ / ۱۹۳)

الأجير قد يكون خاصا وهو الذي يعمل لواحد وهو المسمى بأجير
الوحد، وقد يكون مشتركا وهو الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى
بأجير المشترك. (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في ركن الإجارة، زكريا
۱/۶، ۱۷۴/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ذی قعدہ ۱۴۳۲ھ

(الف خاص فتویٰ نمبر: ۱۱۳۱۹/۴۰)

سرکاری و پرائیویٹ ملازمین اجیر خاص ہوتے ہیں یا اجیر مشترک

سوال [۹۵۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: مدارس میں مدرسین اور ملازمین کی ذمہ داری چھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، اسی طرح سرکاری
ملازمین کی ذمہ داری چھ یا آٹھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، یہ لوگ اجیر خاص ہیں یا اجیر مشترک؟
قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب تحریر کریں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین، اسی طرح
مدارس کے مدرسین و ملازمین جن کے کام اور ذمہ داری کے اوقات متعین ہوں وہ ان اوقات
میں اجیر خاص ہیں، وہ ان اوقات میں دوسرا کام کرنے کا حق نہیں رکھتے، ہاں البتہ کوئی مختصر
ایسا کام کر سکتے ہیں جس پر عرفاً چشم پوشی کی جاتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ عثمانی ۳/۳۶۷، محمودیہ
میرٹھ ۲۵/۱۰۹، محمودیہ ڈابھیل ۱۶/۵۷۳)

الأجير الخاص هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها.

(فقہ السنۃ، دارالکتاب العربی ۳/۱۹۳)

أما الخاص فهو الذي يجب عليه أن لا يعمل لغير من استأجره،
وذلك كالأجير اليومي الذي له أجره يومية، فإنه لا يصح أن يشغل وقته

بشيء غير العمل المستأجرة. (الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفکر ۳/ ۴۶) فقط
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ ذیقعدہ ۱۴۳۴ھ
(الف خاص فتویٰ نمبر: ۱۱۳۱۸/۴۰)

ٹھیکہ دار اجیر مشترک ہے یا خاص؟

سوال [۹۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں عمارت تعمیرات کی ٹھیکہ داری پر مزدوری سے کام کراتا ہوں، اس بابت مزدوروں سے مزدوری روزانہ پر طے کر کے کام شروع کراتا ہوں اور حسب معاملہ طے شدہ مزدوری ادا کرتا ہوں، مزدوری محدود وقت کھانا روزانہ پر طے ہے، جس دن بارش ہوتی ہے اس دن کی مزدوری نہیں ہوتی، مگر کھانا دیا جاتا ہے، مزدوری کے لینے دینے کا کام کے ہونے اور کرنے پر انحصار ہوتا ہے، اب اگر ان راجوں اور مزدوروں کو کسی دوسرے کام پر لگایا جائے یا وہ خود چلے جائیں اور وہاں سے مزدوری زیادہ لی جائے، مثلاً ہمارے یہاں روزانہ ۲۵ روپیہ پر طے ہے۔ اور دوسری جگہ سے ۶۵ روپے روزانہ لیا جائے، تو یہ زیادہ والی رقم مبلغ: ۲۰ روپے ہمیں لینا شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ دوسری جگہ کام کرنے پر کھانا ہمارے ہی ذمہ رہتا ہے، کام کے نفع و نقصان سے مزدوروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیکہ داری میں نفع و نقصان ٹھیکہ دار برداشت کرتا ہے۔ فقط

المستفتی: نسیم احمد محلہ بھٹی، ٹھیکیدار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر یوں طے کیا گیا ہے کہ روزانہ ۲۰ روپیہ دے دیا کریں گے، چاہے ہم کہیں بھی کام کرائیں، نیز دوسری جگہ کام کی ذمہ داری آپ نے خود

اپنے ذمہ لی ہے، یا کسی کو اپنا قائم مقام بنایا ہے، تو مزدوروں کو طے شدہ مزدوری دے کر بقیہ آپ کے لئے حلال ہے؛ کیوں کہ وہ لوگ شرعاً اجیر خاص ہیں۔

أما الخاص: - إلى قوله - فهو الذي يجب عليه أن لا يعمل لغير من استأجره، وذلك كالأجير اليومي الذي له أجرة يومية، فإنه لا يصح أن يشغل وقته بشيء غير العمل المستأجر. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة،

دارالفکر ۳/ ۱۴۶، الجوهرۃ النيرة، إمدادیہ ملتان ۱/ ۳۲۳، دارالکتاب دیوبند ۱/ ۳۱۳)

اگر آپ نے ذمہ داری نہیں لی ہے اور مزدور آپ کے دخل کے بغیر خود جا کر کام کرتے ہیں تو پورے ساٹھ روپے مزدور کا ہوگا، کھانا آپ کے ذمہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، ٹھیکہ دار اجیر مشترک ہوتا ہے، کہ وہ کام کے دوران دوسری جگہ بھی وقت دے سکتا ہے۔

فالمشترک هو الذي لا يجب أن يختص بواحد سواء عمل لغير

أولاً. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفکر، ۳/ ۱۴۶)

اور بارش کے دن اگر مزدوری طے ہے اور وہ لوگ اپنے آپ کو کام کے لئے پیش کر دیں تو شرعاً ان کو اس دن کی مزدوری ملنی چاہئے۔ اور اگر طے نہیں ہے، تو کھانا دینا آپ کی طرف سے محض تبرع و احسان ہے۔

الأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة.

(الجوهرۃ النيرة، إمدادیہ ملتان ۱/ ۳۲۳، دارالکتاب دیوبند ۱/ ۳۱۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ذیقعدہ ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/ ۳۷۸)

کیا ملازم پر اوقات کی پابندی لازم ہے؟

سوال [۹۵۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: بعدہ اینکہ احقر پر امری اسکول میں ماسٹر ہے، یہاں ہر وقت جھوٹ ہی جھوٹ کہنا پڑتا ہے، مثلاً آنے جانے کے وقت میں بچوں کی حاضری میں چھٹیوں کے سلسلہ میں اسکول آنے کے وقت ساڑھے چھ بجے اور جانے کا ساڑھے گیارہ بجے، ساتھی ماسٹر ڈیڑھ یا دو گھنٹے دیر سے آتے ہیں اور ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے جاتے ہیں، اب اگر احقر وقت پر نہ آئے تو اسکولوں کے بچوں کی دیکھ بھال مشکل ہے، اگست کے مہینہ سے ایک نصاب آیا ہے، جو جو نیر تک کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آسکتا ہے اور نہ کوئی ماسٹر اس کے مطابق پڑھا سکتا ہے؛ لیکن ڈائری جھوٹی اس کے متعلق بنائی جاتی ہے، سال میں چودہ چھٹیاں ملتی ہیں، جب کہ ساتھی ماسٹر اور میں بھی خود میں چالیس چھٹیاں لیتے ہیں، کلرک لوگ تنخواہ کے سلسلہ میں بہت پریشان کرتے ہیں اور رشوت لے کر تنخواہ بھیجتے ہیں افسر لوگ منہ سے مانگ کر رشوت لیتے ہیں، ان حالات میں کیا کروں؟ خط کے ذریعہ سے جلد از جلد جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: احمد بنی اردو ٹیچر چندور، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ کے لئے تعلیم کے اوقات مقررہ پر حاضر ہونا اور مفوضہ امور کو انجام دینا ضروری اور لازم ہے، جس درجہ کے بچے آپ کے تحت ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں، جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور افسران کے پریشان کرنے کی وجہ سے اگر آپ کی تنخواہ پر کوئی اثر نہ پڑے تو رشوت دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر تنخواہ ہی رک جاتی ہے یا پوری تنخواہ نہیں ملتی ہے، تو رشوت دے کر اپنا حق الحزمت وصول کرنا جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۸۸)

عن وهب بن منبہ - رضي الله عنه - قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها، بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه، إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشوا لتعطى ما ليس لك. (السنن الكبرى، للبيهقي، آداب القاضي، باب من أعطاهما ليدفع بهما عن نفسه أو ماله، دارالفكر ۱۵/۱۴۶، رقم: ۲۱۰۶۹)

(قوله: ولخاص أن يعمل بغيره) بلی ولا أن یصلی نافله، قال فی الفتاویٰ خانیه، وفی فتاویٰ الفضلی: وإذا استأجر الرجل یوما لیعمل کذا، فعليه أن یعمل ذلك العمل أي قام المدة ولا یشغل بشيء آخر سوى المكتوبة. (شامی، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب لیس للأجير الخاص أن یصلی النافله، زکریا ۹/۹۶، کراچی ۶/۷۰، کوئٹہ ۵/۴۸، المحیط البرهانی، المجلس العلمي ۱۱/۲۳۹، رقم: ۱۳۶۲۹، الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریا ۱۵/۳۰، رقم: ۲۲۰۲۵، ہندیة، زکریا قدیم ۴/۴۱۶، جدید ۴/۴۴۷)

والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة - إلى قوله - والأجر مقابل للمنافع. (ہدایة، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، أشرفی ۳/۳۱۰) دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولا استخراج حق له لیس برشوة، یعنی فی حق الدافع. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، فصل فی البیع، کراچی ۶/۴۲۳، زکریا ۹/۶۰۷، عون المعبود ۴/۳۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵/۱۳۲۰)

مالک نماز نہ پڑھنے دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۳۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بوجہ پابندی ملازمت اگر کام میں مشغول رہا، جماعت اس خیال سے چھوڑ دی کہ مالکان خفا ہو جائیں گے، یا نماز قضاء ہو جائے اور مشغول پابند نماز ہے، وہ اپنی نماز بعد میں منفرد پڑھ لیتا ہے اور قضاء لوٹا لیتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں وہ قابل گرفت ہے؟

المستفتی: محی الدین قصبہ سہپور، ضلع بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: واقعی مالکان باجماعت نماز پڑھنے سے تنہا ہو جاتے ہیں، تو ایسی ملازمت ترک کرنا واجب ہے، ورنہ ترک جماعت کا گناہ ہوگا۔

عن عمران بن حصین قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث (المعجم الكبير ۱۸ / ۱۷۰، رقم: ۳۸۱، ۲۰۸ / ۳، رقم: ۳۱۵۰) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ صفر ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۰/۲۳)

کیا ملازم دوران ملازمت نوافل ادا کر سکتا ہے؟

سوال [۹۵۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید عمر کے یہاں ملازم ہے، دوکان پر اور ادائے گی نماز کے لئے آداب و مستحبات کے ساتھ اذان کے فوراً بعد یعنی پندرہ یا تیس منٹ قبل مسجد میں پہنچنا چاہتا ہے، تاکہ استنجا وضو وغیرہ سے سہولت کے ساتھ فارغ ہو کر ”تحیۃ المسجد“ نوافل و سنن کی ادائے گی اور تکبیر اولیٰ و صف اول کا اہتمام کر سکے اور اس طرح جانے کو عمر مالک دوکان منع تو نہیں کرتا؛ لیکن عدم بشاشت یا قباحت محسوس ہو تو ایسی حالت میں ادائیگی فرائض میں ملازمت کے پیش نظر تاخیر کر دینا اولیٰ ہے یا فوراً حاضری بہ بارگاہ ایزدی ضروری ہے؟

(۲) اگر زید باوجود عمر کی قباحت کے تمام گراہوں اور خرید و فروخت کو چھوڑ کر بعد اذان مسجد میں چلا جائے تو شرعاً کیسا ہے؟

الف: عمر کی یہ عدم بشاشت و قباحت کیسی ہے؟

ب: چونکہ عمر بذات خود بھی متقی پرہیزگار، پابند صوم و صلاۃ اور ذمہ دار ہے؛ لیکن اذان کے

بعد انتظار اور ٹال مٹول کی وجہ سے اکثر تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے اور ایک دو رکعت بھی ساقط ہو جاتی ہیں، یہ کیسا ہے؟

المستفتی: احمد حسن نگیذ، معرفت حبیب الرحمن انصاری شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید کو عمر کی مرضی کے بغیر صرف فرض وسنت پڑھنے کی مقدار وقت لینے کی گنجائش ہے، اگر عمر راضی نہیں ہے تو نوافل ترک کر کے ملازمت کی ذمہ داری ادا کیا کرے؛ لہذا اذان کے بعد اتنی دیر قبل جایا کرے کہ جس سے باسانی طہارت حاصل کر کے سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو سکے، اس سے پہلے نہ جایا کرے۔

إذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا، فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، وقال بعض مشايخنا: له أن يؤدي السنة أيضا، واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا. (شامی، کتاب الإجارة، باب

ضمان الاجير، مطلب ليس لأجير الخاص أن يصلي النافلة، زكريا ۹/۹۶، كراچی ۶/۷۰،

الفتاویٰ التاتارخانیة، زكريا ۱۵/۳۰، رقم: ۲۲۰۲۶، ۲۲۰۲۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۷۷۹)

ملازمت کے وقت میں اپنا کاروبار کرنا

سوال [۹۵۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کسی کمپنی میں ملازم ہے، کمپنی کا مال سپلائی کرنا اس کا کام ہے، اس کے علاوہ، اس کا اپنا بھی کاروبار ہے، جب کسی گاہک کے پاس جاتا ہے، جو کہ کمپنی کے پرانے خریدار ہیں، تو کمپنی کے مال کے ساتھ اپنا مال بھی فروخت کرتا ہے۔ اور کبھی اپنے مال کا آرڈر لے کر ڈیوٹی

سے فراغت کے بعد دے آتا ہے، زید کا کہنا ہے کہ میں کمپنی کا کام مکمل کرتا ہوں، اور میرے کاروبار سے میری ڈیوٹی میں نہ کوئی خلل آتا ہے، نہ کمپنی پر کوئی اثر پڑتا ہے؛ لہذا میرا عمل جائز ہے۔ کیا زید کی یہ بات درست ہے؟ اور اگر صرف آرڈر ڈیوٹی کے بعد مال فروخت کرے، تو درست ہوگا یا نہیں؟

المسنفتی: محمد عمر لکھنوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کمپنی کے مقررہ وقت کے اندر زید کے لئے ذاتی آرڈر لینا جائز نہیں، اسی طرح کمپنی کے لئے آرڈر لینے وقت اپنا ذاتی آرڈر لینا بھی جائز نہیں، ایسی صورت میں کمپنی کی طرف سے زید پر پابندی لگانا شرعی طور پر درست ہے، ہاں البتہ زید کے لئے صرف اتنا جائز ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے ٹائم سے الگ خارجی وقت میں اپنا ذاتی آرڈر لے اور خارجی وقت ہی میں سپلائی کرے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۵۶)

أما الخاص: فهو الذي يجب عليه أن لا يعمل لغير من استأجره، وذلك كالأجير اليومي الذي له أجره يومية، فإنه لا يصح أن يشغل وقته غير العمل المستأجر. (الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر ۱/۴۶۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۵/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۳/۵/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۶۵۷)

ملازم غلطی کی معافی منیجر سے مانگے یا مالک سے؟

سوال [۶/۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک ہوٹل اور ایک فیکٹری کے مالک نے اپنے ہوٹل اور فیکٹری میں ایک منیجر رکھا، جس کا

کام پوری فیکٹری اور ہوٹل کو دیکھنا، ملازم رکھنا ہٹانا وغیرہ سب کام تھے، اگر کوئی ملازم ہوٹل میں پیسے ہٹائے، غصب کرے، چوری کرے یا فیکٹری یا ہوٹل کا سامان بغیر منیجر کے مشورہ کے کسی کو دے دے، بعد میں اس ملازم کو احساس ہو، اب یہ معافی منیجر سے مانگے یا اصل مالک سے معافی مانگے اور حق تلفیاں معاف کرائے؟ شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی، سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس ملازم سے اس طرح غلطی صادر ہو جائے اور اس نے کچھ پیسہ وغیرہ اٹھائے ہیں اور بعد میں اس کو احساس پیدا ہو جائے، تو اس کے لئے ایمان داری اور دیانت داری کی بات یہی ہے کہ وہ منیجر کے واسطے سے اصل مالک کو واپس کر دے اور دونوں سے معافی مانگ لے۔

صرح الفقہاء بأن من اكتسب مالا بغير حق - إلى - أو بغير عقد، كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يردّه على مالكة. (بذل المحجود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سہارن پور، قدیم ۱/۳۷، دار البشائر الإسلامیہ ۱/۳۵۹، تحت رقم الحدیث: ۵۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۵/۳۴۹، جدید ۵/۴۰۴، شامی، زکریا ۹/۵۵۳، کراچی ۶/۳۸۵، البحر الرائق، زکریا ۹/۳۶۹، کوئٹہ ۸/۲۰۱، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶/۲۷، زکریا ۷/۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۰/۵/۱۴۳۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۲۳/۴۰)

کیا مالک کو یہ حق ہے کہ اپنی زمین جسے چاہے کرایہ پر دیدے؟

سوال [۹۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جناب حافظ سجاد حسین کی ایک زمین ہے، جس کو غلام حسین نے کرایہ پر لے رکھا ہے، اب غلام حسین کا انتقال ہو چکا ہے اور غلام حسین کے دو بھائی: عابد حسین، نبی حسین اور اب عابد حسین پوری زمین کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور مالک زمین حافظ سجاد حسین مذکورہ زمین کو کرایہ پر دینا چاہتا ہے، تو کیا مالک زمین کو یہ حق ہے کہ عابد حسین کو نہ دے کر نبی حسین کو کرایہ پر دے دے؟

المستفتی: نبی حسین عید گاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مالک زمین نبی حسین کو کرایہ پر دینا چاہتا ہے، تو شرعاً مالک کو اختیار ہے کہ عابد حسین کو نہ دے کر نبی حسین کو دے دے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من

الملک. (بیضاوی شریف ۷/۱)

یتصرف المالک في ملکہ كيف شاء. (البنایة، أشرفیہ ۸/ ۲۱۹) فقط واللہ

سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ شوال ۱۴۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ شوال ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۰۰۷)

مالک کو اختیار ہے جس کو چاہے دوکان کرایہ پر دے

سوال [۹۵۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مسلمان شخص اپنی دوکان کسی دوسرے دینی بھائی کو کرایہ پر دیتا ہے، وہ شخص عقیدتاً

اپنی دوکان کے بورڈ پر سرفہرست ”یاوارث“ لکھوا دیتا ہے، مذکورہ مالک دوکان کو اس پر اعتراض ہوتا ہے اور وہ اپنی دوکان مذکورہ مسلم بھائی سے خالی کرا لیتا ہے، اس کے بعد وہ ہی دوکان ایک غیر مسلم کو کرایہ پر بھاری رقم پیشگی کے عوض دے دیتا ہے، وہ کرایہ دار چونکہ غیر مسلم ہے جو اپنی دوکان کے آغاز پر دوکان میں باقاعدہ ”ہوں اور سکتھ“ دیگر پوجا پاٹ کے بعد دوکان کھولتا ہے اور دوکان کے اندر کے سامنے کی دیوار پر عقیدہ کچھ شلوک لکھوا دیتا ہے اور دوکان سجا کر آرام سے راحت حاصل کرتا ہے۔

مذکورہ بالا حالات کے مطابق مالک دوکان پنج گانہ نمازی اور حاجی بھی ہے، دیگر محلہ کی مسجد میں پیش امامت کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے، جس پر چند حضرات محلہ و دیگر نمازی حضرات کو اختلاف قوی ہے، اس روشنی میں علماء حضرات کی رائے کی اشد ضرورت ہے۔

المسنفتی: اسد علی شاہ جہاں پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دوکان کے مالک کو اس معاملہ میں اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی دوکان کرایہ پر دے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور مذکورہ غیر مسلم نے دوکان کرایہ پر حاصل کرنے کے بعد جو عمل کیا ہے، اس کا ذمہ دار مالک دوکان نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس کی امامت پر کوئی اثر پڑے گا۔ اور جو سوال نامہ میں ”یا وارث“ لکھنے اور ”ہوں اور سکتھ“ لکھنے کے درمیان مقابلہ کیا گیا ہے اور اسی مقابلہ کو پہلے کرایہ دار سے خالی کرانے کی بنیاد اور علت قرار دیا گیا ہے، یہ بات خود سوال نامہ کی اگلی عبارت کی وجہ سے درست نہیں معلوم ہوتی۔ سوال نامہ میں اگلی عبارت ہے کہ غیر مسلم کو بھاری کرایہ پر بھاری پیشگی رقم کے عوض دینے کا ذکر ہے، واضح رہے کہ مالک دوکان کا مقصد لفظ وارث اور ہوں اور سکتھ کا تقابل بنیاد نہیں ہے؛ بلکہ اس کا مقصد اپنی جائیداد سے بھاری آمدنی کا حصول ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ جہاں سے زیادہ رقم ملے وہاں اپنی جائیداد کو کرایہ پر دے دے اس پر کسی کو اشکال اور اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور مالک اپنی بھاری آمدنی کے لئے

مسلمان کو بھی دے سکتا ہے اور غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے۔ اور جائیداد کو کرایہ پر دینے میں شرعاً ایمان و کفر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

و جاز إجارة بيت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار، أو كنيسة، أو بيعة، أو يساع فيه الخمر. (درمختار) وفي الشامية: لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار، فينقطع نسبته عنه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، زكريا ۹/۵۶۲، كراچی ۶/۳۹۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹/۲۱۳، هداية، أشرفي ۴/۴۷۲، تبیین الحقائق، إمداديه ملتان ۶/۲۹، زكريا ۷/۱۴، البناية أشرفيه ديوبند ۱۰/۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

۱۳۲۸/۳/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۱۹۵)

شوہر کے کرایہ کی دوکان میں کس کا حصہ ہے خسر کا یا بیوی کا؟

سوال [۹۵۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میرے شوہر اور میرے بھائی دونوں اسلامیہ لوکل ایجنسی کی ایک دوکان کی کرایہ داری میں شریک تھے، یہ دوکان ان کو میری نانی نے کرائی تھی جو میرے شوہر کی بھی نانی ہوتی ہیں، پگڑی کے دس ہزار روپے بھی نانی ہی نے ادا کئے جو بعد میں ان دونوں سے واپس نہیں لئے، یہ دونوں اس میں برابر کی شرکت سے کام کرتے رہے، کچھ عرصہ کے بعد میرے بھائی نے تیس ہزار روپے لے کر علیحدگی اختیار کر لی اور علیحدگی کا اقرار نامہ بھی لکھ دیا، اب اس دوکان کے مکمل مالک میرے شوہر ہو گئے۔ ۱۶ دسمبر ۱۹۹۰ء میں جب میرے شوہر شہید ہو گئے تو اس کے کچھ دن بعد خسر صاحب نے دوکان کی کرایہ داری کو اپنے چھوٹے لڑکے کے نام کرائی

چاہی، جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں نے اپنے چھوٹے لڑکے فہیم کے نام سے ایجنسی کو درخواست دلوادی جس میں یہ تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے؛ لہذا دوکان کی کرایہ داری میرے نام کر دی جائے، اس پر اسلامیہ لوکل ایجنسی نے اپنے وکیلوں سے مشورہ کر کے نسیم مرحوم کی بیوہ کے نام کرایہ داری کر دی، اب میرے ہی نام سے ہی رسید جاری ہے، اس میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ کرایہ داری کے مستحق میرے خسر ہیں یا میں یا میرے بچے؟

المستفتی: نرگس جہاں، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہندوستان میں کرایہ کی جائیداد دو قسم کی ہیں: (۱) وہ جائیداد جن کو کرایہ دار سے خالی کرانے کا مالک کو اختیار ہوتا ہے اور حکومت اس سلسلہ میں مالک کا ہی ساتھ دیتی ہے، جیسا کہ اوقاف کی جائیداد۔

(۲) وہ جائیداد جن کو کرایہ دار سے خالی کرانے کا مالک کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں حکومت کرایہ دار ہی کا ساتھ دیتی ہے، اگر مالک مکان خالی کرانے کی کوشش کرے، تو اس کی کوشش اس وقت تک ناکام رہتی ہے جب تک کہ کرایہ دار بھاری رقم لے کر خود خالی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے اور مالک مکان کرایہ دار سے اپنے مکان کو خرید رہا ہے، اس طرح کی کرایہ داری میں شرعاً کرایہ دار کے تمام ورثاء کا حق متعلق ہوتا ہے، اس لئے کہ اگر تمام ورثاء کا حق ثابت نہ کیا جائے تو مالک مکان سے کرایہ دار کا ایک ہی وارث لاکھوں روپیہ وصول کر کے خود مالک ہو جائے گا۔ اور دوسرے ہمسر وارثین کو کچھ بھی نہیں دے گا؛ لہذا اس بناء پر خریدنے کی صورت میں حق خریداری اور منافع کی صورت میں حق منفعت تمام ورثاء کو حاصل ہوگا؛ کیوں کہ اگر مالک مکان سے خریدنا چاہے، تو کوڑیوں کے بھاؤ میں خرید سکتا ہے، اس لئے حق خریداری میں بھی تمام ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے اور منافع کی صورت میں حق منفعت تمام ورثاء سے متعلق ہو جاتا ہے اور پہلی قسم کی جائیداد کا معاملہ صرف قابض اور کرایہ دار تک محدود ہوتا ہے، ورثاء

سے متعلق نہیں ہوتا۔ اور سوال نامہ میں جس جائیداد کا ذکر ہے، وہ دوسری قسم کی جائیداد ہے؛ اس لئے اس میں نسیم کے تمام ورثاء کا حق شامل ہوگا۔

يجوز ان كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها من قبل أن أربناها في أيدي أصحابنا البناء توارثوها، وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعمهم. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في زيادة أجرة الأرض المحتكرة، زكريا ۶/ ۵۹۲، ۵۹۳، كراچی ۴/ ۳۹۱، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۹/ ۲۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۵/۲

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۲۲۰)

حکومت کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک میں تجارت کرنا

سوال [۹۵۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حکومت کی اجازت کے بغیر ایک ملک کے آدمی کا دوسرے ملک میں تجارت کرنے کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: مظہر الحق مرشد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حکومت کی اجازت کے بغیر ایک ملک کے آدمی کا دوسرے ملک سے تجارت کرنا اور ایک ملک کا مال دوسرے ملک منتقل کرنا اپنی عزت و آبرو کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم فرمایا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. [البقرة: ۱۹۵]

کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو؛ لیکن پھر بھی کوئی شخص تجارتی مال خفیہ طور پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مال اور اس کا پیسہ اس کے لئے حلال ہے، مگر شریعت ایسی تجارت کی اجازت نہیں دیتی جو خطرات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۲۷۸، جدید ۹/۲۲۲، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۳۵۴، جدید ۴/۱۷۴، ڈی اے بی ۱۶/۱۴۸، ۱۷۴، احسن الفتاویٰ ۸/۹۵)

عن حذیفة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق.
(مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۴۰۵، رقم: ۲۳۸۳۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۷۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۶/۱۴۲۱ھ

زمین کو بوقت ضرورت واپسی کی شرط پر کرائے پر دینا

سوال [۹۵۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ خالد نے اپنی جائیداد زید کو کرایہ پر اس شرط اور وعدے کے ساتھ دی کہ جب خالد کو واپسی جائیداد کی ضرورت ہو تو زید بلا کسی عذر اور تاخیر کے واپس کر دے گا۔ آج جب کہ خالد کو اپنی ذاتی ضرورت ہے اور مجبور ہے کہ جائیداد کو اپنے تصرف میں لائے، جیسا کہ جائیداد کرائے پر دیتے وقت زید نے بلا کسی عذر اور شرط کے واپس کر دینے کا وعدہ کیا تھا، خالد نے واپسی جائیداد کا مطالبہ زید سے کیا تو زید واپسی جائیداد کے لئے خالد سے کثیر رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، سارے وعدے خالد اور زید کے درمیان زبانی ہوئے تھے، کیا فرماتے ہیں علماء دین شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ زید کا عمل جائز ہے یا ناجائز؟ جزاک اللہ

المستفتی: رئیس احمد خان، بڑھیاں دوکان محلہ تھانہ ٹین رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب خالد نے اپنی جائیداد اس شرط اور وعدے کے ساتھ زید کو کرایہ پر دی کہ جب خالد کو جائیداد کی واپسی کی ضرورت ہوگی تو بلا کسی عذر کے واپس کر دے گا اور زید نے اس شرط کو قبول کیا تو آج جب خالد اپنی ذاتی ضرورت سے مجبور ہو کر جائیداد کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، تو زید کو وعدے کے مطابق بلا کسی رقم کے واپس کر دینا لازم ہے، جائیداد کی واپسی کے لئے زید کا رقم کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے اور جس رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ رقم زید کے لئے حرام اور رشوت ہے اور اس رقم کی لینے کی وجہ سے زید پر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہوتی رہے گی۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة شريف ۲/ ۲۵۵، مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۷۲، رقم: ۲۰۹۷۱)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أبي يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ۲/ ۹۱، رقم: ۲۰۹۷۱، سنن الدارقطني، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۲۲، رقم: ۲۸۶۲، ۲۸۶۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ریشوال المکرّم ۱۴۳۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳/ ۸۱۵۸)

مالک کا پانچ ہزار روپیہ پیشگی یا سٹر لگو آنے کی شرط لگانا

سوال [۹۵۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے دوکان تعمیر کروائی، اس نے یہ اعلان کیا جو شخص کرایہ پر دوکان لے گا وہ

پانچ ہزار روپے دے یا دوکان میں شٹر لگوائے اور یہ رقم نہ کرایہ میں مجری ہوگی اور نہ امانت ہے کہ بعد میں ملے گی، تو یہ شکل جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حاجی ضمیر احمد شیر کوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال میں ذکر کردہ صورت اس طرح جائز ہو سکتی ہے کہ مالک دوکان کرایہ دار سے پانچ ہزار روپے یا جو شٹر لگائے گا، اس کی قیمت یکمشت لے لے جس کو متعین مدت کا پیشگی کرایہ قرار دیا جائے گا اور یہ یکمشت لی ہوئی رقم ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی؛ البتہ اس طرح کے معاملہ میں کرایہ دار جو شٹر لگوائے گا، اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے، اسی طرح مدت اجارہ کا بھی متعین ہونا ضروری ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۱۰/۱)

ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل، أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة، فإنه يملكها. (هندية، كتاب الإجارة، الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة، زكريا جديد ۴/ ۴۴۳، قديم ۴/ ۱۳، هداية، اشرفي ۳/ ۲۹۴، البحر الرائق، كوثه ۷/ ۳۰۰، زكريا ۷/ ۵۱۱)

ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة. (هداية، كتاب الإحارات، اشرفي ۳/ ۲۹۳، هندية، زكريا قديم ۴/ ۱۱، جديد ۴/ ۴۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/ ۵۸۴۷)

کرایہ پر مکان دے کر ہر سال دس فیصد بڑھانے کی شرط

سوال [۹۵۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک دوکان مالک اپنی دوکان کرائے پر دے رہا ہے اور وہ دوکان مالک اپنے ہونے

والے کرائے دار کے سامنے ایڈوائس اور کرائے کی بات پیش کرتا ہے، جس پر کرائے دار راضی ہے، مگر دوکان مالک کی ایک شرط ہے، جو کرائے نامہ میں صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ طے ہوئے کرایہ پر سالانہ کرایہ دس فیصد بڑھا کرے گا اس شرط پر بھی کرائے دار راضی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ دس فیصد جو ہر سال بڑھے گا وہ طے شدہ کرائے پر بڑھے گا یا ہر سال کے بڑھے ہوئے دس فیصد پر بھی بڑھے گا، مثلاً ۱۰۰ روپے ماہوار کرایہ طے ہوتا ہے اور سال گزر جانے پر شرط کے مطابق اگلے سال کا کرایہ دس فیصد بڑھ کر ۱۱۰ روپے ہو جاتا ہے، اس طرح آئندہ سالوں میں دس فیصد صرف ۱۰۰ روپے پر ہی بڑھے گا یا ہر سال کے بڑھے ہوئے دس فیصد پر بھی بڑھے گا؟ مثلاً جیسے ایک سال گزر جانے پر ۱۰۰ روپے دس فیصد بڑھ کر ۱۱۰ روپے ہو جاتا ہے، پھر دوسرے سال میں ۱۱۰ روپے دس فیصد بڑھ کر ۱۲۱ روپے ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تیسرے سال میں ۱۲۱ روپے دس فیصد بڑھ کر ۱۳۳ روپے، پھر چوتھے سال ۱۳۳ روپے کا ۱۰% 146.41 روپے، پھر پانچویں سال میں 146.41 روپے پر 10% سے 161.051 روپے ہو جاتے ہیں۔

تو اس طرح ہر سال کے بڑھے ہوئے دس فیصد کے حساب سے پانچ سالوں میں بڑھی ہوئی رقم بنی 161.051 روپے۔ اور اگر طے شدہ کرایہ پر ہی دس فیصد بڑھتا ہے تو پانچ سالوں میں بڑھی ہوئی کل رقم بنتی ہے صرف -/50 روپے، تو قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیے کہ:

(۱) کیا طے شدہ -/100 روپے پر ہی ہر سال دس فیصد بڑھے گا؟

(۲) کیا ہر سال کے بڑھے ہوئے دس فیصد پر بھی دس فیصد بڑھے گا؟

(۳) کیا کرایہ پر سالانہ بڑھنا جائز ہے؟

(۴) کیا دس فیصد پر ہر سال دس فیصد بڑھنا سود مانا جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس بارے میں؟ شریعت کی روشنی میں بتائیے۔

المستفتی: ندیم حسین سرانے کشن لال کھوکراں اسٹریٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح کے معاملات کا عرف اور تعامل پر مدار ہے اور عرف اور تعامل میں سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ سالانہ دس فیصد جو بڑھے گا وہ ہر سال کے اضافی شرح پر بڑھے گا، جیسا کہ سرکاری یا پرائیویٹ اداروں میں سالانہ ترقی کے بعد جب اگلے سال فیصد ترقی ہوتی ہے تو پچھلے سال کے کل کے اوپر اضافہ ہوتا ہے؛ لہذا اگر سو روپے کرایہ طے ہوا ہے تو اگلے سال ایک سو دس روپے ہوگا۔ اور اس کے بعد والے سال میں ایک سو گیارہ روپیہ پر دس روپے بڑھے گا؛ لہذا ایک سو اکیس روپے ہوگا، اسی طریقہ سے ہر سال کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اور شریعت کے اندر اس طرح کے عرف اور تعامل کا اعتبار ہے۔

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (الأشباہ والنظائر / ۱۵۶، عقود رسم

المفتی قدیم / ۳۸، قواعد الفقہ اشرفی دیوبند / ۷۴، رسائل ابن عابدین، ثاقب بك ڈپو

دیوبند / ۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ شعبان ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر ۳۶/۳۷۷۳)

کرایہ دار کب بجلی اور پانی کے بل کی ادائے گی کا ذمہ دار ہوگا؟

سوال [۹۵۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ف: ایک مؤمن حاجی مسلمان ہے، الف کرایہ دار ہے، الف ۱۵/۴/۱۹۹۸ء سے ۱۵/۱۷/۲۰۰۱ء تک کرایہ دار رہا، اس عرصہ میں قریب چار پانچ مہینے مکان بند رہا، مگر ف: کے قبضہ میں رہا اور ف کے بند مکان میں تالا بھی لگا رہا، چونکہ اس مکان میں تجارت کا سامان تھا، یقیناً ف کے ملازمین کو جب سامان کی ضرورت پڑتی ہوگی تو تجارتی سامان کو تالا کھول کر نکالتے ہوں گے اور بلب یا ٹیوب سے روشنی بھی کرتے ہوں گے اور کام سے فارغ ہو کر منہ ہاتھ بھی دھوتے ہوں گے اور بیت الخلاء بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ ف: کے ۱۵/۱۷/۲۰۰۱ء کو مکان خالی کرنے کے بعد بجلی پانی کا بل آیا، بجلی کا بل -/5079 روپے اور پانی کا بل

-/7584 روپے تھا۔ اب چونکہ مکان خالی کر چکے تھے، الف: مالک جائیداد نے دونوں بل وصول کر کے ادائے گی کی ف: نے اپریل ۱۹۹۸ء سے ایک عرصہ تک بجلی کا بل ادا کیا اور اس کے بعد چونکہ بقول ف: کے بجلی اور پانی کا استعمال نہیں رہا، ہر دو بل بجلی اور پانی ادا نہیں کیا۔ اور کہتا یہ ہے کہ میں نے استعمال نہیں کیا، یہ بل غلط آئے ہیں، چونکہ ایک عرصہ سے مکان بند تھا۔ الف: کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ف: کا تالا مکان میں ۱۵/۷/۲۰۰۱ء تک لگا رہا، مکان ف: کے قبضہ میں تھا، ہر دو بل واجبات بجلی و پانی ۱۵/۷/۲۰۰۱ء تک ف: کے ذمہ ہیں، مسلسل ف: یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ چونکہ مکان بند تھا، ف: کا تالا لگا ہوا تھا، بجلی اور پانی کا استعمال نہیں تھا۔ اور یہ بل غلط آئے ہیں، میں یہ بل جمع نہیں کروں گا۔ الف: کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ف: کے مکان قبضہ میں ہے، اس مدت کی بجلی اور پانی کے بل کے واجبات ف: کے ذمہ ہیں، اور ف: کو ادا کرنا واجب ہے۔

المستفتی: جی ایف نظام الدین ویسٹ نی دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کرایہ دار کے قبضہ میں جب تک مذکورہ مکان رہا ہے، اس وقت تک بجلی اور پانی کے بل کی ادائے گی کا ذمہ دار کرایہ دار ہی ہوگا، چاہے اس میں کرایہ دار نے رہائش یا کاروبار نہ کیا ہو یا تالا لگا کر بند رکھا ہو، جب تک اس مکان کی تالی مالک مکان کو واپس نہ کر دے گا، اس وقت تک پانی، بجلی وغیرہ کے بلوں کی ادائے گی کا ذمہ دار کرایہ دار ہی ہوگا؛ لہذا مذکورہ صورت میں ف: کرایہ دار کے قبضہ میں رہنے کے زمانہ میں بجلی اور پانی کا جو بل آیا ہے، اس کی ادائے گی کا ذمہ دار کرایہ دار ف: ہی ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷/۳۱۰)

كما يجب الأجر باستفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة حتى أن المستأجر داراً أو حانوتاً مدة معلومة، ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة. (هنديّة، كتاب الإجارة، الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة، زكريا جديد ۴/ ۴۴۳، قديم

۴/ ۱۳، ہدایۃ، اشرفی ۳/ ۲۹۴، الدر مع الرد، زکریا ۹/ ۱۵/ کراچی ۶/ ۱۱، بدائع
الصنائع، زکریا ۴/ ۵۰، کراچی ۴/ ۱۹۵، المبسوط دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۶/ ۱۶ (۴۶)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/ ۴۹۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۲/۷ھ

کرایہ دار کا مالک سے مرمت کا خرچ وصول کرنے کا حکم

سوال [۹۵۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ساکلی ایک مکان میں تقریباً ۲۵ رسال سے کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا ہے، جس کا کرایہ ماہ ب ماہ ادا کرتا رہا ہے، جب مالک مکان نے کرایہ لینے سے انکار کیا تو ہر ماہ کچھری میں جمع کر دیتا ہے، درمیان میں اس نے مالک مکان کی اجازت سے مکان کی مرمت کرائی، دیواریں بنوا کر چھت میں کڑیاں ڈالیں اور چھت بنوائی، فرش پختہ بنوایا، مکان میں پانی کے لئے نل نہیں تھا، تو ہینڈ پمپ لگوایا، اب مالک مکان مجھ سے مکان خالی کرانا چاہتا ہے، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو روپیہ میں نے مکان میں وقتاً فوقتاً لگایا ہے، اس روپیہ کو میں مالک مکان سے طلب کروں تو از روئے شرع وہ روپیہ طلب کرنا اور لینا میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟ مالک مکان نے کرایہ میں میرا کوئی روپیہ مجری نہیں کیا ہے؛ لہذا آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں آپ فتویٰ صادر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: سائل محمد حیات خاں فیل خانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ نے مالک مکان کی اجازت سے مکان کی مرمت کرائی ہے، تو غیر منقولی اشیاء کی قیمت مالک سے وصول کر سکتے ہیں۔ اور اگر مالک ہینڈ پمپ کی قیمت دینے کے لئے تیار ہو تو قیمت لے لیں، ورنہ آپ اس ہینڈ پمپ کو اپنے ساتھ

لے جاسکتے ہیں۔

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. (مسند أحمد بن حنبل ۱/ ۳۱۳، رقم: ۲۸۶۷)

الأصل أن من بنى في دار غيره بأمره، فالبناء لرب الدار ويرجع عليه بما أنفق استاجر داراً فخصصها أو فرشها بآجر، أو ركب فيه باباً، أو غلقاً أو نحوه وأمر به الموجر، فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم يضر لا لو أضر فله قيمته يوم الخصومة. (جامع الفصولين ۲/ ۱۶۰، وهكذا في الشامي، كتاب

الحثي، زكريا ۱۰/ ۴۷۵، كراچی ۶/ ۷۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/ صفر ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۲/۱۷ھ

(الفتاویٰ نمبر: ۳۳۰/۶۲۹۴)

مالک مکان کا کرایہ دار کا سامان فروخت کرنا

سوال [۹۵۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: جون ۱۹۹۱ء میں ایک ہندو شخص پاٹھک نے اپنا انگریزی مدرسہ شروع کرنے کے لئے میرا مکان کرایہ پر لیا اور اپنے ابتدائی کام شروع کردئے، اشتہاروں کی چھپائی، کرسیاں اور میزیں، بورڈ اور دیگر ضروری سامان فراہم کرنے لگا کہ فلاں تاریخ کو میرا انگریزی اسکول شروع ہو جائے گا؛ لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ مانتا پر اپت نہ ہو کہ بھی چل سکتا، پندرہ بیس دن بعد جبل پور کی پولیس آئی اور ماسٹر پاٹھک صاحب کو گرفتار کر کے جبل پور لے گئی۔ سنا ہے کہ ان پر کیس چلا اور قانون کے مطابق سزا ہو گئی اور اب نہ جانے وہ ماسٹر صاحب کہاں ہیں، پھر ادھر میں نے ان کے سامان کو فروخت کر کے مکان خالی کر لیا اور دوسرے آدمی کو کرایہ پر دے دیا، پاٹھک پر میرا جو کرایہ تھا وہ میں نے سامان فروخت کر کے وصول کر لیا اور مکان خالی کرا کے دوسرے آدمی کو کرایہ پر دے دیا، اپنا کرایہ مجرا کر کے باقی رقم ایک ہزار

روپے سے واپس کرنے کے لئے اپنے پاس جمع کر لی، وہ نہ آج تک آیا نہ میں نے دی، وہ رقم ایک ہزار کے قریب میرے پاس جمع ہے، اس رقم کو نہ تو میں خود استعمال کر سکتا ہوں اور نہ ہی خیرات کر سکتا ہوں، نہ کسی اسلامی کام میں خرچ کر سکتا ہوں؛ اس لئے آپ سے استفتاء ہے کہ ازراہ کرم مجھے جلدی سے اس رقم کے خرچ کی بابت مطلع فرمادیں کہ اسے کیا کروں؟ کسے دوں؟ کیوں کہ اسلام میں تو اس کے خرچ کی کوئی گنجائش شاید نہ ہوگی؛ اس لئے شرعی حکم سے مطلع فرمائیں کہ وہ رقم کسے دوں؟ کیا کروں؟ کہاں خرچ کروں؟ خدا خواستہ اگر اس رقم کو خرچ کرنے سے پہلے ہی میرا خاتمہ ہو گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟

المستفتی: سرور القادری آئند بھون

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کے لئے کرایہ دار کا سامان فروخت کرنا جائز نہیں تھا، نیز آپ صرف اتنے دنوں کا کرایہ لینے کے حق دار ہیں جتنے دن کرایہ دار نے استعمال کیا ہے، یا اس کے قبضہ میں رہا ہے؛ لہذا کرایہ دار کے سامان یا اس کی قیمت بطور امانت رکھنا لازم ہوگا، اور اس کو یا اس کے ورثاء کے حوالہ کر دینا لازم ہوگا۔

وأما في حق الأجر فلا يجوز، ولا تنعقد حتى لو انفسخت الإجارة

الأولى. (حموي على الأشباه، كراچی ۲ / ۶۵ - ۴)

ويجب إن سكنها أجر المثل بالغاما بلغ. (الدر مع الرد، كتاب الإجارة،

باب الإجارة الفاسدة، زكريا ۹ / ۶۷، كراچی ۶ / ۴۹، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية

بيروت ۳ / ۵۳۰، مصري قديم ۲ / ۳۸۲، تبين الحقائق، إمداديه ملتان ۵ / ۱۲۱، زكريا

۱۱۰ / ۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۸ھ

۱۴ / ۵ / ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳ / ۵۲۹۱)

آپسی رضامندی کی بنا پر کاروبار کی دو جائز شکلیں

سوال [۹۵۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: الحمد للہ میرا اپنا کاروبار اچھا چل رہا تھا، میں نے اپنی رقم سے زمین لی، عمارت بنائی، پھر کاروبار چلنے لگا، دوسرا بھائی ہم سے بالکل الگ تھا، کچھ کاروبار بھی کرتا تھا؛ لیکن اس میں اچھی آمدنی نہیں تھی، تو میں نے سوچا اپنے بھائی کو اپنے کاروبار میں سے پندرہ فیصد نفع میں شریک کر کے اس کا تعاون کروں، چنانچہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور نفع و آمدنی میں سے ۱۵ فیصد دینے لگا، اس کے ہمارے ساتھ لگنے کی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہوا، مجھے بھی سہولت ہوئی اور بھائی کو بھی اچھی رقم ملی اور کام کرنے کا اسے میدان ملا؛ لیکن میرے ساتھ یہ پریشانی ہونے لگی کہ پہلے جب میں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لگایا نہیں تھا، تو آزاد تھا، جہاں چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا اپنے اور خیر کے کاموں میں آزادی سے خرچ کرتا، اس کا کوئی حساب رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جب میں نے بھائی کو ۱۵ فیصد دینے کا وعدہ کر لیا، تو یہ خلیجان پیدا ہوا کہ ہم نے ۱۵ فیصد بھائی کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے اور اس میں سے حساب سے پہلے ہی بہت سے ضروری اخراجات ہو جاتے ہیں، ان پر بھائی کو فیصد نہیں ملتا، تو اب میں نے اپنے بھائی سے یہ طے کیا ہے کہ تم ہمارے یہاں ملازم کی حیثیت سے کام کرو، معقول تنخواہ دیں گے اور سال میں اپنی مرضی سے بطور انعام معقول رقم دیں گے، اس پر بھائی راضی بھی ہے، تو اب دریافت یہ کرنا ہے کہ اپنے بھائی کو اس طرح تنخواہ پر ملازم رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ اور کچھ انعام الگ سے تنخواہ کے علاوہ دینا کیسا ہے؟ تاکہ اس کی دلداری بھی ہو اور مزید محنت سے کام کرتا رہے، شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: عبدالرحمن اللبغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ایک ساتھ کاروبار کی دو شکلیں بیان کی گئی

ہیں۔ دونوں شکلیں آپس کی رضا مندی سے جائز اور درست ہیں، پہلی شکل یہ ہوئی کہ سائل نے اپنے بھائی کو اس طریقہ سے کاروبار میں شریک کر لیا کہ سارا سرمایہ سائل کا ہے اور اس کا بھائی ساتھ میں کام کرے گا اور نفع کا ۱۵ فیصد بھائی کو ملے گا اور باقی ۸۵ فیصد اپنے لئے ہوا کرے گا۔ دوسری شکل یہ ہوئی کہ شرکت ختم کر دی گئی، پھر بھائی کو موٹی اور بھاری تنخواہ پر ملازم کی حیثیت سے رکھ لیا گیا، تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے ۱۵ فیصد کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا اس کا حساب و کتاب صاف کر لیا جائے، اس کے بعد معقول تنخواہ پر بھائی کو ملازم کی حیثیت سے رکھ لیا جائے تو شرعی طور پر ایسا کرنا بھی جائز اور درست ہے، جب کہ جانین اس پر راضی ہوں اور الگ سے انعام دینا تنخواہ میں شامل نہیں ہے؛ بلکہ مالک کے رحم و کرم پر مبنی ہے، ہاں البتہ اگر سالانہ انعام متعین کر دیا جائے تو وہ بھی تنخواہ میں شمار ہوگا اور اس کا دینا بھی مالک پر لازم ہو جائے گا۔ اور طے کئے بغیر جو دیا جائے وہ بھی انعام ہی ہوگا، مگر اس کے وصول کرنے پر مالک کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

وهذه العقد يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسما وعملا، فإنهما يعملان فعملنا يشبه المضاربة، وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضمان، ويشبه الشركة حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما. (هداية، كتاب الشركة، أشرفي ۲ / ۶۳۰)

والأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استوجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم، وإنما سمي أجير وحده؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بالمنافع، ولهذا يبقى الأجر مستحقا، وإن نقص العمل. (هداية، كتاب الإجازات، باب ضمان الأجير، أشرفي ۳ / ۳۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۸۹۸۶)

اجارہ مشترکہ کی صورت میں کچھ ضائع ہو جائے تو ضامن کون ہوگا؟

سوال [۹۵۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: تین فریقین ہیں، جن کا کاروباری سلسلہ الگ الگ ہے، یہ تینوں اپنا چاول زید کے ٹرک سے ٹانڈہ سے رام نگر لے جا رہے تھے، یہ کل چالیس بوری چاول تھا، جس کی تفصیل اس طرح ہے: محمد جمیل ۱۲ بوری چاول ٹوٹ - محمد علی ۲۰ بوری ٹوٹ - بیوہ خدیجہ ۸ بوری چاول سالم - جب ٹرک والا یہ چاول لے کر روڈ پر آیا تو چاول انسپکٹر نے اس ٹرک کو پکڑ لیا اور ٹانڈہ کے ایک میل میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور ڈرائیور سے جب انسپکٹر نے معلوم کیا کہ ٹرک میں کتنی بوری چاول ہے؟ تو ڈرائیور نے ۳۱ بوری چاول بتلایا، مالکان میں نے یہ سن کر ۹ بوری چاول ٹرک سے حکمت عملی سے اترا کر الگ کر دیا؛ لہذا انسپکٹر نے بتلائی ہوئی ۳۱ بوری کا مقدمہ بنام محمد علی درج کر دیا، وہ جو ۹ بوری ٹرک سے اتاری گئی ہیں، ان میں آٹھ بوری چاول سالم ہیں اور ایک بوری چاول ٹوٹ، ان میں ایک بوری مشخص طور پر زید کی ہے اور ۸ بوری چاول سالم متعین طور پر بیوہ خدیجہ کے ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان ۹ بوری مال کا کون مالک ہے؟ آیا مندرجہ بالا اشخاص سب مستحق ہیں یا ان میں سے کوئی ایک؟

واضح رہے کہ مندرجہ بالا اشخاص کا مال قسم کے اعتبار سے بھی الگ الگ تھا، اب شرع متین کی روشنی میں واضح طور پر مطلع فرمائیں۔ بینواتو جروا

المستفتی: حاجی رئیس احمد ساکن محلہ بھیل بوری ٹانڈہ بادی، ضلع رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ معاملہ اجارہ مشترکہ کا ہے، ٹرک والا زید اجیر مشترک ہے، اس نے ہر صاحب مال سے الگ الگ معاملہ کیا ہے اور ہر ایک کا مال بھی الگ الگ نوعیت کا ہے، ایک ٹرک میں مخلوط کرنے کے باوجود ہر شخص اپنا مال علیحدہ پہچان سکتا ہے؛ اس

لئے حفاظت شدہ ۸ رسالم بوری اور ایک بوری ٹوٹ اصل مالک کی ملکیت میں ہی ہے، ان میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، بیوہ خدیجہ کی قسمت اچھی ہے کہ اس کی سب بوری محفوظ ہو گئیں، نیز زید کی قسمت ہے کہ اس کی ایک بوری محفوظ ہو گئی، باقی ۳۱ بوری کا ذمہ دار زید ٹرک والا بھی نہیں ہوگا، مالکان کی ملکیت میں ہی نقصان ہوا ہے۔

إن استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق كذا، فأخذ في طريق
غيره يسلكه الناس، فهلك المتاع فلا ضمان عليه. (هداية، كتاب الإجازات،
باب ما يجوز من الإجارة، وما يكون خلافاً فيها، أشرفي ۳/ ۳۰۰، الفتاوى التاتارخانية، زكريا
۱۵/ ۲۹۳، رقم: ۲۳۱۱۶، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۱۲/ ۴۶، رقم: ۱۴۰۴۶،
مجمع الضمانات ۱/ ۳۷، البناية، أشرفيه ۱۰/ ۲۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ ر شوال المکرم ۱۴۰۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۰/ ۹۲۷)

کرایہ پر لی ہوئی زمین پر مالک کی اجازت سے عمارت تعمیر کر لی تو اب کیا کرے؟

سوال [۹۵۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے عمر کی زمین کو ۲۵ سال کے لئے کرایہ پر لے لیا اور زید نے زمین میں عمارت تعمیر کر لی، اب ۲۵ سال پورے ہو جانے کے بعد عمر کو زمین واپس کرنی ہے، تو عمارت کے لمبے کا کیا حکم ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبی اللہ التوفیق: زید نے عمر کو زمین کرایہ پر دیتے وقت اگر عمارت بنانے کی اجازت دی تھی، تو اب مدت اجارہ ختم ہونے پر عمر زید سے اپنی عمارت میں خرچ ہونے والی رقم وصول کرے گا اور عمارت زید کو دے دینا لازم ہے؛ لیکن اگر زید نے عمر کو تعمیر کی اجازت نہیں دی تھی، تو اب زید کو دو اختیار ہیں کہ عمر کو عمارت کے توڑنے کا مکلف بنا دے یا زید عمر کو اس عمارت کی قیمت ادا کر دے اور عمارت اپنے پاس رکھے۔

إذا بنى المستأجر أو غرس بدون إذن الموجد فلو بإذنه فيرجع عليه بما أنفق. (شرح المحجلة رستم، مكتبة إتحاد ۱/ ۲۹۰، رقم المادة: ۵۳۱)

تصح إجارة أرض للبناء والغرس فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة لعدم نهايتها إلا أن يغرم له الموجد قيمته أى البناء والغرس مقلوعاً. (الدرمع الرد، كتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة، زكريا ۹/ ۴۰، ۴۱، كراچی ۳۰/ ۶)

لو أحدث المتسأجر بناء في العقار المأجور، أو غرس شجرة، فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء والشجرة، وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة. (شرح المحجلة رستم، مكتبة إتحاد ۱/ ۲۹۰، رقم المادة: ۵۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
کیم ریج الاول ۱۳۳۵ھ
(الف خاص فتویٰ نمبر: ۱۱۳۵۴/۲۰)

جس شخص نے تنہا اپنی کمائی سے کاروبار بڑھایا اس میں دوسرے بھائی کی حصہ داری نہ ہوگی

سوال [۹۵۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے پانچ بیٹے ہیں، بڑا لڑکا کبک بڑے ہونے کے بعد ڈرائیوٹر کمپنی میں ملازمت کرنے لگا، اس کے بعد اس نے اپنی کمائی کے ذریعہ خود ڈرائیوٹر کمپنی کا کام شروع کیا، نہ بھائی کا اس میں پیسہ لگانا نہ باپ کا کوئی سرمایہ، اس کے بعد اس نے اپنے دو بھائیوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگالیا، اور کوئی وعدہ نہیں کیا کہ علیحدگی کے وقت ان کو کوئی حصہ دیا جائے گا، بلکہ بھائیوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا؛ اس لئے ان کو ساتھ لگالیا اور اس بھائی نے بھائیوں اور بہنوں کی شادی کرادی، ایسے حالات میں ایک بھائی اس کے کاروبار سے الگ ہو جانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ تم الگ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، مگر تم کو کوئی حصہ نہیں ملے گا؛ کیوں

کہ اس میں مکمل سرمایہ میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں، اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سرمایہ سارا بکر کا ہے یا بھائیوں کو بھی کچھ حصہ ملے گا؟ اگر ملے گا تو کیا ملے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بکر نے ٹرانسپورٹ کا کام اپنے پیسوں سے شروع کیا ہے، باپ اور بھائیوں کا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہے اور اس نے بھائیوں کو ہمدردی کے طور پر اپنے ساتھ کام میں لگا لیا تھا اور ان کو ضرورت کے سارے اخراجات کے پیسے بھی دیتا رہتا تھا، اب کوئی بھائی علیحدہ ہونا چاہتا ہے اور کاروبار میں حصہ داری کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کو حصہ داری کے طور پر کچھ نہیں دیا جائے گا اور پورے کاروبار کا مالک بکر ہی ہوگا، الگ ہونے والا بھائی صرف اجرت مثل کا مستحق ہے۔

وإن احتطب أحدهما وأعانه الآخر للمعين أجر مثل عمله. (بزازیہ،

کتاب الشركة، زکریا جدید ۳/ ۱۱۷، وعلی ہامش الہندیہ ۶/ ۳۲۷)

فإن احتطب أو احتش أحدهما وأعانه الآخر في جمعه، فالمجموع

كله للذي احتطب، وللآخر أجر مثله عندهم جميعا. (الفتاویٰ التاتاریخانیہ،

زکریا ۷/ ۵۰۳، رقم: ۱۱۰۰۱)

فإن احتطب أحدهما وأعانه الآخر بأن قلع أحدهما وجمع الآخر، أو

قلع أحدهما وجمع وحمل الآخر كان المجموع للذي احتطب لما قبل

الشركة وللمعين أجر المثل. (الفتاویٰ الولولجیہ، دار الأیمان سہارنپور ۳/ ۴۸،

سراجیہ، مکتبہ اتحاد ۱/ ۳۷۰)

وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله. (الدرع الرد،

کتاب الشركة، زکریا ۶/ ۵۰۲، کراچی ۴/ ۳۲۵، الموسوعة الفقہیہ الكويتیہ ۳۵/ ۱۵۷)

الأب والابن یکتسبان فی صنعة واحدة ولم یکن لهما شیء،

فالكسب كله للأب إن كان الابن في عیاله؛ لكونه معینا له. (شامی، کتاب

الشركة، مطلب أجمعاً في دار واحدة..... زكريا ۶/ ۵۰۲، كراچی ۴/ ۳۲۵، ہندیہ،
زكريا قديم ۲/ ۳۲۹، جديد ۲/ ۳۳۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲۳۲/۱۲/۲۸ھ

(الف خاص فتویٰ نمبر: ۱۱۳۴۴/۴۰)

بونس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟

سوال [۹۵۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: صابریک سرکاری نوکر ہے، سال میں ایک بار اس کو بونس (انعام) کا پیسہ ملتا ہے، وہ اس پیسے کو اپنے خرچ میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ بونس کی یہ رقم سال کے آخر میں ملازم کو بطور انعام دی جاتی ہے، جو کہ ماہانہ تنخواہ سے الگ ہوتی ہے، نیز یہ رقم حسن کارکردگی کی بنا پر ملازم کو ملتی ہے۔

المستفتی: ماسٹر محمد انیس سیوہارہ، محلہ اسلام نگر، ضلع بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حسن کارکردگی کی بنا پر جو بونس بطور انعام ملتا ہے، اس کے لینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے؛ اس لئے اپنے خرچ میں استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ احیاء العلوم ۱/ ۳۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲۴۰/۱۲/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۷۷/۲۵)

ملازم فسادات کے دوران کی تنخواہ کا مستحق ہے یا نہیں؟

سوال [۹۵۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید نے بکر کے مدرسہ میں چالیس سال خدمت کی اور بہت کم قلیل تنخواہ میں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے تنخواہ ۱۹۸۰ء میں مبلغ: ۸۰ روپیہ ماہوار تھی، اس وقت تک زید کی صحت بھی اچھی تھی اور ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتا تھا، اس طرح گزارا ہو جاتا تھا۔ اگست ۱۹۸۰ء میں کرفیولگا، طلبہ جو عید الفطر پر اپنے گھر گئے ہوئے تھے واپس مدرسہ میں نہیں لوٹے؛ کیوں کہ مدرسہ ہندوں کے محلہ میں واقع ہے، بچوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسہ بند ہو گیا، بکر نے یہ کہہ کر کہ اب مدرسہ میں بچے نہیں ہیں، زید کی تنخواہ بند کر دی؛ لیکن زید ۱۹۸۰ء سے اب تک برابر مدرسہ کی دیکھ بھال و کرایہ کی وصولیابی کا کام کرتا رہا ہے ۱۹۸۱ء سے زید برابر بیمار چل رہا ہے، طعام کی بھی پریشانی ہے، مدرسہ کو خالی کرانے کی تنبیہ کی جا رہی ہے، اور زید کو ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، زید کے یہاں کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا روپیہ ہے کہ انتظام کیا جاسکے، اس لئے زید نے بکر سے کہا کہ میری سن ۱۹۸۰ء سے روکی گئی تنخواہ کا حساب لگا کر میرا حساب صاف کر دیا جائے، برائے کرم یہ ارشاد فرما دیا جائے کہ زید کو یہ روکی گئی تنخواہ لینا بکر سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حافظ عبدالجید خان مدرسہ سعیدیہ منڈی بانس، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہاں کا عرف بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے مدرسہ کچھ عرصہ تک بند ہو جائے اور مدرسین و ملازمین استعفیٰ نہ دیں یا ان کو معزول نہ کیا جائے؛ بلکہ اپنے آپ کو مدرسہ کی خدمت کے لئے سپرد کئے رکھیں تو وہ لوگ تنخواہ کے حق دار ہیں، جیسا کہ ۱۹۸۰ء کے فساد کے موقع پر دو تین ماہ تک مراد آباد کے بڑے بڑے مدرسہ بند رہے، مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی، مدرسہ امدادیہ، جامع الہدیٰ وغیرہ بند رہے؛ لیکن مدرسین و ملازمین کو تنخواہ بھی ملتی رہی، اسی طرح اگر سوال نامہ میں درج شدہ زید کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہوئی اور اس نے مسلسل مدرسہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کر رکھا ہے، نہ اس نے استعفیٰ دیا اور نہ اس کو معزول کیا گیا ہے، تو وہ روکی گئی تنخواہوں کا حق دار ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۴۹)

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (عقود رسم المفتي قديم / ۳۸، قواعد الفقه

أشرفي ديوبند / ۷۴، رسائل ابن عابدين، ثاقب بك ڈپو ديوبند / ۴۴)

وقول الفقهاء: المعروف كالمشروط. (عقود رسم المفتي / ۹۴)

المعروف بالعرف كالمشروط شرط الخ. (قواعد الفقه، اشرفي ديوبند /

۱۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

کیم رجب المرجب ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۰/۷۸۰)

کریو کے دوران بند مدرسوں اور کارخانوں کے ملازموں کی تنخواہ

سوال [۹۵۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: گذشتہ دنوں دہلی، میرٹھ فساد کے دوران کریو نافذ ہونے کی وجہ سے علاقے میں کاروبار، کارخانے، اسکول و دینی مدارس بند رہے، کچھ ارباب مدرسہ اور کارخانے داروں نے اپنے ان ملازمین اور اساتذہ کی ان ایام کی تنخواہ وضع کر لی ہے، جو کئی سال سے ان میں کام کرتے ہیں، ان دنوں کی کوئی رخصت اور غیر حاضری بھی نہیں ہے اور نہ ہی شہر چھوڑ کر کہیں باہر گئے اور نہ کسی اور جگہ کام کیا؛ بلکہ اپنے آپ کو کارخانہ اور مدرسہ کے سپرد کئے رکھا، جب کہ تقرری کے وقت کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب مرحمت فرمایا جائے کہ یہ کٹوتی جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتی: محبوب حسین، فراش دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ملازمین و مدرسین کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہوئی ہے، تو عرف کے مطابق وہ لوگ تنخواہ کے مستحق ہیں، مراد آباد میں ۱۹۸۰ء کے فساد کے موقع پر

دو تین مہینے تک مراد آباد کے بڑے بڑے مدارس بند رہے، مثلاً جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی، مدرسہ امدادیہ، مدرسہ جامع الہدیٰ وغیرہ بند رہے؛ لیکن ملازمین و مدرسین کی تنخواہیں وضع نہیں کی گئیں، برابر تنخواہ دی گئی، نیز ”امداد الفتاویٰ ۳/۳۴۹“ سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (عقود رسم المفتي قديم / ۳۸، قواعد الفقه

اشرفي ديوبند / ۷۴، رسائل ابن عابدين، ثاقب بك ڈپو ديوبند / ۴۴)

وقول الفقهاء: المعروف كالمشروط. (عقود رسم المفتي / ۹۴)

السعروف بالعرف كالمشروط شرط الخ. (قواعد الفقه، اشرفي ديوبند /

۱۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ربيع الثانی ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۶۱۱)

سرکاری ملازمت جائز ہے یا ناجائز؟

سوال [۹۵۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہندوستان کا نظام حکومت باطل نظام ہے، اس میں سرکاری ملازمت کرنا ایک مسلمان مرد اور عورت کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس طرح اور ناجائز تو کس طرح؟ وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: فاقربگ راج دوارہ، رامپور

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہندوستان کے نظام حکومت کو یکسر باطل کہنا درست نہیں ہے؛ بلکہ نظام حکومت میں بہت سے قوانین و ضابطے جائز اور درست ہیں، مثلاً حکومت کا ایک نظام ہے ٹرین جس کے مختلف درجات ہیں اور ہر ایک کے لئے الگ الگ ٹکٹ کا نظام ہے، تو نظام حکومت کے ماتحت رہ کر ٹکٹ خرید کر ان ٹرینوں میں سفر کرنا جائز اور درست ہے

اور اس کے خلاف کرنا شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح نظام حکومت میں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں شعبہ جات ہیں، جس میں نظام حکومت کے تحت رہ کر ملازمت کرنا جائز ہے، اسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اسی طرح ہسپتالوں کے نظام ہیں کہ نظام حکومت کے تحت وہاں بھی ملازمت کرنا جائز ہے اور اس کی تنخواہ بھی جائز ہے؛ اس لئے تمام نظام حکومت کو باطل کہنا درست نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی ملازمت کوئی مسلمان حاصل کرتا ہے، پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے ساتھ تنخواہ وصول کرتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں البتہ کوئی ملازم ملازمت کے ساتھ ساتھ رشوت وصول کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا فعل ہے اور رشوت لینا حکومت کا نظام نہیں ہے؛ لہذا حکومت کی جائز ملازمت حاصل کر کے اس سے تنخواہ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں اگر کسی شعبہ کا نظام شرعی نقطہ نظر سے ناجائز اور باطل ہے، تو مسلمانوں کو ایسے شعبہ میں ملازمت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، آپ نے سوال نامہ میں کوئی ایسا شعبہ متعین نہیں فرمایا ہے؛ اس لئے ہم اپنی طرف سے کسی شعبہ کی تعیین نہیں کریں گے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶/۲۷۰، ڈابھیل ۱۶/۵۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۱۴۲۶/۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۷۰/۳۷)

سرکاری مدرس کا عذر کی بنا پر لڑکے کو نائب بنانا

سوال [۹۵۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کے والد صاحب سرکاری مدرسہ میں تدریس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس میں مختلف کتابیں پڑھاتے ہیں، بعض دفعہ والد کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی بنا پر وہ اپنے لڑکے زید کو پڑھانے بھیج دیتے ہیں، تو زید کے جانے سے سبق بھی مکمل ہو جاتا ہے اور حاضری بھی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں زید کے والد کو مکمل مہینہ کی

تنخواہ لینا اور زید کا پڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ مدھونی، معلم مدرسہ شاہی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سرکاری ملازمین کو اس بات کی اجازت ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہونے کی صورت میں اپنا بدل پیش کیا جائے، تو ایسی صورت میں زید کے لئے باپ کی جگہ جا کر ذمہ داری ادا کرنا اور باپ کے لئے ماہانہ تنخواہ حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔

الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف، فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف. (شامي، كتاب القضاء، مطلب في استخلاف القاضي نائباً عنه، ذكرها ۸/ ۷۵-۷۶، كراچی ۵/ ۳۹۱-۳۹۲، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۲۳۵، مصري قديم ۲/ ۱۶۸، البحر الرائق، كوثنه ۷/ ۶، ذكرها ۷/ ۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۴/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۹۵/۸۷)

ریلوے میں ملازم باپ کی جگہ متنبی کی نوکری کا حکم

سوال [۹۵۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شیخ شفیع کالا ولد انتقال ہو گیا، ریلوے ملازم تھے، ان کا ایک لے پالک لڑکا شیخ عاقب ہے، ریلوے ڈپارٹمنٹ اگر مرحوم کی جگہ لے پالک کو ریلوے میں نوکری دے دے تو کیا یہ اسلامی قانون میں منع ہے؟

المستفتی: زوجہ شفیع ربیسہ بی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر ریلوے سرکاری شفیق مرحوم کی جگہ پر اس کے لے پالک کو ملازمت دے دے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ سرکار لے پالک کو بھی مرحوم کے پسماندگان شمار کرتی ہے، اور اس کو بھی پسماندگان میں ہونے کی وجہ سے ملازمت دینے کے کالم میں رکھا ہے؛ اس لئے اس کے لئے ملازمت قبول کرنا اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے تنخواہ وصول کرنا جائز اور درست ہے؛ لیکن اس کی وجہ سے لے پالک مرحوم کا شرعی وارث نہیں بنے گا۔

قال العلامة الحصكفي - رحمه الله - : كل أنواع الكسب في الإباحة سواء قال الشافعي تحته : أقول : فالمراد من قولهم : كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض . (شامسي، كتاب الصيد، كراچی ۶/۴۶۲، زکریا ۱۰/۴۶، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/ ۱۸۴، تاتارخانیة، زکریا ۱۸/۱۵۶، رقم: ۲۸۳۳۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۲/۱۲ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
یکم صفر المظفر ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۷۲)

ڈاکخانہ سے روپے لاکر لوگوں کو دینے کی اجرت لینا

سوال [۹۵۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، جہاں ڈاکیہ گھر گھر روپیہ پہنچاتا نہیں اور اگر پہنچاتا بھی ہے تو تاخیر سے؛ لہذا اس گاؤں میں ایک شخص ایسا ہے جو باہر سے ڈاک سے آئے ہوئے روپے جا کر ڈاکخانہ سے لے آتا ہے، اور اس میں سے اپنے لئے فیصد ۱۵ روپے لیتا ہے اور لوگ بھی دیتے ہیں؛ اس لئے کہ ان کو روپے جلد مل جاتے ہیں، تو کیا ان کا یہ روپیہ لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: ماسٹر منصور عالم، کشن گنج (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو شخص ڈاکخانہ سے بذریعہ ڈاک آئے ہوئے روپے لاتا ہے، اگر وہ بااختواہ ملازم نہیں ہے؛ بلکہ لوگوں نے اس طرح فیس کے ذریعہ اس کی اجرت متعین کی ہے، تو ایسے روپے اس کے لئے جائز ہیں۔ اور اگر سرکار کی طرف سے بااختواہ ملازم ہے تو لینا جائز نہیں ہے۔

إذا دفع الرشوة يسوى أمره عند السلطان حل للدافع، ولا يحل للآخذ أن يأخذه، فإن أراد أن يحل للآخذ يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل بما يريد أن يدفع إليه، فإنه تصح هذه الإجارة. (البحر الرائق، كتاب القضاء، زكريا ۶/ ۴۱، ۴، كوئٹہ ۶/ ۳۶۲، رد المحتار، مطلب في الكلام على الرشوة، زكريا ۸/ ۳۵، كراچی ۵/ ۳۶۲، تاتارخانیہ، زكريا ۱۱/ ۷۷، رقم: ۱۵۵۰۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۲/۵۹۷)

خلاف شرع کام ہونے والے ہوٹل کی ملازمت کا حکم

سوال [۹۵۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ذرائع مواصلات کی ترقی، سیاحت کے رجحانات میں اضافہ اور مسافر کی ضرورت کے لحاظ سے ”ہوٹل“ موجودہ سماج کی ضرورت بن گئے ہیں، اور یہ اس وقت ایک نفع بخش تجارت بھی ہے۔ ہوٹلوں کا بنیادی مقصد تو معاوضہ لے کر قیام و طعام کی سہولیات فراہم کرنا ہے؛ لیکن بڑے ہوٹلوں میں بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، مثلاً شراب کی فراہمی، خنزیر اور حرام غذا کا انتظام، رقص موسیقی کی سہولت وغیرہ، اسی طرح پردہ کی رعایت کئے بغیر سوئمنگ پل تو کیا ایسے ہوٹلوں میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہوگا؟ جب کہ حرام چیزوں کی

فراہمی سے اس کا براہ راست تعلق ہو یا براہ راست اس سے تعلق نہ ہو؟

المستفتی: محمد قمر عالم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسافروں کے ٹھہرنے کے لئے ہوٹلوں کا قائم کرنا اور کرایہ پر ہوٹلوں کا چلانا فی نفسہ جائز و درست ہے؛ لیکن ان ہوٹلوں میں شراب، خنزیر، حرام غذا کا انتظام اور رقص و موسیقی وغیرہ فواحش و ناجائز چیزوں کا انتظام کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان حرام کاریوں میں اور حرام عمل میں شریک ہوں گے، ان کو جتنا گناہ ہوگا انہیں کے برابر گناہ اس کا انتظام کرنے والوں کے سربھی ہوگا۔ ایسے ہوٹلوں میں ملازمت کی صورت میں ان حرام امور میں سے کسی میں ملوث ہونا پڑتا ہو یا ان کا انتظام کرنا پڑتا ہو، تو ایسی ملازمت شرعی طور پر جائز نہیں، ایسے ہوٹلوں میں ملازمت اختیار کرنے سے مسلمانوں کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا لازم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [المائدة: ۹۰]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. [المائدة: ۳]

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله ﷺ في

خمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، ومحمولة إليه، وساقبها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. (ترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، النسخة الهندية ۱/ ۲۴۲، دار السلام، رقم: ۱۲۹۵)

ولا تصح الإجارة لعسب التيس ولا لأجل المعاصي مثل الغناء،

والنوح، والملاهي. (شامي، كتاب الإجارة، بالإجارة الفاسدة، مطلب في الاستيجار

علی المعاصی، کراچی ۶/ ۵۵، زکریا ۹/ ۷۵)

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو،
والمزامير، والطبل وغيره؛ لأنها معصية، والإجارة على المعصية باطلة.

(تاتارخانیة ۱۵/ ۱۳۲، رقم: ۲۲۴۳۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۳/۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۸/۳۹)

کیمروں کے مرمت کی اجرت کا حکم

سوال [۹۵۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کیمرہ میکنگ ہے اور تقریباً اڑتالیس سال سے کیمروں کی مرمت کرتا ہے، تو کیا یہ کام درست ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ اب اس جدید دور میں کیمروں میں یہ فرق ہو گیا ہے کہ پرانے کیمروں میں ریل اور فلم ڈالی جاتی تھی، پھر فوٹو کھینچا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو دھو کر تصویر بنتی تھی؛ لیکن اب ڈیجیٹل کیمرے آگئے ہیں، جن میں فلم نہیں ہوتی؛ بلکہ یہ عکس کو الیکٹرونک طریقہ سے جذب کرتے ہیں اور کیمرہ پروسیس (محفوظ) کر کے آپ کو اسکرین پر تصویر دکھاتا ہے، آج جیسا کہ تصویر اور فوٹو کی ضرورت سے مطلقاً انکار نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ موقع بموقع فوٹو کی شدید ضرورت پیش آتی ہے، مثلاً سرکاری آفسوں میں ملازمتوں، بینکوں، مدارس اور کالج کے فارموں میں شناختی کارڈ اور حج کی درخواستوں میں وغیرہ وغیرہ اسی طریقہ سے پریس اور میڈیا والے حادثے کی تصویر کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں، نیز ڈاکٹر حضرات بھی زخموں کے علاج میں نیز دیگر بیماریوں مثلاً دانتوں اور آنکھوں کے علاج میں اور پیٹ کے اندرونی علاج میں بھی کیمروں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقہ سے ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لئے بھی

کیمروں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ R.N.D جو حکومت کا ایک حساس ادارہ ہے، جو نہ صرف عوام بلکہ پورے ملک کی حفاظت کے لئے کام کرتا ہے، اس میں بھی کیمروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس شعبہ کے کیمروں کی مرمت کا کام بھی زید کے سپرد ہے۔ اب ایسی صورت حال اور ایسے مواقع کہ جن میں فوٹو کی شدید ضرورت پڑتی ہے اور شرعاً ایسے مواقع میں فوٹو کی اجازت بھی ہے، تو کیا ان حالات میں زید کے لئے کیمروں کی مرمت کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ نیز زید کے لئے کیمروں کی مرمت پر حاصل ہونے والی اجرت اور کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ واضح رہے کہ زید صرف کیمروں کی مرمت کرتا ہے، فوٹو گرافی اور فوٹو سازی وغیرہ کا کام نہیں کرتا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اصول شرع کی روشنی میں مفصل جواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: شیخ محمد غوث کیمرہ ٹیکنیشن ایم جی روڈ ونڈر لینڈ، پونہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کیمرہ چونکہ فحش اور ذی روح کی تصاویر ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ اس کے ذریعہ بہت سے جائز اور مباح کام بھی انجام پاتے ہیں، نیز انسانی تصاویر شدید ضرورت کی وجہ سے کھنچوانے کی اجازت ہے؛ لہذا اگر غلط اور فحش فوٹو کھنچوائے جائیں اور اسی طرح کیمرہ اسکرین پر فحش فوٹو کھینچا جائے تو یہ گناہ عظیم ہے۔ اور اگر فحش اور غلط چیزوں سے گریز کر کے جائز چیزوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے؛ اس لئے نفس کیمرہ کی مرمت جائز اور درست ہے اور اس کو ناجائز استعمال کرنے والے کے لئے ناجائز اور جائز استعمال کرنے والے کے لئے جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ۱۰/۱، ۱۱۰، کتاب الفتاویٰ ۵/۳۹۱)

الأمر بمقاصدها. (الأشباہ والنظائر، قدیم: ص: ۵۳)

إن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة

البيع. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، کراچی ۶/۳۹۱، زکریا ۹/۵۶۱)

وقال الشامي: الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (شامي، زكريا ۹/۵۶۲، كراچی ۶/۳۹۲)

يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار، فينقطع نسبته عنه. (شامي، زكريا ۹/۵۶۲، كراچی ۶/۳۹۲،

الموسوعة الفقهية ۹/۲۱۳، هداية، أشرفي ديوبند ۴/۴۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۶/۲۶ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۴۳۵)

جعلی سرٹیفکٹ کے ذریعہ نوکری کرنا

سوال [۹۶۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) ہمارے آسام میں امسال بہت سے مدارس کی تنخواہ کا ذمہ خود سرکار نے لیا ہے، جن مدرسوں میں تنخواہ بھی زیادہ ہے اور ہمارے یہاں زیادہ تر علماء مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں؛ لہذا بہت سے علماء نے جو کہ آزاد مدارس کے تعلیم یافتہ ہیں، ان کے پاس سرکاری مدارس کا سرٹیفکٹ نہیں ہے، یعنی ایم ایم یا ایف ایم کا، مجبوراً روپیہ دے کر ایک سرٹیفکٹ حاصل کر کے سرکاری مدرسہ دینی کام انجام دے رہا ہے، تو جو سرٹیفکٹ روپیہ سے حاصل کیا ہے، اس کے ذریعہ سے ایم ایم سرکاری ادارہ میں امتحان دے کر بطریق اعلیٰ پاس کیا اور سرکاری مدارس میں دینی کام انجام دینے کا موقع ملا ہے اور اب جو تنخواہ علی الاجرت مل رہی ہے یہ لینا درست ہے یا نہیں؟

(۲) سرکاری مدرسہ واسکول میں نوکری کرنا عند اللہ کیسا ہے؟

(۳) اولاً مدرسہ پبلک کا تھا؛ لیکن مجبوراً اب سرکار کو دے دیا، اب قدیم اساتذہ اپنے عہدے قائم رکھنے کے لئے روپیہ پیسے دے کر سرٹیفکٹ حاصل کر کے اس مدرسہ میں دینی کام

انجام دے رہے ہیں۔

(۴) بہت سے مدارس میں پوسٹ خالی ہے، مثلاً فن حدیث، تفسیر، ادب وغیرہ؛ لیکن سرٹیفکٹ نہیں ہے، تو ایک سرٹیفکٹ روپیہ سے حاصل کر کے اس کے ذریعہ امتحان دے کر کامیاب ہو گیا اور دینی کام میں لگ جائے تو اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۵) آزاد مدرسہ میں کچھ پڑھا یعنی عالیہ پنجم تک اور کسی دوسرے آدمی سے امتحان دلوا کر اپنے نام کا سرٹیفکٹ حاصل کیا اور پھر اسکول یا مدرسہ میں تعلیم دے رہا ہے، عندالشرع کیسا ہے؟

المستفتی: معین الدین پٹی جامع مسجد، پوسٹ ناظرہ، ضلع سیب ساگر، آسام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) صورت مسؤلہ میں چونکہ آپ کو جو تنخواہ بطور اجرت مل رہی ہے، وہ آپ کی محنت کی مزدوری ہے؛ اس لئے فی نفسہ تنخواہ جائز ہوگی اور انشاء اللہ اس سلسلے میں کوئی مواخذہ نہ ہوگا؛ البتہ سرکاری مدرسہ میں دینی کام انجام دینے کے لئے جعلی سرٹیفکٹ خریدنا یا خریدے ہوئے سرٹیفکٹ سے ایم ایم کی ڈگری حاصل کرنا یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، شرعاً یہ فعل درست نہیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت معاش اختیار کی جائے جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۴/۱۳۷، جدید ڈبہ ۱۸/۱۸۷۷)

(۲) سرکاری مدرسہ اور اسکول میں نوکری کرنا اگر شریعت کے حدود کے دائرہ میں رہ

کر ہو، مثلاً رشوت وغیرہ نہ دینی پڑے تو عندالشرع درست ہے۔

(۳) قدیم اساتذہ ہوں یا جدید اساتذہ، ہر ایک کو دینی خدمت انجام دینا اسلامی فریضہ ہے، مگر عہدہ سابقہ باقی رکھنے کے لئے جعلی سرٹیفکٹ حاصل کرنا یہ مکروہ دھوکہ ہے، جس کی

شرعاً اجازت نہیں۔ (محمودیہ قدیم ۱۴/۱۳۷، جدید ڈبہ ۱۸/۱۸۷۷)

(۴) صورت مذکورہ میں بھی تنخواہ لینا جائز ہوگا؛ البتہ جعلی سرٹیفکٹ خرید کر دینی مدارس میں درس و تدریس کا کام انجام دینا گورنمنٹ کو دھوکہ دینا ہے؛ اس لئے اس کی اجازت قطعاً نہ

ہوگی۔ (محمودیہ قدیم ۱۴/۱۳۷، جدید ڈبہ ۱۸/۱۸۷۷)

(۵) اس صورت میں بھی جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے گورنمنٹ کو دھوکہ دینا ہے؛ لہذا یہ جائز نہ ہوگا۔ (محمود یہ قدیم ۱۴/۱۲، جدید ڈائجسٹ ۱۸/۴۷۷)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ۱/۷۰، بيت الأفكار رقم: ۱۰۱)

عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر بيروت ۹/۵۶، رقم: ۱۱۹۰۷، شعب الإيمان للبيهقي، دارالكتب العلمية بيروت ۶/۴۲۰، رقم: ۸۷۴۱)

والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچی ۳/۱۵۶، زكريا ۴/۳۰۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴ رجب ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۷/۲۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۰۱۰)

جھوٹ اور جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعہ نوکری حاصل کرنا

سوال [۹۶۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص مثلاً زید پانچویں کلاس تک پڑھا، اس کے بعد اسکول کی تعلیم چھوڑ کر دوسرے مشاغل میں لگ گیا، چند سال کے بعد ایک جعلی سرٹیفکیٹ دسویں کلاس کا سرکاری ڈپارٹمنٹ کے سامنے پیش کر کے گورنمنٹ کا ملازم ہو گیا، جو نوکری انہوں نے حاصل کی ہے، وہ دسویں کلاس کے نیچے درجے کے لوگوں کو ملنی قانوناً جائز نہیں ہے، اس صورت میں واقعہ میں ایک طرف تو سرکاری قانون کی خلاف ورزی ہے، دوسری طرف جھوٹ اور فریب ہے، تیسری طرف ایک لائق شخص کا حق جس نے باقاعدہ پڑھائی کر کے باقاعدہ امتحانات دے کر دسویں

کلاس کا سرٹیفکٹ حاصل کیا ہے، سلب ہو رہا ہے، اب دریافت یہ امر ہے کہ اس طرح سے نوکری حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: احقر ابوالکلام، محمد عبدالرشید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید نے جھوٹ بول کر اور جعلی سرٹیفکٹ داخل کر کے جو نوکری حاصل کی ہے، اس سے ملنے والی تنخواہ تو حلال ہے؛ کیوں اس کی محنت اور ڈیوٹی کا عوض ہے، مگر جھوٹ بولنا اور خلاف قانون نوکری حاصل کرنا، دھوکہ اور فریب ہے، اس کا گناہ اس پر الگ سے ہوگا، رہی بات غیر کے حق کا سلب ہونا تو یہ ایک امر متردّد فیہ ہے؛ کیوں کہ اس ڈگری کے حامل ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملازمت کے امیدوار ہوتے ہیں؛ لیکن ملازمت کے فیصلہ سے پہلے اس پر کسی کا استحقاق نہیں ہوتا؛ اس لئے کسی کا حق مارا نہیں گیا۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان

باب من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ۱/ ۷۰، بيت الأفكار رقم: ۱۰۱)

والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل. (شامی، کتاب النکاح، باب المهر،

کراچی ۳/ ۱۵۶، زکریا ۴/ ۳۰۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/ ۸۶۵۰)

ٹھیکیدار کے پاس بچے ہوئے پیسے کے استعمال کا حکم

سوال [۹۶۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص سرکار سے رقم لے کر روڈ وغیرہ کی ٹھیکیداری کا کام کرتا ہے، اس کام کے لئے

مثلاً ایک لاکھ روپے سرکار دیتی ہے اور کام میں صرف پچتر ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں اور پچیس ہزار روپے بچ جاتے ہیں، تو آیا ان پچیس ہزار روپے کا سرکار کی اجازت کے بغیر ٹھیکیدار کے لئے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ ٹھیکیدار کو اس کام میں محنت و مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، تو کیا بچی ہوئی رقم اس کی محنت و مزدوری شمار ہوگی یا نہیں؟

(۲) اور اگر اس کے لئے وہ رقم استعمال کرنا جائز ہے، تو کیا اسے خود استعمال کرے یا غرباء وغیرہ میں تقسیم کر دے؟ جواب با صواب سے نوازیں۔

المستفتی: حافظ طاہر حسین اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱-۲) ٹھیکیداری پر کام کرنے کی دو شکلیں ہیں: (۱) اگر ٹھیکیداری پر کام کرنے والا اجرت پر کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ٹھیکیدار کو کام کرنے کے لئے جو رقم دی گئی ہے، کام کے مکمل ہونے کے بعد اگر اس رقم میں سے کچھ رقم بچ جائے تو یہ بچی ہوئی رقم اس کے پاس بطور امانت ہوگی، سرکار کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے کسی بھی ذاتی مصرف میں استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، تصرف کرنے کی صورت میں شرعاً فاسق اور گنہگار شمار ہوگا۔

(۲) اگر ٹھیکیدار اجرت پر کام نہیں کر رہا ہے؛ بلکہ مطلقاً ٹھیکہ پر کام لے رکھا ہے، مثلاً سرکار سے یہ کہا کہ میں اس کام کے لئے ایک لاکھ روپے لوں گا، تو ایسی صورت میں کام مکمل کرانے کے بعد جو رقم بچ جائے وہ ٹھیکیدار کا حق ہے، سرکار کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذاتی مصرف میں اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، یہ بچی ہوئی رقم سرکار کی شمار نہیں ہوگی۔

وإن أطلق العمل له فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق العمل،

ويمكن إيفاءه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. (هداية، کتاب

الإحارة، باب الأجر متى يستحق، أشرفي دیوبند ۳/۲۹۷، بناية، قدیم ۳/۶۳۴، أشرفیہ

دیوبند ۱۰/۲۴۴، الجوهرۃ النيرة، إمدادیه ملتان ۱/۳۳۰، دارالکتاب دیوبند ۱/۳۲۰، فتح

القدير، دارالفکر بیروت ۷۸/۹، زکریا ۷۸/۹، کوئٹہ ۲۲/۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

۱۶/۶/۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۷۰۰)

لڑکیوں کے لئے ہاف آستین اور چست کپڑے سل کر دینا

سوال [۹۶۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عورتوں اور لڑکیوں کے ہاف آستین کے کپڑے یا بالکل چست کپڑے یا فلمی اسٹائل کے کپڑے سل کر دینا کیسا ہے؟ خواہ اپنے گھر کے لئے ہو، خواہ سلائی کے واسطے دوسروں کے لئے ہو، جس کی سلائی ملتی ہو سلائی کی رقم میں کراہت ہوگی یا حرمت؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورتوں کے لئے ناقص لباس جو ان کے واجبی پردہ کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں جائز نہیں ہے، جیسے ہاف آستین، اسی طرح بالکل چست لباس جس سے جسم کی بناوٹ نظر آجائے پہننا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس پر سخت وعید آئی ہے؛ اس لئے ایسا لباس سینا بھی بہتر نہیں ہے؛ البتہ سلائی کی اجرت حق المحنت ہے؛ اس لئے حلال و جائز ہے۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كاسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (مسلم شريف، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، النسخة الهندية)

۲/ ۲۰۵، بیت الأفكار، رقم: ۲۱۲۸، أنوار رسالت ۷۰۵، ۷۰۶ (۲۰۰۶)

أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعل .
 (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع كراچی ۶/ ۳۹۲، زكريا ۹/ ۵۶۲، مجمع
 الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۱۸۸، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۶/ ۲۹، زكريا
 ۷/ ۶۵ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۰/ ۱۱۰۳۸)

عورتوں کے نیم عریاں لباس تیار کرنے والی کمپنی میں کام کرنا

سوال [۹۶۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک آدمی ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے، جس میں عورتوں کے لئے نیم عریاں لباس تیار کئے جاتے ہیں (یعنی فیشن شوگا رمنٹس) جو لباس مسلم انڈسٹری میں مسلم عورتیں استعمال کرتی ہیں، کیا ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ جب کہ اس آدمی کی معیشت کا دارو مدار اسی کام پر ہے؟

المستفتی: حیدر علی ہنگلی، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: شخص مذکور مذکورہ کمپنی میں کام کر کے جو پیسہ حاصل کرتا ہے وہ فی نفسہ حلال اور جائز ہے؛ کیوں کہ یہ اس کی محنت کا عوض ہے، نیز ایسا لباس عورتیں صرف اپنے شوہر کے ساتھ لیٹنے کے لئے استعمال کریں تو جائز ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان لباسوں کے استعمال کا جائز محل بھی ہے؛ اس لئے لباس بنانے والے گنہگار نہیں ہوں گے؛ بلکہ ان لباسوں کو پہن کر نیم عریاں حالت میں غیروں کے سامنے آنا ناجائز اور حرام ہے، جس

کا گناہ ان ہی عورتوں پر ہوگا۔

وإنما المعصية في صورة إتخاذ المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه، فقطع نسبه ذلك الفعل عن الموجد. (فتح القدير، كتاب الكراهية، فصل في البيع، دارالفکر بیروت ۱۰ / ۶۱، کوئٹہ ۸ / ۴۹۴-۴۹۵، زکریا ۱۰ / ۷۳، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶ / ۲۹، زکریا ۷ / ۶۴، ہدایہ، أشرفی دیوبند ۴ / ۴۷۲، البنایہ، اشرفیہ دیوبند ۱۰ / ۵۹، شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، کراچی ۶ / ۳۹۲، زکریا ۹ / ۵۶۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹ / ۲۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ / صفر ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷ / ۵۹ / ۸۷)

درزی کے پاس بچے ہوئے کپڑا کا حکم

سوال [۹۶۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کسی درزی کے پاس کوئی گراہک کپڑا سلوانے کے لئے آیا اور کپڑا درزی کے پاس ڈالتے وقت گراہک نے کچھ نہیں کہا اور گراہک کا کپڑا درزی کے پاس بچ گیا، اس درزی نے اس بچے ہوئے کپڑے سے کسی شخص کو کپڑا سلوا دیا یا کسی شخص نے اس درزی سے وہ بچا ہوا کپڑا خرید لیا یا درزی نے کسی کو مفت میں دے دیا اور اس شخص نے کپڑا سلوا کر پہن لیا، تو کیا ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور نماز ادا ہوگی یا نہیں؟

نوٹ:- درزی صاحب نے جس شخص کو کپڑا دیا تھا، اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کپڑے سے کیا مطلب چاہے، گراہک کا ہو یا میرا ہو؟ کیوں کہ اس کپڑے کو تو میں دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد فاروق علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: گراہک کا جو کپڑا درزی کے پاس بیچ گیا ہے وہ درحقیقت گراہک ہی کا ہے، درزی کا اس کپڑے کو فروخت کرنا یا کسی کو دینا قطعاً جائز نہیں ہے؛ بلکہ مالک کو واپس کرنا لازم ہے؛ لہذا علم ہو جانے کے بعد کسی دوسرے شخص کو اس کپڑے کا خریدنا درست نہیں ہے اور اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۳۴۰)

لا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها. (هدایة، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر بفعل الغاصب، اشرفی دیوبند ۳/۳۷۶، المبسوط للسرخسی، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۱/۹۵، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/۲۲۶، زکریا ۷/۲۲۳)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه، ولا ولايته. (درمختار مع

الشامی، زکریا ۹/۲۹۱، کراچی ۶/۲۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/ذیقعدہ ۱۴۲۵ھ

۱۱/۱۱/۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۶۰۸)

تین ماہ بعد رنو گر کا کپڑے کو بیچ کر اپنی اجرت وصول کرنا

سوال [۹۶۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک صاحب کپڑے پر رنو کا کام کرتے ہیں، وصولیابی کے لئے پرچی دی جاتی ہے، جس پر شرائط تحریر ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے کی تاکید بھی ہوتی ہے، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ گراہک تین مہینے کے اندر اندر کپڑا وصول کر لے، تین مہینے کے بعد رنو گر کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، تو اس صورت میں تین مہینے کے بعد کیا رنو گر کے لئے اس کا استعمال صحیح ہے یا نہیں؟ نیز تین مہینے کے بعد اکا دکا ہی کوئی آتا ہے، عام طور پر لوگ ہاتھوں ہاتھ لے جاتے ہیں، اس طرح کے کپڑوں کا رنو گر کے پاس ڈھیر لگ جاتا ہے، اب وہ ان کپڑوں کا کیا کرے؟ کئی کئی سال گذر جاتے ہیں، کوئی لینے نہیں آتا، عام طور پر رسید پر کپڑا اور کپڑے

والے کا نام لکھا جاتا ہے، پتہ یا نمبر وغیرہ تحریر کرنے کا رواج نہیں ہے۔

المستفتی: محمد ساجد قاسمی کاٹھہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس صورت میں جب کہ رفو کروانے والے پر چچی پڑھنے کے باوجود تین مہینے گزرنے پر بھی اپنے کپڑے واپس لینے نہیں آتے ہیں، پھر بھی رفو گر کو پوری کوشش کرنی چاہئے کہ کپڑے والے اپنا کپڑا واپس لے جائیں، پوری کوشش کے باوجود بھی وہ لوگ اگر اپنا کپڑا واپس لینے نہ آئیں اور ظن غالب یہی ہو جائے کہ اب کپڑے والے نہیں آئیں گے، تو ان کپڑوں کو بیچ کر اپنا مختنانہ اور رفو میں جتنا خرچ آیا ہے وہ وصول کر لیا جائے اور بقیہ رقم کو بطور امانت اپنے پاس محفوظ رکھا جائے، اگر کبھی کوئی آگیا تو اس کو باقیہ رقم دے دی جائے۔ اور اگر کبھی نہ آئے تو اس رقم کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۳/۱۶۶)

فیتتفع الرافع (تحتہ فی الشامیة) اتی بالفاء فدل علی أنه ینتفع بہا بعد الإشهاد والتعریف إلی أن غلب علی ظنہ أن صاحبہا لا یطلبہا، والمراد جواز الانتفاع بہا والتصدق ولہ إمساکھا لصاحبہا، وفي الخلاصة: لہ بیعہا ایضا وإمساک ثمنہا. (شامی، کتاب اللقطة، کراچی ۴/۲۷۹، زکریا ۶/۴۳۷)

ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة يكون له ثوابها. (فتاویٰ

عالمگیری، جدید زکریا ۲/۲۹۹، قدیم ۲/۲۸۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۳/۳/۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۸۷/۴۰)

قالین بننے والے کا مقدار معین سے زائد بننے کی اجرت نہ لینا

سوال [۹۶۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک عرصہ سے قالین کا کام کرتا ہے، قالین بن کر جب تیار ہوتی ہے، تو اس کی پیمائش کی جاتی ہے فٹ کے حساب سے اور اس کے بننے والے کو اجرت ادا کر دی جاتی ہے، مگر فٹ کی پیمائش سے زائد جو ناپ ہوتی ہے، زید اس کی بنائی کی اجرت ادا نہیں کرتا، جب کہ بننے والے کو بھی یہ بات معلوم رہتی ہے کہ فٹوں سے اوپر جو اونچ باقی رہتے ہیں اس بنائی کی اجرت نہیں ملتی اور بننے والا اس کو طلب بھی نہیں کرتا ہے، کیا شرعاً اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو چونکہ ایک عرصہ گزر چکا ہے، اس کی تلافی کی جو ممکن صورت ہو اس کو واضح فرمائیں۔

المستفتی: اجمل علی ساکن زاونت پور کاٹھ ضلع شاہجہاں پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قالین میں فٹوں سے تھوڑے بہت جو زیادہ اونچ ہوتے ہیں اس میں آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ تعامل جاری ہے کہ نہ قالین بنانے والے اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی قالین تیار کرانے والے اجرت دیتے ہیں، تو معمولی زائد حصہ کی قیمت کے بغیر معاملہ کرنا جائز اور درست ہے۔

من اشتری ثوباً علی أنه عشرة أذرع أو أرضاً علی أنها مائة ذراع، فوجدھا أقل، فالمشتری بالخیار، إن شاء أخذھا بجملة الثمن، وإن شاء ترك، وإن وجدھا أكثر من الذراع الذی سماه فهو للمشتري؛ لأن الذراع وصف فی الثوب، ألا ترى! أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا یقابله

شيء من الثمن. (هداية، كتاب البيوع أشرفي ديونند ۳/ ۲۳، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية

بيروت ۳/ ۲۱، البحر الرائق، كوئٹہ ۵/ ۲۹۳، زکریا ۵/ ۴۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۴ھ

۲۸/۵/۱۴۲۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۰۶۵)

مسلمانوں کا کرایہ پر دینے کے لئے ”شادی ہال“ بنانا

سوال [۹۶۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: مسلمانوں کو شادی محل بنانا اور اس میں نکاح خوانی کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شادی محل بنانا اور اس کو آمدنی کا ذریعہ بنانا الگ چیز ہے،

جو جائز اور درست ہے۔ اور شادی محل میں نکاح خوانی کا مسئلہ دوسری مستقل چیز ہے، اگر اس

میں منکرات اور فضول خرچی نہیں ہے، تو شادی ہال میں نکاح خوانی کرنے میں کوئی مضائقہ

نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۷/۲۹۴، جدید ڈائجسٹ ۱۶/۵۶۸)

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار، أو كنيسة أو

بيعة، أو يباع فيه الخمر، وتحتة في الشامي: لأن الإجارة على منفعة

البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما

المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار، فينقطع نسبتة عنه. (شامي، كتاب

الحظر والإباحة، فصل في البيع كراچی ۶/ ۳۹۲، زکریا ۹/ ۵۶۲، الموسوعة الفقهية

الكويتية ۹/ ۲۱۳، هداية، اشرفي ديونند ۴/ ۴۷۲، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۶/ ۲۹،

زکریا ۷/ ۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

۲۳/۳/۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۳۰۲)

سودی قرض لے کر کاروبار کرنے کی آمدنی کا حکم

سوال [۹۶۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: سائل نے بینک سے سودی قرض لے کر کاروبار شروع کیا ہے، سائل ہر مہینہ بینک کا سود ادا کرتا ہے، کاروبار خوب چل رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بینک سے سودی قرض لے کر جو کاروبار کیا ہے، اس کاروبار کی آمدنی جائز ہے یا ناجائز؟ کیوں کہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

المستفتی: عبدالرب جگر کالونی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سودی قرض لینا جائز نہیں ہے اور جب تک قرض ادا نہ ہوگا، قرض لینے والا مستحق لعنت رہے گا؛ لیکن اس قرض کے ذریعہ کاروبار کر کے جو نفع حاصل کیا ہے وہ اپنی محنت و کوشش کے ذریعہ حاصل ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا سود یا حرام مال شامل نہیں ہے؛ کیوں کہ مسئلہ صورت میں صرف پاک مال میں سے سود دیا جا رہا ہے، سود لے کر پاک مال میں مخلوط نہیں کیا جا رہا ہے؛ البتہ جو شخص قرض دے کر بدلہ میں سود لیتا ہے، حرام مال اس کے پاس پہنچتا ہے۔

عن جابر - رضی اللہ عنہ - لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربو ومؤكله. (أبو داؤد، البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ۲ / ۴۷۳، دار السلام، رقم: ۳۳۳۳، صحيح مسلم، المساقاة، باب الربا، النسخة الهندية ۲ / ۲۷، بيت الأفكار، رقم: ۱۵۹۸، سنن الترمذي، باب ماجاء في آكل الربا، النسخة الهندية ۱ / ۲۲۹، دار السلام، رقم: ۱۲۰۶)

قرض استثمار وذلک ما قصد به المستقرض التجارة فيه
وقوله: كذلك لما حرم القرآن الربی فقد حرم حقیقته، وقوله: فتدخل فی

الحرمة كل صورة تصدق عليها هذه الحقيقة سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن، أو كانت محدثة فيما بعد من الزمان. (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة، والمزارعة، الفرق بين ديون الاستثمار وديون الاستهلاك، أشرفيه ديوبند ۱/ ۵۷۰-۵۷۱)

المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۳/ ۱۲۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴/ ذیقعدہ ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/ ۱۰۲۷)

وکیل کی کمائی کا حکم

سوال [۹۶۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: آج کل وکلاء کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ان کے یہاں دعوت کھانا ان سے مسجد مدرسہ کے لئے چندہ لینا کیسا ہے؟

المستفتی: حافظ علاء الدین شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دور حاضر میں اگرچہ وکلاء عموماً اپنی کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے؛ لیکن جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ ان کی کمائی میں حرام غالب ہے یا وہ حرام مال ہی سے دعوت کر رہے ہیں، تو اس وقت تک ان کی دعوت قبول کرنا ان سے مسجد مدرسہ کے لئے چندہ وغیرہ لینا جائز ہے، اور اگر ان کی کمائی میں حرام مال کا غالب ہونا معلوم ہو جائے یا حرام ہی کو چندہ میں دینا اور دعوت میں کھانا معلوم ہو جائے تو ناجائز ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیمہ ۱۲/ ۳۸۱، ۱۳/ ۳۷۶، جدید ڈائجسٹ ۱۶/ ۴۵۲، فتاویٰ رحیمیہ قدیمہ ۶/ ۹۹، جدید

زکریا ۹/ ۱۰۸)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

(شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، کراچی ۶/ ۳۸۵، زکریا ۹/ ۵۵۳، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶/ ۲۷، زکریا ۷/ ۶۰، تاتارخانیہ، زکریا ۱۸/ ۱۵۷، رقم: ۲۸۳۴۸) غالب مال المهدی إن كان حلالا لا بأس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتعين أنه حرام، وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكلها. (البيزانية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث، جديد زکریا ۳/ ۲۰۳، وعلى هامش الهندية زکریا ۶/ ۳۶۰، هندية زکریا قديم ۵/ ۳۴۳، جديد ۵/ ۳۹۷، تاتارخانیہ، زکریا ۱۸/ ۱۷۵، رقم: ۲۸۴۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۶/۶/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۴۵۱۶)

ویکیلوں کی کمائی سے انقاع اور صدقہ و خیرات

سوال [۹۶۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: آج کل جو ویکیلوں کی کمائی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اور دوسروں کی اس سے امداد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس سے صدقہ و خیرات کر کے ثواب حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد شفیع بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سچے مقدمات لیا کرتا ہے، تو وکالت، اجرت یا اس کمائی میں سے صدقہ، خیرات سب بلا کراہت جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/ ۳۱۹)

ادعی دعوی صادقة فأنکر الغريم فله تحليفه. (الأشياء، قديم ص: ۲۲۹) اور اگر غلط اور ناجائز مقدمات لیتا ہے تو وکالت ناجائز اور حرام ہے۔

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ۲]

ما حرم فعله حرم طلبه. (الأشباہ، قدیم ص: ۲۲۹)
اس کمائی سے امداد، صدقہ، خیرات کرنے میں ثواب نہیں مل سکتا؛ بلکہ ثواب کی امید رکھنا حرام ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. [البقرة: ۲۶۷]
فإذا تصدق بالمال الحرام يريد القبول والأجر يحرم عليه ذلك.

(بذل المجهود، کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء، مطبع سہارن پور ۱/ ۳۷، دارالبشائر
الإسلامیہ بیروت ۱/ ۳۵۹، تحت رقم الحدیث: ۵۹)

ما حرم أخذه حرم إعطاءه. (الأشباہ، قدیم ۲۲۹/۲۲۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۶۶۷)

ڈاکٹر اور وکیل کی فیس کا حکم

سوال [۹۶۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شریعت نے جس چیز کو مقوم قرار نہیں دیا اس پر معاوضہ لینا جائز نہیں، مثلاً رائے پر محتانہ لینا جائز نہیں، یہ تو رشوت محض ہے، نیز آپ کا حق شفیعہ تھا، آپ نے کچھ معاوضہ لے کر حق شفیعہ چھوڑ دیا، تو یہ معاوضہ واجب الرد اور حق شفیعہ بھی نہیں رہا؛ کیوں کہ شریعت نے شفیعہ کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی، حاکم سے سفارش کرانا بھی ایسا ہی فعل ہے۔ (مستفاد: العلم والعلماء، ص: ۸۵) تو سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر حضرات جو صرف اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں اور دوائی نہ دے کر فیس کے نام سے معاوضہ لے لیتے ہیں درست ہے؟ نیز وکلاء حضرات جنہوں نے آج کل صرف مشغلہ رائے دینے کا ہی بنا رکھا ہے، یہ فیس کے نام سے معاوضہ

لیتے ہیں، درست ہے؟ (جدید فقہی مسائل ۱/۳۳۷) میں اس کو جائز لکھا ہے۔

المستفتی: محمد اوراق قاسمی خادم مدرسہ اسلامیہ عربیہ اسلامیہ گورنمنٹ کالج لاہور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حکیم اور ڈاکٹر کی رائے دہی اور مرض کی تشخیص اسی طرح وکیل کی وکالت کو حق شفعہ پر قیاس کرنا درست نہیں؛ کیوں کہ حق شفعہ بیع اور مال کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور ڈاکٹر اور وکیل کوئی مال و بیع نہیں ہیں، مرض کی تشخیص کے لئے بیٹھنا اور وکالت کے لئے دفتر میں بیٹھنا، اسی طرح حج کے سامنے بحث کرنا یہ سب محنت کے کام ہیں اور محنت کے بدلہ معاوضہ لینا رشوت نہیں بلکہ اجرت ہے؛ اس لئے ڈاکٹر اور حکیم کو اپنی تجویز کا معاوضہ لینا اور نسخہ لکھنے کا پیسہ لینا جائز اور درست ہے، اسی طرح وکیل کو اپنی وکالت کی اجرت لینا بھی جائز اور درست ہے۔

تصح الوکالة بأجر وبغير أجر . (الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل التاسع في

الوکالة، الوکالة بأجر، هدی انٹرنیشنل دیوبند ۴/۷۴۵)

وفي الحديث: أعظم دليل على أن يجوز الأجرة على الرقي والطب، كما قاله الشافعي، ومالك وأبو حنيفة وأحمد. (بذل المجهود، كتاب الطب، باب ما جاء في كيف الرقي، مكتبه يحيى سهارنپور ۵/۱۱، دار البشائر الإسلامية، بيروت

۱۱/۶۲۸، تحت رقم الحديث: ۳۸۹۹ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شوال ۱۴۳۱ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱/۱۰/۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۱۸۳)

بیٹری بھرنے اور کرائے پر دینے کا حکم

سوال [۹۶۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ایک شخص بیٹری بھرنے اور کرایہ پر دینے کا کاروبار کرتا ہے، لوگ بیٹری بھرواتے ہیں اور کرایہ پر لے جاتے ہیں، دوکان دار جانتا ہے کہ یہ شخص بیٹری کو ناچ گانا اور سی ڈی وغیرہ کے لئے استعمال کرے گا، تو بیٹری بھرنے کی قیمت لینا اور کرایہ پر دینا کیسا ہے؟

المستفتی: جلال الدین ہردوئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بیٹری بھرنے اور کرایہ پر دینے والے کی نیت اپنی تجارت ہے، نہ کہ ان کو معصیت میں استعمال کرانا، اس لئے ”الأمور بمقاصدھا“ کی رو سے کرایہ کا یہ عمل اور اجرت بھی لینا درست ہے، اب جو وہاں سے لے کر غلط کاموں میں اس کا استعمال کرے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا، بیٹری بھرنے والا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

الأمور بمقاصدھا أن یبع العصیر ممن یتخذہ خمرا إن قصد به

التجارة فلا یحرم. (الأشباه، قدیم ۵۳)

و جاز یبع عصیر عنب ممن یعلم أنه یتخذہ خمرا؛ لأن المعصية لا

تقوم بعینہ بل بعد تغییرہ. (درمختار مع الشامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی

البيع، کراچی ۶/ ۳۹۱، زکریا ۹/ ۵۶۰، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶/ ۲۹، زکریا

۷/ ۶۴، ہدایة، أشرفی دیوبند ۴/ ۴۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ رجب ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۶۷۹)

معصیت والے امور میں لاؤڈ اسپیکر کرائے پر دینا

سوال [۹۶۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: (الف) ہماری دوکان سے لاؤڈ اسپیکر کرائے پر دیئے جاتے ہیں، کرائے پر لے جانے

والے گاہک مختلف غرضوں سے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، جن میں سے بعض معصیت کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً شادیوں میں گانے بجانے کے لئے وغیرہ، تو کیا ایسے استعمال کے لئے لاؤڈ اسپیکر کو کرائے پر دینا درست ہے یا نہیں؟

(ب) پروگراموں میں لاؤڈ اسپیکر کو کرائے پر دینے میں لاؤڈ اسپیکر کی سیٹنگ اور دوران پروگرام اس کی نگرانی ہمارے اسی دوکان کا ایک فرد کرتا ہے، تو کیا ایسے معصیت والے پروگراموں میں ہمارے اس شخص کی سیٹنگ اور نگرانی درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد جاوید راپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: لاؤڈ اسپیکر کا استعمال مختلف غرضوں کے لئے ہوتا ہے، جن میں اچھے مقاصد بھی شامل ہیں؛ لہذا لاؤڈ اسپیکر کو بطور کرایہ دینا جائز اور درست ہے اور جو لوگ اس کو غلط اور معصیت کے کام میں استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے لئے از خود ذمہ دار ہیں، آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ (مجموعہ میرٹھ ۲۳/۱۶۶)

و علم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ۹/ ۵۶۱، كراچی ۶/ ۳۹۱، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۲۶۸)

وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو فعل فاعل مختار كشربه الخمر وبيعها، وهو المختار فيه. (الموسوعة ۹/ ۲۱۵، البحر الرائق، كوئٹہ ۸/ ۲۰۲، زكريا ۸/ ۳۷۲)

وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبتہ عنه.

(طحطاوي على الدر، كوئٹہ ۴/ ۱۹۴)

(۲) معصیت اور گناہ والے پروگرام میں اپنے کسی آدمی کو مائک وغیرہ کی سیٹنگ کے لئے

بھیجنا اور اس کا شروع سے آخر تک وہاں موجود رہنا اس محصیت کے کرنے والوں کے ساتھ برابر کا شریک رہنا ہے؛ اس لئے وہاں موجود رہنے والا شخص اسی طرح گنہگار ہوگا جس طرح اس پروگرام کے مرتکب ہونے والے گنہگار ہوتے ہیں، ہاں البتہ اگر پروگرام سے پہلے مانگ کی سیننگ کر کے آپ کا آدمی واپس آجائے اور شروع سے آخر تک دوران پروگرام وہاں موجود نہ رہے، تو ایسی صورت میں آپ کا آدمی محصیت میں شامل نہیں ہوگا۔

استماع صوت الملاہی معصیة، والجلوس علیہا فسق، والتلذذ بہا کفر۔ (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغیرہ، زکریا ۹/۵۰۴، کراچی ۶/۳۴۹، البناية أشرفیہ ۱۲/۸۸)

السماع والقول والرقص الذى يفعله المتصوفة في زماننا حرام، لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو الغناء والمزامير سواء. (ہندیہ، کتاب الکراہیة والاستحسان، الباب السابع عشر في الغناء واللہو، زکریا قدیم ۵/۲۵۲، جدید ۵/۴۰۶)

أن الملاہی کلہا حرام، واستماع الملاہی معصیة، والجلوس عنده فسق، والتلذذ به کفر۔ (فتاویٰ السنوازل، دارالایمان سہارنپور، ص: ۲۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۶۵۳/۳۹)

فلم کی شوٹنگ ہونے والے ہال کی چوکیداری کا حکم

سوال [۹۶۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید عمر و کا ملازم ہے اور عمر و کے مختلف ذرائع آمدنی ہیں، مثلاً ماربل (فرش) کی کمپنی وغیرہ لیکن عمر و نے زید کو اپنے ایک ہال کی نگرانی اور آمدنی پر مامور کیا، جب کہ وہ ہال فلم

ایکٹروں اور سنیما کی شوٹنگ کے لئے کرایہ پر دیا جاتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ آیا زیڈ کو اس ہال کی نگرانی کی تنخواہ لینا درست ہے یا نہیں؟ حالانکہ عمر کے اس ہال کے علاوہ اور بھی ذرائع آمدنی ہیں۔

المستفتی: محمد ریاض الدین آسی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں وہ ہال فلم ایکٹروں کو شوٹنگ کے لئے کرایہ پر دیا جاتا ہے، تو اس عمل میں گنہگار عمر ہوگا؛ لیکن عمر کے لئے اس ہال کا کرایہ لینا حلال ہے، بعض لوگوں نے مکروہ بھی کہا ہے اور زید کے لئے ہال کی نگرانی کی اجرت لینا بلا تردید حلال اور جائز ہے؛ اس لئے کہ وہ محض ملازم ہے نہ کہ برائی میں شامل ہے؛ کیوں کہ وہ صرف اس ہال میں نقصان پہنچانے والے لوگوں سے اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے۔

و جاز إجارة بيت ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، كراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۶۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹/۲۱۳، هداية، أشرفي ديوبند ۴/۴۷۲، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۶/۲۹، زکریا ۷/۶۴، البنایة، أشرفیه دیوبند ۱۰/۵۹)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ شعبان ۱۴۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۰۸۸)

مورتنی اور مزار پر کپڑا چڑھانے کے لئے فروخت کرنا

سوال [۹۶۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کی کپڑے کی دوکان ہے، کپڑے کی تجارت کرتا ہے، دوکان پر ہر طرح کے اور ہر

مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہندوستان کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو کپڑا دو مورتی پر چڑھانا ہے اور مسلمان آتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا کپڑا دو فلاں بزرگ کے مزار پر چڑھانا ہے اور یہ دونوں گناہ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

[المائدة: ۲]

دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان لوگوں کے صراحت کر دینے کے بعد ان کے ہاتھ کپڑا فروخت یا چادر فروخت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح نہیں ہے تو جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟

المستفتی: مدرسہ بستان رحمت محی الدین پور، سیوان بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں دوکاندار کو ذکر کردہ کپڑا بیچنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے؛ کیوں کہ کپڑے اصل میں ان گناہ کے کاموں کے لئے نہیں بنائے گئے؛ بلکہ انہیں ہر طرح سے استعمال میں لایا جاسکتا ہے؛ لہذا جو شخص کپڑا خرید کر گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا گناہ دوکاندار اور کپڑا بنانے والے پر نہ ہوگا۔

لا یکرہ بیع الجارية المغنیة، والكبش الفطوح، والدیك المقاطع، والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكر، وإنما المنكر في استعماله المحظور. (تبيين الحقائق، قبيل كتاب اللقيط، زكريا ديوبند ۴/ ۱۹۹، إمداديه ملتان ۳/ ۲۹۷)

رجل آجر بيتا ليتخذ فيه نارا، أو بيعة، أو كنيسة، أو يباع فيه الخمر فلا بأس به، وكذلك كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار.

(خلاصة الفتاوى ۴/ ۳۷۶، بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۱۶/ ۱۳۷)

لا یکرہ بیع الزنانیر من النصرانی، والقلمسوة من المجوسی. (تبيين

الحقائق، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع، إمداديه ملتان ۶/ ۲۹، زكريا ۷/ ۶۴-۶۵،

شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، کراچی ۶/۳۹۳، زکریا ۹/۵۶۲، ہندیہ، زکریا قدیم ۵/۳۴۶، جدید ۵/۴۰۱، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۴/۱۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۳ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۵۷/۳۹)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۳ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

مسلم ٹھیکیدار کا مندر تعمیر کرنا

سوال [۹۶۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک مسلم ٹھیکیدار ہے، وہ ڈی ایم صاحب کے زیر نگرانی تعمیرات کا کام کرتا ہے، ہندو مسلم سب کے مکانات تعمیر کرتا ہے؛ لیکن کثرت سے غیر مسلم کے تعمیرات کا کام کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم کے مکانات بناتا ہے تو وہ غیر مسلم مکانات کے حدود میں ہی مندر بھی تعمیر کراتے ہیں، کیا وہ مسلم ٹھیکیدار مندر تعمیر کر سکتا ہے؟ ہندوستان میں اس طرح کا کاروبار درست ہے؟ اگر مندر اس مکان میں بنانے سے انکار کرتے ہیں تو سرکاری ٹھیکیداری ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے، ہمارے کاروبار کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔

المستفتی: ڈاکٹر شعیب شوکت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم کا مکان بنانا اور اس کے مکان کی ضروریات کو تعمیر کرنا محض اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لئے مسلم ٹھیکیدار کے لئے جائز ہے، مگر جس جگہ وہ مندر بنائے گا اس جگہ پر بھی اجرت لے کر تعمیر کرنے کی گنجائش ہے، ہاں البتہ مندر کے مجسمہ اور گنیش جی کے اعضاء اور اشوک کے لاٹ وغیرہ جانوروں کی صورت چہرہ سرو وغیرہ

بنانا جائز نہیں ہے؛ اس لئے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳۰۹/۷)

و جاز تعمير كنيسة (درمختار) وفي الشامية: قال في الخانية: ولو
آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين
العمل. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، كراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۵۶۲)
ولو استأجر الذمي مسلماً لبنی له بیعة، أو كنيسة، جاز ويطيب له
الأجر. (هندية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر، زکریا جدید ۴/۴۸۷، قدیم ۴/
۴۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۲۱۰)

کمپنی کا تصویر والا لیبل شائع کرنا

سوال [۹۶۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: زید کی تجارت پریس (چھپائی خانہ) ہے، جس میں کسی کمپنی کا لیبل وغیرہ تصویر کے
ساتھ چھپتا ہے، اور آج کل کے دور میں بغیر تصویر کے کسی بھی کمپنی کا لیبل وغیرہ شائع نہیں ہوتا
ہے، جیسے اخبار وغیرہ میں تصویریں شائع کی جاتی ہیں، تو کیا اس قسم کے تصویر والے لیبل کی
چھپائی کرنا از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟ اور نیز اس کی آمدنی حلال ہے یا نہیں؟

المستفتی: حافظ محمد اسماعیل دی گلو سی آرٹ پریس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لیبل وغیرہ کی چھپائی میں تصویر اصل مقصود نہیں ہوتی؛
بلکہ اصل مقصود تو لیبل کی چھپائی ہوتی ہے اور مبعاً تصویر بھی چھپ جاتی ہے؛ اس لئے اصل

مقصود کو دیکھتے ہوئے سوال نامہ میں ذکر کردہ لیبل کی چھپائی درست ہے اور اس کے ذریعہ حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہے۔ اور اگر مقصود تصویر ہی چھاپنے کا ہو تو جائز نہیں۔
(مستفاد: جواہر الفقہ جدید زکریا ۷/۲۳۹، قدیم ۳/۲۲۶)

الأمور بمقاصدھا . (الأشباه، قدیم، ص: ۵۳، قواعد الفقہ أشرفی دیوبند، ص:

۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۶/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ رجب الثانی ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۲۴۱)

تمباکو، گٹکا وغیرہ کی تجارت اور اس کی آمدنی

سوال [۹۶۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد زید کا کاروبار گلکھا، زردہ، پان وغیرہ کا ہے اور زید اس میں مندرجہ ذیل اشیاء ڈالتا ہے: سپاری، کتھا، چونا، الاپچی، خوشبو لونگ، قوام، پپیل منٹ، سفید پاؤڈر جو مسالہ کو سفید کرتا ہے، گلگیری، تمباکو، بعض جگہ لوگ محمد زید سے مزید تیز کرنے کے لئے کہتے ہیں، تو زید ان اشیاء کے ساتھ ایک اور چیز شامل کرتا ہے، ٹرپن پیور کے نام سے ہوتی ہے جو کہ تمباکو کا ہی ایک جزو ہے، مگر اس میں اوپر والے تمباکو سے زیادہ تیزی ہوتی ہے، محمد خالد زید سے کہتا ہے کہ آپ کا کاروبار ناجائز ہے، جب کہ محمد خالد ایک مفتی ہے، مسجد کا امام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زید کا کاروبار کہاں تک درست ہے؟

المستفتی: سلیم احمد گھونچی فرید آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں تمباکو اور گلکھا جس کو مختلف مسالے لجات خوشبو اور قوام کے ذریعہ سے تیز کر کے بنایا جاتا ہے، اس کی تجارت جائز اور درست ہے، اس

کاپیہ بھی حلال ہے، چاہے اس میں تیزی زیادہ ہو یا کم، بہر حال اس کی تجارت کاپیہ حلال ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ قدیم، ص: ۴۹۰، جدید زکریا ۴۶۸، کفایت المفتی ۱۳۶/۹، جدید زکریا مطول ۱۱/۴۱، احسن الفتاویٰ ۶/۴۹۵، فتاویٰ محمودیہ جدید ۱۸/۳۹۷)

في الشامية: قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بانث، فتنبه. وفي الشامية: وهو الإباحة على المختار، أو التوقف، وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره، وتفتيره وإضراره. (در مختار مع الشامی، قبیل کتاب الصيد، زکریا ۱۰/۴۴، کراچی ۶/۴۶۰)

وفي الأشباه: والنبات المجهول سمته الخ. وفي الحموي: يعلم منه حل شرب الدخان. (الأشباه مع الحموي ۱/۹۸)

(وصح بيع غير الخمر) أي مفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. (در مختار، کتاب الأثرية، کراچی ۶/۴۵۴، زکریا ۱۰/۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۵۰۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۳/۶ھ

غیر مسلم کو فوٹو گرافی کے لئے کرائے پر مکان دینا

سوال [۹۶۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے اپنی خالی جگہ (کمرہ) ایک غیر مسلم فوٹو گرافر کو سہ سالہ معاہدہ پر کرایہ سے دی ہے، اب شغل فوٹو گرافی کو ملحوظ رکھتے ہوئے دینی اور شرعی اعتبار سے بحیثیت مفتی اس پر آپ اپنی گراں قدر رائے دیجئے کہ آیا یہ کرایہ کی آمدنی میرے لئے جائز یا ناجائز ہوگی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مالک مکان کرایہ دار کے فعل کا ذمہ دار نہیں، فوٹو گرافی کا

گناہ کرایہ دار ہی پر ہوگا، مالک کو اپنے مکان کا کرایہ لینا جائز اور حلال ہوگا، ہاں البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسے کاموں کے لئے اپنا مکان کرایہ دار کو نہ دے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۳۳۳، جدید مطول ۱۱/۲۳۸)

و جاز إجارة بيت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار، أو كنيسة، أو بيعة، أو يباع فيه الخمر. وتحتة في الشامة: لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار، فينقطع نسبته عنه. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، کراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۵۶۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹/۲۱۳)

وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب الخمر فيها أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم في ذلك شيء. (تاتارخانية، زکریا ۱۵/۱۳۳، رقم: ۲۲۴۴۵، المبسوط للسرخسي، دارالکتب العلمية بيروت ۱۶/۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ صفر ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۶۰۶)

بینک کو مکان کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کا مکان خالی پڑا ہوا ہے، اس کو وہ کرایہ پر دینا چاہتا ہے۔ اور دوسری پارٹی اس کو کرایہ پر لے کر اس میں بینک چلانا چاہتی ہے، اور بینک میں سودی حساب و کتاب اور سود کا لین دین سب کچھ ہوتا رہے گا، تو ایسی صورت میں زید کے لئے اپنا مکان مذکورہ پارٹی کو کرایہ پر دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور زید کا مقصد اپنے مکان کا کرایہ وصول کرنا ہے اور زید کو اس سے

کوئی مطلب نہیں ہے کہ کرایہ دار اس مکان میں کیا کام کرے گا، مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ ایسی صورت میں زید اپنا مکان بینک والی پارٹی کو کرایہ پر دے سکتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب تحریر فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب زید کا مقصد اپنے مکان کا کرایہ وصول کرنا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کرایہ دار اس مکان میں کیا کام کرے گا، تو ایسی صورت میں مذکورہ پارٹی کے ہاتھ مکان کو کرایہ پر دینا زید کے لئے جائز ہے اور جو کرایہ وصول ہوگا وہ زید کے لئے بلا کراہت جائز و حلال ہے، اور کرایہ دار اس مکان میں جائز کام کرے گا، تو گنہگار نہ ہوگا۔ اور اگر پارٹی نا جائز کام کرے گی، تو اس کا گناہ اسی کرایہ دار پارٹی پر ہوگا اور زید پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔

ولا بأس بأن يواجر المسلم داراً من الذمى ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يواجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. (المبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۱۶/۳۹، تاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۳، رقم: ۲۲۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ذی الحجہ ۱۴۳۴ھ

(الف خاص فتویٰ نمبر: ۱۱۳۴۵/۴۰)

بینک کوز مین کرائے پر دینا

سوال [۹۶۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے اپنی زمین میں ایک بینک کمپنی کو P.N.B بینک لگانے کی اجازت دی اور یہ

معادہ ان کے درمیان دس سال کا ہوا ہے؛ لہذا دس سال سے پہلے اس کمپنی سے اس بینک کو ہٹانے کو نہیں کہا جاسکتا، ایسی صورت میں مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ: (۱) اس بینک سے ملنے والا کرایہ زید کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

(۲) اگر ناجائز ہے تو پھر اس ملنے والے کرایہ کا مصرف کیا ہونا چاہئے؟

المستفتی: انصار احمد، رامپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید نے اگر محض اپنی زمین کرایہ وصول کرنے کی نیت سے دی ہے، تو زید نہ گنہگار ہوگا اور نہ اس کے کرایہ میں کسی قسم کی قباحت آئے گی اور زمین کو کرایہ پر لینے والے اس زمین پر جائز کام کریں یا ناجائز کام کریں، وہ ساری باتیں کرایہ دار کے ذمہ ہیں، اگر ناجائز کام کریں گے، تو گنہگار ہوں گے۔ اور اگر جائز کام کریں گے تو گناہ سے بچیں گے۔ اور اگر زید نے ناجائز کام کرنے کی نیت سے کرایہ پر زمین دی ہے، تو تعاون علی المعصیہ کی وجہ سے زید بھی گنہگار ہوگا؛ لیکن زمین کا کرایہ زید کے لئے بہر حال حلال ہوگا؛ اس لئے کہ جو کچھ کرایہ آتا ہے اس کی زمین کی کرایہ داری کا معاوضہ ہے، جو اس کے لئے بہر حال حلال ہے۔

و جاز إجارة بيت بسواد الكوفة ، أي قرأها الخ . قال الشامي : هذا عنده أيضا ؛ لأن المعصية بفعل المستأجر ، وهو مختار ، فينقطع نسبتة عنه ، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرأها ، أو يأتيها من دبر ، وبيع الغلام من لوطي . الخ (رد المحتار ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ، كراچی ۶ / ۳۹۲ ، زکریا ۹ / ۵۶۲ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹ / ۲۱۳ ، تبیین الحقائق ، إمدادیه ملتان ۶ / ۲۹ ، زکریا ۷ / ۶۴ ، البنایة ، أشرفیہ دیوبند ۱۰ / ۵۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶ / یقعدہ ۱۴۳۳ھ

۱۱ / ۲۶ / ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۸۶۱/۴۰)

بینک کو دوکان کرائے پر دینا

سوال [۹۶۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میری ایک دوکان ہے، جس کا میں تہا مالک و مختار ہوں، میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں اور میرا لڑکا ملازمت پیشہ ہے، موجودہ حالات میں میرے لئے دوکان چلانا مشکل ہو رہا ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک بینک میری دوکان کو کرایہ پر لینا چاہتا ہے، کیا بینک کو کرایہ پر دینا درست ہے؟ کیا کرایہ میرے لئے جائز ہوگا؟

المستفتی: عبد السبع مینا بازار، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کی نیت یہ ہونی چاہئے کہ آپ اپنی دوکان اور عمارت کا کرایہ حاصل کر رہے ہیں اور کرایہ دار کو آپ مدت کرایہ کے اندر اختیار دے دیں جو چاہے کرے، چاہے دوکان کا کاروبار کرے، چاہے رہائش کا کاروبار کرے، چاہے خالی رکھے یا بینک کا کاروبار کرے، اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کام کرنے والے سے ہے؛ اس لئے آپ کو اپنی دوکان کرایہ پر دے کر کرایہ حاصل کرنا اور اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، اگر اس مکان میں رہ کر کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اسی پر اس کا گناہ ہوگا، آپ پر نہیں۔

و جاز إجارة بيت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار، أو كنيسة، أو بيعة، أو يباع فيه الخمر. وتحتنه في الشامة: هذا عنده أيضا؛ لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستاجر، وهو مختار، فينقطع نسبتته عنه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، كراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۵۶۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹/۲۱۳، هداية أشرفي ديوبند ۴/۴۷۲، تبیین الحقائق، إمداديه ملتان ۶/۲۹، زکریا ۷/۶۴، البنایة، أشرفيه ديوبند ۱۰/۵۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ شعبان ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۸/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۶۸۹)

بینک کو مکان کرائے پر دینا جائز ہے یا ناجائز؟

سوال [۹۶۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: یہاں مقامی بازار میں ہماری ایک عمارت ہے، بینک کی انتظامیہ اس کو کرایہ پر لینا چاہتی ہے، تو کیا شرعی نقطہ نظر سے ہم یہ عمارت بینک کو کرایہ پر دے سکتے ہیں؟

المستفتی: نثار احمد ہندوارہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اپنا مکان بینک کو کرایہ پر دے کر اس کا کرایہ حاصل کرنا جائز تو ہے؛ لیکن بہتر نہیں۔

و جاز تعمیر کنیسة، و حمل خمر ذمی بنفسه، أو دابته بأجر جاز
إجارة بیت بسواد الكوفة وقالوا: لا ینبغی ذلک؛ لأنه إعانة علی
المعصية. (درمختار، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، کراچی ۶ / ۳۹۱، زکریا
۹ / ۵۶۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۹ / ۲۱۳، هداية أشرفي دیوبند ۴ / ۴۷۲، تبیین
الحقائق، إمدادیه ملتان ۶ / ۲۹، زکریا ۷ / ۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳ / ۵۶۴۷)

بینک سے کرایہ لے کر اپنی ضروریات میں استعمال کرنا

سوال [۹۶۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید نے ایک جائیداد خریدی، جس میں بینک کرایہ دار ہے، شرعاً بینک سے کرایہ لینا اور اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا کیسا ہے؟

(۲) جائیداد اسی نیت سے خریدی جائے اس میں کرایہ دار بینک رہے گا: اس لئے کہ بینک کا کرایہ وقت پر مل جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، تو شرعاً یہ جائیداد خریدنا اور اس کا کرایہ استعمال کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد اقبال رشید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۲-۱) زید کے لئے مذکورہ زمین جس کا بینک کرایہ دار ہے، شرعاً بینک سے کرایہ لینا اور اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کرنا جائز اور درست ہے۔

و جاز تعمیر کنیسة، و حمل خمر ذمی بنفسه، أو دابته بأجر لا عصرها بقیام المعصية بعینه: قال فی الشامیة: هو صریح أيضاً، أنه لیس مما تقوم المعصية بعینه. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، کراچی ۳۹۲/۶، زکریا ۹/۵۶۲)

ومن آجر بیتا لیتخذ فیہ بیت نار، أو کنیسة، أو بیعة، أو بیاع فیہ الخمر بالسواد فلا بأس به، وهذا عند أبي حنیفة - إلى - وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فیہ، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار، فینقطع نسبتہ عنه. (هدایة أشرفی دیوبند ۴/۴۷۲، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶/۲۹، زکریا ۷/۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ

۱۴۲۷/۸/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۰۸۷)

بلڈنگ بینک کو کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: بلڈنگ بینک کو کرایہ پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: لیاقت بیکر شوالا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس بینک کا معاملہ سود پر مشتمل ہو اور سود ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو، جیسا کہ آج کل اکثر بینکوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، تو ایسے بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینا درپردہ معصیت پر تعاون ہے؛ اس لئے یہ غیر مناسب خلاف اولیٰ اور مکروہ تنزیہی کے درجہ میں ہے اور چونکہ سودی کاروبار فاعل مختار کا عمل ہے، جس میں مالک مکان کا کوئی دخل نہیں ہے؛ اس لئے اس کا گناہ صرف کرایہ دار پر ہوگا، مالک مکان پر نہیں ہوگا۔ اور بلڈنگ کا کرایہ مالک مکان کے حق میں حرام نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ وہ اپنے مال کی اجرت لے رہا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۹، ۲۷۶، جدید ۹/۹/۲۹۱)

ومن آجر بیتا لیتخذ فیہ بیت نار، أو کنیسة، أو بیعة، أو بیاع فیہ الخمر بالسواد فلا بأس به، وهذا عند أبي حنيفة، وقالوا: لا ینبغی، وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فیہ، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار، فینقطع نسبتہ عنه. (هدایة کتاب الكراهية والاستحسان، فصل فی البیع، أشرفی دیوبند ۴/۴۷۲، شامی، زکریا ۹/۵۶۲، کراچی ۶/۳۹۲، البحر الرائق، زکریا ۸/۳۷۲، کوئٹہ ۸/۲۰۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۱/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ ذی القعدہ ۱۴۲۲ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۶/۳۸۵)

پوسٹ بکس رکھوانے کے عوض دوکان ٹیپ ٹاپ کروانا

سوال [۹۶۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بعض بینک والوں نے ہمارے سامنے یہ اسکیم رکھی ہے کہ ہم آپ کی دوکان کو خوب ٹیپ

ٹاپ کرا دیں گے، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک پوسٹ بکس اپنی دوکان میں رکھنا ہے، جس پر کریڈٹ کارڈ کے فوائد درج ہوں گے، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ اس سے کہیں کہ اپنا نام مع پتہ کے پرچہ پر لکھ کر اس میں ڈال دیں بینک کا نمائندہ آ کر ساری تفصیل تم کو سمجھائے گا، تو کیا اس طرح پوسٹ بکس رکھنے کے عوض ہم اپنی دوکان ٹیپ ٹاپ کروا سکتے ہیں اور یہ رکھنا ناجائز تو نہ ہوگا، نیز اسی کے تحت ایک اسکیم ہم کو یہ بھی ملے گی، کہ ہماری دوکان پر اس کا پرچار دیکھ کر کوئی آدمی کریڈٹ کارڈ بنوائے گا تو اس پر بینک ہمیں کچھ فیصد رقم دے گی؟

المستفتی: محمد اعجاز، محمد زبیر، احمد آباد، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دوکان ٹیپ ٹاپ کرانے کا خرچ کتنا ہے وہ پہلے سے اگر متعین ہو جائے تو اتنے پیسے کے ذریعہ سے ٹیپ ٹاپ کرا دے اور یہ خرچ بینک کے ڈبہ رکھنے کے لئے اجرت اور کرایہ شمار کرے تو جائز ہے؛ لیکن اس کے بعد فیصد کے حساب سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ ماہانہ کے اعتبار سے کرایہ وصول کر سکتے ہیں۔

عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: من استأجر أجيراً

فليس له إجارته. (مصنف عبدالرزاق، المجلس العلمي بيروت ۸ / ۲۳۵، رقم: ۱۵۰۲۴)

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ نهى عن

استئجار الأجير حتى يبين له أجره. (مراسيل أبي داؤد ۱۰ / ۱)

ومنها: أن تكون الأجرة معلومة. (هندية، كتاب الإجارة، الباب الأول،

زكريا قديم ۴ / ۴۱۱، جديد ۴ / ۴۴۱)

ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة. (هداية، أشرفي

ديوبند ۳ / ۲۹۳، تاتارخانية، زكريا ۱۵ / ۷، رقم: ۲۱۹۲۰)

تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، فكل ما أفسد

البيع مما مر يفسد هما كجهالة مأجورة أو أجرة. (شامي، باب الإجارة الفاسدة،
کراچی ۳۶/۶، زکریا ۶۴/۹)

وكل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد. (المبسوط للسرخسي،

باب الإجارة الفاسدة، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۶ / ۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۳/۸ھ

(الف توئی نمبر: ۳۸/۹۹۲۶)

اپنی دوکان میں کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھنے کا کرایہ وصول کرنا

سوال [۹۶۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں روڈ پر ہمارا میڈیکل اسٹور ہے، مختلف بینکوں کے نمائندے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنی دوکان میں کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھ لیں، جس میں آپ کو یہ سہولت ہوگی کہ آپ کی رقم آپ کو نقد ملے گی اور گاہک کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری دوائی بلا جھجک خرید سکے گا اور اسے پیسے لینے گھر نہیں جانا پڑے گا، تو کیا ہم کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھوا سکتے ہیں مشین دوکان میں رکھنے پر بینک ہمیں کچھ کرایہ ادا کرے یا ہماری دوکان ٹیپ ٹاپ کروادے تو ہم کروا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد زبیر محمد اعجاز، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کریڈٹ کارڈ کی مشین سے متعلق جو بات سوال نامہ میں لکھی گئی ہے، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آسکی اس لئے کہ بینک کے ذمہ داروں سے جو بات ہم کو فراہم ہوئی ہے، اس کے حساب سے کچھ تر دوسا ہے، باقی یہ بات کہ کوئی بھی مشین دوکاندار کی دوکان میں دوسرا آدمی رکھے یا بینک رکھے تو جانین کے طے شدہ کرایہ کو وصول کرنا دوکاندار کے لئے جائز ہے۔

وتصح إجارة حانوت أي دكان. (شامي، كتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها، زكريا ۹/۳۷، كراچی ۶/۲۷، هداية، اشرفی دیوبند ۳/۲۹۷، ملتقى الأبحر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۵۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۸/ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۹۲۶)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۱/۳/۸ھ

ندی فروخت کرنا

سوال [۹۶۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہندوستان میں مچھلی کا شکار ہونے سے پہلے ندی فروخت ہو جاتی ہے، اور تقریباً یہی حال آم وغیرہ کے باغات کا ہے کہ پھل پھول ظاہر ہونے سے قبل خرید لیئے جاتے ہیں، تو کیا ایسی ندی کی مچھلی کھانا یا ایسے باغات کے پھل خریدنا اور کھانا اور نندی و باغات کے منافع کا استعمال کرنا جائز ہے؟۔

المستفتی: محمد اشتیاق نور قاسمی، بھگلپور (بھاری)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو ندی حکومت یا کسی شخص کی ملکیت کی ہے، اس کو مالک سے کسی خاص صورت کے لئے خریدنا اور فروخت کرنا شرعاً جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ نام کی بیع ہے، درحقیقت یہ بیع نہیں ہے؛ بلکہ کرایہ اور اجارہ کا معاملہ ہے اور طے شدہ مدت میں کرایہ دار اور ٹھیکیدار کو اس ندی میں اپنے اختیار سے ہر طرح کا تصرف جائز ہے اور اس میں دوسروں کو آنے جانے سے روکنے کا بھی حق ہے، مگر جو مچھلیاں قدرتی پیداوار ہیں، ان کو مارنے سے روکنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۵۳۲)

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى. (شامي،

كتاب الإجارة، مطلب في استخراج الماء مع القناة الخ كراچی ۶/ ۶۳، زکریا ۹/ ۸۶)
 وإن استأجر النهر والقناة مع الماء لم يجز؛ لأن فيه استهلاك العين
 أصلاً، والفتوى على الجواز لعموم البلوى. (هندية، الباب الخامس عشر في بيان
 ما يجوز من الإجارة، وما لا يجوز، زکریا قديم ۴/ ۴۱، جدید زکریا ۴/ ۴۷۶)
 ما نبت أي من الكلاً في أرض مملوكة بلا انبات صاحبها حكمه كما
 سبق، أي لا يمنع أحدا من الأخذ منه ولا رعى ماشيته فيه إلا أن لرب
 الأرض المنع من الدخول في أرضه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۵/ ۱۰۷)
 فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ شعبان ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/ ۴۱۵۲)

ندی کو چند سالوں کے لئے کرایہ پر لینا

سوال [۹۶۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: ہندوستان میں نندی اور تالاب بھی آم کے باغات کی طرح چند سالوں کے لئے فروخت
 ہو جاتے ہیں۔ ”ہدایہ“ میں ہے:

ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد. (آخرین، ص ۵۱)

توجہ: ایک استفتاء میں مدرسہ شاہی سے جواز کا فتویٰ آیا ہے اور وجہ جواز میں یہ کہا گیا ہے
 کہ: یہ نام کی بیج ہے، درحقیقت یہ بیج نہیں بلکہ کرایہ اور اجارہ کا معاملہ ہے۔ (پہلے والا استفتاء
 اور جواب کی فوٹو کاپی منسلک ہے)

الف: کیا یہی وجہ جواز آم کے باغات میں جاری ہو سکتی ہے، تاکہ خرید و فروخت حلال ہو،
 ورنہ دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟

ب: سیلاب میں آئی مچھلی اگر ہر کس ونا کس پکڑے تو اس میں نقص امن کا خطرہ ہے؛ کیوں کہ حکومت صرف خریدنے والے کی حمایت کرتی ہے، کیا ایسی صورت میں عدم جواز کا مسئلہ بتایا جائے گا؟

المستفتی: اشتیاق نور قاسمی بھگلپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ندی، تالاب کو چند سالوں کے لئے فروخت کرنے کے لئے جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے؛ بلکہ صحیح یہی ہے کہ اس کا معاملہ کرایہ داری کا ہوتا ہے، بیع کا نہیں ہوتا؛ اس لئے کہ بیع کا مطلب یہ ہے کہ خریدار کی ملکیت میں آئے گا اور واپس دینا چاہے تو خریدار ہی سے وہ واپس آئے گا اور کرایہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت تک کے لئے لیا جائے اور جب مالک کے پاس واپس لیا جائے، تو خالی ہاتھ واپس لیا جائے ندی تالاب وغیرہ کو جو لیا جاتا ہے، وہ خریداری کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے؛ بلکہ کرایہ داری کے ساتھ لیا جاتا ہے؛ اس لئے خریداری سے تعبیر کرنا درست نہیں؛ بلکہ کرایہ داری اور اجارہ داری سے تعبیر کرنا درست ہے؛ لہذا چند سالوں کے لئے جو نہر یا تالاب کرایہ پر لیا جاتا ہے اور اس درمیان آزاد مچھلیاں ان نہروں اور تالابوں میں داخل ہو جائیں، پھر ان کے نکلنے کا راستہ بند ہو جائے تو اس کرایہ دار کے لئے یہ حق ہو جاتا ہے کہ ان تالابوں اور نہروں سے مچھلیاں مارنے سے دوسروں کو روک دے؛ لیکن مچھلیاں بغیر حیلہ و کوشش اور بغیر جال کے ہاتھ سے پکڑی نہیں جاسکتیں؛ اس لئے غیر مقدوراً لتسلیم ہونے کی وجہ سے ان مچھلیوں کو پکڑنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں، نیز ”امداد الفتاویٰ“ کے حوالے سے سابقہ فتویٰ میں جو دوسروں کے لئے پکڑنا جائز لکھا ہے یہ اس صورت میں ہے، جب نہروں میں آزاد مچھلیاں داخل ہو جائیں، پھر ان کے لئے نکلنے کا راستہ بند نہ کیا گیا ہو کہ کسی طرح سے وہ مچھلیاں ٹھیکیدار کے ایریا سے باہر نہیں نکل سکتیں، اسی طرح تالاب میں پانی آنے جانے کا راستہ ہے اور ان راستوں کو بند نہیں کیا گیا ہے، تو دوسروں کے لئے بھی ان نہروں سے مچھلیاں پکڑنے کی اجازت

ہے؛ لیکن اگر راستہ بند کر دیا گیا ہے، تو ٹھیکیدار کی اجازت کے بغیر دوسروں کے لئے ان مچھلیوں کو مارنا جائز نہیں یہی اس مسئلہ کا مطلب ہے جو ’امداد الفتاویٰ‘ کے حوالہ سے پہلے والے استفتاء میں لکھا گیا اور ایک بہترین شکل یہ ہے کہ سرکاری نہروں کو کرایہ اور ٹھیکہ پر لیتے وقت نہر کے کناروں کو بھی ٹھیکہ پر لے لیا جائے اور ان کناروں میں پیدا ہونے والے درخت اور حفاظت کے ذریعہ سے اگنے والی گھاس وغیرہ ٹھیکیدار کی ہو جائے تو ٹھیکیدار اور کرایہ دار کو یہ حق ہوگا کہ ان نہروں اور تالابوں میں آنے سے روک دے۔

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: لا

تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر. (مسند أحمد ۱/ ۳۸۸، رقم: ۳۶۷۶، السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر بيروت ۸/ ۲۵۲، رقم: ۱۱۰۱۳)

لا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع ما لا يملكه. (هداية،

كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، أشرفي ديوبند ۳/ ۵۱، تاتارخانية، زكريا ۸/ ۳۳۶، رقم: ۱۲۱۱۲)

ومن استأجر أرضا على أن يكر بها ويزرعها ويستقيها فهو جائز.

(هداية، كتاب الإجارة، باب إجارة الفاسدة، أشرفي ديوبند ۳/ ۳۰۶، البحر الرائق، كوثه ۸/ ۲۴، زكريا

۸/ ۴۳، شامي كراچی ۶/ ۶۰، زكريا ۹/ ۸۲، ملتی الأبحر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۵۴۰)

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى. (شامي،

مطلب في استئجار الماء مع القناة، كراچی ۶/ ۶۳، زكريا ۹/ ۸۶، هندیة، زكريا قديم ۴/

۴۴۱، جديد ۴/ ۴۷۶)

والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية وسيح

الماء والمرعى. (تقريرات رافعي، باب بيع الفاسد، كراچی ۵/ ۱۴۰، زكريا ۷/ ۱۴۰)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/ صفر ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۱۶/۳۷)

سمندر کا ایک مخصوص حصہ ٹھیکہ پر لینا

سوال [۹۶۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے یہاں ساحلی علاقہ میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت سمندر کے کسی خاص جگہ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتی ہے کہ اس خاص جگہ میں جتنی مچھلیاں ہیں، ایک متعین مدت تک وہی شخص ان مچھلیوں کا شکار کر سکتا ہے، کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیا اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے؟ براہ کرام جواب سے نوازیں۔ فقط والسلام

المستفتی: عبد المجید کیر الالمعلم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: متعینہ مدت تک کے لئے فروخت کرنے کا مطلب باقاعدہ بیع نہیں ہے؛ بلکہ اجارہ داری اور کرایہ کا معاملہ ہے اور سمندر کا کنارہ چونکہ حکومت کی ملکیت ہے؛ اس لئے حکومت کو اپنی ملکیت کسی کو بھی کرایہ پر دینے کا حق ہے اور جو شخص متعین حصہ کو کرایہ پر لے گا، اسے اپنے حصہ میں آزادانہ طور پر آنے جانے کا حق ہے اور ساتھ میں اس حصہ کی مچھلیاں مارنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسروں کو اس حصہ سے مچھلیاں پکڑنے سے روکنے کا حق تو نہیں ہے؛ لیکن اس دائرہ کے حدود میں داخل ہونے سے منع کرنے کا حق ہے، جب وہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو مچھلیاں بھی نہیں مار سکے گا، اس طریقہ سے حیلہ کے ساتھ اس معاملہ کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى. (شامی،

مطلب في استئجار الماء مع القناة، زکریا ۸۶/۹، کراچی ۶/۶۳)

وإن استأجر النهر والقناة مع الماء لم يجز أيضا؛ لأن فيه استهلاك العين أصلا، والفتوى على الجواز لعموم البلوى - إلى قوله - ولو استأجر أرضا مع الماء تجوز تبعا. (ہندیۃ، الباب الخامس عشر، جدید زکریا ۴/۷۶، قدیم زکریا ۴/۴۴)

قال ابن عابدین: ما نبت أي من الكلاً في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها حكمه كما سبق، أي لا يمنع أحد من الأخذ منه ولا رعي ما شئته فيه إلا أن لرب الأرض منع من الدخول في أرضه. (الموسوعة الفقهية ۳۵/ ۱۰۷)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶ صفر ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۲۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۱۳/۳۸)

کافر کو شامیانہ اور کھانے کے برتن کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے یہاں ایک مسلمان کا ٹینٹ ہے، اس کے ٹینٹ سے شامیانے اور برتن جس طرح مسلمان لے جاتے ہیں اپنے مذہبی جلسہ میں لگانے اور کھلانے کے لئے، ایسے ہی غیر مسلم اپنے ناچ گانے اور رام لیلا وغیرہ کے لئے شامیانے دریاں وغیرہ لے جاتے ہیں اور بھنگی چمار وغیرہ بھی برتن لے جاتے ہیں اور خنزیر، شراب وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا اس مسلمان کا غیر مسلموں کو شامیانے وغیرہ اور برتن وغیرہ دینا اور ان کا کرایہ لے کر اس کو استعمال کرنا درست ہے؟ اور کیا پھر وہی برتن جو ابھی بھنگی وغیرہ کے یہاں سے آئے ہیں، اگرچہ انہوں نے دھو کر واپس کئے ہیں، کیا مسلمان ان برتنوں کو اپنی شادی وغیرہ میں استعمال کر سکتا ہے؟ عمومی طور پر ہر مذہب والے کا ٹینٹ اور برتن ہر مذہب والے استعمال کرتے ہیں، شرعاً جو فیصلہ ہو واضح فرمادیں۔

المستفتی: عبدالرشید قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مسلمان کا کاروبار چونکہ شامیانہ، ٹینٹ وغیرہ کرایہ پر دینے کا ہی ہے؛ اس لئے اس شخص کا مذکور چیزوں کو کرایہ پر دینا بلا شک و شبہ جائز ہوگا، اس

میں مسلمان و کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور کافر کے استعمال کئے ہوئے برتن تین تین مرتبہ دھو کر استعمال کرنا مسلمانوں کے لئے جائز ہے؛ لہذا جب غیر مسلموں کے یہاں سے برتن واپس آجائیں تو ٹینٹ ہاؤس والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان برتنوں کو اہتمام کے ساتھ تین تین مرتبہ دھو کر رکھیں، پھر مسلمانوں کو دیں، ورنہ ان کی ذمہ داری ہی ہوگی کہ وہ دو قسم کے برتن رکھیں، ایک قسم کے برتن صرف کافروں کے لئے ہوں اور دوسری قسم کے برتن خاص طور پر صرف مسلمانوں کو کرایہ پر دینے کے لئے ہوں۔

عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله ﷺ: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدرهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، واكلوا واشربوا. (أبوداؤد، كتاب الأطعمة، باب في استعمال آنية أهل الكتب، النسخة الهندية ۲/ ۵۳۷، دار السلام، رقم: ۳۸۳۹)

ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل. (تاتارخانية، زكريا ۱۸/ ۱۶۵، رقم: ۲۳۷۰)

إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا لبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة. (تاتارخانية، زكريا ۱۵/ ۱۲۲، رقم: ۲۲۴۴۵) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح: کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۶۴/۳۹)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۴/۱۴۳۲ھ

زمین کو کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہم نے ایک کسان سے دس بیگہ زمین دو سال کے لئے کرایہ پر لی ہے، جس کا دو سال کا

کرایہ چودہ ہزار روپے ہے، دس بیگہ زمین میں لگ بھگ تیس کوئٹل اناج پیدا ہوتا ہے، ہر فصل میں، جس کسان سے ہم نے زمین کرایہ پر لی ہے وہ کسان غیر مسلم ہے، اور ہم نے وہ زمین اس ہی کو جو تائی کے لئے دے دی ہے، وہ ہمیں دس بیگہ زمین میں صرف دس کوئٹل اناج دے گا، اور بیس کوئٹل وہ لے لے گا، اپنی محنت اور بیج کے اور پانی کے بدلے میں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: صغیر احمد پیر خٹیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس طرح دو سال یا چند سال کے لئے مالک زمین سے پیشگی رقم لے کر زمین کو کرایہ پر لینا جائز اور درست ہے؛ لیکن جب کرایہ دار زمین کو اسی مالک کے ہاتھ بٹائی پر دے گا، تو اس میں دو شرطیں لازم ہیں:

پہلی شرط: یہ ہے کہ بٹائی پر دینے میں پیداوار کا نصف، ثلث، ربع وغیرہ کا اعتبار کیا جائے، مثلاً دس بیگہ زمین میں تیس کوئٹل اناج پیدا ہونے کی امید ہے اور اس میں سے دس کوئٹل کرایہ دار کو حاصل کرنا ہے، تو گویا کہ پیداوار کا تہائی حصہ کرایہ دار کو ملے گا اور دو تہائی جو تائی کرنے والے کسان کو ملیں گے، تو اس طرح معاملہ طے کریں کہ جو کچھ بھی پیدا ہوگا اسے تین حصے کر کے ایک حصہ کرایہ دار کو ملے گا اور دو حصے کسان کو ملیں گے۔

دوسری شرط: یہ ہے کہ بیج کرایہ دار کی طرف سے ہونا لازم ہے، ان دونوں شرطوں کے بغیر مذکورہ معاملہ درست نہیں ہوگا؛ لہذا تہائی حصہ کی قید لگائے بغیر دس کوئٹل اناج کی شرط لگانا درست نہیں ہے؛ اس لئے اس معاملہ کو دوبارہ شریعت کے دائرہ میں داخل کر کے صحیح کر لیا جائے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱/۷۶)

دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز إن البذر من

المستأجر . (درمختار مع الشامی، قبیل کتاب المساقاة، ۵/ زکریا ۹/ ۴۱۰، کراچی ۶/ ۲۸۴)

و عنه أي محمد استأجر أرضاً ودفعها إلى صاحبها مزارعة، فإن البذر

من قبل ربها لم يجبر، وإن من قبل المستأجر جاز. (فتاویٰ بزازیہ، کتاب المزارعة، الفصل الأول في صحتها وشرائطها، جدید زکریا ۳/ ۵۰، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۶/ ۱۰۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۶۲-۸۷)

خالی زمین کرایہ پر لینا

سوال [۹۶۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زمین مالک سے خالی زمین دو چار سال کے لئے موقع پر طے شدہ رقم دے کر ٹھیکہ پر لینا کیسا ہے؟ اور دو چار سال کی پیداوار ٹھیکیدار لیتا ہے اور دو چار سال پورا ہونے کے بعد زمین مالک سے رقم واپس لئے بغیر زمین واپس کر دیتا ہے، جس طرح زمین خالی ٹھیکہ پر لی گئی اور بیج میں جو بھی پیداوار یا غلہ ہو وہ ٹھیکیدار نے لیا، اسی طرح کسی پھل کا باغ لینا جب کہ پھول و پھل سے خالی ہو، باغ مالک کو موقع پر طے شدہ رقم دے کر اس باغ کو ٹھیکہ پر لینا کیسا ہے؟ اگر اول جائز ہے اور ثانی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ یا کونسی صورت جائز ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟

المستفتی: عبدالصمد بلاسپور گیٹ، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ شکل زمین کو کرایہ داری میں دینے کے دائرہ میں داخل ہے؛ اس لئے جائز اور درست ہے۔

من استأجر أرضاً على أن يكرهها ويزرعها ويسقيها، فهو جائز. الخ

(هداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، أشرفی ۳/ ۳۰۶، البحر الرائق، كوئٹہ ۸/ ۲۴،

زکریا ۸/ ۴۳، شامی، زکریا ۹/ ۸۲، کراچی ۶/ ۶۰)

نیز اسی طرح باغ کو زمین سمیت کرایہ اور ٹھیکہ پر دینا جائز ہے اور اس درمیان باغبان کو اس

میں کوئی چیز بکر پیداوار حاصل کرنے کا بھی اختیار ہونا چاہئے۔

إذا استأجر أرضاً على أن يكر بها ويزرعها أو يسقيها صح؛ لأنه شرط يقتضيه العقد، وهو ملائم له، فلا يفسد العقد. (البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زكريا ۸/ ۴۳، كوئٹہ ۸/ ۲۴، شامی، زكريا ۹/ ۸۲، كراچی ۶/ ۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴ھ/۲۳/۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰۰/۲۹)

قرض لے کر زمین کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے ایک شخص سے بیس ہزار روپے قرض مانگے اور یہ کہا کہ میری چار بیگہ زمین کرایہ واجارہ پر لے لو اور مذکورہ قرض میں سے ہر سال چھ سو روپے بیگہ کے حساب سے کٹتے رہیں گے، واضح رہے کہ ایک بیگہ زمین کا کرایہ عموماً ایک ہزار روپیہ میں زید دیتا ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح زید کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اس کی زمین کو استعمال کرنا مذکورہ صورت میں جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: مجیب الرحمن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں آپس کی رضامندی سے زید کو قرض دینا جائز ہے اور پھر اس قرض کو زمین کے کرایہ میں مجری کرنا جائز اور درست ہے؛ لہذا مقررہ کرایہ کے حساب سے جتنی مدت میں زمین کا کرایہ بیس ہزار قرض کے برابر ہو جائے اس وقت تک قرض خواہ کے لئے زید کی زمین کو بطور کرایہ استعمال کرنا جائز ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۱/ ۳۵۷، ڈبھیل ۱۶/ ۶۴۶)

الأجرة لا تجب بالعقد، وتستحق بإحدى معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتأجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه. (هداية، كتاب الإجارة، باب الأجر متى يستحق؟ أشرفی ۳/ ۲۹۴، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/ ۱۳، جدید ۴/ ۴۴۳، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/ ۳۰۰، زکریا ۷/ ۱۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ شعبان ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۱۳۷۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۸/۱۴۲۹ھ

باغ کو ٹھیکے پر دینا

سوال [۹۶۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارا ایک آم کا باغ ہے، جس کو لگائے ہوئے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ اس باغ کے اندر برابر کاشت بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ٹھیکے پر لینا چاہتے ہیں، ٹھیکے پر لینے والے لوگ بھی اس میں کاشت کریں گے اور پیڑوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، تو اس طرح ٹھیکے پر دے کر صرف اس پر رقم حاصل کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: حسین احمد مسجد دادا والی گلشہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: باغ اور زمین کو اگر اس طرح کرایہ پر دیا گیا ہے کہ مثلاً ایک ہزار روپیہ سالانہ مقرر ہو ہے اور جائیداد کرایہ پر لینے والے کو اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ زمین میں کاشت کر کے اور باغ کے پھلوں سے فائدہ اٹھائے گا، تو یہ معاملہ شرعاً جائز اور درست ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/ ۳۸۱، جدید ڈائجسٹ ۱۶/ ۵۵۷، ایضاح النوادر ۱/ ۷۴)

ومن استأجر أرضاً على أن يكرهها ويزرعها ويسقيها، فهو جائز. الخ

(هدایہ، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، أشرفی دیوبند ۳/ ۳۰۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۸/ ۲۴ / ۲ زکریا ۸/ ۴۳، شامی، کراچی ۶/ ۶۰، زکریا ۹/ ۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۲۴/۳۴)

ٹھیکے پر زمین دینا

سوال [۹۶۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے پاس تقریباً ۱۲۵ ایکڑ زمین ہے، جب تک والد صاحب حیات رہے تو وہ کبھی بٹائی پر کبھی خود کاشت کیا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ہم چار بھائی اس زمین کے حق دار بنے، ہم دو بھائی دہلی میں سروس کرتے ہیں، زمین کی دیکھ بھال کبھی ایک بھائی کے ذمہ رہتی ہے تو کبھی دوسرے بھائی کے پاس، اب پچھلے چار سال سے ہمارے بڑے بھائی کبھی خود ہی کاشت کرتے ہیں اور کبھی پوری زمین ایک سال کے لئے -/3500 فی ایکڑ کے حساب سے ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، اس طرح جو رقم آتی ہے وہ ہم چاروں بھائی آپس میں لیتے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ٹھیکے پر زمین دینا جائز ہے؛ کیوں کہ ٹھیکے پر زمین لینے والے کو فائدہ ہو یا نقصان اس کو تو آدھی رقم شروع میں اور آدھی رقم پہلی فصل کاٹنے کے بعد دینا ہوتی ہے، اس طرح جس نے ٹھیکے پر زمین لی اس کے لئے تو یہ کاروبار جائز ہونا سمجھ میں آتا ہے؛ کیوں کہ اس کے ساتھ فائدہ نقصان دونوں لگے ہیں، جب کہ ٹھیکے پر دینے والے کو فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ہمارے لئے ٹھیکے پر زمین دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور میرے حصے کی رقم پر کتنی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زمین کو سال بھر کے لئے معین اجرت کے ساتھ ٹھیکے پر

دینا جائز اور درست ہے اور ٹھیکیدار کے لئے اس میں کوئی بھی چیز بوکر فائدہ اٹھانے کا حق ہوگا اور مالک زمین کو اس میں کسی قسم کی پابندی لگانے کا حق نہ ہوگا، تو اس طرح ٹھیکے پردے کر اجرت حاصل کرنا مالک زمین کے لئے بلا تردد جائز اور حلال ہے، ٹھیکیدار کو فائدہ ہو یا نقصان دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے، ہم نے ”ایضاح النوادر ۱/۳۷۲“ پر اس مسئلہ کو بیان کر دیا ہے، نیز جو رقم آپ کے حصے میں آئے گی اس کی زکوٰۃ ہزار میں ۲۵ روپے کے حساب سے ادا کرنا آپ کو لازم ہوگا۔

عن علي - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني الذهب حتى تكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. الحديث (سنن أبي داؤد، الزکوٰۃ، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۱، دارالسلام، رقم: ۱۵۷۳)

ومن استأجر أرضاً على أن يكرها ويزرعها ويسقيها، فهو جائز. الخ (هداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، أشرفي ديوبند ۳/ ۳۰۶، البحار الرائق، كوئٹہ ۸/ ۲۴ / ۴۳)

وتصح إجارة أرض للبناء والغرس، وسائر الانتفاعات. (شامي، كراچی ۶/ ۳۰، زكريا ۹/ ۴۰)

وفي الخاوية: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل عشرين مثقالاً نصف. (تاتارخانية، زكريا ۳/ ۱۵۵، رقم: ۳۹۷۷، فتاویٰ قاضي خان، جديد زكريا ۱/ ۱۵۴، وعلى هامش الهندية زكريا ۱/ ۲۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶/ یقعدہ ۱۴۱۴ھ

۱۱/۶/۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۹۶)

درختوں کے ساتھ زمین کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: دو سال کے لئے باغ کی زمین ٹھیکے پر دینے کے ساتھ باغ کی فصل (بہار) کو فروخت کر دینے کے لئے لیتا ہے، یہ شکل جائز ہے یا نہیں؟ یعنی زمین اور بہار باغ دونوں کو کرایہ پر دے دیا، تاکہ کرایہ دار زمین کی آمدنی اور باغ کی فصل دونوں سے منتفع ہو سکے، تو یہ شکل شرعاً کیا حکم رکھتی ہے؟ والسلام

المستفتی: خورشید احمد خادم الاسلام مدرسہ تعلیم القرآن حسن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ شکل شرعاً ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس میں دو معاملہ ایک ساتھ ہیں، جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، ہاں اگر زمین صرف کرائے پر دی جائے اور درخت اور فصل کو اس کے تابع شمار کیا جائے تو درخت کی آمدنی بھی حلال ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۴/۷۷، ڈبھیل ۱۶/۵۸۱، کفایت المفتی قدیم ۸/۲۵، جدید مطول ۱۱/۱۲۳-۱۲۳)

ویجوز کراء الأرض بالشجر الذي يمكث فيها زمنا طويلا. (کتاب الفقہ علی مذاہب الأربعة، مباحث الإحارة، دارالفکر بیروت ۳/۱۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ محرم الحرام ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۴۷۷)

سالانہ دو من غلہ پر زمین کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے کو اس شرط پر دی کہ تم مجھ کو ہر سال دو من غلہ دے دیا

کرنا اور باقی جو کچھ بھی پیدا اور ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اس طرح مذکورہ شرط کے ساتھ زمین دینا جائز ہے؟

المستفتی: سعید الرحمن آسامی، متعلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ معاملہ شرعاً جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ کرایہ داری کی صورت ہے، جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔

ویجوز استیجار الأراضي للزراعة؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها. الخ (هدایة، کتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة، وما يكون خلافا فيها، أشرفی دیوبند ۳/ ۲۹۷، ملتنقی الأبحر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۵۲۲)

ومن استأجر أرضاً على أن يكرها ويزرعها ويسقيها، فهو جائز. الخ (هدایة، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، أشرفی دیوبند ۳/ ۳۰۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۸/ ۲۴ / ۲۴ / ۸ / ۴۳، شامی کراچی ۶/ ۶۰، زکریا ۹/ ۸۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/ ذی الحجہ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۷۲/۲۷)

باغات کو فروخت کرنے کی جائز شکل

سوال [۹۶۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہندوستان میں آم وغیرہ کے باغات پھل پھول ظاہر ہونے سے قبل ہی خرید لئے جاتے ہیں، ہمارے یہاں یہ رواج بالکل عام ہے، ایک سال سے لے کر دس سال تک کے لئے خرید و فروخت شائع اور ذائع ہے، فروخت کنندہ کو روپے کی ضرورت ہے وہ پہلے مل جاتے ہیں اور خریدنے والے کو چونکہ وہ کئی سال پہلے رقم دیتا ہے؛ اس لئے پندرہ ہزار کا باغ صرف دس ہزار میں مل جاتا ہے۔

وجہ جواز یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں؛ بلکہ کرایہ اور اجارہ کا معاملہ ہے، میں نے باغ خریدا ہے نہ کہ پھل، حدیث میں پھل کی خرید و فروخت منع ہے، جب کہ ارشاد نبوی ہے:

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السنین، وأمر بوضع

الجوائح. (رواہ مسلم، معارف الحدیث ۷/ ۱۲۵)

مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے (معارف الحدیث ۷/ ۱۲۴) میں اس طرح کی بیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت لکھی ہے۔

الف: کیا مذکورہ وجہ جواز درست ہے؟ اگر درست ہے تو حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ چند سالوں کا ٹھیکہ ناجائز اور غلط ہے اور ایک سال کا جائز اور درست ہے؟

ب: اگر مذکورہ وجہ جواز درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ ۹۹ فیصد باغ کی خرید و فروخت باطل ہوتی ہے، بازار سے اس کا پھل خریدنا کھانا یا ایسے باغوں کے منافع کا استعمال جائز ہے؟

المستفتی: اشتیاق نور قاسمی، بھگلپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (الف، ب) ہمارے ہندوستان اور برصغیر میں ایک دو دو فصل یا ایک ایک دو دو سال کے لئے باغات کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ شرعی ضابطہ کے مطابق ناجائز اور بیع فاسد ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل کی فروختگی اور خریداری میں بیع پھل ہی ہوتا ہے اور پھل ابھی اپنے وجود میں نہیں آیا اور شریعت میں ایسی معدوم شئی کی خریداری اور فروختگی جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے جواز کے لئے ایک متبادل حیلہ کی شکل اختیار کی جاسکتی ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ باغ کی زمین قابل کاشت ہو یا اس زمین میں

کسی بھی چیز کی پیداوار ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں زمین کو مع باغ کے ایک سال یا متعدد سالوں کے لئے متعین اجرت سے کرایہ پر لے لیا جائے اور اس کرایہ داری کی مدت میں مالک کا کوئی اختیار باقی نہ ہو، سارا اختیار کرایہ دار کو حاصل ہو جائے اور کرایہ دار اس میں کسی بھی طرح کی پیداوار سے فائدہ اٹھائے، اور پیڑوں میں پانی وغیرہ دے کر ان کی خدمت کر کے اس مدت میں جو پھل آئیں گے ان سے بھی فائدہ اٹھائے، ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس معاملہ میں ان پھلوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے جو اپنے وجود میں نہیں آئے؛ بلکہ پھل تابع ہیں اصل زمین کی کرایہ داری ہوتی ہے اور حدیث شریف میں بیع کی ممانعت ہے، کرایہ داری کی ممانعت نہیں ہے، تعامل ناس اور عموم بلوی کی وجہ سے حضرات فقہاء نے اس طرح کی اجارہ داری اور کرایہ داری کے ذریعہ سے باغات اور نہر وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور بازار سے خرید و فروخت بہر حال جائز ہے۔

عن حکیم بن حزام - رضی اللہ عنہ - قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ما ليس عندي اتباع له من السوق، ثم أبيع قال: لا تبع ما ليس عندك. (سنن الترمذي، ابواب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عنده، النسخة الهندية ۱/ ۲۳۳، دار السلام، رقم: ۱۲۳۲)

ومن استأجر أرضاً على أن يكر بها ويزرعها ويسقيها فهو جائز. (هداية، كتاب الإجارة، باب إجارة الفاسدة، أشرفي ديوبند ۳/ ۳۰۶، الحبر الراق، كوئٹہ ۸/ ۲۴، زكريا ۸/ ۴۳، شامي كراچي ۶/ ۶۰، زكريا ۹/ ۸۲، ملتمقي الأبحر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۵۴۰)

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى. (شامي، مطلب في استئجار الماء مع القناة، كراچي ۶/ ۶۳، زكريا ۹/ ۸۶، هندية، زكريا قديم ۴/ ۴۴۱، جديد ۴/ ۴۷۶)

والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية وسيح
الماء والمرعى. (تقريرات رافعي، باب بيع الفاسد، كراچی ۵/ ۱۴۰، زکریا ۷/ ۱۴۰)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/ صفر ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۱۶/۳۷)

کھیت اور باغات کو ٹھیکہ پر دینا اور گرومی رکھنا

سوال [۹۶۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کیا کھیت اور باغات یا اسی شے کے مثل ٹھیکے پر ایک دو سال یا ایک فصل کے لئے لینا اور دینا درست ہے؟

(۲) ایک شخص نے ایک کھیت گرومی رکھا ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی ادائے گی کی صورت کیا ہوگی؟

المستفتی: محمد توصیف لکھیم پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) اگر اس طرح لیا جائے کہ ایک سال یا دو سال تک لینے والے کو پوری زمین پر تصرف کا حق بھی دیا جاتا ہے کہ کرایہ دار کو اس اثنا میں باغ اور کھیت میں کوئی چیز بو کر فائدہ اٹھانے کا حق بھی حاصل ہے، تو جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ صرف فصل کی بیج نہیں ہے؛ بلکہ پوری زمین اور باغ کو مقررہ مدت تک کے لئے کرایہ پر لینا ہے، جو کہ جائز ہے۔

ومن استأجر أرضا على أن يكر بها ويزرعها ويسقيها فهو جائز.

(ہدایہ، کتاب الإجارة، باب إجارة الفاسدة، أشرفي دیوبند ۳/ ۳۰۶، الحبر الراق، کوئٹہ ۸/ ۲۴، زکریا

۸/ ۴۳، شامی کراچی ۶/ ۶۰، زکریا ۹/ ۸۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/ ۵۴۰)

(۲) کھیت گرومی رکھنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مرتہن اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔

كما استفيد من عبارة الهداية: فلو رهنه خاتما، فجعله في خصره فهو ضامن؛ لأنه متعد بالاستعمال. (هداية، كتاب الرهن، أشرفی دیوبند ۴/ ۵۲۶)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۹/۳۳۷۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴/۳/۲۳ھ

عمارت بنانے کے لئے زمین کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) بندہ کے علاقہ میں ایک معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی غریب آدمی کی زمین کو ٹرنکٹر (ٹھیکیدار) اس شرط پر لیتے ہیں کہ وہ اس زمین پر اپنے خرچ سے عمارت بنائیں گے، پھر اس عمارت کا خرچ اس کی دوکانوں اور فلاٹوں کو بیچ کر مع نفع وصول کریں گے، پھر وہ اس معاملہ سے الگ ہو جائیں گے، اب وہ دوکاندار اور فلیٹ خریدنے والے دوکانوں اور فلیٹوں کا کرایہ زمین والے کو ادا کرتے رہیں گے، کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟

(۲) ان دوکانوں اور فلیٹوں کے خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب ارض ان دوکانوں اور فلیٹوں کے مالک ہونے کے باوجود صرف کرایہ وصول کرنے کا مجاز ہوگا، جب کہ وہ دوکان لینے والا اس دوکان کو کسی کو بھی بیچ سکتا ہے اور پھر مشتری ثانی دوکانوں کا کرایہ صاحب ارض کو ادا کرے گا، یہ معاملہ ہمارے یہاں کے سبھی دوکانوں اسٹالوں میں چلتا ہے، ہماری بھی دوکان اسی طرح لی ہوئی ہے، تو کیا یہ طریقہ شرعاً صحیح ہے؟

المستفتی: علی اختر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں مذکورہ صورت اجارہ داری کا معاملہ ہے

اور ٹھیکیدار کا غریب شخص سے اس کی زمین اس شرط کے ساتھ لینا کہ میں اس پر عمارت وغیرہ بنا کر پھر اسے فروخت کر کے اپنا روپیہ مع نفع وصول کر لوں گا، شرعاً جائز اور درست ہے، اس کے بعد مذکورہ خریدار کے پاس کرایہ پر رہے گی اور اس پر زمین کا کرایہ ادا کرنا لازم ہوگا؛ البتہ وہ اپنی خریدی ہوئی عمارت کا بدون زمین کے مالک ہو جائے گا، اور صاحب زمین کو ہر حال میں شرعاً اپنی زمین کی قیمت کے مطالبہ کا اختیار رہے گا، اگر خریدار قیمت نہ دے تو مالک زمین کو یہ حق حاصل ہے کہ عمارت کی قیمت خریدار کو دے کر زمین اپنی ملکیت میں لے لے۔ اور اگر اس شرط کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے کہ مالک زمین کو بعد میں اپنی زمین کی واپسی کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا تو اس طرح معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

وتصح إجارة أرض للبناء والغرس، فإن مضت المدة قلعهما - إلى قوله - أو يرضى الموجد بتركة، أي البناء والغرس، فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا، وهذا الترك ان بأجر، إجارة وإلإعارة. (شامي، كتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها، كراچی ۶ / ۳۰ - ۳۱، زکریا ۹ / ۴۰ - ۴۱)

وتصح استئجار الأرض للبناء والغرس، وإذا انقضت المدة لزمه أن يقلعهما أو يسلمها فارغة - إلى قوله - أو يرضى بتركة، فيكون البناء والغرس لهذا، أي للمستأجر والأرض لهذا، أي للموجد الذي هو صاحب الأرض. (مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۵۲۳)

وتفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، فكل ما أفسد البيع أفسده. (الدر مع الشامی، باب الإجارة الفاسدة، كراچی ۶ / ۴۶، زکریا ۹ / ۶۴)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۶۳/۳۸)

زمین کو کرایہ پر دینے کی چند شکلیں

سوال [۹۶۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) ایک شخص نے کسی کو زمین دی اور ان سے مثلاً دس ہزار روپے لئے اور ان سے کہا کہ جب میرے پاس روپیہ ہو جائے گا تو روپیہ دے کر زمین واپس لے لوں گا، تو کیا اس میں بیاج یعنی سود کی صورت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز اور حرام ہو تو وضاحت فرمائیں؟

(۲) دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو زمین دی اور ان سے مثلاً پانچ ہزار روپیہ لئے اور کہا کہ سالانہ روپیہ کم ہوتا رہے گا اور جب میرے پاس روپیہ ہوگا سالانہ سو روپے کاٹ کر دے دوں گا۔

(۳) تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو زمین دی اور ان سے چار ہزار روپے لئے اور ان سے کہا کہ پانچ سال تک تم زمین اپنے پاس رکھو اس پانچ سال کے اندر کوئی غلہ ہو یا نہ ہو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اور تم کو ایک بھی روپیہ نہیں ملے گا۔ اور زمین ہماری خود لوٹ جائے گی، تو کیا مذکورہ تینوں شکلیں یا ان میں سے کوئی ایک شکل صحیح اور درست ہو تو خلاصہ تحریر فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: محمد عارف انصاری محلّہ نئی بستی، قصبہ زرولی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ تینوں شکلوں میں سے اول الذکر دونوں شکلیں ناجائز ہیں اور تیسری شکل جائز اور درست ہے۔

تصحیح إجارة أراضٍ للزراعة الخ. (الدرالمختار، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها، زکریا ۳۹/۹، کراچی ۳۹/۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

۱۳/۳/۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۹۲/۲۸)

”کوٹو“ اور ”ڈیڑھا“ کا حکم

سوال [۹۶۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ”کوٹو“ یعنی زمین والا جو زمین لے رہا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم کو فصل کاٹنے کے بعد مجھے اتنا دینا ہوگا، چاہے اس زمین سے اتنا اگتا بھی نہ ہو۔ ”ڈیڑھا“ یعنی تم کو میں ایک ہزار روپیہ دے رہا ہوں، چار مہینے یا چھ مہینے کے بعد تم کو پندرہ سو روپیہ دینا ہوگا۔

المستفتی: محمد اطہر بن عبد الجلیل، ار رہ بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) سوال میں کوتا کی جو صورت بیان کی گئی ہے کہ زمین دینے والا زمین دے کر کے کہتا ہے کہ تم کو فصل کٹنے کے بعد مجھے اتنا غلہ دینا ہوگا، چاہے کہیں سے بھی لاکر دو تو یہ مزارعت نہیں؛ بلکہ زمین کو کرایہ پر دینے کا معاملہ ہے؛ لہذا اجارہ کے تحت داخل ہو کر شرعاً یہ معاملہ جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۱/۲۹۶، جدید ڈاٹا بھیل ۵۵۹/۱۶)

وما صلح أن یکون ثمناً فی البیع کالنقود، والمکیل، والموزون
صلح أن یکون أجره فی الإجارة، وما لا یصلح ثمناً فی البیع صلح أجره
أیضاً کالأعیان مثل العبید والثیاب. (عالمگیری، کتاب الإجارة، الباب الأول،
جدید زکریا ۴/۴۴۲، قدیم زکریا ۴/۴۱۲)

وکل ما صلح ثمناً أي بدلاً فی البیع صلح أجره؛ لأنها ثمن المنفعة.

(درمختار، کراچی ۶/۴، زکریا ۹/۵، تاتارخانیہ، زکریا ۱۵/۱۱، رقم: ۲۱۹۳۷، شرح

المحلة رستم باز، اتحاد دیوبند ۱/۲۶۰، رقم المادة: ۴۶۳)

(۲) ڈیڑھا کی جو شکل بیان کی گئی ہے کہ ایک ہزار روپے اس شرط کے ساتھ دینا کہ مثلاً چار

یا چھ مہینے کے بعد پندرہ سو روپے دینے ہوں گے، تو یہ شکل شرعاً سو و ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ اور پانچ سو روپے جو زائد آ رہے ہیں ان کا لینا درست نہیں ہے، وہ حرام ہیں، وہ روپے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر بيروت ۸/ ۲۷۶، رقم: ۱۱۰۹۲)

كل قرض جر نفعاً فهو حرام. (شامي، كراچی ۵/ ۱۶۶، زكريا ۷/ ۳۹۵، قواعد الفقه، أشرفي ديوبند/ ۱۰۲، رقم: ۲۳۰)

إن أخذه من غير عقد لم يملكه، ويجب عليه أن يردّه على مالكة إن وجد المالك. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء مصري ۱/ ۱۴۷، هندي ۱/ ۳۷، دارالبشائر الإسلامية بيروت ۱/ ۳۵۹، رقم الحديث ۵۹) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۴/۴/۱۴۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۶۱۴)

زمین کو ”کٹ بھرنے“ پر دینا

سوال [۹۶۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ”کٹ بھرنے“: یعنی کسی صاحب سے زمین لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے مجھ سے زمین لی ہے، تمہارے روپے میں سے ہر ماہ اتنا کٹتا رہے گا، یہ معاملہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اطہر بن عبد الجلیل ارریہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: معلوم ہوا ہے کہ ہر مہینہ پیسہ کاٹنے کی قید لگانا بہار میں بھی نہیں ہے؛ بلکہ ہر سال یا ہر فصل میں پیسہ کاٹنے کا رواج ہے؛ لہذا اگر مطلب یہ ہے کہ ہر فصل میں مثلاً ایک ہزار روپے کاٹا رہے گا اور دس فصل میں دس ہزار روپے کاٹا رہے گا، تو یہ شرعاً زمین کی کرایہ داری کی شکل ہے، جو جائز ہے اور اس طرح زمین کو ایک ایک فصل کے لئے کرایہ پر دینا اجارہ کے دائرہ میں داخل ہو کر شرعاً جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۳۳۴، جدید ڈبھیل ۲۰/۱۲۹)

وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة. (شامی، کتاب الإجارة، زکریا ۹/۷، کراچی ۶/۵، ہدایہ، اشرفی ۳/۲۹۳، مختصر القدوری، ص: ۱۰۰، ہندیہ زکریا قدیم ۴/۴۱۱، جدید ۴/۴۴۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۲/۲۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۱۵)



۲ / باب الإجارة الفاسدة

اجارہ میں اجرت کے مجہول ہونے کی شرعی حیثیت

سوال [۹۶۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید اور بکر دونوں کی آپس میں دوستی ہے، زید کے پاس تین چار گائے ہیں اور بکر کے پاس نہیں ہیں؛ اس لئے زید بر بنائے دوستی بکر کو ایک گائے کی بچی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچی کو کھلا پلا کر بڑی کرو۔ اور جب وہ بڑی ہو کر بچہ دے دیگی تو اس بچہ سے جتنے دن گائے دودھ دے گی اتنے دن تک تم دودھ پیتے رہنا، اس کے بعد جب دودھ دینا چھوڑ دے گی تو اس گائے کو ہمیں واپس کر دینا اور بچہ تم لے لینا، تو اس طریقے سے معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: الوسا لک بردوانی، متعلم شعبہ افتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: یہ معاملہ شرعی طور پر ناجائز اور فاسد ہے؛ اس لئے کہ جانور کی پرورش کی اجرت متعین نہیں ہوئی اور شرعاً اجرت کا معلوم و متعین ہونا اس قسم کا معاملہ صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، نیز یہاں پر اجرت الحزمت مذکورہ جانور کے بعض اجزاء کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کا معاملہ بنص حدیث فقیر ظحان ناجائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/ ۳۳۲، اصلاح الرسوم/ ۱۴۳، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۴/ ۲۶۰، جدید ڈابھیل ۱۶/ ۲۰۲)

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ نهى عن

استئجار الأجير حتى يبين له أجره. (مراسيل أبي داؤد / ۱۰)

ومن شرائط الإجارة - إلى قوله - ومنها: أن تكون الأجرة معلومة.

(عالمگیری، کتاب الإجارة، الباب الأول، زکریا قدیم ۴ / ۴۱۱، جدید ۴ / ۴۴۱، شامی،

کراچی ۵/۶، زکریا ۷/۹، ہدایۃ اشرفی دیوبند ۳/۲۹۳، تاتارخانیہ، زکریا ۷/۱۵، رقم: ۲۱۹۲۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۲۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۶/۱۴۱۱ھ

بلا تعین اجرت اجیر کی مزدوری کا مسئلہ

سوال [۹۶۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) مرحوم محمد عامر صاحب کا جو کاروبار ہے، اس کو چلانے کے لئے ایک بہنوئی کو مقرر کیا گیا ہے، ماہانہ خرچ پانچ ہزار روپے بہنوئی اور پانچ ہزار والدہ، والد، بیوی، لڑکی کے خرچ کے لئے دوکان سے لئے جاتے ہیں، یہ چار لوگ مشترکہ ایک ہی گھر میں ہی خرچ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ دوکان سے لی ہوئی رقم مشترکہ خرچ کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور بہنوئی صاحب کونہ ملازمت پر رکھا گیا ہے اور نہ پائٹری پر بس تعلقات پر کام کرتے ہیں اور مرحوم کے والد بھی دوکان پر بیٹھے ہیں۔

(۲) اس کاروبار کے نفع و نقصان کے اندر جو کام چلا رہا ہے وہ اور وارثین برابر کے شریک رہیں گے یا نہیں؟

(۳) مرحوم کے استعمال شدہ کپڑوں وغیرہ کا کس طرح استعمال ہوگا مرحوم گھر کے لئے (جو مشترکہ رہائش ہے) جو سامان بازار سے خرید کر لائے اس کا کس طرح استعمال ہوگا۔

(۴) مرحوم کینسر کے مریض تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بہنوئی اور اپنے خسر سے کہا تھا کہ میری وصیت ہے کہ اپنے والد اور خسر کو عمرہ کے لئے بھیجنا ہے، اس کے لئے مرحوم نے اپنے کاروبار سے دو سو روپے روز جمع کرنا شروع کر دیئے تھے، انتقال کے وقت تک مبلغ: 32000/- بتیس ہزار روپے جمع ہو گئے تھے، وہ رقم رکھی ہے، اس کا استعمال کس طرح ہوگا؟

المستفتی: عزیز الرحمن شمس لال بھائی دودھوالے محلہ پنجابیان، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مرحوم محمد عامر کے بہنوئی کو بلا کسی تعیین کے اور بلا کسی تنخواہ کی تعیین یا منافع میں شرکت کی شرط کے یوں ہی دوکان پر بٹھانا یہ شرعاً معاملہ فاسدہ ہے، نیز دوکان میں سے ماہانہ پانچ ہزار روپے خرچ کے لئے عامر کے گھر والوں کو دینا اور بہنوئی کا اپنے خرچ کے لئے لینا اس فاسد معاملہ کے ساتھ درست نہیں، اس لئے آپس میں بیٹھ کر معاملہ کی صفائی اور کام کرنے کی تعیین ضروری ہے، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں: ایک شکل یہ ہے کہ دوکان مع سامان کے محمد عامر کے گھر والوں کی رہے اور بہنوئی کو ماہانہ متعین تنخواہ پر دوکان پر بیٹھنے کے لئے مقرر کیا جائے اور جو تنخواہ مقرر ہو جائے ماہانہ صرف وہی تنخواہ لیا کریں اور بقیہ تمام آمدنی مرحوم کے گھر والوں کا حق رہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ دوکان اور سامان مرحوم کے گھر والوں کا رہے اور ان کے بہنوئی پائٹرن کی حیثیت سے دوکان میں کام کریں، مثلاً دوکان اور اس المال تو مالک کی ملکیت ہوگی اور اس پر جو نفع ہوگا اس کا نصف حصہ یاثلث حصہ یا ربع حصہ بہنوئی لیا کریں گے اور سارا لین دین اور سارا کام بہنوئی کے ذمہ رکھ دیا جائے اور ان دونوں شکلوں کے علاوہ کوئی اور شکل جائز نہیں۔

ولا یصح حتی تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روینا؛ لأن الجہالة فی المعقود علیہ، وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجہالة الثمن والمثمن في البیع. (هدایة، کتاب الإجارة، اشرفی دیوبند ۳/۲۹۳، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/۱۰۵، زکریا ۶/۷۷، الجوہرۃ النیرة، إمدادیہ ملتان ۱/۳۱۶، دارالکتاب دیوبند ۱/۳۰۶)

والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، وإن

لم يعمل. (هدایة، باب ضمان الأجير، اشرفی دیوبند ۳/۳۱۰)

لو كان المال منهما في شركة العنان، والعمل على أحدهما إن شرطاً

الربح على قدر رؤوس أموالهما جاز، ويكون ربحه له ووضعته عليه، وإن شرطاً الربح للعامل أكثر من رأس مال يصح جاز على الشرط، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة. (هنديّة، كتاب الشركة، الباب الثالث في شركة العنان،

الفصل الثاني، زكريا قديم ۲ / ۳۲۰، جديد ۲ / ۳۲۶)

(۲) جب محمد عامر کا بہنوئی کاروبار میں کسی طرح بھی شریک نہیں ہے، تو اس کے نفع نقصان میں بھی شریک نہ ہوگا، صرف اجرت مثل مل سکتی ہے، مثلاً ان کی اگر پانچ ہزار روپے ماہانہ تنخواہ ہے، تو ان کو پانچ ہزار روپے دیئے جائیں گے۔ اور وہ کاروبار اور اس المال میں وارثین کے ساتھ برابر کا شریک نہ ہوگا۔

و الواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى.

(هداية، باب الإجارة الفاسدة، اشرفي ديوبند ۳ / ۳۰۱، هنديّة، زكريا قديم ۴ / ۳۹،

جديد ۴ / ۴۷۴، درمختار، کراچی ۶ / ۴۵، زكريا ۹ / ۶۲)

(۳) مرحوم کے استعمال شدہ کپڑے اور بازار سے خرید کردہ سامان وغیرہ ترکہ میں شامل ہو کر شرعی وراثت کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا۔

ثم يقسم الباقي بين ورثته، أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسنة.

(درمختار علی ہامش رد المحتار، کتاب الفرائض، کراچی ۶ / ۷۶۱-۷۶۲، زكريا ۱۰ / ۴۹۷)

(۴) اگر خسر کے عمر کا خرچ مرحوم کی ملکیت کی ایک تہائی یا اس سے کم ہو تو وصیت نافذ ہوگی اور عمرہ کے لئے بھیجنا لازم ہوگا اور باپ کی وصیت میں اگر دوسرے وراثت بخوشی رضا مندی کا اظہار کرتے ہوں، تو وصیت نافذ ہوگی اور اگر دوسرے وراثت بخوشی رضا مندی کا اظہار نہ کریں تو باپ کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک تہائی سے عمرہ کا خرچ پورا نہیں ہوتا تو عمرہ کے لئے بھیجنا لازم نہیں اور عمرہ کی وصیت نافذ نہ ہوگی۔

ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة، ولا تجوز بما زاد

على الثلث. (هداية، كتاب الوصايا، اشرفي ديوبند ۴ / ۶۵۴)

ولا تجوز لوارثه - إلى قوله - إلا أن يجيزها الورثة. (هداية، اشرفي
دیوبند ۴ / ۶۵۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۷/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/رجب المرجب ۱۴۲۳ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۶/۷۷۵)

کم کرایہ پر لے کر زیادہ کرایہ پر دینا

سوال [۹۶۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اگر کسی شخص نے کوئی دوکان یا مکان کم کرایہ پر لیا، پھر وہ کسی سے زیادہ کرایہ لے کر اس کو کرایہ پر دے سکتا ہے یا نہیں؟ ”کتاب الفتاویٰ“ میں عنوان ہے، کم کرایہ پر لے کر زیادہ کرایہ پر دینا، اس کے ذیل میں صاحب فتاویٰ نے جواب قائم فرمایا ہے، جواب یہ ہے: ”کہ یہ بات جائز ہے کہ کرایہ دار کرایہ پر حاصل کی ہوئی چیز کسی اور کو کرایہ پر دے، خواہ کرایہ دار پہلے کرایہ دار سے زیادہ ادا کرے یا کم ادا کرے؛ اس لئے جو صورت آپ نے لکھی ہے وہ جائز ہے۔ (کتاب الفتاویٰ ۵/۴۰۰)

”کتاب الفتاویٰ“ کا یہ جواب شرعاً درست ہے یا نہیں؟ یا اس میں کچھ سقم ہے؟ حضرات فقہاء کرام کی اس عبارت اور اس جیسی عبارتوں کا کیا مطلب ہوگا؟

ولو اجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مستلئين إذا أجرها بخلاف

الجنس أو أصلح فيها شيئاً. (الدرالمختار، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً

فيها، زكريا ۹/۳۸)

وإن أجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضاً إلا أنه إن كانت

الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى، فإن زيادة لا تطيب له ويتصدق بها.

الخ (فتاویٰ عالمگیری ۴ / ۴۲۵)

حضرت مفتی محمود حسن لنگوہی قدس سرہ نے ایک عنوان ”جتنے کرایہ پر مکان لیا اس سے زائد پر دینا“ کے ذیل میں جواب ارشاد فرمایا ہے، جو صورت آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو حدود حرم مبارک سے باہر کسی اور جگہ بھی درست نہیں ہے، جتنی رقم کسی جگہ بھی کرایہ مکان کی ادا کرے اتنی رقم پر دوسرے کو دے سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ رقم لیں گے، تو اس کا صدقہ کر دینا ہوگا۔
(فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ۱۶/۶۰۴، باب الاجارة الفاسدة)

ایک دوسرے سوال کے جواب میں حضرت تحریر فرماتے ہیں: یہ نفع لینا درست نہیں اگرچہ سود بھی نہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ جدیدہ ۱۶/۶۱۰)

دریافت یہ کرنا ہے کہ ”کتاب الفتاویٰ“ والا جواب درست ہے یا ”فتاویٰ محمودیہ“ کا؟ اور زیادتی کے تصدق کی بات جو فقہاء کرام نے نقل فرمائی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وجوب کی یا استحباب کی یا یہ مسئلہ اختیاری ہے کہ چاہے تو صدقہ کرے یا نہ کرے؟ امید ہے کہ جواب باصواب عنایت فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ فقط والسلام

المستفتی: محمد آزاد بیگ قاسمی، خادم التدریس والافتاء معراج العلوم چیتا کیپ، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر کرایہ کی اجرت روپے پیسے کے ذریعہ سے دی جا رہی ہے اور کرایہ دار نے دوسرے کرایہ دار کو بھی روپے پیسے ہی کی اجرت کے عوض میں دیا ہے، تو ایسی صورت میں زیادتی اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ اور اگر دوسرے کرایہ دار کو روپے پیسے کی اجرت کے عوض میں نہیں دیا ہے؛ بلکہ روپے پیسے کے علاوہ سامان کے عوض میں دیا ہے، تو اضافہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ”فتاویٰ محمودیہ“ میں جو لکھا گیا ہے وہی فقہاء کی عبارت سے منطبق ہے اور ”کتاب الفتاویٰ“ میں جو جواب لکھا گیا ہے، اس سے ہر صورت جائز معلوم ہوتی ہے؛ اس لئے ”فتاویٰ محمودیہ“ کی تحریر زیادہ صحیح اور درست ہے، ہاں البتہ روپے پیسے کے عوض میں زیادہ کرایہ لینے کی گنجائش اس صورت میں بھی ہے کہ جب کرایہ دار نے کرایہ کی عمارت پر کچھ پیسہ خرچ کیا ہو، مثلاً اس کی مرمت کر لی ہو اور اس میں ضروری ترمیم کر کے اس

کی پوتائی وغیرہ کر لی ہو، پھر دوسرے کو کرایہ پردے تو زیادہ پیسے کے کرایہ پردے یا جائز ہے اور وہ اس کے لئے حلال ہو جائے گا، اس اعتبار سے بھی فتاویٰ محمودیہ کی تحریر صحیح ہے۔ اور ”کتاب الفتاویٰ“ کی عبارت میں قیود و شرائط کے ذریعہ سے شبہ کو دور کرنا چاہئے اور جہاں زیادتی کے تصدق کی بات کہی گئی ہے، وہ حلت و حرمت کے مسئلہ میں ہے اور حلت و حرمت کے مسئلہ میں جب تصدق کی بات آتی ہے، تو اس میں تصدق واجب ہو کرتا ہے؛ اس لئے حضرت مفتی محمود صاحب نے تصدق کو واجب لکھا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ، مطبع میرٹھ ۲۵/۴۷)

فإن أجر بأكثر مما استأجر به من جنس ذلك ولم يزد في الدار شيئا ولا أجر معه شيئا من ماله آخر من ماله مما يجوز عقد الإجارة عليه لا يطيب له الزيادة. وفي شرح الطحاوي: ويتصدق به، أما إذا زاد في الدار شيئا بأن جحصها أو طينها، أو ما أشبه ذلك، أو أجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة يطيب له الزيادة، وكذلك إذا أجره بمجلس آخر يطيب له الزيادة. (تاتارخانية ۱۵/۵۰، رقم: ۲۲۱۱۵)

ولو أجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا أجرها بخلاف الجنس، أو أصلح فيها شيئا (وتحتة في الشامة): أي جنس ما استأجر به، وكذا إذا أجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة، فإنه يطيب له الزيادة كما في الخلاصة، أو أصلح فيها شيئا بأن جحصها أو فعل فيها مسنأة، وكذا كل عمل قائم؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح، كما في المبسوط. (شامي، كتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها، كراچی ۶/۲۹، زکریا ۹/۳۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۵/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۱۴/۴۰)

مزدوری متعین کئے بغیر ٹھیکہ پر کام کرنے کی اجرت کا حکم

سوال [۹۶۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں زکریا شاہد فرم میں مالک امجد کے پاس ٹھیکیداری پر کام کر رہا تھا اور مزدوری طے نہیں ہوئی تھی، دس دن کے بعد میں نے ۱۵ روپے فی عدد کا بل دیا، تو مالک امجد نے بل لے کر کہا کہ آپ کام کرتے رہو، میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گا، کام ختم ہونے پر مالک امجد نے ۴ روپے فی عدد کا حساب دیا، جو مجھے نقصان کا باعث بنا اور مجھے زبردستی آفس میں بند کر کے پولیس کی دھمکی دے کر دستخط کروائے ہیں، اور میرا حساب مزدوری صحیح نہیں دیا، جس سے میں نقصان سے بچ سکتا، میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں کہ امجد فرم مالک حج کو جا رہا ہے، کیا ایسے موقع پر حج قبول ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: سہیل انور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ نے بلا مزدوری متعین کئے ہوئے ٹھیکیداری پر کام کیا تو یہ معاملہ فاسد ہوا، جس میں مالک امجد پر آپ کو اجرت مثل (آج کل اس کام کی جو مزدوری چل رہی ہے) دینا لازم ہے، اب اگر اس نے آپ کو آپ کا حق الحجت اور آپ کی اجرت نہ دے کر آپ کا جو حق بیٹھتا ہے، اسی پیسہ کو سفر حج میں لگایا ہے، تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا؛ لیکن اگر وہ اس کے علاوہ اپنے جائز پیسہ کی کمائی سے حج کرے گا تو اس کا حج قبول نہ ہونے کی بات کہی نہیں جاسکتی اور آپ کا جو حق اس کے اوپر ہے وہ ہمیشہ اس کے سر رہے گا، قیامت کے دن وہ مواخذہ دار ہوگا۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرزد فنادى: ليك اللهم ليك ناداه من السماء ليك وسعديك زادك حلال

وراحلتک حلال و حجک مبرور غیر ما زور، و إذا خرج بالنفقة الخبيثة
 فوضع رجله في الغرز، فنادی لبيک ناداه مناد من السماء لا لبيک ولا
 سعديک زادک حرام و نفقتک حرام، و حجک غیر مبرور .
 (المعجم الأوسط، دارالفکر، بیروت ۴/ ۶۶، رقم الحديث: ۵۲۲۸، الترغيب والترهيب
 للمنذري ۲/ ۱۱۳، أنوار مناسک، ص: ۵۴-۵۵)

الإجارة إذا كانت فاسدة و جب أجر المثل. (الفتاویٰ التاتارخانية، زکریا
 ۱۵/ ۱۰۱، رقم: ۲۲۳۱۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ ذی قعدہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۳/۱۱/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۲۲)

مدت متعینہ تک کام مکمل نہ ہونے پر ہر ہفتہ پانچ سو روپے واپسی کی شرط کا حکم

سوال [۹۶۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: میں نے ایک مکان بنانے کو ٹھیکہ پر دیا ہے، اس طرح سے کہ ٹھیکیدار میرا مکان ایک
 سال کی مدت میں تیار کر دے گا پچاس ہزار روپے میں، اگر وقت کے مطابق تیار نہیں کیا تو
 ٹھیکیدار کے ذمہ ہر ہفتہ پانچ سو کے حساب سے واپس کرنے ہوں گے، یہ جائز ہے یا نہیں؟
 اگر جائز نہیں ہے، تو جائز طریقہ اور ایسا حیلہ بتلائے جس سے نہ ٹھیکیدار کو ضرر ہو نہ مکان مالک
 کو؟ مدلل تحریر فرمائیں۔ فقط

المستفتی: عبدالرحمن مظفر نگری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ معاملہ جہالت، مفصی الی المنازعت اور تعلیق
 بالخطر ہونے کی وجہ سے ناجائز اور فاسد ہے اور اس کے لئے جائز اور متبادل طریقہ یہی ہے کہ

معاملہ طے کرتے وقت اس طرح بات صاف کر لیں کہ اگر ایک سال میں تیار کرے گا تو چالیس ہزار روپے ملیں گے تو اس طرح متبادل شکل اگرچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ممنوع ہے، مگر امام ابو یوسف، امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک جائز اور درست ہے، اس کی نظیر مسئلہ خیاطت ہے۔

ولو قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم - إلى قوله - وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان، وفي العناية: ففي أيهما خاط استحق المسمى فيه. (هداية مع فتح القدير، كتاب الإجارة، باب الإجارة على أحد الشرطين، دار الفكر بيروت ۹ / ۳۱، كوئٹہ ۸ / ۷۰-۷۱، زكريا ۹ / ۱۳۲، ۱۳۳، البحر الرائق، كوئٹہ ۸ / ۳۱، زكريا ۸ / ۵۴، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳ / ۵۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۱۱/۱۴۱۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶/ ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۲۲۹)

تالاب کو کرائے پر دینا

سوال [۹۶۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: هل يجوز إجارة البرک والحیاض لتسمية الأسماک كما یجوز فی بنغال؟

المستفتی: شہید اللہ بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اجارہ کا انعقاد دراصل منافع پر ہوتا ہے نہ کہ عین پر اور تالاب وغیرہ کے اجارہ میں عین کا جو کہ پانی ہے، استھلاک پایا جاتا ہے: اس لئے حنفیہ نے

اس کو ناجائز قرار دیا ہے؛ البتہ متاخرین احناف نے تعامل ناس اور عموم بلوئی کی وجہ سے مجھلی پالن کے تالاب کو مع ان کے حاشیہ کناروں کے جیسا کہ رائج ہے اجارہ پر لینے اور دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ”درمختار“ و ”عالمگیری“ میں اسی پر فتویٰ ہے۔

وإن استأجر النهر والقناة مع الماء لم يجز أيضا؛ لأن فيه استهلاك العين أصلا، والفتوى على الجواز لعموم البلوى. (هندية، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر، زكريا قديم ۴ / ۴۴۱، جديد ۴ / ۴۷۶)

إجارة الأرض مع الماء أو المرعى يجوز ذلك في الجملة اتفاقا لكن الحنفية لا يجيزون إجارة الآجام والأنهار للسمك ولا المرعى للكلاء قصدا، وإنما يوجر له الأرض فقط، ثم يبيع المالك المستأجر الانتفاع بالكلاء، وذلك لأن الانتفاع بالكلاء لا يكون إلا باستهلاك عينه. (الموسوعة الفقهية بيروت ۱ / ۲۷۷)

ولكن جوز الفقهاء العظام المتأخرون من الحنفية إجارة البرك والحياض وغير ذلك مع موضع معلوم لعطن الماشية وسيح الماء والمرعى لصيد السمك وتنمية لعموم البلوى وتعامل الناس، قال الرفاعي في تقريراته: فلا يصح إجارة الآجام والحياض لصيد السمك ورفع القصب، وقطع الحطب أو لسقي أرضه أو غنمه، وكذا إجارة المرعى والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية وسيح الماء والمرعى. (تقريرات رافعي مع الشامي، كراچی ۵ / ۱۴۰، زكريا ۷ / ۱۴۰، شامي، مطلب الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح كراچی ۶ / ۶۳، زكريا ۹ / ۸۷)

والفتوى عليه كما في الدرالمختار والهندية، وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء، وبه يفتى لعموم البلوى. (الدرالمختار على الشامي، زكريا ۹ / ۸۶، كراچی ۶ / ۶۳)

والفتویٰ علی الجواز لعموم البلوی ولو استأجر أَرْضًا مع الماء تجوز تبعاً. (ہندیہ، زکریا قدیم ۴/ ۴۱، جدید ۴/ ۴۷۶)

عن أبي الزناد قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أن نؤاخرها، فكتب إلي أن افعلوا. (البحر الرائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، كوثنه ۶/ ۷۳، زکریا ۶/ ۲۰، شامی، مطلب فی حکم إيجار البرک للاصطیاد، زکریا ۷/ ۲۴۹، کراچی ۵/ ۶۱)

و کلم الشامی فی هذا المقام، ورجحه عدم الجواز نقلاً عن قول الإيضاح، ولكن لتعامل الناس و عموم البلوی ینبغی أن يكون هذا الأثر حجة علی إجارة البرک و الحياض، و أیده عبارة الدر المختار و الہندیہ، و انظر مزید الشرح فی کتابی المسمی "بأنوار رحمت" ص: ۲۹۲، إلى ۲۹۵. فقط و الله سبحانه و تعالی اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
کیم ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۷۵۶)

گائے کا بچہ ادھیہا پروینا

سوال [۹۶۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے گائے کا بچہ کسی کو پالنے کے لئے دیا اور کہا کہ اس وقت اس کی قیمت چار سو روپے ہے، یہ میرا رہے گا، پھر بڑا ہونے کے بعد جو روپے میں اضافہ ہوگا، دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، شرعاً اس صورت کا کیا حکم ہے؟ تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: عبدالحمید بانگلوئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا معاملہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کر رکھا ہے، تو ایسا معاملہ فوری طور پر ختم کرنا لازم ہے اور پالنے والے کو گھاس وغیرہ کی قیمت اور دیکھ ریکھ کی اجرت دے کر جانور واپس لینا لازم ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل، ص: ۱۵۷، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۴/۲۶۰، جدید ڈائجیل ۱۶/۵۹۵)

دفع رجل بقرة على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافاً، فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة أجر قيامه وقيمة علفه. (عالمگیری، کتاب الإجارة، الباب الخامس عشر، الفصل الثالث، زکریا قدیم ۴/۴۴۵، جدید ۴/۴۸۱، فتاویٰ قاضی خان، جدید زکریا ۲/۲۱۰، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۲/۳۳۰، فتاویٰ بزازیہ، جدید زکریا ۲/۲۱-۲۲، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۵/۳۷، تاتارخانیہ، زکریا ۷/۵۰۵، رقم: ۱۱۰۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 یکم محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۶۹۷۷/۳۵)

جانور کو ادھیار پر دینا

سوال [۹۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اگر کوئی بھینس یا بکری وغیرہ کا بچہ کسی کو اس شرط پر دے کہ اس کے بڑا ہونے کے بعد اس کا دودھ، ایسے ہی اگر وہ بیچا جائے تو اس کی قیمت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، تو کیا صحیح ہے؟

المستفتی: محمد جاوید، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بھینس بکری کا بچہ کسی کو اس شرط پر دینا کہ بڑا ہونے کے بعد اس کا دودھ یا بیجنے کی صورت میں اس کی قیمت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، اس کو عوام میں ادھیہا پر دینا کہا جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو جس کو دیا گیا ہے وہ اجرت مثل کا مستحق ہوگا اور جانور سے پیدا ہونے والا دودھ بچہ وغیرہ سب چیزیں مالک ہی کی ملکیت ہوں گی۔

دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا، فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ماسرحها في المرعى، ويرد كل اللبن. (عالمگیری، کتاب الإجارة، الباب الخامس عشر، الفصل الثالث، زکریا قدیم ۳/ ۴۴۵، جدید ۴/ ۴۸۱، فتاویٰ قاضی خان، جدید زکریا ۲/ ۲۱۰، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۲/ ۳۳۰، فتاویٰ بزازیہ، جدید زکریا ۲/ ۲۱-۲۲، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۵/ ۳۷) إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفان فما حدث فهو لصاحب البقرة، ولذلك الرجل مثل علفه الذي علفها، وأجر مثله لمن قام عليها. (تاتارخانیہ، زکریا ۷/ ۵۰۵، رقم: ۱۱۰۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۵/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۱۲۴/۲۰)

ادھیہا پر جانور دینے کے ناجائز ہونے کی علت

سوال [۹۶۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مادہ جانوروں کو اگر کوئی شخص ادھیہا پر دے تو اس کے ناجائز ہونے کی اصل علت کیا ہے،

جس کی وجہ سے ادھیہا پردینا جائز نہیں ہے، نیز مزارعت کے اندر اگر ایک شخص کی جانب سے زمین ہو اور باقی تمام کام (ہل، بیل، بیج وغیرہ) عامل کی جانب سے ہو تو یہ بھی ناجائز ہونا چاہئے؟ تمام مسئلہ دلائل سے واضح کریں۔ بینوا تو جروا

المستفتی: صغیر الدین جامعہ ہذا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مادہ جانور کو ادھیہا پردینے کی صورت میں جو کچھ دیکھ رکھ کر کرنے والے کو دودھ یا پیدا ہونے والے بچوں کی شکل میں ملتا ہے، یہ گویا کہ اس کے عمل ”دیکھ رکھ اور چارہ“ وغیرہ کی اجرت ہے اور اجارہ میں مدت اجارہ اور اجرت و منفعت کا متعین ہونا ضروری ہے، اگر مدت اجارہ یا اجرت و منفعت متعین نہ ہو تو ایسا عقد شرعاً فاسد ہوتا ہے اور عقد فاسد جائز نہیں ہے۔ اور مادہ جانور کو ادھیہا پردینے کی صورت میں یہ سب چیزیں متعین نہیں ہوتیں، اسی بنا پر ادھیہا کا معاملہ جائز نہیں ہے۔

ولا يصح أي الإجارة حتى تكون المنافع معلومة؛ لأن الجهالة في

المعقود عليه، وفي بدله تفضي إلى المنازعة. (هداية، كتاب الإجارة، أشرفي

ديوبند ۳/۲۹۳، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۵/۱۰۵، زکریا دیوبند ۶/۷۷، الجوهرۃ

النيرة، إمدادیه ملتان ۱/۳۱۶، دارالکتاب دیوبند ۱/۳۰۶)

مزارعت میں بیج انسان اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے اور ادھیہا کے معاملہ میں جانور کے بیج (مادہ منویہ) میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے؛ بلکہ اس میں جانوروں کا آپس کا دخل ہے، اسی طرح نر اور مادہ جانور کے بجانست کرنے کے بعد بچہ مادہ جانور کے پیٹ میں آچکا ہے یا نہیں؟ اس کا علم انسان کو نہیں ہوتا؛ بلکہ یہ سب خدا کے علم میں ہے اور مادہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگرانی میں پرورش پاتا ہے، انسان اور انسان کا کوئی دخل اور اختیار اس میں نہیں ہوتا، اس طرح ادھیہا کے معاملہ میں ہر چیز غیر معلوم اور غیر متعین ہے۔ اور

زمین میں بیج بونے اور پھر پودا اگنے، اس کے بعد کھا دا اور اس کی ہر طرح کی حفاظت سب کچھ انسان کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس طرح مزارعت میں ہر چیز معلوم و متعین ہے؛ اس لئے ادھیا کے معاملہ اور مزارعت کے معاملہ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں؛ لہذا ادھیا کے معاملہ کو معاملہ مزارعت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۳۳۶-۷)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۷/۱۴۲۲ھ

ادھیا پر دیئے گئے جانور کے جواز کی شکل

سوال [۹۶۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے عمر کو ایک چھوٹا سا مادہ جانور گائے کا بچہ دیا کہ تم اس کی پرورش کرو، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگا، مجھے کبھی کبھار تھوڑا بہت دودھ پینے کے لئے دینا اور اخیر میں جب چاہوں گا اپنا اصل جانور واپس لے لوں گا، تو کیا یہ معاملہ شرعاً جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کے جواز کی کوئی صورت بتلا دیں نوازش ہوگی؛ کیوں کہ علاقہ میں اس کا بہت رواج ہو چکا ہے۔ فقط والسلام

المستفتی: قاری ارشاد احمد جامع مسجد بہیڑی نل پورہ، بریلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کا عمر کو مادہ جانور پرورش کے لئے اس شرط پر دینا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، تو وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور مجھے کبھی کبھار تھوڑا بہت دودھ پینے کے لئے دینا شرعی طور پر اس طرح کا معاملہ ناجائز اور فاسد ہے؛ البتہ اس کے جواز کی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ مالک اس جانور کی مناسب قیمت لگا کر نصف حصہ پرورش کرنے والے کے ہاتھ فروخت کر دے، پھر اس کی قیمت معاف کر دے، تو ایسی صورت میں جانور

دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور اس کا بچہ اور دودھ بھی دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا اور پرورش کرنے والے نے جو چارہ کھلایا ہے، اس کی نصف اجرت جو مالک پر لازم ہوئی پرورش کرنے والا اس کو معاف کر دے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر/ ۱۱۵، فتاویٰ محمودیہ قدیمہ ۴/ ۳۶۰، ۱۲/ ۴۰۵، جدید ڈائجیل ۱۶/ ۵۹۵، ۵۹۹، بہشتی زیورہ ۵/ ۵۰)

دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا، فالإجارة فاسدة، والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمان يبرئه عنه، ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل، فيكون بينهما. (عالمگیری، کتاب الإجارة، الباب الخامس عشر، الفصل الثالث، زکریا قدیم ۴/ ۴۴۵، جدید ۴/ ۴۸۱، فتاویٰ قاضی خان، جدید زکریا ۲/ ۲۱۰، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۲/ ۳۳۰، فتاویٰ برازیہ، جدید زکریا ۲/ ۲۱-۲۲، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۵/ ۳۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۶/۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۷۱۶/۳۶)

گا بھن کرانے کی اجرت لینا

سوال [۹۶۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک صاحب کے یہاں بھینسہ ہے، وہ اس سے بھینس گا بھن کراتے ہیں اور اس کی اجرت بھی لیتے ہیں، کیا اس کام کی اجرت لینا اور پیشہ کے طور پر یہ کام کرنا جائز ہے؟

المستفتی: قاری تسلیم احمد، مدرسہ انوار العلوم کراچی پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس کی اجرت ناجائز اور حرام ہے۔

عن ابن عمر - رضی اللہ عنہ - قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن عسب الفحل. (صحیح بخاری، کتاب الإجازات، باب عسب الفحل ۱/ ۳۰۵، رقم: ۲۲۲۹، ف: ۲۲۸۴، سنن الترمذی، الیوع، باب ماجاء فی کراهیة عسب الفحل، النسخة الهندیة ۱/ ۲۴۰، دارالسلام، رقم: ۱۲۷۳)

ولا یجوز أجره عسب التیس. (هدایة، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، اشرفی دیوبند ۳/ ۳۰۳، الجوهرة النيرة، إمدادیہ ملتان ۱/ ۳۲۷، دارالکتاب دیوبند ۱/ ۳۱۷، بدائع الصنائع، زکریا ۴/ ۱۷، شامی، کراچی ۶/ ۵۵، زکریا ۹/ ۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۱۰/۱۴۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ شوال المکرم ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۶)

گائے، بھینس جفتی کرانے کی اجرت لینا

سوال [۹۶۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے علاقہ میں بھینس اور گائے کی جفتی اجرت پر کراتے ہیں اور بغیر اجرت کے جفتی کرانے پر بھینس اور سائڈ والے راضی نہیں ہوتے ہیں، اس صورت حال میں کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: محمد علی رامپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جانور کی جفتی کرانے پر اجرت کا لینا دینا دونوں ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

عن ابن عمر -رضی اللہ عنہ- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. (صحیح بخاری، کتاب الإجازات، باب عسب الفحل ۱/ ۳۰۵،

رقم: ۲۲۲۹، ف: ۲۲۸۴، سنن الترمذی، بیوع، باب ماجاء فی کراهیة عسب الفحل،
النسخة الهندیة ۱/ ۲۴۰، دارالسلام، رقم: ۱۲۷۳)

ولا تصح الإجارة لعسب التیس: وهو نزوه علی الإناث، وفي الشامية: لأنه عمل لا يقدر وهو الإحبال. (شامی، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب فی الاستئجار علی المعاصی، کراچی ۶/ ۵۵، زکریا ۹/ ۷۵، بدائع الصنائع، زکریا ۴/ ۱۷، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳/ ۳۰۳، الجوہرۃ النیرۃ، إمدادیہ ملتان ۱/ ۳۲۷، دارالکتاب دیوبند ۱/ ۳۱۷)

البتہ اگر نر جانور کا مالک بلا قیمت کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہے، تو مادہ کے مالک کے لئے قیمت دے کر جنتی کروانا جائز ہے؛ لیکن نر کے مالک کے لئے وہ اجرت کسی بھی طرح سے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور مادہ کا مالک اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار صرف نر کا مالک ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۰/ ۲۶۸، جدید زکریا ۹/ ۳۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ رجب ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/ ۳۲/ ۷۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۷/ ۱۴۲۳ھ

کمپنی کا اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے ممبر در ممبر بنانا

سوال [۹۶۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: R.M.P نام کی ایک تجارتی کمپنی ہے، جو اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے واسطہ در واسطہ ممبرس بناتی ہے، کمپنی اپنے ممبروں کو اپنے اپنے سلسلے کے تحت توسط در توسط بنائے ہوئے ہر ایک نئے ممبر کے حساب سے سلسلہ کے اوپر والے ہر ممبر کو -500 کی مقدار میں اجرت دیتی ہے، اس طرح اجرت دینے کا یہ سلسلہ ہر ممبر کے نیچے دونوں جانب بنائے ہوئے

عموماً آٹھ ممبروں تک چلتا ہے، اس کے بعد دائیں اور بائیں دونوں جانب دو جوڑے ممبرس بنانے پر -/2000، چار جوڑے ممبر بنانے پر -/4000 اور ابتدائی دو ممبرس بنانے والے کو ایک ہزار روپے ملیں گے، نیز کسی بھی سلسلہ کا کوئی ممبر اپنے دونوں جانب ایک ایک سو کر کے دو سو ممبرس بنا کر اگر ایک لاکھ روپے کمالے تو اس کے بعد ہر مہینہ میں آٹھ ممبرس بنانے پر مزید -/3000 روپے بطور انعام ملتے رہیں گے، اسی طرح سلسلہ وار ممبرس بناتے ہوئے اگر کوئی دونوں جانب سے پانچ سو ممبرس بنا کر -/2,50,000 کمالے تو ہر مہینہ بارہ ممبرس بنانے کی شرط پر -/6000 روپے مزید ملتے رہیں گے اور ہر ممبر پر الگ سے -/500 روپے ملتے رہیں گے، اس طرح ممبرس بنانے والوں کو تجارتی منافع سے ایک بڑی رقم مل جاتی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا ہے، شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک ممبر نیچے تک دو دو ممبر بنائیں، جب تک دو ممبر نہ ہوں اس وقت تک اجرت نہیں ملتی، اس لئے اوپر والے ممبروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک ممبر دو دو ممبر بنائیں، اس میں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ نیچے والے ممبرس نیا ممبر بنانے میں مدد کے لئے اس کے سلسلے کے اوپر والے ممبرس کو کسی بھی وقت بلا سکتے ہیں، ایسی صورت میں اوپر والے ممبرس کو حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ شکایت ہونے پر ممبر شپ ختم ہو سکتی ہے، اسی طرح اوپر والے نیچے والوں کو بلا سکتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنی میں شرکت کرنا اور توسط درتوسط ممبرس بنا کر ہر ایک ممبر کے حساب سے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ ممبر بننے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کمپنی سے کم از کم -/7000 روپے کا مال خریدنا ضروری ہے، بعض کا کہنا ہے کہ پہلے جس کو ممبر بنائے اس کی اجرت جائز ہے، نیچے والوں کے توسط سے اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نیچے والوں کے ممبر بنانے میں اوپر والوں کو ساتھ رہنا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے، اسی لئے تو کمپنی ان کو برضا و رغبت اجرت دیتی ہے اگرچہ نیچے والے ہر ایک ممبر کی مدد کے لئے حاضری

ضروری نہیں ہوتی؛ لیکن قوی امکان ہے، جیسے فوجی والے ہیں کہ ان کو ہر مہینہ میں کام کی نوبت نہیں آتی، پھر بھی تنخواہ ملتی ہے، تو پھر کمپنی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے اپنے ممبروں کی امکانی مدد کے پیش نظر جو بسا اوقات واقعی صورت اختیار کرتی ہے، اجرت دیتی ہو تو یہ کیوں جائز نہیں؟ بالتفصیل مدلل جواب سے نوازیں۔

اگر ایسی کمپنیوں میں شرکت کرنا یا ممبر بننا جائز نہ ہو تو ممبروں سے اس کمپنی کا مال ذاتی استعمال کے لئے خریدنا ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدہ: ۲] کے زمرہ میں تو نہیں آئے گا؟ نیز جائز نہ ہو تو اس کی متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟

سوال: موجودہ دور میں حالات کے پیش نظر مسلم بچیوں کے لئے عصری تعلیم کا حصول ضروری سمجھا جانے لگا ہے، ایسی صورت میں عوام کے لئے علماء بھی حتی المقدور پردہ کا لحاظ کرتے ہوئے سرکاری اسکولوں، کالجوں میں اپنی بچیوں کو عصری تعلیم دلائیں تو از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟ نیز راستہ میں آنے جانے کی سہولت اور اپنی تحفظ کی خاطر بچیاں سائیکل یا موٹر سائیکل استعمال کریں تو شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد مسعود کریم مرشد آبادی، خادم التذریس والافتاء فی الجامعہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کی تفصیل کے مطابق جب کوئی شخص کمپنی کا ممبر بنتا ہے اور وہ ممبر پھر کسی دوسرے شخص کو ممبر بناتا ہے، تو دوسرے شخص کو کمپنی کا ممبر بنانے میں چونکہ پہلے ممبر کا دخل ہے، اس لئے دوسرے شخص کو ممبر بنانے کی اجرت لینا تو جائز ہے؛ البتہ جب یہ دوسرا ممبر کسی تیسرے شخص کو ممبر بنائے گا تو اس تیسرے شخص کو ممبر بنانے میں پہلے ممبر کا کوئی عمل شامل نہیں ہے؛ اس لئے تیسرے ممبر کے نتیجہ میں پہلے ممبر کو جو اجرت ملتی ہے وہ جائز نہیں ہے؛ تاہم سوال نامہ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب دوسرا شخص کسی تیسرے کو ممبر بناتا ہے تو تیسرے شخص کو ممبر بنانے میں پہلے ممبر سے مدد لینا پڑتی ہے اور کمپنی پہلے ممبر کو اسی

مدد کا عوض دیتی ہے، تو یہاں تک اس پہلے ممبر کی اجرت کو بھی جائز کہا جاسکتا ہے؛ لیکن جب تیسرا ممبر کسی چوتھے شخص کو ممبر بنائے گا تو اس کو سمجھانے کے لئے دوسرے ممبر کی ضرورت تو ہو سکتی ہے؛ لیکن پہلے ممبر کی اس میں کوئی ضرورت نہیں؛ اس لئے پہلے ممبر کو اجرت دینا جائز نہ ہوگا۔ اور کمپنی کا یہ طریقہ یکے بعد دیگرے یوں ہی چلتا رہتا ہے؛ اس لئے کمپنی کا طریقہ کار مجموعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اور ایسی کمپنیوں میں شرکت کرنا اور اس کا ممبر بننا جائز نہیں ہے؛ البتہ اس کمپنی کا کوئی سامان ممبر بننے بغیر ذاتی استعمال کے لئے خریدنا بلاشبہ جائز اور درست ہے۔

عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالوا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت ۱۱ / ۳۳۹، رقم: ۲۲۵۰۰)

سئل محمد بن سلمة عن أجره السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶ / ۶۳، زكريا ۹ / ۸۷، تاتارخانية، زكريا ۱۵ / ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود، مطلب في التعزير بأخذ المال، كراچی ۴ / ۶۱، زكريا ۶ / ۱۰۶، البحر الرائق، كونه ۵ / ۴۱، زكريا ۵ / ۶۸، الموسوعة الفقهية ۲۱ / ۱۱۲، قواعد الفقه، أشرفي ديوبند / ۱۱۰، رقم: ۲۶۹)

والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (شامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، كراچی ۵ / ۶۹، زكريا ۷ / ۲۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ شعبان ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۶۹ / ۳۹)

’ایم وے‘ کمپنی کی اسکیم کا حکم

سوال [۹۶۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: آج کل کمپنی والے تجارت کا جو میٹورک طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ جس کی تفصیل یہ ہے: طریقہ کی تفصیل لکھنے سے پہلے کمپنی کا مختصر تعارف عرض خدمت ہے، اس کمپنی کا نام ’ایم وے‘ ہے، یہ کمپنی امریکہ میں ہے، اس کے مالکان مذہباً عیسائی ہیں اور جیسا کہ اس کمپنی کے پرچار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی کوئی ناجائز اور حرام اشیاء جیسے شراب وغیرہ نہیں بناتی، سامانوں کی فہرست بھی روانہ خدمت ہے اور یہ فہرست کمپنی کے پرچار کرنے والوں سے حاصل کی گئی ہے، یہ فہرست واقعتاً صحیح ہے یا نہیں؟ اور ان کے علاوہ کوئی ناجائز اشیاء کمپنی بناتی ہے یا نہیں؟ اس کی صحیح تحقیق خیلے دشوار است۔ طریقہ تجارت ملاحظہ ہو:

سب سے پہلے زید -/4400 روپے کمپنی میں داخل کر کے کمپنی کا ممبر بنے گا، مذکورہ رقم داخل کرنے کے بعد کمپنی زید کو ایک کٹ دے گی، جس میں مذکورہ کمپنی ہی کا تیار کردہ عام استعمالی سامان جیسے صابن صرف وغیرہ -/2600 روپے کا ہوگا، جو جمع کردہ -/4400 روپے کے عوض میں ملے گا، جیسا کہ پرچار کنندہ کا کہنا ہے کہ کمپنی مذکورہ اشیاء اسی وجہ سے دیتی ہے، تاکہ ممبر پہلے خود ان اشیاء کو استعمال کر کے تجربہ کر لے کہ واقعتاً ’ایم وے‘ کمپنی کا سامان دوسری کمپنیوں کے مقابلہ میں فضیلت رکھتا ہے یا نہیں؟ تاکہ دوسرے کو سمجھانے میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ اور بقیہ -/1800 روپے اتنا کمپنی اپنے پاس جمع رکھ لیتی ہے، اب زید کمپنی کا ایک فرد یعنی ممبر بن گیا، اب زید کو دو فائدہ حاصل ہوگا: اول یہ ہے کہ اب جو بھی سامان زید کمپنی سے خریدے گا اس کو دوسروں کے مقابلہ میں ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زید عمر بکر خالد کو مذکورہ کمپنی کی تیار کردہ اشیاء کی خصوصیت سمجھا کر عمر بکر خالد کو کمپنی کا ممبر بنا دیا، ممبر بننے کی صورت وہی ہے جس طریقہ پر زید ممبر بنا تھا، مذکورہ

شخصوں کو ممبر بنانے کی وجہ سے کمپنی زید کو کچھ رقم بطور کمیشن دے گی، اسی طریقہ سے زید جتنے شخصوں کو ممبر بناتا رہے گا زید کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا، اب جو لوگ زید کے سمجھانے سے ممبر بنے ہیں، وہ بھی مذکورہ دونوں فائدوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اب وہ بھی کمپنی سے کوئی سامان خریدیں گے تو ان لوگوں کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اور یہ عمر بکر اور خالد اگر کسی دوسرے شخص کو کمپنی کا ممبر بنا دیں تو کمپنی ان لوگوں کو بھی کمیشن دے گی، ساتھ ساتھ اس میں سے زید کو بھی کچھ کمیشن ملے گا۔ یہ سلسلہ جتنے نیچے تک چلا جائے ہر اوپر والے کو کمیشن ملے گا ہی، ساتھ ساتھ زید کو بھی اس کا کمیشن ملے گا، تو اس طرح لا متناہی کمیشن کے لالچ میں اگر ہر شخص جو کمپنی کا ممبر بنتا ہے، وہ دوسروں کو کمپنی کا ممبر بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اس صورت حال میں کمپنی کا ممبر بننا اور دوسروں کو ممبر بنا کر فائدہ حاصل کرنا از روئے شرع کہاں تک درست ہے؟

نوٹ: اگر زید کمپنی کے طریقہ کے مطابق کام کر لے تو وہ اپنی رقم واپس بھی لے سکتا ہے، پوری رقم اس کو واپس مل جائے گی۔

المستفتی: محمد ابرار، مدرسہ جامع العلوم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”ایم وے“ کمپنی کی اسکیم کے متعلق متعدد استفتاء ہمارے دارالافتاء میں آئے، مذکورہ استفتاء بھی اسی کمپنی سے متعلق ہے۔ اور سوال نامہ میں کمپنی کی اسکیم کی پوری تفصیل ذکر نہیں کی ہے، سوال نامہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ دو چیزیں حد جواز کے دائرہ میں داخل ہیں: (۱) ۴۴ سو روپے جمع کر کے کٹ صابن صرف وغیرہ جو ممبر کو ملے گا اس کا لینا جائز ہے۔ (۲) وہ شخص براہ راست ممبر بن کر جن لوگوں کو ممبر بنائے گا، اس ممبر سازی کی اجرت اس کے لئے لینا جائز ہے اور کمپنی کے لئے دینا بھی جائز ہے؛ کیوں کہ یہ دلالی کی اجرت ہے، جو جائز ہے۔

عن الحکم وحماد عن ابراہیم وابن سیرین قالوا: لا بأس بأجر

السمسار إذا اشترى يدا بيد. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت ۳۳۹/۱۱، رقم: ۲۲۵۰۰)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زكريا ۸۷/۹، تاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

ان کے علاوہ کمپنی نے اسکیم کے جتنے پہلو بتائے ہیں، وہ سب ناجائز ہیں اور وہ یہ ہیں کہ پہلا ممبر جن لوگوں کو براہ راست ممبر نہیں بناتا ہے۔ اور دوسرے ممبروں کی کارکردگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو دوسروں کی کارکردگی میں شرعی طور پر وہ نفع کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ایم وے کمپنی کی دوسری ناجائز شرطیں ہیں، جو اس سوال نامہ میں مذکور نہیں ہیں، اس قسم کی کمپنی میں ممبر بننا اور دوسروں کو بھی ممبر بنانا جائز نہیں ہے۔

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (قواعد الفقه،

أشرفي ديوبند/ ۱۱۰، رقم: ۲۶۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ شوال ۱۴۲۲ھ

۱۱۸۳/۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۱۷۹)

”ہیلوانڈیا“ کا ممبر بننا

سوال [۹۶۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک کمپنی جس کا نام ”ہیلوانڈیا“ ہے، اس کمپنی کا جو شخص بھی ممبر بنے اس کو پچیس سو روپے جمع کرنے ہوتے ہیں، جس کے بدلہ میں کمپنی اس شخص کو ایک بیگ دے

گی، جس کی قیمت تقریباً چار سو روپے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کمپنی کے پچیس سو کوپن ہوتے ہیں، ان کو پن کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی نے کچھ دوسری کمپنیوں سے بات کر رکھی ہے، مثلاً اگر کسی کو موبائل لینا ہے، تو بازار میں اس کی قیمت اگر چھ ہزار روپے ہے تو جس کے پاس کوپن ہے اور جو ”ہیلوا نڈیا“ کمپنی کا ممبر ہے، اس کو یہ چھوٹ ملے گی کہ پانچ ہزار روپے نقد اور بقیہ ہزار کوپن دے دے، تو اس کو موبائل مل جائے گا، یعنی ایک ہزار روپے کا اس کو فائدہ ہوا، اسی طرح وہ بقیہ پندرہ سو کوپن کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؛ لیکن اس میں اصل کمائی یہ ہے کہ جو شخص ”ہیلوا نڈیا“ کمپنی کا ممبر بنا وہ اپنے نیچے دو ممبر بنائے، تو اس کو پہلے ممبر سے پانچ سو روپے اور دوسرے ممبر سے پانچ سو روپے کمپنی کی طرف سے ملیں گے، خیال رہے کہ وہ دو ممبر بھی ڈھائی ہزار روپے جمع کر کے ممبر بنیں گے، اب اگر وہ دونوں ممبر بھی اپنے اپنے نیچے دو دو ممبر بنائیں تو ان کو بھی پانچ پانچ سو روپے ملیں گے۔ اور جو اوپر والا پہلا ممبر تھا اس کو انہیں ممبران سے تین تین سو روپے ملیں گے، اب اگر یہ لائن جتنی زیادہ لمبی ہوگی اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے، اور جس نے ڈھائی ہزار روپے لگائے تھے، اگر اس کے ممبر زیادہ ہوتے رہے تو اس کی قیمت بڑھتی رہے گی اور کمپنی ہر ماہ اتنی رقم دیتی رہے گی، جتنے اس نے ممبر بنائے ہیں اول ممبران سے پانچ پانچ سو روپے ملیں گے، اس کے بعد دس ممبروں سے تین تین سو روپے ملیں گے، جب گیارہواں ممبر بنے گا تو چار سو روپے ملیں گے، وہ شخص ممبر بنانے میں کافی محنت کر رہا ہے اور دوسروں کو ممبر بنانے کی ترغیب دیتا ہے، جس طرح کاروبار میں محنت کی جاتی ہے، اسی طرح اس کام میں محنت کر رہا ہے، اب اس سے جو رقم حاصل ہو رہی ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے۔

المستفتی: محمود الحق قصبہ محمدی لکھنؤ پور کھیری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ اور اس سے منسلک پرچہ کو بار بار پڑھنے کے

بعد اس میں سے تین چیزیں حد جواز کے دائرہ میں سمجھ میں آئیں۔ (۱) ۲۵ سو روپے جمع کرنے کے بعد ممبر کو جو بیگ کو پین قلم اور پیڈ ملے گا، اس کا لینا جائز ہے۔

(۲) کمپنی چھ ہزار کا موبائل ممبر کو ۵۰ ہزار روپے اور ایک ہزار کو پین کے عوض دیتی ہے، یہ شکل بھی جائز ہے، گویا کہ کمپنی کے نزدیک ایک ہزار کو پین کی حیثیت ایک ہزار روپے کی ہے۔

(۳) وہ شخص براہ راست ممبر بن کر جن لوگوں کو ممبر بنائے گا، اس ممبر سازی کی اجرت اس کے لئے لینا جائز ہے اور کمپنی کے لئے دینا بھی جائز ہے؛ کیوں کہ یہ دلالی کی اجرت ہے، جو جائز ہے۔

عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالوا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد. (المصنف لابن أبي شيبة، موسسة علوم القرآن، بيروت ۱۱/۳۳۹، رقم: ۲۲۵۰۰)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زكريا ۹/۸۷، تاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

ان کے علاوہ سوال اور منسلک پرچہ میں جتنے پہلو بتائے گئے ہیں، وہ سب ناجائز ہیں، ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کسی ممبر کا کسی حادثہ میں انتقال ہو جائے تو کمپنی ایک لاکھ روپے دے گی، یہ لائف انشورنس کی طرح سود اور قمار دونوں کی شکل پائے جانے کی وجہ سے ناجائز ہے اور حرام ہے۔

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. [البقرة: ۲۷۵]

دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلا ممبر جن لوگوں کو براہ راست ممبر نہیں بناتا ہے اور دوسرے ممبروں کی کارکردگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو دوسروں کی کارکردگی میں شرعی طور پر وہ نفع کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پہلا ممبر ۱۵ اردن کے اندر ۱۵ ممبر بناتا ہے اور اس ممبر نے جس دوسرے کو ممبر بنایا ہے، وہ دوسرا ممبر بھی ۱۵ اردن کے اندر ۱۰ ممبر بنا دے تو پہلے ممبر کو ایک ہزار روپے یا ایک کیمہ ملے گا یہ شکل بھی جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں بھی دوسرے کی کارکردگی اور عمل پر نفع کی شرط ہے؛ اس لئے اس قسم کی کمپنی میں ممبر بننا اور دوسروں کو بھی ممبر بنانا جائز نہیں ہے۔

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (قواعد الفقہ،

أشرفي ديوبند / ۱۱۰، رقم: ۲۶۹، الموسوعة الفقهية ۲۱ / ۱۱۲، ہندیہ، زکریا ۲ / ۱۶۷،

جدید ۲ / ۱۸۱، البحر الرائق، کوئٹہ ۵ / ۴۱، زکریا ۵ / ۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

۱۱/۶/۱۴۲۳ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۷/۸۰۸۰)

”گلینز ٹریڈنگ انڈیا“ کی ممبری کا شرعی حکم

سوال [۹۶۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ”گلینز ٹریڈنگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ“ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے اندر کام کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے، مثلاً میں اس کمپنی کے اندر جو بنگ لیتا ہوں، تو جو بنگ -30 روپے کا نوم لینے سے ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں کمپنی سے سامان خریدتا ہوں اپنے لئے جیسے: کریم، تیل، صابن، صرف کپڑے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد میں کچھ لڑکوں کو کمپنی سے سامان خریدواتا ہوں، تو کمپنی نے اس پر کچھ منافع رکھا ہے، جیسے میں ایک آدمی کو آٹھ ہزار آٹھ سو

روپے کا سامان خریدو تا ہوں تو کمپنی اس پر مجھ کو -400 روپے دیتی ہے، پھر میں یہی کام ان سے جن کو میں نے اس کمپنی میں لگایا ہے، اس وقت کراتا ہوں جب تک وہ اس بزنس کی پوری ٹریننگ نہیں دے دیتے وہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، تو کمپنی ان کو بھی ایسے ہی منافع دیتی ہے، جس طرح سے مجھ کو دیا تھا اور مجھ کو بھی (یعنی جتنی ہماری بزنس ID پر IP ہوتی ہے) اتنا ہی پیسہ ملتا ہے، رہی بات محنت کی جن آدمیوں کو میں کمپنی میں جو بنگ کراتا ہوں تو ان پر میری محنت یہ ہے کہ میں ان کو بلا کر کمپنی میں لگا رہا ہوں، اس کے بعد جن لڑکوں کو وہ بلا تے ہیں جن کو میں نے بلا یا تھا، تو اس پر میری محنت یہ ہے کہ میں ان کو آفس کے اندر لے جا کر ان کا کام کراتا ہوں، ان کے کاغذات جو آفس کے اندر لیتے ہیں، ان کو بھرتا ہوں اس کے بعد ان کی جو ٹریننگ چلتی ہے اس کو خود سے ٹریننگ دس سے پندرہ دن دیتا ہوں، صبح و شام ۲-۲ گھنٹے اور اس کے لئے باضابطہ کرایہ پر ایک بہت بڑا ہال لیتا ہوں، اس کے بعد ان کے رہنے کے لئے روم دلانا ان کو روم میں رکھنا یہ ذمہ داری ہے، تو اس طرح کا کام کرنا اور اس پر اجرت (یعنی نفع) لینا کیا ہمارے لئے جائز ہے یا ناجائز؟ آپ حضرات سے مودبانہ درخواست ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہوں، جواب جلدی دے دیں؛ کیوں کہ ہماری ٹیم میں کچھ لڑکے فتویٰ آنے تک کام سے رکے ہوئے ہیں۔

نوٹ: یہ کمپنی ”ایم وے“، ”آر، سی، ایم“ اور دیگر کمپنیوں کی طرح نہیں ان کمپنیوں کے اندر جو بنگ لینے کے بعد گھر بیٹھے پیسے لیتے رہو، مگر اس کمپنی میں یہاں رہ کر خود سے محنت کرنی پڑتی ہے۔

المستفتی: ایم ایس مہیما ٹریڈرس، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس معاملہ کا نام بدلا ہوا ہے، شکل وہی ہے، جو ”ایم وے“ کمپنی کی اسکیم ہوتی ہے، اس میں اوپر والے کی محنت ایک دفعہ ہوتی ہے، نیچے والوں کو

ممبر بنانے کے لئے اس کی اجرت جائز ہے، بعد میں نیچے جو محنت کریں گے؛ کیوں کہ اس میں اوپر والوں کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کو اپنی اجرت مل چکی ہے؛ اس لئے نیچے والوں کی اجرت میں سے جو اوپر والوں کو مل رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے؛ اس لئے شرعاً یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور فیکٹری اور کمپنی کے مالک کی جو مثال پیش کی گئی ہے، وہ مثال غلط ہے، اس لئے کہ فیکٹری اور کمپنی مالک کی ملکیت میں ہوتی ہے اور یہاں نیچے والے اوپر والوں کی ملکیت میں نہیں ہوتے، نیز یہ جو کہا گیا ہے کہ نیچے والوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، یہ محض بے جا بات ہے، کسی بھی سامان کی خریداری کے لئے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، نیز خریدار اپنے سامان کے خریدنے میں خود مختار ہوتا ہے، اور بچپن سے خود سیکھا ہوا ہوتا ہے۔

الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً، فيبيعه من غيره، ثم يشتريه منه. (البحر الرائق، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ۷/۲۸۲، كراچی ۷/۱۶۶، منحة الخالق على البحر الرائق، زكريا ۷/۲۸۲، كراچی ۷/۱۶۶، ہندیہ، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع، زكريا قديم ۳/۵۸۹، جديد ۳/۵۰۰، شامی، زكريا ۸/۲۵۷، كراچی ۵/۵۲۱)

إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح، وإن أطلق له الموكل بقوله: بع ممن شئت؛ لأنه يصير حينئذ متولياً طرفي العقد، وهو لا يجوز. (شرح المحلّة ۲/۸۰۸، رقم المادة: ۱۴۹۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۰۱۸/۴۱)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۶/۱۴۳۶ھ



۳/ باب أجرة الدلال والسمسار

دلال مستحق اجرت کب ہوتا ہے؟

سوال [۹۶۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک ایجنٹ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کا مکان پینسٹھ لاکھ میں فروخت کرا دوں گا؛ لیکن کمیشن ایک پرسینٹ لوں گا، اس پر میں نے کہا کہ ستر لاکھ کا دلوا دو تو میں ایک پرسینٹ کمیشن دے دوں گا، اس پر ایجنٹ نے کہا کہ آپ خریدار کے سامنے ایک بار میٹنگ کر لو، آپ ستر لاکھ کا طے کر لو، بہر حال خریدار سے میٹنگ کرانے پر خریدار نے پینسٹھ لاکھ کی قیمت لگاتے ہوئے دو لاکھ کا بیعانہ سامنے رکھا، جس کو میں نے لینے سے انکار کر دیا، تو خریدار دو لاکھ کا بیع نامہ اس شرط پر چھوڑ گئے کہ آپ واپل وعیال مشورہ کر لیں، یہ ہماری امانت سمجھ کر رکھیں؛ لہذا خریدار دو لاکھ روپیہ چھوڑ کر چلے گئے، مکان میں فرنیچر وغیرہ لگا ہوا تھا، جو ڈیڑھ لاکھ کا سودا ایک دیگر شخص کو کر دیا تھا، اگلے دن خریدار کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ڈیڑھ لاکھ والا فرنیچر چھوڑ کر سودا ہو گیا، قبل اس کے ایک میٹنگ خریدار کے مکان پر ہوئی کہ قیمت کم ہے، بڑھاؤ، تو اس پر ایجنٹ کے کمیشن پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ طے ہوا کہ قیمت پینسٹھ لاکھ رکھو، ایجنٹ کا کمیشن دونوں پارٹیاں پچیس پچیس ہزار ہی ادا کریں گی، جس کی اطلاع خریدار نے ایجنٹ کو دے دی کہ پچیس ہزار کمیشن ملے گا؛ لہذا طے ہونے کے بعد آٹھ لاکھ روپے بیع نامہ میں آکر دس لاکھ کا بیع نامہ ہو گیا، جس کی ایک تحریر لکھی گئی کہ بقایا پچپن لاکھ مارچ کے اندر ادا کر کے بیع نامہ کرا لیا جاوے گا، بعد میعاد گذر جانے کے بیع نامہ سوخت وسودا منسوخ ہو جاوے گا، کچھ دن گذر جانے کے بعد خریدار کے اہل وعیال نے مکان دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ شوروم میں جو فرنیچر لگا ہے وہ بہت پسند ہے، وہ مکان میں ہی شامل کر دیں، جس کا سودا ڈیڑھ لاکھ کا بھاؤ دیگر شخص کو کر چکے

تھے، بلکہ میں اپنی بیٹی کو بھی فرنیچر دینے کے لئے تیار نہیں، ادھر بیع نامہ کرانے کی میعاد بھی نکل گئی، خریدار ایجنٹ یہ کہنے لگے کہ ہم مکان فرنیچر شوروم والے کے ساتھ لیں گے، ورنہ ہمارا بیع نامہ واپس کر دو، جب کہ میعاد گزر جانے کے بعد بیعناہ سوخت (ختم) ہو گیا۔ ایجنٹ کے زیادہ دباؤ دینے پر کہ ایجنٹ سے خریدار کو کسی دیگر مکان کا سودا چچاس لاکھ میں کر رہا ہے، میں نے ایجنٹ سے کہہ دیا کہ میں خریدار کو بیع نامہ واپس کر دوں گا، اب تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایجنٹ نے کہا کہ بیع نامہ میرے سامنے واپس کرنا، میں نے جواب دیا، آپ کے سامنے کی کوئی پابندی میرے اوپر نہیں ہے، آپ ان خریدار کو چچاس لاکھ والا مکان دلادیں؛ لہذا خریدار میرے گھر پر آئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے شوروم کے فرنیچر مفت چھوڑنے کی التجاء کی؛ لہذا حالات کے مد نظر دوبارہ قیمت پینسٹھ لاکھ کی مع سامان فرنیچر شوروم طے کی گئی اور بیع نامہ رجسٹری کی تیاریاں چل رہی ہیں۔

(۱) جو سودا ایجنٹ نے کرا کر فرنیچر کی نزاع پیدا کر کے بیع نامہ واپس لینے کی مانگ کی اور کہا کہ اس نے خریدار کو دوسرے مکان کا سودا کر دیا ہے، ایسی حالت میں کوئی کمیشن ایجنٹ کو دینے کا حق ہی نہیں بنتا یا کوئی حق ہے؟

(۲) مندرجہ بیانات کے مد نظر بیع نامہ کی میعاد گزر جانے پر پہلا بیع نامہ سوخت ہوا یا نہیں؟ جس کی تحریر میں بھی پابندی ہے۔

(۳) ایجنٹ جائیداد کی فروختگی کرانے میں خریدار و جائیداد مالک سے یعنی دونوں طرف سے کمیشن لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟

المستفتی: محمد رئیس قریشی ولد برکت اللہ اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) دلال اپنی اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب بائع اور مشتری کے درمیان جوڑ پیدا کر کے عقد کو شروع سے آخر تک پایہ تکمیل کو پہنچادے اور

یہاں پر دلال کے ذریعہ سے جو سودا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور فرنیچر کے جھگڑے سے لین دین کا معاملہ ترک ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد میں خریدار کے گھر والوں کو فرنیچر کے پسند آنے کی وجہ سے از سر نو معاملہ طے کیا گیا ہے اور اس معاملہ کی تکمیل میں دلال کا کوئی دخل نہیں رہا ہے؛ اس لئے دلال اجرت کا مستحق نہیں رہا۔

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا شيء له (للدلال) لأن العادة فيما بين الناس أنهم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع. (هندية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة، زكريا قديم ٤ / ٤٥١، جديد ٤ / ٤٨٧)

قال لدلال: أعرض ضيعتي وبعها على أن لك الأجر كذا، فلم يقدر هو على إتمام الأمر فباعه دلال آخر، فليس للأول شيء؛ لأن العادة جرت بين الناس أنهم يأخذون ذلك بالبيع. (الولوالحجة، مكتبة دار الأيمان سهارنپور ٣ / ٣٤٠)

(۲) خریدار اور بیچنے والے کے درمیان جو بیع نامہ دے کر کے معاہدہ ہوتا ہے، خریداری نہ ہونے کی صورت میں بیع نامہ کو سوخت کر دینا جائز نہیں ہے؛ بلکہ خریداری نہ ہونے کی صورت میں بیع نامہ جو لکاتوں واپس کر دینا ضروری ہوتا ہے اور اس کو روک کر کے اپنے استعمال میں لینا بیچنے والے کے لئے ناجائز اور حرام ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان. (ابن ماجه، البيوع، باب بيع العربان، النسخة الهندية ١ / ١٥٩، دار السلام، رقم: ٢١٩٢، مسند أحمد بن حنبل ٢ / ١٨٣، رقم: ٦٧٢٣، سنن أبي داؤد، باب في العربان، النسخة الهندية ٢ / ٤٩٤، دار السلام، رقم: ٣٥٠٢)

ويرد العربان إذا ترك العقد على كل حال بالاتفاق. (بذل المجهود،

سهارنپور ٤ / ٢٨٧، دار البشائر الإسلامية، بيروت ١١ / ٢٢١)

(۳) دلال کے لئے جائیداد کی فروختگی کرانے میں بائع اور مشتری دونوں سے دلالی کی اجرت لینا جائز ہے۔

وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف، وتحتنه في الشامية: فتجب الدلالة على البائع، أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف. النخ (شامي، كتاب البيوع، قبيل مطلب في حبس المبيع زكريا ۷/۹۳، كراچی ۴/۵۶۰، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱/۲۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳/۱۱۱)

کسی چیز کی دلالی پر اجرت لینے کا شرعی حکم

سوال [۹۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک آدمی وکیل ہے، جو وکالت کا پیشہ کرتا ہے، یہ وکیل شخص لوگوں کو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس جو سرکاری غیر واجبی ہے، اس کو کم بھرنے یا بالکل نہ بھرنے کی ترکیب بتاتا ہے اور مشورہ دیتا ہے، بسا اوقات مشورہ میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، کیا وکیل شخص اس طرح ٹیکس کم بھرنے یا بالکل نہ بھرنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور اس پر اجرت لے سکتا ہے؟ اگر سامنے والا بطور اجرت سودی رقم دے تو وکیل کے لئے کیا حکم ہے؟

المستفتی: نثار احمد کلا، خادم دارالافتاء دارالعلوم گودھرا (گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وکیل انکم ٹیکس کے بھرنے یا نہ بھرنے میں سچے مشورے دیتا ہو تو اس کے لئے اجرت کا لینا جائز ہے؛ کیوں کہ یہ دلالی کی اجرت ہے، جو جائز ہے۔

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. (شامي، كتاب الإجارة، باب

ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال، زكريا ۹/۸۷، كراچی ۶/۶۳، ہندیہ، زکریا، قدیم

(۴/۴۵۰، جدید ۴/۴۸۷)

اور اگر اکثر و بیشتر جھوٹے مشورے دیتا ہو، تو پھر اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور سود کا پیسہ وکیل کی اجرت میں دینا یا افسر کی رشوت میں دینا جائز نہیں؛ بلکہ اپنی جیب خاص سے حلال پیسہ دے، ہاں البتہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں سرکاری بینک سے ملا ہوا سود کا پیسہ اس نیت سے دینا جائز ہے کہ ناجائز پیسہ جہاں سے آیا ہے وہاں واپس کیا جا رہا ہے؛ اس لئے کہ مال حرام میں اصل حکم شرعی یہ ہے کہ حرام جہاں سے آیا ہے کسی بھی عنوان سے اسے واپس کر دیا جائے؛ لہذا سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے عنوان سے سرکار کو واپس کر دینا جائز ہے۔

صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالا بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد كالبيع الفاسد والاستيئجار على المعاصي أو بغير عقد كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد لم يملكه، ويجب عليه أن يردّه على مالكة إن وجد المالك. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء سہارنپور ۱/۳۷، دارالبشائر الإسلامية ۱/۳۵۹، رقم الحدیث ۵۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۵/۳۴۹، جدید ۵/۴۰۴، شامی، زکریا ۹/۵۵۳، کراچی ۶/۳۸۵، البحر الرائق، زکریا ۹/۳۶۹، کوئٹہ ۸/۲۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۹۷۱)

کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟

سوال [۹۶۶۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عرب کنٹری میں جو مال فروٹ وغیرہ پیکنگ ہو کر جاتا ہے، وہ پیکنگ کا کنٹراک چند

مسلمان بھائی لے لیتے ہیں اور ایکسپورٹرز سے اپنی مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ فی بکس ہم یہ لیں گے، مثال کے طور پر روپیہ یا بارہ آنہ ہم نے ایکسپورٹرز سے طے کئے، اب سوال یہ ہے کہ چند مزدوروں نے مل کر دس ایکسپورٹرزوں کا کام پیکنگ کا لے لیا، کام لینے والے دو یا چار ہیں اور کام دس ایکسپورٹرزوں کا ہے، لازمی دوسرے مزدوروں کو پکڑ کر اس کام کو کرائیں گے، مگر ان مزدوروں سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم کو روپیہ بکس ملے یا بارہ آنہ ملے یا آٹھ آنہ بکس ملے، ہم آٹھ آنہ بکس دیں گے اور اس حساب میں سے ہم اپنی بھاگیداری بھی تم سے لیں گے، بھاگیداری بھی کام لینے والوں کو بچتی ہے، اور جو اوپر مزدوری لکھی ہوئی ہے اس میں سے چار آنہ یا دس پیسہ بکس الگ بچتے ہیں، اور باقی مزدور اس شرط پر منظور ہو جاتے ہیں، کنٹراک لینے والوں کی یہ کمائی جائز ہے یا ناجائز؟

(۲) کرافورڈ مارکیٹ یا کسی بھی مارکیٹ کے جو فروٹ بیوپاری ہیں، ان کو دلی کے یا کہیں کے بھی لوگ اپنا مال بیچنے کے لئے بھیجتے ہیں اور ان کی یہ شرط ہے کہ اتنا کمیشن کاٹ کر ہمیں پیسہ بھیج دو اور مارکیٹ کے دلال اس شرط کو منظور کرتے ہیں اور مال بھیجنے والے نے مال بھیجا، کمیشن لینے والے نے ایک پیٹی سیب یا آم کی سو روپے کی فروخت کر دی اور اس کو بکری ساٹھ روپے کی دی، وہ چالیس روپیہ ان کے لئے جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر انہوں نے سو روپے کی پیٹی فروخت کی تو اس کو کمیشن کاٹ کر ڈیڑھ سو روپیہ پیٹی فروخت کی تو مسلمان کے لئے یہ دھندا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: ارشاد عظیم قریشی باندہ ویسٹ، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح کنٹریوں کو ٹھیکہ پر لے کر مزدوروں کو طے شدہ مزدوری دے کر باقی ٹھیکیداروں کو اپنے لئے لینا جائز اور درست ہے۔

المسلمون عند شروطهم. (قواعد الفقہ اشرفی، ص: ۱۲۱)

المعروف بین التجار كالمشروط بینہم. (قواعد الفقہ اشرفی، ص: ۱۲۵)

(۲) اگر تجارت اور دلالی کی مذکورہ طریقہ سے شرط طے کر لی جائے تو جائز ہے۔

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. (قواعد الفقہ اشرفی، ص: ۱۲۵)
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۸۷)

جانبین سے دلالی کی اجرت کا حکم

سوال [۹۶۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید زمین بیچنے والا ہے اور عمر خریدنے والا ہے اور درمیان میں شاکر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی زمین فروخت کر دوں گا اور آپ سے دس پریسٹ لوں گا، پھر خریدنے والے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو زمین خرید دوں گا اور آپ سے دس پریسٹ لوں گا، حالانکہ شاکر جو کہ فضولی ہے، ابھی زمین کا مالک بھی نہیں ہوا ہے، تو کیا شاکر کے لئے اس طرح روپے لینا جائز ہے اور یہ روپے لینا خفیہ طور پر بھی ہوتا ہے؟

المستفتی: محمد عالمگیر گڈاوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں مندرجہ صورت میں شاکر، زید (بائع) اور عمر (مشتري) دونوں کے درمیان دلالی کرنے والا ہے اور دلالی کی اجرت لینا مفتی بہ اور راجح قول کے مطابق جائز اور درست ہے؛ البتہ اجرت کا متعین ہونا لازم ہے اور چونکہ فیصد اور پریسٹ بھی تعین کی ایک شکل ہے؛ لہذا شاکر (دلال) کا زید و عمر (بائع و مشتري) دونوں سے دلالی کی اجرت لینا جائز ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷/۲۷۲، فتاویٰ دارالعلوم ۱۵/۲۸۸-۲۸۹،

اسلام اور جدید معاشی مسائل ۱/۱۳۶، فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲۵/۲۸۶-۲۸۷)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زكريا ۹/۸۷، تاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

وأما الدلال: فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع، وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف (تحتة في الشامية: فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين. (شامي، كتاب البيوع، قبيل مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن زكريا ۷/۹۳، كراچی ۴/۵۶۰، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱/۲۴۷، مجمع الضمانات ۱/۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۲۶/۱۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ صفر المظفر ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۶۷)

کیا دلال بائع و مشتری دونوں سے دلالی وصول کر سکتا ہے؟

سوال [۹۶۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بائع اور مشتری کے درمیان بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا کہ ایک تیسرا شخص آ کر بائع کو کم پر دینے کو تیار کرتا ہے، اسی طرح مشتری سے بھی کچھ کہہ سن کر بیع نافذ کر دیتا ہے، اس کے بعد جانین سے یہ کہہ کر میں نے تم کو اتنے نفع پر فروخت کر لیا اور خریدوایا ہے؛ لہذا ہم کو کچھ دو اس طرح دونوں سے کچھ نہ کچھ وصول کر لیتا ہے اور بائع مشتری اپنی رضا مندی سے اسے دے بھی دیتے ہیں، کیا اس تیسرے شخص کا ایسا عمل اختیار کرنا اور اس کو ذریعہ معاش بنانا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: سجاد حسین سنبھل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: یہ دلالی ہے اور دلالی میں اگر اجرت پہلے سے متعین ہو تو اس کی اجرت جائز ہے؛ لیکن اگر پہلے سے متعین نہیں کی جاتی ہے، تو منقصی الی النزاع کی وجہ سے جائز نہیں ہے، خاص طور پر جب بائع و مشتری خود دلال کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں اور یہ تیسرا شخص یوں ہی جائین کی اجازت کے بغیر دخل دے رہا ہو۔

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زکریا ۹/۸۷، فتاویٰ بزازیة، زکریا جدید ۲/۲۳، وعلى هامش الهندية ۵/۴۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۵۰۳۷)

”بروکروی“ سے متعلق چند سوالات و جوابات

سوال [۹۶۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موجودہ دور میں زمین کی بروکروی (دلالی) لوگوں کے نزدیک ایک منافع کی چیز بنی ہوئی ہے اور اس میدان میں تقریباً ہر طبقہ کے افراد اترے ہوئے نظر آتے ہیں، عوام تو عوام خواص دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے یعنی مدرسوں کے مدرسین اور مساجد کے ائمہ حضرات بھی خوب سرگرمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زمین کی بروکروی یعنی دلالی کے اندر ہونے والے اونچ نیچ کو دیکھتے ہوئے چند سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہیں جو نمبر وار اس طرح ہیں:

(۱) بروکر (دلال) کا زمین مالک اور خریدار دونوں سے ایک ہی زمین کا الگ الگ کمیشن لینا۔

(۲) زمین مالک کو بغیر رقم دئے یعنی صرف زبانی قیمت طے کرنا، اس کے بعد خریداروں کے ہاتھوں اپنی مرضی کی قیمت پر زمین کا فروخت کرنا۔

(۳) زمین مالک سے قیمت طے کرنے کے بعد زمین مالک کو بطور پیشگی کچھ رقم دے کر باقی رقموں کی ادائے گی کے لئے تاریخ طے کر لینا، مگر تاریخ متعینہ آنے پر باقی ماندہ رقموں کا ادا نہ کرنا؛ بلکہ زمین مالک کی طرف سے تقاضہ کرنے پر بار بار تاریخ لے کر وعدہ خلافی کرنا۔

(۴) کسی شخص سے یہ کہہ کر قرض لینا کہ مجھے فلاں زمین خریدنی ہے، تم مجھے ایک لاکھ دو، میں ایک لاکھ کا سوا لاکھ دو یا تین ماہ میں ادا کر دوں گا، اس زمین کے نفع یا نقصان سے تم کو کوئی لینا دینا نہیں۔

(۵) خریدار لوگوں سے فلاں تاریخ کو رجسٹری کروانے کا وعدہ کر کے اس تاریخ میں رجسٹری نہ کروانا اور جھوٹ بول کر ٹال مٹول کرنا۔

(۶) گھٹیا اور بیکار زمینوں کی خوب جھوٹی تعریفیں کر کے خریداروں کے ہاتھوں بھاری قیمتوں پر فروخت کرنا۔ شریعت کا اس طرح کے کاموں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر امام مسجد اس کام کو کرتا ہو تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسے اماموں کے پیچھے معلوم ہونے کے بعد مقتدیوں کی نمازیں ہوں گی یا نہیں؟ کیا ایسے شخص کو امام رکھنا درست ہے کہ نہیں؟ برائے کرم تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل و مدلل عنایت فرما کر شکر یہ کا موقع دیں، عین کرم ہوگا۔ فقط

المستفتی: احقر مناظر عالم گاڑ بیان محلہ پوسٹ و ضلع کشن گنج، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) حسب تحریر سوال اصالتہً دلالی کا معاملہ ناجائز ہے؛ لیکن عادت اور عرف کی بنا پر فقہاء نے اجازت دی ہے؛ اس لئے یہ دلالی بائع اور مشتری دونوں کی طرف سے جائز ہوگی۔ اور دلال کو اس عمل پر اجرت مثل دی جائے گی، اس طرح سے دلال کا بائع اور مشتری دونوں سے اجرت لینا درست ہوگا۔ (فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۶/۶۱۷،

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زكريا ۹/۸۷، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲، هندية زكريا قديم ۴/۴۵۰، جديد ۴/۴۸۷، الفتاوى الولو الحية، دار الأيمان سهارنپور ۳/۳۴۴، فتاوى بزازية، زكريا جديد ۲/۲۳، وعلى هامش الهندية ۵/۴۰)

(۲) ابھی زمین کے مالک سے صرف قیمت طے ہوئی ہے اور مشتری کا زمین پر قبضہ نہیں ہوا ہے، اور مشتری اس کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لئے زمین کی فروختگی درست ہوگی؛ کیوں کہ زمین اشیاء غیر منقولہ میں سے ہے اور اشیاء غیر منقولہ کا قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست ہوتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۵/۲۸۲)

صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه من بائعه. (شامي، البيوع، باب

المراوحة والتولية، فصل في التصرف في المبيع والتمن، زكريا ۷/۳۶۹، كراچی ۵/۱۴۷)

(۳) حسب تحریر سوال زمین کے مالک سے قیمت طے کرنے کے بعد اور کچھ رقم پیشگی ادا کرنے کے بعد باقی رقم کے لئے تاریخ طے کر لینا درست ہے؛ اس لئے کہ بیع نقد اور ادھار دونوں طرح جائز ہو جاتی ہے؛ لیکن جب وہ تاریخ متعین پر قیمت ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کی طرف سے یہ دھوکہ دینا اور وعدہ خلافی کرنا ہے، جس کا اس پر گناہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۶/۳۶)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: **مطل الغني ظلم، أي تأخير أداء الدين من وقت إلى وقت ظلم، فإن المطل منع أداء ما استحق أداءه، وهو حرام من المتمكن، ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا جاز له التأخير إلى الإمكان.** (مرقاة المفاتيح ۶/۱۰۰، مكتبة إمدادية)

البيع مع تأجيل الثمن وتسقيطه صحيح يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتسقيط. (شرح المجلة رستم، إتحاد ۱/ ۲۵، رقم: ۲۴۵-۲۴۶)

(۴) صورت مذکورہ میں ایک لاکھ روپیہ دے کر سوال لاکھ روپیہ واپس کرنا جائز ہے؛ اس لئے کہ ایک لاکھ ۲۵ ہزار روپے واپس کرنے کی صورت میں صریح سود ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۲/۳۴۲)

كل قرض جر نفعاً فهو ربا، أي إذا كان مشروطاً. (شامی، مطلب: كل قرض جر نفعاً حرام، کراچی ۵/ ۱۶۶، زکریا ۷/ ۳۹۵)

لا يجوز أن يرد المقرض إلى المقرض إلا ما اقتضه أو مثله طبعاً للقاعدة الفقهية القائلة كل قرض جر نفعاً فهو ربا. (الفقه السنة ۳/ ۱۴۷-۱۴۸)

(۵) بائع کا لوگوں سے رجسٹری کا وعدہ کر کے نہ کروانا اور جھوٹ بول کر ٹال مٹول کرنا یہ دھوکہ دھڑی اور گناہ کبیرہ ہے۔

لُعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. [آل عمران: ۶۰]

والكذب حرام لا في الحرب. (جمع الأنهر ۴/ ۲۲۷)

(۶) ہر ایک کی زمین اس کے لئے بڑھیا ہے اور جب خریدار زمین کو دیکھ کر خرید رہا ہے تو کسی قسم کی دھوکہ دھڑی نہیں ہے، ہر مالک کو حق ہے کہ اپنا سامان اور اپنی زمین کی قیمت جتنی چاہے لگائے اور خریدار کو اختیار ہے کہ اس قیمت پر خریدے یا نہ خریدے؛ لہذا ان باتوں کو لے کر امام کی امامت پر انگلیاں اٹھانے کا حق نہیں ہے۔

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (تفسیر بیضاوی ۷/ ۱)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة رستم، إتحاد ۱/ ۶۵۴، رقم المادة: ۱۱۹۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۱۰/۱۴۳۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ شوال ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۸۴/۴)

زمین خریدوانے کی دلالی لینا

سوال [۹۶۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: توقیر باری اور میں (ڈاکٹر مظفر علی خاں) ایک پراپرٹی بشکل آراضی گیارہ بیگہ واقع پنڈت نگلہ مراد آباد کی خریداری میں شریک تھے، چونکہ توقیر باری اس آراضی کو خریدنا چاہتے تھے، لیکن ان سے اس کا سودا نہیں ہو رہا تھا؛ اس لئے انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے رجوع کیا؛ کیوں کہ میرے مالکان آراضی (فروخت کرنے والوں ریحانہ ملک وغیرہ) سے بہترین تعلقات تھے۔ اور توقیر باری سے بھی میرے گھریلو تعلقات تھے؛ اس لئے توقیر باری نے مجھ سے کہا کہ تم اس آراضی کا سودا ملے کروادو، میں یہ آراضی خرید کر فروخت کروں گا اور تم بغیر رقم لگائے اس کے منافع کے تیس فیصد کے حصہ دار ہو گے، میں نے اس سلسلے میں انتہائی کوشش کر کے اس آراضی کا سودا کروادیا، جس کی پاور آف اٹارنی مالکان نے توقیر باری کو کرا کر دے دی تھی۔ اور رقم کالین دین ہو گیا تھا اور اس کاغذ پر میرے بحیثیت گواہ دستخط بھی ہیں۔ اور آراضی مذکور پر توقیر باری کا مالکانہ قبضہ بھی ہو گیا تھا اور انہیں پاور آف اٹارنی کی رو سے مثل مالک کے کسی دیگر کو فروخت کرنے کا حق و اختیار حاصل ہو گیا تھا، ان تمام معاملات و شرکت کے بارے میں توقیر باری نے اپنی علالت کے دوران اپنی زوجہ ”عرشی بیگم“ بڑے لڑکے ”فضل باری“ بڑے بھائی ”تنویر باری“ اپنے بہنوئی ”نور احمد“ اپنے سالے ”جمال الہی“ و دیگر عزیز و اقرباء کو بھی باخبر کر دیا تھا، اس کے علاوہ اسی دوران مراد آباد اور رام پور کے کچھ معزز دوست احباب جن کے نام میرے علم میں ہیں، کو بھی انہوں نے باخبر کر دیا تھا کہ ڈاکٹر مظفر علی خاں اس سودے میں میرے تیس (۳۰) فیصد کے شریک ہیں، مزید توقیر باری نے اپنی وفات سے دس یوم پہلے اپنے ایک قریبی عزیز بزرگ ”احسان عظیم“ صاحب (سگریٹ والے) اور اپنے ملازم اکرام اور قیوم ساکن بہار جو کہ ان کے گھر جیسے فرد تھے رو بروٹھا کر بھی یہ سب کچھ بتا دیا تھا؛ لیکن توقیر باری کے انتقال کے بعد جب میں نے اپنی

شرکت حصہ مذکور کی بابت بات کہی تو مرحوم کے سالے جمال الہی نے میرے ساتھ گئے ہوئے میرے ایک دوست جو کہ جمال الہی کے کلاس فیلو بھی ہیں (محمد اکرام مراد آباد) کے سامنے مجھ سے شہادت مانگی تو میں نے احسان عظیم صاحب اور اکرام (ملازم) کا ذکر کیا، تو جمال الہی ہم دونوں کو احسان عظیم صاحب کے پاس ان کے لڑکے کے شان عظیم صاحب کو ساتھ لے کر گئے، شہادت میں احسان عظیم صاحب نے کہا: ”ورڈنگس تو مجھے یاد نہیں؛ لیکن مفہوم یہی تھا جو ڈاکٹر مظفر علی خاں کہہ رہے ہیں۔“ اور اسی طرح اکرام (ملازم) نے بھی یہی حقیقت بیان کی۔ ان شہادتوں کے بعد عرشی بیگم کی عدت پوری ہونے کے بعد بات چیت دوبارہ کرنے کو کہا گیا، بعد عدت مرحوم کے سالے جمال الہی نے مجھ سے اور (محمد اکرام مراد آباد) سے محمد عمر اور شان عظیم صاحب کے سامنے کہا کہ میری بات اپنی بہن (عرشی بیگم) سے ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ: ”ڈاکٹر مظفر علی خاں قرآن کی قسم مسجد میں کھالیں تو میں ایک ایک پیسہ دوں گی“ اس پر میں آمادہ قسم ہوا؛ لیکن یہ قسم مجھ سے محمد عمر صاحب کے کہنے کی وجہ سے کہ ”اللہ یہاں بھی وہی ہے جو وہاں ہے“ شان عظیم صاحب کی فرم میں ان کی موجودگی میں اور محمد عمر صاحب اور (محمد اکرام مراد آباد) اور جمال الہی اور مرحوم کے لڑکے فضل باری کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر مجھ سے ان سب نے قسم کھوائی کہ جو کچھ میں (مظفر علی خاں) کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، اس کے فوراً بعد میں نے مرحوم کی حیات میں ایک رکارڈ کیا ہوا کیسٹ بھی اسی سلسلے میں سب کو سنوایا، جس کو سن کر جمال الہی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ رکارڈنگ (ٹیپ) تھا، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟

لیکن اب توقیر باری کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ عرشی بیگم اور مرحوم کے بڑے بھائی تنویر باری و بہنوئی نور احمد نے اس آراضی کو جو کہ توقیر باری نے رقم ادا کر کے خریدی تھی؛ لیکن اپنی زندگی میں اس کو فروخت نہیں کر پائے تھے، اس کی دوسری پاور آف اٹارنی مالکان آراضی سے تبدیل کر کر اس زمین کو فروخت کر دیا، جس میں انہیں بہت بڑا منافع ہوا ہے؛ لیکن ان لوگوں کی نیت میں بے ایمانی آگئی ہے اور وہ مجھے فائدہ میں سے میرے حصہ کی رقم جو کہ تیس فیصد بنتی

ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں فتویٰ دینے کی زحمت فرمائیں کہ کیا تو قیر باری کے ذریعہ اپنی حیات میں میری کوششوں سے رقم کی ادائیگی کر کے خریدی گئی زمین میں میرا بحیثیت شریک اس رقم میں تیس فیصد کا حق بنتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: ڈاکٹر مظفر علی خان محلہ مسجد درونہ محبوبو جان گھیر مردان خاں، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تو قیر باری کو خریدو کر دینے کی وجہ سے اس زمین کی اصل میں اور نفع میں آپ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور نفع میں شریک ہونے کی جو شرط لگائی گئی ہے، وہ شرط شرعی طور پر باطل اور فاسد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہاں البتہ آپ نے جو بیچ میں پڑ کر خریدوانے میں محنت کی ہے، اس محنت کی محنتانہ اجرت آپ کو مل سکتی ہے۔ اور چونکہ اجرت متعین نہیں تھی اس لئے اس طرح کی زمین کے خریدوانے میں اس زمانہ میں عام طور پر دلال کو جو معتدل اور درمیانی اجرت ملا کرتی تھی وہ اجرت آج آپ کو ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ جائز نہیں ہے۔

فلو كل المال لأحدهما فللآخر أجر مثله، كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما، فالشركة فاسدة والربح للمالك والآخر أجر مثله. (درمختار علی الشامی، کتاب الشركة، مطلب يرجح القياس، زکریا ۶/۳، ۵۰۳، کراچی ۴/۴۲۶، النهر الفائق، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۰۷)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. (هنديّة، کتاب الإجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوخ..... زکریا قدیم ۴/۴۵۰، جدید ۴/۴۸۷، الأشباه والنظائر، الفن الثاني، کراچی ۲/۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۶/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶/جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۳۲/۳۹)

زمین کی خرید و فروخت کرانے میں دلالی کی اجرت لینا

سوال [۹۶۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: فی زمانہ آراضی کی تجارت کی مختلف شکلیں رائج ہیں، جن کی وضاحت مطلوب ہے:

الف: اس میں ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگ ”پراپرٹی ڈیلر“ یا جن کو دلال بھی کہہ سکتے ہیں ہوتے ہیں، جو بائع اور مشتری کے درمیان معاہدہ کراتے ہیں اور قیمت کا تعین بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، مشتری کو زمین کی موجودہ بازاری قیمت بتاتے ہیں، جس پر وہ مطمئن اور راضی ہوتا ہے۔ اور بائع کو مشتری کے مقابلے میں کم قیمت پر راضی اور مطمئن کر لیتے ہیں اور دونوں کے بیچ کی رقم بطور کمیشن کے خود حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر مشتری کو پچاس ہزار روپے بیگہ خریدنے پر راضی کیا، اور بائع کو بیسٹالیس ہزار روپے بیچنے پر راضی کیا، اور پانچ ہزار روپے فی بیگہ کے حساب سے خود حاصل کر لیں، یہ شکل آج کل معروف و مشہور ہے۔ جن کا علم بائع اور مشتری کو بھی ہوتا ہے، آیا اس طرح کا معاہدہ کرانا اور کمیشن کی شکل میں کچھ رقم نکال لینا ہے درست ہے یا نہیں؟ باحوالہ تحریر فرمائیں۔

ب: دوسری شکل میں یہ دلال بائع مشتری دونوں سے ایک ہزار روپے یا دو ہزار روپے فی بیگہ کمیشن طے کرتے ہیں اور دونوں کا معاہدہ کراتے ہیں۔

ج: اس صورت میں خریدنے والا خود ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمیں کہیں زمین دلاؤ، اس میں دو فی صد کے حساب سے رقم دلال کو دی جاتی ہے۔

نوٹ: مذکورہ بالا طریقے زرعی اور رہائشی دونوں طرح کی آراضی کی خرید و فروخت میں رائج ہیں اور مشہور و معروف ہیں، تفصیلی جوابات سے نواز کر عند اللہ ماجور ہوں

المستفتی: محمد ذاکر خاں، بدایوں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) دلالی کی اجرت فی نفسہ جائز اور درست ہے، جب

کہ اجرت متعین ہو؛ لیکن سوال نامہ میں جو شکل پیش کی گئی ہے اس میں نہ بائع سے اجرت کی بات طے ہے اور نہ ہی مشتری سے؛ بلکہ وہ بائع کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ بائع سے کہتا ہے کہ میں پینتالیس ہزار روپے میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ وہ مشتری کو پچاس ہزار روپے میں بیچ رہا ہے؛ اس لئے یہ صورت ناجائز ہے، ہاں البتہ اس کے جواز کی متبادل شکل یہ ہے کہ دلال بائع سے وضاحت کے ساتھ کہہ دے کہ آپ کو پینتالیس ہزار روپے فی بیگہ ملے گا، تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ دلال نے بائع سے پینتالیس ہزار روپے کے حساب سے خرید کر مشتری کو پچاس ہزار میں فروخت کر دیا، ایسی صورت میں اس کو دلال نہیں کہا جائے گا؛ بلکہ تاجر کہا جائے گا۔ اور یہ معاملہ شرعاً درست ہو جائے گا۔

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار. (ابن ماجة، الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، النسخة الهنديّة ۲ / ۱۶۹، دار السلام، رقم: ۲۳۴۰)

أنه باعه مرابحة، فإن كان ما اشتراه به له مثل جاز سواء جعل الربح من جنس رأس المال الدرهم من الدراهم أو من غير الدراهم من الدنانير، أو على العكس إذا كان معلوما يجوز به الشراء؛ لأن الكل ثمن. (عناية مع فتح القدير، باب المرابحة والتولية، دار الفكر بيروت ۶ / ۴۹۵، زكريا ۶ / ۴۵۶، كوئته ۶ / ۱۲۲)

(۲) یہ شکل دلالی کی ہے، اس میں اجرت بھی متعین ہے؛ لہذا اس میں شرعاً بائع سے ایک ہزار اور مشتری سے ایک ہزار روپیہ فی بیگہ لینا درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲۵ / ۲۸۶)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶ / ۶۳، زكريا ۹ / ۸۷، تاتارخانيّة، زكريا ۱۵ / ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. (هنديّة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع زكريا جديد ۴ / ۴۸۷، قديم ۴ / ۴۵۰)

إجارة السمسار والمنادى والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة، ويطيب الأجر المأخوذ.
(شامی، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زکریا ۹/۶۴، کراچی ۶/۴۷، بزازیة، زکریا جدید ۲/۲۳، وعلی هامش الهندیة ۵/۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ شوال ۱۴۳۲ھ

۲۸/۱۰/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۵۱۰)

انجینئر کا ٹھیکیدار سے کمیشن لینا

سوال [۹۶۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: انجینئر کے نقشہ پاس کرنے کے بعد ٹھیکیدار کو ٹھیکیدل جاتا ہے اور بعد میں ٹھیکیدار کی طرف سے کمیشن کی رقم ملتی ہے، اس کو لینا کیسا ہے؟ اس کی مکمل شکل یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پروجیکٹ تیار کرنے کے لئے انجینئر کو حکم ملا، مثلاً ایک اسکول یا دفتر کے روم کا پلاسٹر ہونا ہے، اس کی صحیح لاگت دس ہزار روپے ہے؛ لیکن انجینئر صاحب نے اس کو بارہ ہزار روپے کا اسٹیمیٹ بنا کر حکومت کو بھیجا، حکومت کی جانب سے بارہ ہزار روپے جاری ہو گئے، اب دو ہزار روپے بطور کمیشن تقسیم ہو گئے حصہ وار یا پھر پورے کے پورے دو ہزار روپے جناب انجینئر صاحب کو مل گئے۔

حضرت آپ کے علم میں ہوگا کہ موجودہ دور میں سرکاری اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک اخیر تک کمیشن لیتے ہیں؛ بلکہ آج تو وزراء اعلیٰ تک بغیر رشوت کے اور کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اس رقم کو لینا کیسا ہے؟ اور لی جاتی ہے، تو پھر اس رقم سے موٹر گاڑی اسکوٹر وغیرہ خریدنا کیسا ہے، اس پیسہ سے سفر سیاحت پر جانا خرید و فروخت کرنا سفر میں اچھی غذائیں فروٹ میواجات کھانا کیسا ہے؟ بچوں کی تعلیم پر اس رقم کو خرچ کرنا کیسا ہے؟، پونجی جمع کرنا اس رقم کو

پونجی میں ملانا کیسا ہے؟ مدارس اسلامیہ میں چندہ کی رقم میں اس رقم کا لینا دینا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: تفسیر احمد رشیدی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: انجینئر صاحب کا سرکار کو اخراجات سے زائد لاگت کاغذات پر دکھا کر اصل خرچ سے زائد رقم وصول کرنا دھوکہ دہی اور فریب ہے اور اس اضافی رقم سے اپنا کمیشن لینا بھی انجینئر صاحب کے لئے جائز نہیں ہے۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ مر برجل - إلى - فقال رسول الله ﷺ: ليس منا من غش. (أبو داؤد، باب النهي عن الغش، النسخة الهندية ۲ / ۴۸۹، دارالسلام، رقم: ۳۴۵۲)

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. (مسند أحمد بن حنبل ۵ / ۴۲۵، رقم: ۲۴۰۰۳، مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ۴ / ۱۷۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ / ۱۲۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۳۹ / ۳۹)

ٹھیکیدار یا مستری وغیرہ کا کمیشن لینا

سوال [۹۶۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عام طور پر ایسا دستور ہے جو تعمیرات کے ٹھیکیدار یا مستری یا رنگ کرنے والے کاریگر یا ٹھیکیدار یا اسی طرح دوسرے کام کرنے والے کاریگر یا ٹھیکیدار ہیں، ان سے دوکاندار یہ کہتا

سے کہ آپ سامان ہمارے یہاں سے یعنی ہماری دوکان سے دلوانا ہم آپ کو دس یا پندرہ فی صد کمیشن دیں گے اور گاہک سے وہ پورے پیسے لیتے ہیں چاہے ٹھیکیدار یا مستری اس کمیشن کو لے یا نہ لے اور کبھی مالک ٹھیکیدار یا مستری سے ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ ہی خود سامان لے آنا تو آیا یہ کمیشن کے پیسے مستری یا ٹھیکیدار کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ گاہک کا کوئی نقصان بھی نہیں؛ کیوں کہ اس سے پورے ہی پیسے لئے جاتے ہیں۔

المستفتی: سید حافظ محمد محبوب منصور پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹھیکیداری کی دو صورتیں ہیں: (۱) یہ کہ جو بھی ضرورت کا سامان وغیرہ ہو اس کو ٹھیکیدار خود اپنے پیسے سے لائے اور مالک مکان اور مستری کے درمیان یہ معاملہ طے ہو کہ مثلاً آپ میرا مکان رنگ کرتیار کر دیں، ہم آپ کو اتنا روپیہ دیں گے، تو اس صورت میں ٹھیکیدار کا دوکاندار سے کمیشن لینا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک مکان سے روپیہ لے کر ضرورت کا سامان لائے اور اس میں سے کمیشن لے تو یہ ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں ٹھیکیدار مالک مکان کا وکیل ہے (مستفاد: آپ کے مسائل اور ان کا حل، جدید زکریا ۳۹۱، ۶، ۲۸۲، احسن الفتاویٰ ۱۰۲/۸)

اور وکیل امین ہوتا ہے اور امین کے لئے امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۰۲/۸)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: آية المنافق

ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. (بخاري شريف، الايمان، باب علامة المنافق، النسخة الهندية ۱/ ۱۰، رقم: ۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۶/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۱۶/۳۵)

بولی لگانے کے درمیان آڑھت والے کا بیع میں سے کچھ نکال لینا

سوال [۹۶۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید کی پھلوں اور سبزیوں کی آڑھت ہے اور اس جگہ پر رواج ہے کہ بولی لگانے کے درمیان آڑھت والا پھلوں اور سبزیوں سے کچھ نکال لیتا ہے، پھر بدستور اس بولی پر مشتری کو دے دیا جاتا ہے، تو ٹوکری میں سے نکالا ہوا مال زید کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس طریقہ پر؟ اور اگر جائز نہیں تو جواز کی کیا صورت ہے؟

المستفتی: محمد یوسف مظہری امام جامع مسجد ٹھاکر دارہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر اس کا رواج ہو اور مالک بخوشی اس کو دے دیتا ہے اور اس کے دینے سے مالک پر کوئی زور بھی نہیں پڑتا ہے، تو لینے والے کے لئے گنجائش ہے، شاید مالک اس وجہ سے دینے کے لئے راضی رہتا ہے کہ وہ مالک کا مال باسانی فروخت کروا دیتا ہے۔ (مستفاد: عزیز الفتاویٰ/۷۳۵)

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان للبيهقي، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۳۸۷، رقم: ۵۴۹۲، مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۷۲، رقم: ۲۰۹۷۱، مسند أبي يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ۲/ ۹۱، رقم: ۱۵۶۷)

لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس (أي بأمر أو رضاء) منه. (مرقاة، قديم

۳/ ۳۵۰، جديد إمداديه ملتان ۶/ ۱۱۸)

ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز، فيأخذ عن كل

الف عشرة إذا كان المالك راضيا بذلك عادة. (الأشياء، قديم
۱۷۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رجب ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۲۳/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۷/۹ھ

ہسپتال کا مریض بھیجنے والے ڈاکٹر کو تحفہ دینا

سوال [۳۱ ۹۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: اگر کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کو آپریشن و ایکس رے یا دیگر کسی چانچ کے لئے کسی دوسرے ہسپتال کو بھیجتا ہے، اور وہاں پر یعنی جہاں ڈاکٹر نے مریض کو بھیجا ہے، آپریشن وغیرہ کے لئے کچھ رقم بھی طے نہیں کر رکھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ ہسپتال کچھ رقم یا تحفہ کے طور پر مریض کو بھیجنے والے ڈاکٹر کو پیش کرے، تو اس کے لئے جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: ڈاکٹر وارث احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں بھیجنے والے ڈاکٹر کے لئے تحفہ میں دی ہوئی رقم بلا تردد حلال اور درست ہے، اگر پہلے سے بھیجنے اور مقرر رقم لینے کی بات طے کر لیتا ہے تو وہ بھی درست ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں بھیجنے والا ڈاکٹر کلینک والے کی طرف سے ایجنٹ شمار ہوگا، جس کی اجرت لینا جائز ہے، ہاں البتہ اگر جانہین میں کچھ طے نہیں ہوا تھا، پھر بھیجنے والا ڈاکٹر اجرت کا مطالبہ کرے، تو ایسی صورت میں بھیجنے والے کو مطالبہ کا حق نہیں ہے؛ اس لئے کہ نہ پہلے سے ان دونوں کے درمیان میں معاملہ طے ہوا ہے اور نہ بطور تحفہ دیا ہے۔

ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا.

(صحيح البخاري، باب أجر السمسرة، النسخة الهندية ۱/ ۳۰۳)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، لكثرة التعامل. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زكريا ۹/۸۷، تاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربيع الثاني ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۹۷۸)

آنکھوں کے ڈاکٹروں کا چشموں کی دوکان والوں سے کمیشن لینا

سوال [۹۶۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کچھ ڈاکٹر لوگ جو آنکھوں کی چانچ کرتے ہیں، وہ چشموں کی دوکان والوں سے کمیشن لیتے ہیں، ان کا کمیشن لینا یہ دلائی کی اجرت کے مرادف ہے یا نہیں؟ اور یہ کس حد تک درست ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: سبوح احمد محلہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آنکھوں کے ڈاکٹر کا مریض کو چشمہ کی دوکان پر بھیجنے کی وجہ سے اس پر کمیشن لینا یہ دلائی کی اجرت کے مرادف ہے اور اجرت دلال جائز ہے؛ اس لئے آنکھوں کے ڈاکٹر کا مریض بھیجنے پر چشمہ والوں سے اجرت لینا جائز ہے؛ لیکن اجرت متعین ہونا چاہئے اور فیصد کے حساب سے طے کرنا بھی تعین کی ایک شکل ہے۔

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. - إلى قوله - سئل محمد

بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجو زوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال، زكريا

۹/۸۷، كراچی ۶/۶۳، خلاصة الفتاوى، أشرفي ديوبند ۳/۱۱۶)

قال في الشامية عن البرازية: إجارة السمسار والمنادى والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة، ويطب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (شامي، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زكريا ۹/۶۴، كراچی ۶/۴۷، برازیة، زكريا جديد ۲/۲۳، وعلى هامش الهندية ۵/۴۰)

وَأَمَّا الدَّلَالُ: فَإِنْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّهَا (تحتہ فی الشامیة) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف. (شامي، كتاب البيوع، قبيل مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن زكريا ۷/۹۳، كراچی ۴/۵۶۰، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱/۲۴۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۸۳/۴۰)

ڈاکٹر کا خون یا پیشاب جانچ کرانے کے لئے بھیجنے کی اجرت لینے کا حکم

سوال [۹۶۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ڈاکٹر حضرات اپنے مریض کو دوسرے کے پاس خون یا پیشاب جانچ کرنے کے لئے یا ایکسرا کرانے کے لئے بھیجتے ہیں، ایکسرا کرنے والے پیشاب خون جانچ کرنے والے بھیجنے والے ڈاکٹر کو طے شدہ رقم کمیشن دیتے ہیں، تو کیا مریض بھیجنے والا ڈاکٹر اس رقم کو استعمال میں لاسکتا ہے؟ اور بہت سے مسلم ڈاکٹروں کے پاس اس قسم کی رقمیں موجود ہیں، کیا اس رقم کو مدرسہ میں یا بیت الخلاء میں یا کسی رفاہ عام کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ حضرت والا سے التماس ہے کہ مسئلہ سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: عبدالوحید اصلاحی، ساکن اسرینا پوسٹ پراسا ملک، مہراج گنج

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ڈاکٹر مریض کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس خون پیشاب کی جانچ یا ایکسرے کے لئے بھیجے اور اس پر طے شدہ رقم کمیشن لے تو یہ دلالی کے حکم میں ہے اور دلالی کی اجرت مباح ہے؛ اس لئے اس کی گنجائش ہے۔

عن الحکم وحماد عن ابراهيم وابن سيرين قالوا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد. (المصنف لابن أبي شيبة، في أجر السمسار، مؤسسة علوم القرآن ۱۱/۳۳۹، رقم: ۲۲۵۰۰)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال، زكريا ۹/۸۷، كراچی ۶/۶۳، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۶۲ ۲۲۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۴۰۵)

ڈاکٹر کا الٹراساؤنڈ اور ایکسرے والوں سے کمیشن لینا

سوال [۹۶۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: آج کل ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں کا آپریشن، الٹراساؤنڈ، پتھولوجی (خون وغیرہ) کی جانچ کرانے کے لئے دوسرے ڈاکٹر کے یہاں مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام وہاں کرالو، وہ ڈاکٹر اسی چیز کا ماہر شمار کیا جاتا ہے، ماہر ڈاکٹر کے یہاں پہلے سے ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں، اگر

مریض خود ہی بغیر کسی کے بھیجے ماہر ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جائے تو بھی مقررہ ریٹ کے مطابق اسے چارج ہوتا ہے، اگر کسی ڈاکٹر کے بھیجنے سے ڈاکٹر کا پرچہ لے کر پہنچتا ہے، تو ماہر ڈاکٹر بھیجنے والے ڈاکٹر کو کچھ رقم بھجواتا ہے اور مریض سے مقررہ ریٹ ہی وصول کرتا ہے، اس رقم کو اصطلاحاً کمیشن کا نام دیا جاتا ہے، ایسی صورت میں دینا اور لینا کیسا ہے؟

(۲) دوسری صورت میں ایک ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر سے یہ طے کرتا ہے کہ میں مریض تمہارے پاس بھیجوں گا اور مجھے اتنی رقم (جو بھی طے ہو جائے) چاہئے تم مریض سے جو چاہے لے لو، ایسی صورت میں ماہر ڈاکٹر مریض سے زیادہ رقم وصول کر کے بھیجنے والوں کو کمیشن دیتا ہے، تو اس طرح کمیشن لینا کیسا ہے؟ اور دینا کیسا ہے؟

المستفتی: انعام احمد قاسمی کا س گنج، ایبٹہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: معالج ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ، ایکسرے وغیرہ کے ڈاکٹر سے یہ طے کر لینا کہ میں تمہارے پاس مریض بھیجوں گا، ایک مریض کے الٹرا ساؤنڈ میں اتنا روپیہ اور ایکسرے میں اتنا روپیہ تم کو دینا ہوگا، اس کے بعد مریض بھیجنے پر چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر سے طے شدہ رقم لینا دلالی کے حکم میں ہے اور دلالی کی اجرت جائز اور مباح ہے؛ لیکن اگر مریض اپنے طور پر بلا معالج ڈاکٹر کے توسط کے بغیر چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر کے یہاں جا کر چیک اپ کرا لیتا ہے، تو اس صورت میں طے شدہ رقم معالج ڈاکٹر سے لینا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں معالج ڈاکٹر دلال نہیں بنا ہے، یہی دونوں سوالوں کا جواب ہے۔

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به.

(شامی، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال، زکریا ۹/۸۷،

کراچی ۶/۶۳، خلاصة الفتاویٰ، أشرفی دیوبند ۳/۱۱۶)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. (هنديّة، الباب السادس عشر

فی مسائل الشیوع زکریا قدیم ۴ / ۴۵۰، جدید ۴ / ۴۸۷، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا
۱۵ / ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۶۲/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۴/۱۴۳۲ھ

ڈاکٹر کے پاس بھیجنے اور دوا فروخت کرنے پر کمیشن لینے کی شرعی حیثیت

سوال [۹۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: الحمد للہ بندہ کا شہر میں انگریزی دوا خانہ ہے، خدمت خلق کے جذبہ و نیت کے ساتھ مریضوں کا علاج کرتا ہوں، ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ حلال کمائی کماؤں، حرام سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس سلسلے میں دو مسئلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں:

(۱) ایک کمپنی انگریزی دوائی بناتی ہے اور اس کا ریٹ مقرر کرتی ہے، مثلاً ”ایزی تھر ومان“ نام کی 250 پاؤر کی دس گولیوں کی قیمت -/60 روپے مقرر کرتی ہے۔ دوسری کمپنی اسی نام کی اور اتنے ہی پاؤر کی گولیاں تیار کرتی ہے اور اس کی -/80 روپے قیمت مقرر کرتی ہے، دونوں کمپنی سے بنی ہوئی گولیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے؛ البتہ دونوں ایک ہی مرض میں استعمال کی جاتی ہیں، اب کم ریٹ میں فروخت کرنے والی کمپنی سے اعلان ہے جو ڈاکٹر ہماری بنی دواؤں کو مریضوں کے لئے تجویز کر کے لکھ کر دے، اس ڈاکٹر کو تیس فیصد منافع بطور انعام کے دیا جائے گا، وہ انعام یا منافع اس لئے دیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے اس کمپنی کی دوائی لکھ کر دی، جس کی وجہ سے دوائیاں زیادہ فروخت ہوں گی، اور جس کمپنی کی دوائیاں مہنگی ہیں، اگر ان کی دوائیاں مریضوں کو لکھ کر دی جائیں تو ان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کم ریٹ والی کمپنی سے بنی ہوئی دواؤں کو مریضوں کے لئے لکھ کر دینا اور اس پر ملنے والے منافع استعمال کرنا میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟

نوٹ: جب دونوں کمپنی سے بنی ہوئی گولیاں ایک ہی جیسی ہیں اور ایک ہی مرض کے لئے ہیں، تو ایک کم قیمت میں اور دوسری کمپنی زیادہ قیمت میں فروخت اس لئے کرتی ہے کہ کم قیمت میں فروخت کرنے والی کمپنی درمیان میں بہت کم واسطوں سے فروخت کرتی ہے، جن کا خرچ بچ جاتا ہے، اور جو کمپنی مہنگی فروخت کرتی ہے، وہ درمیان میں کئی واسطوں سے دوکانداروں تک پہنچاتی ہے، اس لئے وہ سارا خرچ دواؤں پر لگا کر مہنگی فروخت کرتی ہے۔

(۲) ایک مریض میرے پاس آتا ہے، تشخیص کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس مریض کو کسی دوسرے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیجا ضروری ہے، تاکہ اس کا کامل علاج ہو سکے، میں پرچی لکھ کر ڈاکٹر کے پاس مریض کو بھیج دیتا ہوں، اب بڑے ڈاکٹر کے پاس جتنے روپیہ کا علاج ہوا اس کی تیس فیصد رقم بڑے ڈاکٹر کی طرف سے مجھے ملتی ہے، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا اور یہ تیس فیصد بڑے ڈاکٹر صاحب اپنی ہی رقم سے مجھے دیتے ہیں؛ کیوں کہ ایک مریض میں نے ان کی طرف بھیجا ہے، تو اب یہ ملنے والی رقم میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: ڈاکٹر سید واثق علی فردوس کالونی، آکولہ، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مریضوں کے لئے ایک ہی معیار کی ایک ہی قسم کی دوا میں سے جو سستی دوا ہے، اسی کو لکھنا چاہئے اور مریضوں کے فائدے کا خیال رکھنا چاہئے، اسی لئے سستی اور کم قیمت کی دوا لکھنا زیادہ بہتر ہے، اب رہی یہ بات کہ کمپنی کی طرف سے دوا لکھنے والے ڈاکٹر کو کچھ پیسہ ملتا ہے، اگر ڈاکٹر اور کمپنی کے درمیان پہلے ہی سے یہ طے ہے کہ اس کمپنی کی دوا لکھنے پر ڈاکٹر کو اتنے پیسے مل جائیں گے، تو اس طرح طے شدہ پیسہ ڈاکٹر کے لئے لینا جائز اور درست ہے، ڈاکٹر دونوں نیتوں سے یہ دوا لکھا کرے، ایک تو مریض کا فائدہ اور کم خرچ اور دوسری اپنی ذاتی منفعت تو ایسا کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ اور کمپنی سے پیسہ لینا اس لئے جائز ہے کہ اس کمپنی کی دوا لکھنے میں ایک طرح کا اس کمپنی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، ایجنٹ اور دلالی کی اجرت جائز ہے۔

(۲) اگر بڑے ڈاکٹر اور آپ کے درمیان یہ بات پہلے سے طے ہے کہ مریضوں کو بھیجنے سے طے شدہ رقم ملا کرے گی، تو مریضوں کو بھیجنے کے لئے ایک قسم کا دلال اور ایجنٹ ہے اور اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدید ڈابھیل ۱۶/۷۱۷-۷۳۲)

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ:

المستشار مؤتمن. (ترمذي، باب أن المستشار مؤتمن، النسخة الهندية ۲/ ۱۰۹، رقم:

۲۸۲۲، سنن الدارمي، دارالمغني ۳/ ۵۹۱، رقم: ۲۴۹۳)

قال في التاتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا، فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/ ۶۳، زكريا ۹/ ۸۷، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۵/ ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲، الولوالجية، دار الأيمان سهارنپور ۳/ ۳۴۴، هندية زكريا قديم ۴/ ۴۵۰، جديد ۴/ ۴۸۷، بزازیة، زكريا جديد ۲/ ۲۳، وعلى هامش الهندية ۵/ ۴۰ الأشباه والنظائر، كراچی الفن الثاني ۲/ ۶۰، خلاصة الفتاوى، أشرفي ۳/ ۱۱۶)

ولو قال: إن بعث هذا المتاع لي فلك درهم، كان استئجار.

(مبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية ۱۵/ ۱۱۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۹۶۸)

حج کا وکیل کے پاس مقدمہ بھیجنے پر اس سے رقم لینے کا حکم

سوال [۹۶۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: احقر پیشکار ضلع جج ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جن کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ کوئی وکیل بتاؤ، تو ہم جس وکیل کے پاس اس ضرورت مند کو بھیجتے ہیں، وہ وکیل آ کر احقر کو -/500 روپے یا اور کچھ کم زیادہ روپیہ دیتا ہے، تو احقر کے لئے ان روپیوں کا لینا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ احقر کا وکیل سے نہ تو کوئی معاہدہ ہے لینے کا اور نہ کوئی اس قسم کی بات چیت؛ بلکہ احقر لیتا بھی نہیں ہے، تو وہ زبردستی یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی فیس میں سے خوشی سے دے رہے ہیں۔

المستفتی: انوار حسین پیشکار ضلع جج، کاس گنج، ایٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسؤلہ صورت میں آپ کے لئے جواز کی شکل یہ ہے کہ آپ وکیل سے طے کر لیں کہ ایک مقدمہ بھیجنے میں اتنے روپیہ لوں گا، ایسی صورت میں آپ دلال بنیں گے اور دلالی کی اجرت لینا جائز ہے۔ اور اگر طے نہیں ہوا؛ لیکن وہاں وکیل کے پاس مقدمہ بھیجنے کے بدلے میں اس وکیل کی جانب سے کچھ رقم بھیجنے کا عرف و رواج ہے، تو ایسی صورت میں وکیل اگر کچھ رقم بھیج دیتا ہے، تو وہ بھی دلالی کی اجرت میں شامل ہوگا اور اس کا لینا آپ کے لئے جائز ہوگا۔

و شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين . (شامی، كتاب الإجارة، زکریا ۷/۹، کراچی ۵/۶، ہندیہ، زکریا قدیم ۴/۱۱، جدید ۴/۴۱، ہدایہ اشرفی ۳/۹۳)

المعروف كالمشروط. (الأشباہ، قدیم ص: ۱۵۶)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامی، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، زکریا ۸۷/۹، کراچی ۶/۶۳، المبسوط للسرخسی، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۵/۱۵۵، بخاری شریف، أجرة السمسرة، النسخة الهندية ۱/۳۰۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۴/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۵۹/۳۹)

اقامہ بنانے کی اجرت لینا

سوال [۹۶۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

(۱) زید سعودی عرب ملازمت کے لئے گیا اور اس کو وہاں رہنے کے لئے اقامہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر رہائش کی اجازت نہیں ہوتی ہے؛ لیکن مالک زید کو اقامہ دینے کے لئے حکومت سے اقامہ بنوانے میں جتنا خرچ ہوا ہے، اس سے بہت زائد رقم کا مطالبہ کرتا ہے، تو کیا اقامہ حاصل کرنے کے لئے زید کا زائد رقم دینا اور مالک کا زائد رقم لینا درست ہے یا نہیں؟

(۲) اور بعض مالک ملازم کو یہ کہہ کر آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں کسی کام پر نہیں رکھیں گے؛ بلکہ تم آزاد ہو؛ لیکن یومیہ یا ماہانہ اتنی رقم لا کر ہم کو دینا ہوگا، تو کیا اس طرح کا معاملہ شرعاً درست ہے؟

المستفتی: حبیب الرحمن دیواریا (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) کفالت بانفس ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جس پر اجرت لینا جائز ہوتا ہے؛ لہذا کفیل کے لئے اقامہ بنانے میں جو خرچ ہوا ہے اس کے علاوہ اپنی ذمہ داری کی وجہ سے مزید رقم کا لینا جائز اور درست ہے۔

ولأن الكفالة والرهن شرعا للتوثق والتوثق ملائم للأجر الخ. (بدائع

الصنائع، کتاب الإجارة، باب حکم الإجارة، زکریا ۴/ ۶۱، کراچی ۴/ ۲۰۲)

وإذا أدى الكفيل المال من عنده رجع بما كفل ولا يرجع بما أدى.

(تاتارخانیہ، زکریا ۱۰/ ۱۱۴، رقم: ۱۴۱۸۹، المسبوط، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲۰/ ۷۳)

(۲) کفیل بانفس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ مکفول لہ کو اپنے یہاں ملازم نہ رکھے؛ بلکہ حکومت کے اعتماد کے لئے اپنی کفالت اور ذمہ داری حکومت کو پیش کر کے مکفول لہ کو اقامہ دلاوا کر آزاد چھوڑ دے اور سالانہ یا ماہانہ ذمہ داری کی جو رقم طے ہو جائے وہ وصول کرتا رہے۔

قال في البدائع: لأن الكفالة والرهن شرعا للتوثق والتوثق ملائم للأجر الخ. (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، باب حكم الإجارة، زكريا ۴ / ۶۱، كراچی ۲۰۲ / ۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم رجب ۱۴۳۳ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۱۱۱۸۳/۲۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۷/۱۸

ہوٹل والوں کا رکشہ یا ٹیکسی ڈرائیور کو کمیشن دینا

سوال [۹۶۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: (۱) یہاں شہر آگرہ میں دوکانداروں اور ہوٹلوں کے مالکوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ اگر کوئی رکشہ یا ٹیکسی والا کسی مسافر کو لے کر ہوٹل پر پہنچتا ہے اور مسافر اور ہوٹل کے مالک کا آپس میں قیام کے بارے میں معاملہ طے ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں مسافر ہوٹل کا جتنا کرایہ ادا کرتا ہے اس میں سے ۵۰ فیصد یا دس فیصد مالک رکشہ یا ٹیکسی والے کو (جو مسافر ہوٹل پر لایا ہے) دیتا ہے۔ اور اگر مسافر اور ہوٹل والے کا آپس میں معاملہ طے نہ ہوا، جس کی بنا پر مسافر ہوٹل میں نہ ٹھہر سکا تو رکشہ وغیرہ والوں کو ہوٹل کی جانب سے کچھ نہیں ملتا ہے، اسی طرح رکشہ یا ٹیکسی والے مسافر کو کسی دوکان پر سامان کی خریداری کے لئے لے جاتا ہے اور مسافر اس کی دوکان سے کوئی سامان خرید لیتا ہے، تو بھی دوکاندار رکشہ والے کو ۵۰ فیصد ادا کرتا ہے کہ گا ہک دوکان پر لایا ہے، دونوں صورتوں میں رکشہ اور ٹیکسی والے اپنالانے لے جانے کا کرایہ مسافر سے وصول کرتے ہیں، فی صدی رقم ہوٹل اور دوکان پر لے جانے اور دوکاندار یا ہوٹل مالک اور مسافر کا آپس میں معاملہ طے ہونے پر ملتی ہے، اور دوکان پر خریداری نہ ہونے کی صورت میں بھی رکشہ والے کو دس پانچ روپیہ ملتے ہیں، تو از روئے شرع اس معاملہ کا حکم کیا ہے؟ اور اس معاملہ سے حاصل شدہ رقم کا کیا حکم ہے؟

(۲) یہاں ایک کمیٹی قائم ہے جو رمضان میں زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کرتی ہے اور اس میں سے

پورے سال مستحقین کو دیتی رہتی ہے، کبھی کبھی اس کا کچھ حصہ رمضان تک بچ بھی جاتا ہے، گیمبٹی مزید زکوٰۃ اکٹھا کر لیتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت ہے یا نہیں؟ فقط والسلام

المستفتی: مفتی عبدالستار افضل العلوم، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جب رکشہ یا ٹیکسی والے سواری کو لے کر کے ہوٹل یا مارکیٹ میں پہنچا دے اور سواری کا صاحب ہوٹل یا مارکیٹ سے آپس میں بیع و ثراء ہو جانے کی صورت میں اگر صاحب ہوٹل یا صاحب مارکیٹ کچھ روپیہ رکشہ یا ٹیکسی والے کو بخوشی دے دے، تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، اسی طرح اگر رکشہ یا ٹیکسی والے کا صاحب ہوٹل یا صاحب مارکیٹ سے فی سواری لانے میں ۵ فیصد روپیہ آپس میں طے ہو جائے اور مارکیٹ والے فی سواری ۵ فیصد روپیہ رکشہ والے کو دے دیں یا ٹیکسی والے کو دے دیں تو یہ درست ہے؛ لیکن مسافروں کے ساتھ دھوکہ بازی خرید و فروخت میں نہیں ہونی چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۱/۳۱۰، جدید ڈابھیل ۱۶/۶۱۹)

قال في التاتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا، فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فحوزوه لحاجة الناس إليه، كدخول الحمام. (شامي، كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، كراچی ۶/۶۳، زکریا ۹/۸۷، الفتاویٰ التاتارخانية، زکریا ۱۵/۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

(۲) اگر گیمبٹی زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے مستحقین تک پہنچا دیتی ہو، تو یہ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۷/۱۲۷، جدید ڈابھیل ۹/۵۶۲) فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۶/۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۵۳۹)

رقم پہنچانے کے فی سیکڑہ پانچ سو روپے لینا

سوال [۹۶۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید دہلی میں کسی مسجد کا امام ہے اور عمر پٹنہ میں کسی مدرسہ کا مدرس ہے، پٹنہ کے رہنے والے جو لوگ دہلی میں کام دھندہ کرتے ہیں، وہ اپنے روپے گھر بھیجنے کے لئے زید کو روپے دیتے ہیں، زید ان کے روپے گھر پہنچانے کے عوض پانچ روپے سیکڑہ کے حساب سے معاوضہ لیتا ہے، پھر زید عمر کوفون کے ذریعہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص کو اتنا روپے دے دو اور فلاں شخص کو اتنا روپے دے دو، عمر جس شخص کا روپیہ ہوتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، آمد و رفت اور فون وغیرہ کرنے میں جو روپے خرچ ہو کر بچتے ہیں انہیں زید اور عمر آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، زید عمر کا پانچ روپے سیکڑہ کے حساب سے روپے لینا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: جابر حسین، امام خضریٰ و ویکانند کا لونی آدرش نگر، بے پور، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں زید و عمر کا لوگوں کے روپے ان کے گھر پہنچانے پر اجرت طے کر کے لینا جائز اور درست ہے، اس لی گئی رقم کو ان کے عمل (نقل و حمل) کی اجرت قرار دیا جائے گا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۱۴۶)

کان ابن زبیر - رضی اللہ عنہ - یاخذ من قوم بمکة دراهم، ثم یکتب لهم بها الی مصعب بن الزبیر بالعراق، فیأخذونها منه، فسئل عن ذلک بابن عباس - رضی اللہ عنہ - فلم یربه بأسا. وروی عن علی - رضی اللہ عنہ أنه سئل عن مثل هذا فلم یربه بأسا. (المغنی لابن قدامة، دارالفکر ۴/ ۲۱۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۲/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۳۶/۳۹)

گراہک بڑھانے کی اجرت

سوال [۹۶۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے ایک کمپنی سے تجارت کا سلسلہ شروع کیا ہے، کمپنی کپڑا فروخت کرتی ہے اور کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہمارے کپڑے کی قیمت تیرہ ہزار روپے ہے اور جو ہمارا کپڑا خریدے گا وہ ہمارا پارٹنر ہو جائے گا، یہ کمپنی کا کہنا ہے؛ لیکن اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ ہمارا کپڑا دوسروں کو فروخت کروائے گا اور ایک گراہک پر ہم آپ کو پندرہ سو روپے بطور چیک تمہارے گھر پہنچائیں گے، اسی طرح دو گراہکوں برتین ہزار اور چار پر چھ ہزار کا چیک گھر پہنچے گا اور یہ چیک گراہک بنانے کے دس دن بعد پہنچے گا، اور کمپنی ایسا کر رہی ہے۔ اور اگر کسی کپڑا لینے والے نے ایک گراہک بھی نہ بنایا تو وہ صرف یہ کپڑا اپنے جو اس نے تیرہ ہزار کا خریدا ہے، اس کو اور کچھ نہ ملے گا؛ البتہ کمپنی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے اگر ایک گراہک کو کپڑا دلویا اور اس نے کسی اور کو دلویا اور یہ سلسلہ برابر سلسلہ وار چلتا رہا تو بھی کمپنی پہلے والے کو اور دیگر گراہکوں کو بھی سلسلہ وار کمیشن دے گی، تو یہ تجارت زید کی جائز ہوئی یا نہیں؟

مزید کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پارٹنر چار گراہک بنا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا یہ سلسلہ بند ہو گیا اور کوئی بھی کسی کو نہ بنا سکا تو ہم اپنے اس پارٹنر کو جس نے چار ہمارے گراہک بنائے ہیں، ایک مہینہ کی آمدنی سے ایک پریسٹ اس کو روانہ کریں گے، یہ کمپنی ٹوس کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور ہندوستانی ہے، تو زید کی یہ تجارت کہاں تک صحیح ہوئی؟

المستفتی: احقر محمد اکبر قریشی قریشیان گڑھی سلیم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ کے سوال نامہ میں کچھ چیزیں حد جواز میں داخل ہیں اور کچھ چیزیں حد جواز سے باہر ہیں، جو چیزیں حد جواز میں داخل ہیں ان میں: (۱) تیرہ ہزار روپے جمع کر کے جو کپڑا آپ نے خریدا ہے، اس کا لینا اور استعمال کرنا جائز ہے۔

(۲) وہ شخص براہ راست ممبر بن کر جن لوگوں کو ممبر بنائے گا، اس ممبر سازی کی اجرت اس کے لئے لینا جائز ہے۔ اور کمپنی کے لئے اس کا دینا جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ دلالی کی اجرت ہے، جو جائز ہے۔

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجره السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال، زكريا ۹/ ۸۷، كراچی ۶/ ۶۳، الفتاوى الولوالجية، مكتبه دار الأيمان سهارنپور ۳/ ۳۴۴، الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كراچی ۲/ ۶۰)

اس کے علاوہ کمپنی نے جو صورت بتائی ہے وہ جائز نہیں ہے، مثلاً پہلا ممبر جن لوگوں کو براہ راست ممبر نہیں بناتا ہے، نیچے والے ممبروں کی کارکردگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؛ اس لئے نیچے والے ممبروں کی کارکردگی میں وہ نفع کا مستحق نہیں ہو سکتا، اسی طرح سلسلہ وار ممبر بننا اور بنانا کسی طرح جائز نہیں ہے۔

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه، أشرفي، ص: ۱۱۰، رقم: ۲۶۹، شرح المحجلة رستم، اتحاد ۱/ ۶۲، رقم المادة: ۹۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۲/۱۳۲۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۳۱۶)

کمپنی کا گراہک کو بڑھانے پر اجرت دینے کا حکم

سوال [۹۶۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: ایک کمپنی پندرہ سو روپے میں تین جوڑی کپڑے دے رہی ہے۔ اور اس نے اسکیم نکالی ہے کہ جو بھی ایک بار کپڑا لے گا اور کپڑے لینے والا، تین گراہک اور تیار کرے گا، تو کمپنی مہینہ میں پانچ سو بیسٹھ روپے کمیشن دے گی اور جتنے گراہک بڑھیں گے اتنا ہی کمیشن بڑھتا جائے گا اور کپڑے لینے والے سے تین سو گراہک بن جائیں گے، تو کمپنی فری فوگٹ میں بیس ہزار روپے مہینہ دے گی، کیا ایسا پیسہ لینے والے کے لئے یہ پیسہ جائز ہوگا یا حرام؟

المستفتی: حافظ چراغ الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کمپنی کی یہ اسکیم کہ پندرہ سو روپے میں ۳ جوڑی کپڑے ملیں گے، یہ تو بلاشبہ جائز اور درست ہے؛ لیکن کمپنی کی دوسری اسکیم کہ جو ممبر تین گراہک سے لے کر تین سو تک گراہک بنائے گا اس کو بیس ہزار روپے ملیں گے، اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ پہلا گراہک اپنی محنت سے دوسروں کو ممبر بنائے گا یا اس کے بنائے ہوئے گراہک اپنی محنت سے تین سو ممبر بنائیں گے، جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لئے ان پیسوں کا لینا جائز نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کو اپنی محنت سے براہ راست تین سو ممبر بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے پیسہ کا لینا دینا جائز اور درست ہے۔ اور اگر تین سو ممبر بنانے میں اس کی محنت کا دخل نہ ہو؛ بلکہ اس کے بنائے ہوئے ممبروں نے گراہک بنایا ہے، تو وہ پیسہ اس کے لئے حلال نہیں ہے۔

عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم. (المصنف لابن

أبي شيبة، في أجر السمسار، مؤسسة علوم القرآن ۱۱ / ۳۳۹، رقم: ۲۲۴۹۹)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، -إلى قوله- سئل

محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فحوزوه لحاجة الناس إليه. (شامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في

أجرة الدلال، زكريا ۹/ ۸۷، كراچى ۶/ ۶۳، الفتاوى السلولاجية، مكتبة دارالایمان
سهارنپور ۳/ ۳۴۴ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵ صفر المظفر ۱۴۲۴ھ

۲۰/۲۴/۱۴۲۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۹۱۱)

ممبر سازی پر ملنے والا کمیشن جائز ہے یا ناجائز؟

سوال [۹۶۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) آج کے اس سائنسی دور میں بہت ساری کمپنیاں بالکل انوکھے اور جدید طریقے سے تجارت اور بزنس کر رہی ہیں اور اپنی اس تجارت اور بزنس میں ملک کے تمام عوام کو شرکت کی دعوت دے رہی ہیں، اس طرح کی کمپنی میں ایک کمپنی RCM ہے جو کچھ رقم لے کر لوگوں کو اپنا ممبر بناتی ہے، مثلاً ایک ممبر سے پندرہ روپے لے کر اس کو تقریباً: 1400/- روپے کا کپڑا وغیرہ دے دیتی ہے اور اس ممبر کو اپنی مصنوعات جو کھانے پینے پہننے اور برتنے کی چیزوں پر مشتمل ہے، کچھ کمیشن پر دیتی ہے۔

نیز اس کے بعد جو لوگ اس کے ڈاؤن میں یعنی اس کے نیچے ممبر بنتے ہیں ان ممبران کی خریداری پر بھی ان ممبران کی ذاتی کمیشن دے کر ایک خاص تناسب کے ساتھ اوپر والے ممبران کو کمپنی کچھ کمیشن دیتی ہے اور اس طرح ایک ممبر کے ڈاؤن میں یعنی اس سے نیچے جس قدر زیادہ ممبران ہوتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، اسی قدر زیادہ سے زیادہ اوپر والے ممبران کو کمیشن ملتا ہے، بایں وجہ ہر نیچے والا ممبر اس بات کی جدوجہد کرتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں اور خریداری کریں، تاکہ اس کے ڈاؤن لائن کی کثرت سے اس کا کمیشن روز بروز بڑھتا رہے، کیا مذکورہ کمپنی کے ساتھ اس طرح کی بزنس اور تجارت میں شریک ہونا جائز ہے؟ دارالعلوم سمیٹل السلام حیدرآباد کی طرف ایک فتویٰ اس کے جواز کا منسوب ہے، جو

اس سوال کے ساتھ منسلک ہے، اطمینان بخش اور مدلل جواب سے نوازیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مذکور تجارت کے نفع سے کچھ رقم کمپنی فنڈ میں رکھتی ہے اور کچھ لوگوں کو قرضہ اندازی سے تقسیم کرتی ہے، اور کبھی کسی کی موت ایکسیڈنٹ ہو تو اس کے پسماندگان کو ایک خاص رقم عطیہ کی جاتی ہے، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟

المستفتی: محمد اشتیاق پیر پھتی بازار، بھگلپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ پر غور کرنے سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) اول یہ کہ آر، سی، ایم کمپنی جو اپنے ممبر سے ۱۵۰۰ روپے لے کر اس کو ۱۴۰۰ روپے کا کپڑا دیتی ہے اور اس ممبر کو اپنی مصنوعات خریدنے پر کچھ کمیشن بھی دیتی ہے، تو بظاہر اس معاملہ میں کوئی حرج نہیں ہے؛ اس لئے کہ کوئی بھی کمپنی یا شوروم اگر اپنے ممبر کو اپنی مصنوعات خریدنے پر کچھ کمیشن دے، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا مال جتنی رقم میں فروخت کرنا چاہے کرے۔ اور اس مال پر جتنی چھوٹ اور کمیشن رکھنا چاہے تو بھی اس کو اختیار ہے؟

(۲) دوسرے یہ کہ کمپنی سے جڑنے والا ممبر جب محنت کر کے اپنے نیچے ممبر بنائے گا اور پھر کمپنی اس نئے ممبر کی خریداری پر پہلے والے ممبر کو کچھ کمیشن دے گی، تو کمیشن کے طور پر ملنے والی رقم اس کی محنت کے عوض میں قرار دی جائے گی، بریں بنایا کمیشن اس ممبر کے لئے بلاشبہ جائز اور درست ہوگا۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ اس ممبر کے بنائے ہوئے ممبران جب اپنے نیچے نئے ممبران بنائیں گے اور پھر یہ ممبران بھی اپنے نیچے نئے ممبران بنائیں گے، تو اس تیسرے درجہ کے اسی طرح اس سے نیچے درجات کے تمام ممبران کی وجہ سے بھی پہلے درجہ کے ممبر کو کمیشن ملتا ہے، جب کہ اس صورت میں اس کی کوئی محنت نہیں ہوتی؛ اس لئے اس صورت میں اس کو ملنے والا یہ کمیشن کسی طرح جائز اور درست نہ ہوگا، اور اس طرح کا معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں۔

یتصرف المالك في ملكه كيف شاء. (البنایة، أشرفیہ دیوبند ۸ / ۲۱۹)
 المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشیتته. (بدائع
 الصنائع، النفقة، باب ما يبطل به الخيار، زكريا ۲ / ۶۳۸، كراچی ۲ / ۳۲۷)
 المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (تفسیر
 بیضاوی، رشیدیہ ۷ / ۱)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا
 بأس به. (شامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال، زكريا
 ۹ / ۸۷، كراچی ۶ / ۶۳، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۵ / ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲،
 المبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۱۵ / ۱۵۵)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
 (شامي، كتاب الحدود، باب التعزير، زكريا ۶ / ۱۰۶، كراچی ۴ / ۶۰)
 عن علي - رضي الله عنه - قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (كنز
 العمال، الدين والسلم، دارالكتب العلمية بيروت ۶ / ۹۹، رقم: ۱۵۵۱۲)
 لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. (نوي
 على هامش مسلم ۱ / ۵۷)

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال: سمعت رسول الله
 ﷺ يقول في حجة الوداع: ألا! إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع
 عنكم كله، لكم رؤس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. (أبوداؤد، باب
 الخطبة يوم النحر، النسخة الهندية ۲ / ۴۷۳، دارالسلام، رقم: ۳۰۵۵)

(۲) کسی ممبر کی موت ہونے کی صورت میں اس کے پیمانہ نگان کو بطور عطیہ شرعی طور پر
 دینا جائز ہے، اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں؛ لیکن قرعہ اندازی کے ذریعہ سے کچھ
 ممبران کو دے دیا جائے اور کچھ ممبران کو نہ دیا جائے، یہ لائٹری کے مشابہ ہونے کی وجہ
 سے ناجائز ہے۔

القرعة ثلاث: الأولى: لإثبات حق بإبطال حق آخر، وإنها باطلة.

(الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۷/۱۷۷، رقم: ۲۶۸۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ذی الحجہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۵۵۰)

کمپنی کا ممبر بنانے پر ملنے والی اجرت کا حکم

سوال [۹۶۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کچھ کمپنیاں ہیں، جن سے ہونے والی آمدنی کے بارے میں شرعی حکم جاننا چاہتے ہیں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس وقت کئی ایک کمپنیاں ہیں، جو ایک متعین رقم کے عوض میں اپنا ممبر بناتی ہیں، اس کے بعد ہر ہفتے ان کی طرف سے سروے آتا ہے جو کہ ممبر کو بھرنا ہوتا ہے، جس کے عوض وہ اپنے ممبر کو رقم فراہم کرتی ہیں، وضاحت کے لئے میں ایک کمپنی رام سروے کی مثال دیتا ہوں، رام سروے کمپنی ۳۵۰۰ روپے کی رقم کے عوض میں کسی بھی فرد کو اپنا ممبر بناتی ہے، ایک ہفتے میں اس کا سروے آتا ہے، جس کے عوض میں ۵۰۰ روپے ممبر کو دیا جاتا ہے، سروے کی رقم ۲۰۰ روپے ہو جاتی ہے، تو ممبر اس کو حاصل کر سکتا ہے، رقم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں:

الف: بینک کے ذریعہ اس صورت میں بینک %15 T.D.s اور سروس چارج کے طور پر کاٹ لیتی ہے۔

ب: سروے کی رقم جب ۳۵۰۰ روپے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس سے کسی نئے شخص کو کمپنی میں جوڑ دیتے ہیں اور اس شخص سے ۳۵۰۰ روپے نقد لے لیتے ہیں، سروے انکم کے علاوہ ایک اور طریقہ سے کمپنی اپنے ممبر کو رقم دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرانا ممبر کسی نئے فرد کو کمپنی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس کو کمیشن کے طور پر ۲۵۰ روپے ملتا ہے، نیز پہلے سے جڑ چکے کچھ دوسرے ممبر کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کمپنی کے ساتھ کچھ سامان بنانے والی کمپنیاں

منسلک ہیں، جو کہ اپنے سامانوں کے لئے سروے کرواتی ہیں، اگرچہ یہ پتہ لگانے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ کمپنیاں رام سروے کی خدمت اپنے سامانوں کے سروے کے لئے لیتی ہیں یا یہ کمپنی خود ہی اپنی طرف سے سروے کرواتی ہیں؟ سروے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: شیمپو کے لئے سروے: آپ کا نام، آپ کی جنس، ماہانہ آمدنی، کیا آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں، ہفتہ میں کتنی بار استعمال کرتے ہیں، کس کمپنی کا شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ گھر کے کتنے افراد شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ اپنے شیمپو میں آپ کون سی خوبی چاہتے ہیں؟ آپ شیمپو کہاں سے خریدتے ہیں، اس وقت رام سروے ساپیک ایشیا اور اس جیسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن کا طریقہ کار لگ بھگ ایک جیسا ہے ”ایرو لائنٹ“، کمپنی سروے کی جگہ ایک اشتہاری فلم دکھاتی ہے، اس اشتہاری فلم کو دیکھ کر دئے گئے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، باقی سب کچھ بقیہ کمپنیوں کی طرح ہے۔

آنجناب سے گزارش ہے کہ ان کمپنیوں کے طریقہ کار اور ان سے ہونے والی آمدنی کے بارے میں شرعی حکم سے مطلع فرمائیں، ایسی صورت میں کمپنی سے ہونی والی آمدنی جائز ہے یا نہیں؟ چند سوالات اور ہیں:

(۱) مان لیجئے کسی کا ۱۰۰۰۰۰ روپے کمپنی میں لگا ہوا ہے، تو کیا وہ اپنی اصل رقم کے حصول تک کمپنی میں کام کر سکتا ہے؟

(۲) اپنی اصل رقم سے زائد جو لوگ کمائی کر چکے ہیں، تو وہ اس رقم کا کیا کریں؟

(۳) ایسی صورت میں وہ رقم کسی غریب یا رفاہی ادارے کو دے دیں، تو کمپنی کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے یا نہیں؟ واضح ہو کہ جو ۳۵۰۰۰ روپے لیا جاتا ہے، وہ ان کی ممبری فیس ہوتی ہے جو انہیں بعد میں واپس نہیں کی جاتی ہے۔

المستفتی: تنویر احمد بنارسی، پیلی کوٹھی، وارانسی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں غور کیا گیا کہ اس جیسی متعدد کمپنیاں اس وقت پورے ملک میں بہت سرگرم ہیں اور اس طرح کی کمپنیوں کے بارے میں شرعی طور پر

غور و خوض کیا گیا، ان میں سے کوئی بھی کمپنی کسی شرعی اصول کے دائرہ میں نہیں آتی ہے، شروع میں جو پیسہ داخل کیا جاتا ہے، بعد میں ملنے والی جتنی بھی زائد رقم ہے وہ سب سود کے دائرہ میں داخل ہوتی ہے۔ اور سروے کی جو بات کہی گئی ہے اس کا پورا حاصل کمپنی میں شامل ہونے والے کے بارے میں تحقیق کے ذرائع ہیں، نیز اصل رقم سے زائد جو لوگ پیسے حاصل کر چکے ہیں، وہ پیسے نادار غریب لوگوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کو زائد پیسے دے دیا کریں گے، اس غرض سے سودی کام کرنا جائز نہیں، نیز کسی دینی ادارے مسجد یا مدرسے کو سود کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سودی رقم خرچ کرنا جائز ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی اسی ہفتہ میں معلوم ہوا کہ رام سروے کمپنی بھاگ گئی۔

وفي الشريعة: الربا: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع لما بينا أن المبيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم، فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع، فكان حراما شرعا. (المبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۱۰۹/۱۲)

وأما ربا النسئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معيناً، ويكون رأس المال باقياً. (تفسير كبير ۷/ ۹۱)

الربا يقتضى أخذ مال الإنسان من غير عوض؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهم نقداً أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال المسلم متعلق حاجته وله حرمة عظيمة..... وأخذ الدرهم الزائد متيقن. (تفسير رازي ۷/ ۹۳، الموسوعة الفقهية ۲۲/ ۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۲۶ھ

۱۴۳۲/۶/۲۷

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/ ۱۰۴۳۷)

”انڈیا روز“ کمپنی کا ممبر بننا

سوال [۹۶۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ”انڈیا روز“ ایک کمپنی ہے، اس میں داخلہ فیس ۱۵۰ روپے داخل کر کے دوسرے آدمی کو اس کمپنی کا ایجنٹ بنانا پڑتا ہے، اگر دائیں بائیں پانچ پانچ ایجنٹ بنا دیا ہے، تو اس آدمی کی تنخواہ پندرہ سو روپے ہوگی، اسی طریقہ سے جتنے ایجنٹ بنائے گا اتنا ہی تنخواہ بڑھ جائے گی، کیا اس کمپنی کا کام کرنا جائز ہے؟

(۲) اس کمپنی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے ایجنٹ نہیں بنایا تو پہلے جو پندرہ سو روپے جمع کرایا تھا، اس کو سال میں دو گنا کر کے کمپنی دے دے گی، یہ صورت کیسی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ (یہاں پر اس کمپنی کا بہت رواج ہو رہا ہے)

المستفتی: دفتر دینی تعلیمی بورڈ آسام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ شکل میں چونکہ کمپنی براہ راست ایجنٹ بنانے کے نتیجے میں اس کو ۱۵۰ روپے کا معاوضہ دے رہی ہے؛ اس لئے یہ شکل تو جائز ہے اور اس کمپنی میں کام کرنا بھی درست ہے؛ لیکن اگر دوسرے درجہ کے ایجنٹ نے کوئی ممبر بنایا اور اس کے نتیجے میں پہلے درجہ کے ایجنٹ کو کمیشن دیا جاتا ہے، تو یہ شکل جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: از انوار رحمت، ص: ۲۵۸)

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح. (شرح المحللة رستم، إتحاد

۱/ ۱۲۴، رقم المادة: ۲۴۵)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. (شامي، مطلب في أجرة

الدلال، زكريا ۹/ ۸۷، كراچی ۶/ ۶۳، ہندیة، زكريا قديم ۴/ ۴۵۰، جديد ۴/ ۴۸۷،

بزازية، زكريا جديد ۲/ ۲۳، وعلى هامش الهندية ۵/ ۴۰)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه، أشرفي

ص: ۱۱۰، رقم: ۲۶۹)

(۲) ممبر نہ بنانے کی صورت میں گویا کہ کمپنی کا ایجنٹ نہیں رہا اور سال کے اخیر میں کمپنی اس کے پیسے کے ساتھ ممبری سے خارج کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے جو پیسے کمپنی کے پاس رہے وہ اس کی طرف سے امانت یا قرض کے حکم میں ہوں گے۔ اور دونوں صورتوں میں ۱۵۰۰ روپے پر زائد رقم سود کے درجہ میں ہے؛ اس لئے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔

کل قرض جر نفعاً حرام۔ (شامی، مطلب کل قرض جر نفعاً حرام، زکریا

۷/۳۹۵، کراچی ۱۶۶/۵، طحاوی ۲/۲۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

کیم جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۶/۱

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۸۶/۳۹)

دوسرے شخص کی ممبر سازی کا کمیشن لینا

سوال [۹۶۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ”آر، ایم، پی“ ایک کمپنی ہے، جو اپنے پروڈکٹ (مثلاً انرٹی شیور، شولر لیمپ، پانی صاف کرنے کی مشین، گھر صاف کرنے کی مشین، مساجر، کپڑے، گھڑیاں، لیپ ٹاپ، فرنچ، موٹر سائیکل وغیرہ جیسے بیس سے پچیس پروڈکٹ ہیں) کو خریدار کے ہاتھ فروخت کرتی ہے، بغیر کسی شرط کے، نیز ہر پروڈکٹ کی قیمت متعین ہے، ہر کسی کے لئے ایک جیسی ہے، کمپنی خریدار سے کہتی ہے کہ اگر آپ کمپنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو کمپنی کا کوئی بھی ایک سامان خرید کر کمپنی کے ڈسٹری بیوٹرس بن جائیے اور کمپنی کا ہر دو عدد سامان فروخت کر کے ایک ہزار روپے محتانہ لیجئے، گویا کمپنی ہر دو عدد سامان فروخت کرنے پر ڈسٹری بیوٹرس کو ایک ہزار روپے دیتی ہے، حامد نے کمپنی کا ایک سامان شولر لیمپ خریدا، کمپنی نے حامد کو اپنا ڈسٹری بیوٹرس بنا لیا، اب کمپنی حامد سے کہتی ہے کہ آپ کمپنی کا کوئی بھی دو عدد سامان فروخت کرو تو ہم آپ کو ایک ہزار روپے دیں گے، حامد نے اسلم اور اکرم کو ایک ایک سامان فروخت کیا اور

منافع لیا، اب کمپنی حامد سے کہتی ہے کہ اگر یہ اسلم اور اکرم بھی کمپنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی دو دو عدد سامان آپ کی رہنمائی مدد اور نگرانی میں فروخت کریں، تو انہیں بھی کمپنی ہر دو عدد فروخت کرنے پر ایک ایک ہزار روپے اور حامد کو اپنے دو نئے ڈسٹری بیوٹرز کی نگرانی، مدد اور رہنمائی کی وجہ سے ہر دو عدد فروخت ہونے پر ایک ہزار روپے دیتی ہے، گویا کمپنی ہر دو عدد سامان فروخت ہونے پر ہر ڈسٹری بیوٹرز کو جو ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، سبھی لوگوں کو ایک ایک ہزار روپے دیتی ہے، اب حامد کے ساتھ اسلم اکرم اور نئے چار لوگ کل ملا کر سات عدد ڈسٹری بیوٹرز بن گئے، کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ ساتوں ڈسٹری بیوٹرز مل کر کمپنی کا آٹھ عدد سامان فروخت کرتے ہیں، تو کمپنی نئے بنے چار ڈسٹری بیوٹرز کو ایک ایک ہزار روپے اور ان چاروں سے پہلے بنے کمپنی کے ڈسٹری بیوٹرز اسلم اور اکرم کو دو دو ہزار روپے اور ان سے پہلے بنے ڈسٹری بیوٹرز حامد کو چار ہزار روپے محنتانہ ادا کرتی ہے، گویا حامد کی ٹیم (جماعت) میں جوں جوں ڈسٹری بیوٹرز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، کمپنی کے سامان کی فروخت بڑھتی جاتی ہے اور ڈسٹری بیوٹرز کی محنتانہ رقم بڑھتی جاتی ہے، واضح رہے کہ کمپنی کے سامان کی خرید و فروخت میں کوئی شرط نہیں ہے، نیز خریدار بالکل آزاد ہے، اگر کمپنی کا ڈسٹری بیوٹرز بننا چاہے تو بے ورنہ سامان لے کر جائے، کمپنی کی طرف سے کوئی شرط نہیں، کوئی جبر نہیں، اس طرح کا کاروبار کرنا ہم مسلمانوں کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

حامد

$$1000 + 2000 + 4000$$

$$2000 + 1000 \text{ اکرم}$$

$$1000 + 2000 \text{ اسلم}$$

1000

1000

1000

1000

مندرجہ بالا نمونہ سے واضح ہو رہا ہے کہ ہر ڈسٹری بیوٹرز کو ہر دو عدد سامان فروخت ہونے پر ایک

ایک ہزار روپے ملتا ہے، چونکہ یہ بزنس اجتماعی شکل میں ٹیم بنا کر کیا جاتا ہے؛ اس لئے ٹیم کے ہر فرد کو منافع ملتا ہے اور ٹیم میں ڈسٹری بیوٹرز کی تعداد جتنی بڑھتی جاتی ہے منافع بڑھتا جاتا ہے۔

المستفتی: مفتی آزاد قاسمی، الجامعۃ العربیہ معراج العلوم، چٹیا کیمپ ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: براہ راست ممبر سازی کی صورت میں اپنا کمیشن لینا جائز ہے؛ لیکن اپنے ذریعہ بنائے گئے ممبروں کے دوسرے ممبرس اور ڈسٹری بیوٹرز بنانے کی صورت میں پہلے ممبر کو اپنا کمیشن لینا از روئے شرع جائز نہیں ہے اور اجرت یا کمیشن صرف اپنی محنت یا عمل کے بدلے میں لینا درست ہوتا ہے۔ اور نگرانی کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ صرف نام کی ہے، حقیقت میں نگرانی بھی دوسرے درجہ کے ممبر ہی کی ہے۔

عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.

(مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۴۲۵، رقم: ۲۴۰۰۳، مجمع الزوائد، دارالکتب العلمیہ بیروت ۴/ ۱۷۱)

سئل محمد بن سلمة عن أجره السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به.

(شامی، کتاب الإجارة، مطلب في أجره الدلال، کراچی ۶/ ۶۳، زکریا ۹/ ۸۷،

تاتارخانیہ، زکریا ۱۵/ ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

الأجرة إنما تقوم بمقابلة العمل. (شامی، کتاب النکاح، باب المهر، زکریا

۴/ ۳۰۷، کراچی ۳/ ۱۵۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۱/۱۸ھ

(الف توئی نمبر: ۳۹/ ۱۰۲۶۱)

ایجنٹ کے ذریعہ سے سرکاری دفاتر کا کام کرانا

سوال [۹۶۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید لوگوں کے سرکاری دفاتر کے کام کاج کراتا ہے، مثلاً ڈرائیورنگ لائسنس وغیرہ بنواتا ہے، اپنے آمدورفت کا خرچ اپنا حق المحنت اور افسران کورشوت دینے کی رقم لوگوں سے لے لیتا ہے، لوگ بھی بخوشی یہ سوچ کر زید کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ اگر خود سے گئے تو کئی بار آنا جانا پڑے گا، اپنے کام کا خرچ ہوگا، سوا لگ اور زیادہ رشوت دے کر اپنا مقصد حاصل ہوگا، زید کتنی رقم رشوت میں دے گا، کتنا آمدورفت وغیرہ کا خرچ ہوگا اور کتنا حق المحنت لے گا، اس کی تفصیل بتائے بغیر لوگوں میں رقمیں لے لیتا ہے اور لوگوں کے کام کراتا ہے، اسی کو زید نے اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) کسی ایجنٹ کے ذریعہ سرکاری یا غیر سرکاری کام کرانا جائز ہے اور اس کام میں آپس کے تراضی سے جو بھی پیسہ ملے ہو جائے اس پیسہ کا دینا اور لینا بھی جائز ہے، ہاں البتہ اگر ایجنٹ سرکاری آفیسر کورشوت دے کر کام کراتا ہے اور وہ ایسا کام ہے جو بغیر رشوت کے بھی ہو سکتا ہے، تو رشوت دینے کا گناہ ایجنٹ کو ہوگا، پیسہ دے کر کام کرانے والوں کو نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا کام ہے جس کا کرانا بھی ضروری ہے اور آفیسر رشوت کے بغیر نہیں کرتا ہے، تو اپنے حق کے وصول کے لئے یا دفع مضرت کے طور پر رشوت دینا جائز ہے، رشوت دینے والے پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ ہوگا۔

تصح الوکالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة، ولهذا قاله ابناء عمه لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس: أي العمولة، ولأن الوکالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها، فيجوز أخذ الأجرة فيها بخلاف الشهادة. (الفقه

الثالث أخذ المال ليسوى أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على الآخذ فقط. (شامي، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية، زكريا ۸/۳۵، كراچی ۵/۳۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۳۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۱۱۰۳۸)

دو فیصد پر پلاٹ بکوانے کے معاملہ کا حکم

سوال [۹۶۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے محلہ میں ایک صاحب نے زمین خریدی ہے، جو کہ ہر دھوکہ اور جھوٹ سے پاک صاف ہے، وہ اس زمین میں دوکانوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، ان صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری یہ دوکانیں بکوائیے، ہم آپ کو دوپریسینٹ سے آپ کی محنت کا پیسہ دیں گے، اس میں خریدار سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خریدار کو لانے میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا یہ پیسہ لینا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد رفیق محلہ پیتل نگری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ معاملہ دلالی کا ہے اور بیع و شرا و خرید و فروخت میں بیچ میں جو دلال ہوتا ہے، اس کی اجرت جعالہ کے درجہ میں ہو کر جائز ہے۔ دو فیصد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجرت من وجہ مجہول ہے اور من وجہ متعین ہے، خریداری کا معاملہ پکا ہونے سے پہلے پہلے مجہول ہے اور معاملہ پکا ہونے پر لین دین سے پہلے ہی اجرت متعین ہو جاتی ہے، مثلاً دس لاکھ روپے کے پلاٹ کی قیمت متعین ہوگئی ہے، تو دو فیصد کے حساب سے دلال کی

اجرت متعین ہوگئی ہے، یہ لین دین سے پہلے ہی متعین ہوگئی ہے، اس طرح کے معاملہ کو تعامل ناس کی وجہ سے فقہاء نے جائز لکھا ہے۔

الحاصل: أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل؛ لكونها لا تفضي إلى النزاع عادة. (إعلاء السنن، باب أجر السمسة، كراچی ۱۶/۲۰۲، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۶/۲۴۵)

أجرة السمسار مما لا تقدير فيه للوقت ولا مقدار لما استحق بالعقد، وللناس فيه حاجة فكانت جائزة، وإن كان في الأصل فاسدا لحاجة الناس إلى ذلك. (الفتاوى الولوالجية، دارالایمان سہارنپور ۳/۴۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۲/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۷۵/۲۱)

”تم میرے لئے کوئی زمین تلاش کرو“ کہنے کا حکم

سوال [۹۶۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: عمران نے خالد سے کہا کہ تم میرے لئے کوئی زمین تلاش کرو؛ لیکن خالد جواب میں یہ کہتا ہے کہ زمین تو دیکھ لوں گا؛ لیکن مقررہ قیمت میں سے پچاس فیصد میں لوں گا، مثلاً زمین کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے، اب مشتری ایک لاکھ روپے بائع کو دیتا ہے اور پچاس فیصد کے اعتبار سے پچاس ہزار روپے خالد کو دیتا ہے، تو اب کیا خالد کے لئے یہ پچاس ہزار روپے لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد حاکم چاند پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: خالد کا عمران سے یہ کہنا کہ زمین تو دیکھ لوں گا؛ لیکن مقررہ قیمت میں سے پچاس فیصد لوں گا شرعاً اس طرح کا معاملہ وکالت اور دلالی کے دائرہ میں داخل ہونے کی وجہ سے جائز اور درست ہے۔ اور خالد اپنی محنت کے موافق مقررہ اجرت لے سکتا ہے۔

کل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. (هدایہ،

کتاب الوکالۃ، اشرفی دیوبند ۳/ ۱۷۷)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجزوه لحاجة الناس إليه. (شامی، کتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال، کراچی

۶/ ۶۳، زکریا ۹/ ۸۷، تاتارخانیہ، زکریا ۱۵/ ۱۳۷، رقم: ۲۲۴۶۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۶/۶/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۶۸/۳۸)



۲/ باب في فسخ الإجارة

بوقت ضرورت مالک کرایہ داری ختم کر سکتا ہے

سوال [۹۶۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ احقر نے اپنی ایک دوکان بطور کرایہ لگ بھگ تیرہ سال پہلے ایک شخص قمر الدین ولد فخر الدین مرحوم کو دی تھی؛ لیکن اب مجھ کو اپنے چھوٹے لڑکے کے لئے ضرورت ہے، کافی کرایہ دار سے کہنے پر بھی وہ دوکان دینے کے لئے تیار نہیں ہے، جب کہ اس نے اس عرصہ میں اس دوکان کی آمدنی سے قصبہ عمری میں اپنے مکان کے ساتھ کچھ دوکانیں بھی بنوالیں اور اپنے تینوں لڑکوں کی شادیاں بھی کر دیں، جب کہ ایک لڑکا گھر کی دوکان میں ہی دوکان کرتا ہے، حضرت والا سے درخواست ہے کہ کیا شرعی حیثیت سے بوجہ ضرورت کرایہ دار کو میری دوکان واپس کرنی چاہئے یا نہیں؟ مجبور ہو کر میں نے عدالت میں بھی مقدمہ دائر کر دیا ہے، امید ہے کہ احقر کو صحیح مشورہ سے رہنمائی کریں گے۔

المستفتی: محمد یونس استاذ اردو سیکشن مدرسہ شانی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر قمر الدین نے اپنے لئے کرایہ پر لیا تھا تو شرعی طور پر قمر الدین مرحوم کی موت کے بعد دوکان اصل مالک کو واپس مل جانی چاہئے تھی؛ لہذا اب آپ کو اپنی دوکان واپس لینے کا شرعاً حق ہے، اگر آپ نے کرایہ پر دیتے وقت پگڑی کے نام سے کچھ لیا تھا تو اس کو واپس کر دینا بھی لازم ہے، نیز مالک کو اپنی ضرورت کے لئے کرایہ پر دی ہوئی چیز واپس لینے کا حق ہوتا ہے۔

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت

الإجارة؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة له أو الأجرة المملوكة

له لغیر العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث، وذلك لا يجوز. (هدایة، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، اشرفی ۳/ ۳۱۵، مختصر القدوري، ص: ۱۰۵، المبسوط، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۱/ ۱۴۳، شامی، زکریا ۹/ ۱۴۴، کراچی ۶/ ۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/ ۵۳۲۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/ ۶/ ۱۴۱۸ھ

کیا مالک کو کرایہ کی دوکان وقت سے پہلے لینے کا حق ہے؟

سوال [۹۶۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید نے ایک دوکان لکڑی کا اسٹال تقریباً چھبیس سال پہلے دو ہزار روپے ڈپازٹ اور ماہانہ دو سو روپے کرائے پر لیا، ایگریمنٹ گیارہ مہینے کا بنایا گیا، اس کے بعد سے اب تک مالک دوکان نے نہ کبھی اس کی مرمت کروائی اور نہ ہی الیکٹرک کی سہولت دی، جس کا سب خرچ زید برداشت کر رہا ہے اور کرایہ بھی اب تک برابر ادا کر رہا ہے اور اب تک دوسرا ایگریمنٹ بھی نہیں بنایا گیا ہے، اب مالک دوکان کی بیوی کہتی ہے کہ دوکان واپس کر دو، دوکان کا مالک حیات ہے، زید کئی بار اس سے ملنے گیا؛ لیکن وہ سامنے نہیں آیا؛ لہذا اس صورت میں زید کو دوکان واپس کرنی چاہئے یا نہیں؟ زید کا اس دوکان پر شریعت کے اعتبار سے کیا حق بنتا ہے؟

المستفتی: نذیر آفتاب پاکیزہ مارکیٹ، مولانا شوکت علی روڈ ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر گیارہ مہینے کا ایگریمنٹ کرایا گیا ہے تو کاغذات کے اعتبار سے گیارہ مہینے کی مدت متعین ہے، اس سے پہلے خالی کرانے کا حق نہیں ہوگا۔ اور گیارہ

مہینے مکمل ہو جانے کے بعد مالک مکان کو کسی بھی مہینے میں خالی کرانے کا حق حاصل ہے، مگر اتنا خیال رکھا جائے کہ مہینے کے بیچ میں خالی نہ کرائے؛ بلکہ مہینے کے اختتام میں خالی کرائے، اب جب کہ مالک دوکان یا اس کی بیوی خالی کرانے کے لئے مطالبہ کر رہے ہیں تو کسی بھی مہینے کے اختتام پر ان کو خالی کرانے کا حق ہے اور جو روپے دخل دیتے وقت ڈپازٹ کے طور پر پیشگی جمع کیا گیا تھا، خالی کراتے وقت مالک سے وہ روپے لینے کا حق ہے۔

ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم، فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة؛ لأن الأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم. (هداية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، أشرفي ۳/ ۳۰۲، مختصر

القدوري، ص: ۱۰۴، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۵۳۰، مصري قديم ۲/ ۳۸۲، ہندیہ، زکریا قديم ۴/ ۴۱۶، جدید ۴/ ۴۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۲/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۲/۳-۸۷)

کرایہ داری کی مدت ختم ہونے سے قبل مالک کا دوکان خالی کرانا

سوال [۹۶۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک شخص نے دوکان کرایہ پر لی، مدت مقرر کی ہو یا نہ کی ہو؛ لیکن اب دوکان مالک خالی کرنے کے لئے کہتا ہے تو اسے دوکان خالی کرنا چاہئے یا نہیں؟ اگر وہ خالی نہ کرے اور اس میں سامان بیچتا رہے تو اس کا نفع اور کمائی حلال ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد فاروق فوجی نہٹور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مالک دوکان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی

دوکان جب چاہے، خالی کرالے، کرایہ دار کا مطالبہ کے وقت خالی نہ کرنا اور زبردستی اس میں تجارت وغیرہ کرنا ظلم اور زیادتی ہے؛ البتہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بہر صورت کرایہ دار کے لئے حلال ہوگی و واجب التصدق نہیں ہوگی، ہاں مدت ختم ہونے کے بعد سے جتنے دن اس دوکان کو خالی نہیں کیا اتنے دنوں کا مناسب اور صحیح کرایہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور چاند پور کے مفتی صاحب کا لکھا ہوا فتویٰ جس میں دوکان کی آمدنی کو واجب التصدق کہا گیا ہے اس پر مفتی صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہئے۔

استأجر داراً، أو حماماً، أو أرضاً شهراً، فسكن شهرين هل يلزمه أجرة الثاني؟ إن معداً للاستغلال نعم وإلا لا، وبه يفتى. (شامی، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، زکریا ۹/۱۱۵، کراچی ۸۴/۶)

ولو أجرة داراً شهراً بمائة، فسكنها المستأجر شهرين لزمه الأجر المسمى عن الشهر الأول، وأجر المثل عن الشهر الثاني إذا كانت الدار معدة للاستغلال. (شرح المحلة، اتحاد ۱/۲۶۴، برقم: ۴۷۲)

فإن أعدها للإيجار فالخراج للزارع وعليه أجر المثل. (شامی، کتاب

الغصب، مطلب مهم، زکریا ۹/۲۸۵، کراچی ۶/۱۹۶، تنقیح الفتاویٰ الحامدية ۲/۱۵۸) وفي الذخيرة: وإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع، فالزرع للغاصب وللمالك أن يرجع على الغاصب بنقصان الأرض بسبب الزراعة. (البحر الرائق، کتاب الغصب، كوئثه ۸/۱۱۱، زکریا ۸/۲۰۲، هندية، زکریا قديم ۵/۱۴۳، جديد ۵/۱۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۶/۳

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۱۲/۳۹)

اپنی ذاتی دوکان کرایہ دار سے جبراً خالی کرانا

سوال [۹۶۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ہماری ایک دوکان کرائے پر ہے، کرایہ دار خالی نہیں کرتا، عدالت کے ذریعہ اگر خالی کرائی جائے تو نہ معلوم کتنا وقت لگے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ خالی ہو جائے، اگر جبراً اس سے خالی کرائے تو اس شکل میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
نوٹ: اگر اس سے ہم دھوکہ سے کسی کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوا کر اپنی مرضی سے یہ لکھالیں کہ میں نے دوکان خالی کر دی ہے، تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: حافظ جزل اسٹورسٹی کرتپور، ضلع بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کرایہ دار کو دیتے وقت آپ پیشگی پگڑی کے نام سے زائد رقم لے چکے ہیں، تو جبراً یا دھوکہ دہی کا معاملہ آپ کے لئے درست نہیں۔ اور اگر شروع میں آپ نے پگڑی وغیرہ نہیں لیا ہے اور اب آپ کی ضرورت کے باوجود بغیر عذر شدید کے خالی نہیں کرتا ہے، تو دھوکہ سے دستخط یا انگوٹھا وغیرہ کے ذریعہ سے قانون کے تحت لانے کی گنجائش ہے۔

وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم - إلى قوله - ليطلب ودبعة
لإنسان ليأخذها غصبا، وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاءه
وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز. (نووي على هامش مسلم، النسخة الهندية
۱/ ۲۶۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۱/۱۱/۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷/۲۴۳۷)

کرایہ دار پر مدت کرایہ داری پوری ہونے پر دوکان خالی کرنا لازم ہے

سوال [۹۶۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد ابراہیم نے ایک دوکان رفعت عالم کو دی، گیارہ ماہ کے لئے کرایہ نامہ لکھا گیا تھا اور

کرایہ دار نے پیشگی بارہ ہزار روپے ادا کر دیئے تھے، حالانکہ ساڑھے پانچ ہزار روپے گیارہ ماہ کے ہوتے ہیں، اب محمد ابراہیم جو کہ مالک دوکان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے چھ ہزار روپے جو باقی ہیں وہ رفعت صاحب لے لیں اور میری دوکان خالی کر دیں؛ کیوں کہ مجھے ضرورت ہے اور یہی بات تحریراً دوکان دینے کے وقت طے تھی اور اسی طرح سے کرایہ دار سے یہ بھی طے تھا کہ دوکان میں کسی طرح کی تعمیری کام کرنا منع ہے اور کرایہ دار نے کچھ کام کرا لیا ہے، تو کیا یہ جائز ہے ان کو، اور کیا مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، فرش مارول کا اور فرنیچر بنوایا اس کی قیمت مانگتا ہے، تو اس مسئلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیا یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: محمد ابراہیم محمد اسماعیل تمباکو مرچنٹ محلہ چمن سرائے سنبل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صرف گیارہ ماہ کے لئے کرایہ داری کا معاملہ طے ہوا ہے، تو مدت کرایہ صرف گیارہ ماہ ہوگی اور مدت پوری ہونے پر کرایہ دار کو دوکان خالی کر دینا لازم اور واجب ہوگا۔

الشرط لما صح به وجب الوفاء به شرعا. (قواعد الفقہ، اشرفی ۸۵، رقم: ۱۵۱)
اور جب مالک نے کسی بھی قسم کے تصرف سے منع کر دیا ہے، تو کرایہ دار کو فرش وغیرہ بنانے کا حق نہیں تھا۔

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقہ،

اشرفی، ص: ۱۰۰، رقم: ۲۷۰، شرح المحلۃ رستم، إتحاد ۱/ ۶۱، رقم المادة: ۹۶)
لہذا کرایہ دار اس عمل کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ اور اگر فرنیچر وغیرہ جو کچھ بھی بنوایا ہے، وہ باسانی بغیر نقصان الگ کر لیا جاسکتا ہے، تو الگ کر لے، ورنہ مالک اس کے ملبہ کی لاگت ادا کر دے اور دوکان پر قبضہ کر لے اور کرایہ دار بغیر اجازت بنانے کی وجہ سے گنہگار تو ہوگا؛ لیکن اس کی چیز کو بر باد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔

فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك عنها. الخ (الأشباه والنظائر، قديم، ص: ۱۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ

۱۱/۱۱/۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۸۸۴)

مالک مکان کا بخوشی کرایہ دار کو دوسری جگہ انتظام کرنے کے لئے روپے دینا

سوال [۹۶۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مکان جو کہ نئی آبادی گویاں باغ میں کھیریل پوش میں کرایہ دار رہتے تھے، بہت عرصہ سے تقریباً اس مکان میں بیس سال رہتے ہوئے ہو گئے، اچانک مالک مکان کو مکان کی ضرورت پڑی، مالک مکان نے اپنے تین کرایہ داروں سے کہا کہ ہمارا مکان خالی کر دو، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، اس پر تینوں کرایہ دار بولے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس کوئی جگہ فوراً رہنے کے لئے نہیں ہے، مگر مالک مکان برابر اپنے تینوں کرایہ داروں سے اصرار کرتا رہا، کہ ہمارا مکان خالی کر دو؛ لیکن تینوں کرایہ دار کی طرف سے مکان خالی کرنے میں تاخیر ہونے لگی، اس پر مالک مکان نے اپنے تینوں کرایہ داروں پر مقدمہ دائر کر دیا، مقدمہ برابر تین سال تک چلتا رہا، تین سال کے بعد ان تین کرایہ داروں میں سے دو کرایہ داروں نے آپس میں فیصلہ کر کے مالک مکان سے مقدمہ اٹھوا لیا اور پھر دونوں کرایہ دار نے مالک مکان سے پانچ پانچ ہزار روپے لے کر مکان خالی کر دیا، ان میں سے اب صرف ایک کرایہ دار بچے ہیں، جو کہ ایک مسجد کے امام ہیں، ان سے مالک مکان نے کہا کہ ان دو کرایہ دار کی طرف سے پانچ ہزار روپے کا اقدام تھا، کہ آپ ہمیں پانچ ہزار روپے دے دو، تو ہم مکان خالی کر دیں گے، ان کو میں نے پانچ ہزار روپے بالجر دیا ہے؛ لیکن آپ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے روپے پیسے کا، نہ آپ سوال کر رہے ہیں؛ لہذا میری خواہش ہے کہ میں آپ

کو بھی پانچ ہزار روپے دے دوں اور میں اپنی خوشی سے آپ کا بھی مقدمہ عدالت سے اٹھالیتا ہوں اور میں آپ کو اپنی خوشی سے پانچ ہزار روپے دوں گا، آپ اس روپے کو خوشی سے لے لو؛ کیوں کہ یہ روپے میں آپ کو خوشی سے دے رہا ہوں؛ کیوں کہ آپ نے مجھ سے مانگا نہیں، نیز آپ ایک غریب آدمی ہیں، ایک مسجد کے امام بھی ہیں، آپ اس روپے کو لے کر اپنی خوشی سے دوسرا انتظام کر لیجئے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اب ایک شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ روپے جو امام صاحب کو ملا ہے یہ روپے امام صاحب کے لئے حرام ہے یا حلال؟ اس امام صاحب کے پیچھے مقتدیوں کا نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ صحیح فرمائیں۔ بینواتو جروا

نوٹ: اس مکان کے بارے میں میں نے تقریباً چار ہزار روپے خرچ کئے ہیں۔

المستفتی: حافظ سلطان احمد، امام مسجد لال کوٹھی والی محلہ مغل پورہ اول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی کرایہ دار مجبور ہے، مکان خالی کر دینے میں اہل وعیال پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دوسرا مکان نہ ملے اور مالک مکان بار بار اصرار اور مجبور کرتا ہو اور مکان کے مالک نے اپنی مرضی سے غریب نادار کے عائلی انتظام کے لئے کچھ دیا ہو، تو وہ حلال ہے، اس صورت میں امام صاحب کو فاسق قرار دے کر ان کے پیچھے نماز کو مکروہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہوگا؛ بلکہ نماز بلا کراہت درست ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳/۲۵۸، جدید زیر کیا ۹/۲۸۶)

نیز اگر کرایہ دار نے اپنے آرام و راحت کے لئے کچھ خرچ کیا ہے، وہ مالک مکان اپنی خوشی سے دے دے تو لینا جائز ہے، زبردستی نہیں۔ (فتاویٰ رحیمیہ) اور مذکورہ اعذار کے نہ ہونے کی صورت میں کرایہ دار سے مالک مکان جب چاہے مکان خالی کر سکتا ہے، کرایہ دار کا ٹال مٹول کرنا اور پگڑی وصول کرنا ناجائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ صفر ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۵۱۷)

کرایہ دار کا مکان میں لگایا ہوا پیسہ مکان مالک سے وصول کرنا

سوال [۹۶۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کرایہ دار نے جو پیسہ مکان میں اس کی درستی کے لئے لگایا ہے، کیا وہ اس پیسے کو مکان خالی کرتے وقت مکان مالک سے لے سکتا ہے؟

المستفتی: امیر حسین اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مکان مالک نے مرمت کی اجازت دی ہے، تو صورت مسئلہ میں کرایہ دار کو مکان پر صرف کیا ہوا پیسہ لینا درست ہے، وہ اس کا حق ہے اور مکان مالک پر واجب ہے کہ اس کو ادا کر دے ورنہ گنہگار ہوگا۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۱۳/۳۹۰، ۱۱/۳۲۳، ڈاٹا بھیل ۱۲۹/۱)

وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب، وما كان من البناء على رب الدار. (درمختار على الشامى، كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، زكريا ۹/۱۰۹، كراچى ۶/۷۹، تنقيح الفتاوى الحامدية ۲/۹۸، هندية، زكريا قديم ۴/۴۵۵، جديد ۴/۴۹۲، المبسوط دارالكتب العلمية بيروت ۱۵/۱۴۴، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۵۵۵، مصري قديم ۲/۳۹۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۸/۹ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ رجب المرجب ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر ۳۲/۳۵۵۶)

کیا کرایہ دار کے مرنے سے کرایہ داری ختم ہو جاتی ہے؟

سوال [۹۶۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ایک شخص ڈاکٹر محمد ایوب صاحب نے اپنی زندگی میں ایک آراضی کرایہ پر لے کر مالک آراضی کی مرضی سے اپنے پیسہ رقم سے اس پر عمارت تعمیر کر لی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے، انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنی بیوہ بلقیس بیگم اور ایک دختر بازغہ ایوب اور تین بھتیجے چھوڑے جو بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، اس طرح شرعی حیثیت سے عمارت اور اس کی کرایہ داری میں کس کس کو کتنا کتنا حق پہنچتا ہے؟

نوٹ: ضروری مسئلہ دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ بالا صورت میں حق کرایہ داری کس کو حاصل ہوگا، محمد ایوب کی لڑکی بازغہ کو یا بیوی بلقیس کو یا بھتیجوں کو یا تمام ورثاء کو، جو بھی شرعی حکم ہو تحریر فرمائیں؟

المستفتی: اکبر حسین محلہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محمد ایوب کرایہ دار کا جب انتقال ہو گیا تو شرعی طور پر کرایہ داری ختم ہو چکی ہے، اس میں محمد ایوب مرحوم کے ورثاء کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی؛ بلکہ اصل مالک کو واپس کر دینا لازم ہوگا؛ البتہ محمد ایوب نے مالک کی اجازت سے اس کی تعمیر میں جو رقم خرچ کی ہے، وہ رقم مالک سے وصول کر سکتے ہیں اور وہ رقم آٹھ سہام میں تقسیم ہو کر بیوی بلقیس کو ایک دختر بازغہ کو چار اور بھتیجوں کو ایک ایک ملے گا اور عمارت و آراضی مالک کو واپس کر دیں۔

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة

(ہندیہ، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، اشرفی ۳/۳۱۵، شامی، زکریا ۹/۱۱۴،

کراچی ۶/۸۳، مختصر القدوری، ص: ۱۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

۱۴۱۷/۱/۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۴۶۲۶)

کرایہ دار کے انتقال ہونے کی صورت میں کرایہ داری کا حکم

سوال [۹۶۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محمد انیس مرحوم بحیثیت کرایہ دار مسجد سے ملحقہ جگہ پر جو کہ مسجد کی ہے، اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے، جس میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا، چونکہ وہ جگہ مسجد کی ہے، اس لئے اس کا کرایہ بھی اپنے نام سے رسید لے کر وہ مسجد کو ہی ادا کرتے تھے، ان کے وارثین میں بیوہ زوجہ کے علاوہ ۲ لڑکے اور ۴ لڑکیاں ہیں، جو کہ نابالغ ہیں، ہاں ایک لڑکا اس عمر کو پہنچ چکا ہے، کہ وہ اپنا کاروبار بذات خود اچھی طرح کر سکے، جب کہ مرحوم کے والد اور بھائی بھی حیات ہیں، ایسی صورت میں جناب والا سے استدعا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتانے کی زحمت گوارہ کریں کہ اس جگہ پر اب کس کا حق بنتا ہے؟ زوجہ، بیوہ اور بچوں کا یا والد اور بھائی کا؟ (نوٹ): مذکورہ آراضی پر قبضہ کرتے وقت پگڑی یا یکمشت رقم دیئے بغیر صرف سادہ کرایہ داری پر معاملہ ہوا تھا۔

المستفتی: محمد جاوید محلہ اصلت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کے مطابق واضح ہوتا ہے کہ یہ خالص اجارہ کا معاملہ ہے، اور ایسے امور میں شرعی حکم یہی ہے کہ جب کرایہ دار کا انتقال ہو جائے، تو معاملہ شرعاً فسخ ہو جاتا ہے؛ اس لئے مذکورہ جگہ مسجد کو واپس کر دینا لازم ہے۔ اور پھر مسجد کے ذمہ داران اپنی مرضی سے جس کو مناسب سمجھیں کرایہ پر دے سکتے ہیں۔ اور اگر چاہیں کسی کو نہ دیں؛ لہذا اس میں مرحوم کے ورثاء کا کوئی حق شرعاً متعلق نہیں ہے۔

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة

(ہدایہ، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، اشرفی ۳ / ۳۱۵، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳ / ۵۵۹، مصري قديم ۲ / ۴۰۱، شامي، زکریا ۹ / ۱۱۴، کراچی ۶ / ۸۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ صفر ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۱/۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۲/۱۴۱۲ھ

کیا کرایہ دار کے مرتے ہی معاملہ اجارہ فسخ ہو جاتا ہے

سوال [۹۷۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لال محمد نے ایک زمین کرایہ پر جنگو خاں سے لی، پھر لال محمد کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ورثاء میں تین لڑکے: (۱) احمد حسین (۲) اقبال حسین (۳) جبار حسین چھوڑے (ایک لڑکی مجید اُجو باب لال محمد کے سامنے انتقال کر گئی) پھر مذکورہ زمین کرایہ پر اقبال حسین کے نام آگئی اور رسید اقبال حسین کے نام آتی رہی اور پھر اقبال حسین کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ورثاء میں ۴ لڑکے: (۱) اعجاز حسین (۲) ممتاز حسین (۳) مختار حسین (۴) سرفراز حسین، ایک لڑکی عشرت جہاں کو چھوڑا، پھر ممتاز حسین کے نام رسید جاری ہو گئی، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ اس زمین میں مذکورہ بالا تمام ورثاء حق دار ہوں گے یا جن کے نام کرایہ کی رسید آتی ہے وہی کرایہ دار مانے جائیں گے اور انہیں کو اس زمین کو لینے کا حق ہوگا؟

نوٹ: مالک زمین کے ورثاء نے اس کو خالی کرانے کے لئے اور اپنے اختیار میں لینے کے لئے مقدمہ بھی دائر کر رکھا ہے، ایسی صورت میں زمین شریعت کی رو سے کس کو ملے گی؟

المستفتی: مختار حسین اصلت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب لال محمد نے اپنے لئے مذکورہ زمین مالک زمین جنگو خاں سے کرایہ پر لی ہے، تو شرعی طور پر لال محمد کے مرنے کے بعد جنگو خاں یا ان کے ورثاء کو واپس ملنی چاہئے، اب جب جنگو خاں کے ورثاء واپس لینا چاہتے ہیں، تو ورثاء کو واپس کر دینا لازم ہوگا۔

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة

(هدایة، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، اشرفی ۳/ ۳۱۵، مختصر القدوری، ص: ۱۰۵، المبسوط للسرخسی، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۱/ ۱۴۳، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۵۵۹، مصری قدیم ۲/ ۴۰۱، شامی، زکریا ۹/ ۱۱۴، کراچی ۶/ ۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۲۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۵۸/۳۳)



۵/ باب الاستتجار علی الطاعات

اجرت لے کر دینی تعلیم دینا اور طلبہ کی غیر حاضری پر مالی جرمانہ وصول کرنا

سوال [۹۷۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: قرآن مجید اور دینیات کی تعلیم پر ماہانہ طلبہ سے فیس مقرر کر کے پڑھانا کیسا ہے؟
(۲) طلبہ کی غیر حاضری پر یومیہ مالی جرمانہ مقرر کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: البصائر احمد موضع براؤٹی حسن پور، امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں ماہانہ فیس لے کر دینیات کی تعلیم جائز ہے۔
(مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۵/۲، جدید زکریا مطول ۱۱/۵۰۷)

و بعض مشایخنا استحسنوا الاستتجار علی تعلیم القرآن الیوم؛ لأنہ
ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتاع تضييع حفظ القرآن و عليه
الفتوى . (هدایة، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، أشرفی ۳/۳۰۳، شامی، زکریا
۹/۷۶، کراچی ۶/۵۵، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/۱۲۴، زکریا ۶/۱۱۷،
الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۳/۱۰۰)

(۲) غیر حاضری کا مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ مصلحت کے طور پر جرمانہ لیا جائے
اور آخری سال میں سب ان کو واپس کر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ
۵۳۳/۲)

ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهب لكن أن
التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الولي جاز، ومن جملة ذلك
رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال -إلى قوله- وأرى أن
يأخذه فيمسكه مدة للزجر، ثم يعيده لا أن يأخذه لنفسه، أو لبيت المال.

(مجمع الأنهر، کتاب الحدود، فصل في التعزير، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/ ۳۷۱-۳۷۲، مصري قديم ۱/ ۶۱۷، شامی، زکریا ۶/ ۱۰۶، کراچی ۴/ ۶۰-۶۱، البحر الرائق، زکریا ۵/ ۶۸، کوئٹہ ۵/ ۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/ ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/ ۵۵۶۶)

امامت کی اجرت طے کرنا

سوال [۹۷۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کیا پنجوقتہ نماز پڑھانے والے امام کو طے کر کے نماز پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ اور کیا امام نماز پڑھانے کی اجرت طے کر سکتا ہے؟ اور کیا طے کر کے نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟

المستفتی: ایم آر جامع گلشہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پنجوقتہ امام کو طے کر کے امامت پر اجرت لینا جائز ہے اور ایسے امام کے پیچھے بلا کراہت نماز صحیح ہوگی، مگر رمضان میں صرف قرآن سننے کی اجرت جائز نہیں اور نہ ختم تراویح کی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/ ۳۴۰)

ویفتی الیوم بصحتها لتعليم القرآن والفقہ والإمامة. (الدرالمختار مع

الشامی، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب تحریر مهم فی عدم جواز الاستئجار علی التلاوة و التهلیل، زکریا ۹/ ۷۶، کراچی ۶/ ۵۵، تبیین الحقائق، زکریا ۶/ ۱۱۷، إمدادیہ ملتان ۵/ ۱۲۴، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۵۳۳، مصري قديم

۲/ ۳۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/ ۶۱۷۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/ ۲۹۲۱)

ائمہ مساجد و مؤذنین کے لئے حکومت سے ملنی والی تنخواہ لینا کیسا ہے؟

سوال [۱۹۷۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بنگال حکومت نے بطور امداد ائمہ مساجد و مؤذنین کو کچھ رقم دینے کا اعلان کیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے لئے دینی معاملہ میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی؛ لہذا حکومت کی اس امداد کو لینا کیسا ہے؟

المستفتی: خورشید بانی، امام ہلال مسجد، توپیسہ روڈ، کلکتہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مساجد اور مدارس کے نظام میں اگر سرکاری امداد کی وجہ سے کوئی خلل اندازی نہیں ہوتی ہے اور آئندہ سرکار کی طرف سے کسی قسم کی دخل اندازی کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سرکاری امداد لینے کی گنجائش ہے، ورنہ سرکاری امداد لینے سے احتیاط ضروری ہے۔

فصح وقف الذمی بشرط کونہ قربۃ عندنا وعندہم، وقولہ: بخلاف ما لو وقف علی مسجد بیت المقدس، فإنہ صحیح؛ لأنہ قربۃ عندنا وعندہم. (البحر الرائق، کتاب الوقف، زکریا دیوبند ۵/۳۱۶، کوئٹہ ۵/۱۸۹-۱۹۰)

ولو أوصی بثلث مالہ بأن یحج عنہ قوم من المسلمین أو ینی بہ مسجداً للمسلمین إن کان ذلک لقوم بأعیانہم صحت الوصیة، وتعتبر تملیکاً لہم. (ہندیۃ، کتاب الوصایا، الباب الثامن: فی وصیۃ الذمی والحربی، زکریا قدیم ۶/۱۳۲، جدید ۶/۱۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/صفر المظفر ۱۴۳۶ھ

۱۴۳۶/۲/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۷۴/۴/۲۱)

آدمی کا لڑکیوں کو اور خاتون کا لڑکوں کو تعلیم دینا

سوال [۹۷۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: تدریس ایک معزز پیشہ ہے، جس کا انسانی شخصیت کی تعمیر سے گہرا تعلق ہے؛ لیکن موجودہ دور میں اولاً تو مخلوط تعلیم کے نظام کا غلبہ ہے اور استاذ کو بعض اوقات اس طرح تدریس کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب لڑکے بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح لڑکیوں کی مخصوص درسگاہوں میں مرد اساتذہ بھی کام کرتے ہیں اور لڑکوں کی درسگاہوں میں خاتون اساتذہ بھی کام کرتی ہیں، تو کیا ایسی ملازمت جائز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: قمر عالم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عورتوں کے لئے بالغ لڑکوں کو باقاعدہ درس و تدریس کے طور پر پڑھانا جائز نہیں ہے، کبھی بھی فتنہ ہو سکتا ہے، اسی طرح مرد کے لئے بالغ لڑکیوں کو پڑھانا جائز نہیں، اس میں بھی فتنہ اور برائی میں ابتلاء کا اندیشہ ہے اور ایسے ہی بالغ لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم شریعت میں جائز نہیں؛ اس لئے کہ کبھی بھی لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے اور موجودہ دور میں مخلوط تعلیمی نظام کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ناجائز چیز جائز نہ ہوگی؛ کیوں کہ خلاف شرع رواج کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ۳۰-۳۱]

وقال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ۳۳]

عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: لا تلجوا علي

المغیبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. (ترمذی، باب ماجاء فى كراهية الدخول على المغیبات، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۲، دارالسلام، رقم: ۱۱۷۲، سنن الدارمی، دارالمغنی ۳/ ۱۸۳۱، رقم: ۲۸۲۴، حجة الله البالغة ۲/ ۳۲۹)

عن عبدالله -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (ترمذی، باب ماجاء فى كراهية الدخول على المغیبات، النسخة الهندية ۱/ ۲۲۲، دارالسلام رقم: ۱۱۷۳، مسند البزار ۵/ ۴۲۷، رقم: ۲۰۶۱، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي ۲/ ۸۱۳-۸۱۴، رقم: ۱۶۸۳-۱۶۸۶)

عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ:

إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ۱۰/ ۱۷۳، رقم: ۱۰۳۶۲، رستم المفتي، ص: ۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/ ذی الحجہ ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۳۲/۳۹)

ٹیوشن کی اجرت کا شرعی حکم

سوال [۹۷۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: آج کل بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو گھروں پر ٹیوشن کے ذریعہ قرآن کریم پڑھواتے ہیں، کیا اس کی اجرت متعین یا غیر متعین کر کے لینا درست ہے؟ البتہ اگر لڑکی نابالغ مشتمہا ہو یا نابالغ غیر مشتمہا ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمادیں۔

المستفتی: محمد شاکر رامپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: گھر میں بچوں کی تعلیم کے لئے کسی معلم کا انتظام کرنا شرعاً جائز ہے اور پڑھانے والے کے لئے اجرت لینا بھی جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ تلاوت

قرآن کی اجرت نہیں ہے؛ بلکہ تعلیم قرآن کی اجرت ہے اور تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن میں بہت بڑا فرق ہے؛ البتہ جوڑکیاں قریب البلوغ اور مشہناۃ ہیں، وہ بالغہ کے درجہ میں ہیں ان کو شرعی پردہ اور شرعی حدود کے بغیر کسی معلم مرد کا تعلیم دینا جائز نہیں؛ بلکہ ایسی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے کسی پڑھی لکھی عورت کا انتظام کرنا بہتر ہے۔

عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: خطبنا عمر بالجابية ألا! لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. (سنن الترمذي، باب ماجاء في لزوم الجماعة، النسخة الهندية ۲/ ۳۹، دارالسلام، رقم: ۲۱۶۵، مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم ۹/ ۲۷۱، رقم: ۳۸۱۷)

المفتی بہ جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة. (شامي، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل، زكريا ۷/ ۷۷، كراچی ۶/ ۵۶)

وعن محمد: وإذا كانت تشتهي ويجامع مثلها، فهي كالبالغة. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، زكريا ۹/ ۵۳۱، كراچی ۶/ ۳۶۹) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (شامي، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زكريا ۲/ ۷۹، كراچی ۱/ ۴۰۶، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴۱/ ۱۳۴، ۴۲/ ۳۶۵)

نغمة المرأة عورة وتعلمها القرآن من المرأة أحب. (شامي، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، زكريا ۲/ ۷۸، كراچی ۱/ ۴۰۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم
کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
الحق محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/۵/۱۴۳۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۰۳/۳۹)

حرام کاروباری کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا

سوال [۹۷۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: خنزیر کے برش بنانے والوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اجرت لینا، نیز نکاح پڑھانا، نذرانہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: علی صدیقی اصغر منزل شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر حرام مال ہی سے اجرت یا ہدیہ دیتا ہے اور ٹیوشن پڑھانے والے اور نکاح پڑھانے والے کو ان کا علم بھی ہے تو جائز نہیں ہے۔

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء إليه رجل، فقال: إن لي جاراً يأكل الرباء، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنة لك وإثم عليه، قال سفيان: إن عرفته بعينه لاف تصبه. (مصنف عبدالرزاق، باب طعام الأمراء وآكل الرباء، المجلس العلمي ۸/ ۱۵۰، رقم: ۱۴۶۷۵)

وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال أو ورثته أو استقرضته. (مجمع الأنهر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في الكسب، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۱۸۶، مصري قديم: ۲/ ۵۲۹، هندية، زكريا قديم ۵/ ۳۴۳، جديد ۵/ ۳۹۷، البنائة، اشرفيه ۱۲/ ۲۰۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ رزی الحج ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/ ۱۰۲۹)

قبروں پر قرآن پڑھنے کے عوض جوڑا ہدیہ قبول کرنا

سوال [۹۷-۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک امام درگاہ والی مسجد میں امامت کرتا ہے اور قبروں پر قرآن پڑھتا ہے، اس کے بعد قبر والوں کے ورثاء سے جوڑا کپڑا، مٹھائی، پیسہ وغیرہ لیتا ہے، تو اس طرح قبروں پر قرآن پڑھنا اور اس پر جوڑا، کپڑا، مٹھائی وغیرہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: تنوشاہ عید گاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جوڑا کپڑا، مٹھائی وغیرہ حاصل کرنے کی نیت سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا ہے اور قرآن پڑھ کر جوڑا کپڑا، پیسہ، مٹھائی وغیرہ لینا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱/۵۱۵، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۷/۱۷۱، جدید ڈابھیل ۱۷/۶۹، رشیدیہ جدید موب ۴۹۰)

إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ، ويمنع القارئ للدنیا والآخذ والمعطى آثمان. (شامی، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب تحریر مهم في عدم جواز الاستحجار على التلاوة والتهليل، زكريا ۹/۷۷، کراچی ۶/۵۶، البناية، أشرفیہ دیوبند ۱۲/۲۳۷، تنقیح الفتاویٰ الحامدية / ۲/۱۲۷)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۱/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۸۰۷)

مقرر کا وعظ کے لئے رقم طے کرنا

سوال [۹۷۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بعض مقررین تقریری پروگرام کے لئے رقم طے کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنے روپے دو گے تو جاؤں گا ورنہ نہیں، تو مقررین کا یہ طے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایسے مقررین اور طے شدہ رقم دے کر مقررین سے تقریر کروانے والے کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں مقرر احکام شرع پر عمل نہیں کرتا یہاں تک کہ فرائض و واجبات کا بھی تارک ہے، تو اس مقرر کو تقریر کے لئے مدعو کرنا عند الشرع کیسا ہے؟

المستفتی: راشد علی (کاتب) پیپل سائہ، ضلع مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر کسی مقرر اور خطیب کا پیشہ ہی وعظ گوئی ہے، تو اس کے

لئے اجرت طے کرنا جائز اور درست ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۵۱۳، جدید موب: ۴۹۱)

ویفتی الیوم بصحتها لتعليم القرآن، والفقه، والإمامة، والأذان (تحتہ

في الشامية:) وزاد بعضهم الأذان، والإقامة، والوعظ. (الدر مع الرد، مطلب

تحریر مهم في عدم جواز الاستحجار على التلاوة والتهليل، زکریا ۹/۷۶، کراچی ۶/۵۵،

سکب الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۵۳۳، مصري قديم ۲/۳۸۴)

اور اگر نوکری اور پیشہ نہیں ہے، تو طے کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۸۹)

اور کرایہ لینا اور خوشی پیش کردہ نذرانہ کا قبول کرنا بلا تردد جائز اور درست ہے۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: تهادوا

تحابوا. (مسند أبي يعلى الموصلي، دارالکتب العلمیة بیروت ۵/۳۶۲، رقم: ۶۱۲۲،

السنن الكبرى للبيهقي، باب التحريض على الهبة، دارالفکر ۹/۱۵۴، رقم: ۱۲۱۶، الأدب

المفرد، ص: ۱۸۰، رقم: ۵۹۴)

فرائض و واجبات کا بالقصد بلا عذر ترک کرنے والا شرعاً فاسق ہے۔ اور فاسق کی عظمت

واعزاز ممنوع ہے۔ اور امور دینیہ میں اس کی اہانت کا حکم ہے؛ لہذا فرائض و واجبات کے

تارک کو دینی جلسوں کے اسٹیج کی زینت بنانا ممنوع ہے؛ اس لئے اس کو خطیب کی حیثیت

سے مدعو کرنا بھی ممنوع اور مکروہ ہوگا۔

كما استفيد من عبارة المراقبي ولذا كره إمامة الفاسق العالم لعدم

اهتمامه بالدين، فتنجب إهانتة شرعاً، فلا يعظم بتقديمه. (حاشية الطحطاوي

على مراقبي الفلاح، الصلاة، باب الإمامة، قديم، ص: ۱۶۵، دارالکتاب دیوبند، ص:

۳۰۲-۳۰۳، الموسوعة الفقهية الكويتية ۶/۲۱۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۱/۳۱۷۸)

مقررین حضرات کا تقریروں پر اجرت لینا

سوال [۹۷۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے یہاں بہت سے مقررین حضرات ہیں جو اپنی تقریروں پر اجرت لیتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک ایک تقریر پر اب دو ہزار روپیہ سے زائد لے رہے ہیں، تو کیا ان حضرات کا تقریر پر اجرت لینا شرعاً درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیوں؟ جب کہ تقریر طاعت ہے، دلائل کے ساتھ تفصیلی جواب سے نوازیں اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

المستفتی: محمد عثمان غنی، متعلم مدرسہ بحر العلوم بکولتہ، ۲۲ پرگنہ، مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مطالبہ کئے بغیر بطور نذرانہ دئے جانے پر لیتے ہیں تو گنجائش ہے۔ اور اگر واعظ از خود مطالبہ کر کے لیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے؛ البتہ اپنے جلس الوقت کی مناسب اجرت لے سکتا ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۳۸۹)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: تهادوا

تحابوا. (مسند أبي يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ۵/ ۳۶۲، رقم: ۶۱۲۲)

ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن، والفقہ، والإمامة، والأذان (تحته في الشامية:) وزاد بعضهم الأذان، والإقامة، والوعظ. (الدرع

الرد، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستحجار على التلاوة والتهليل، زكريا ۹/ ۷۶،

کراچی ۶/ ۵۵، سبک الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۵۳۳، مصري قديم ۲/ ۳۸۴)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۱۲/۳/۱۳ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۵۸۳/۲۷)

نعت و تقریر، قوالی اور تراویح کی اجرت کا حکم

سوال [۱۰۷-۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) جلسہ سیرت النبی میں نعت و تقریر کرتے وقت علماء و شعراء کو سامعین یا علماء بطور شکر یہ روپیہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اجازت ہے تو قوالی مشاعرہ اور رقص وغیرہ کی مجلسوں میں روپیہ دینے میں کیا فرق ہے؟ حدیث: ”من تشبه بقوم فهو منه“ آیت: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾

ان نصوص کی صراحتاً وضاحت فرمائیں، تاکہ کوئی تعارض باقی نہ رہے۔

(۲) ایک شاعر کا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا کو شعر پڑھتے وقت اپنی چادر عنایت کی تھی مع سند رجال تحریر کریں؟

(۳) کچھ پیشہ ور اور صاحب نصاب کروڑ پتی علماء شعراء، نعت خوانی اور وعظ و نصیحت کی اجرت باقاعدہ طے کرتے ہیں کیسا ہے؟

(۴) اگر جواز ہے تو رمضان شریف میں حفاظ کرام کو تحفہ دینا کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں سلف صالحین اور اکابرین امت کا کیا عمل رہا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: محمد حنیف قاسمی لکھنؤ، لکھنؤ پور، بھیرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) قوالی اور موجودہ زمانے کے مشاعرے اور رقص وغیرہ شرعاً جائز نہیں ہیں؛ اس لئے ان میں پیسے لینے دینے کا بھی سوال نہیں ہوتا، ہاں البتہ جلسہ سیرت النبی وغیرہ میں نعت پڑھنے والے کو نعت پڑھتے وقت اور تقریر کرنے والے کو تقریر کرتے وقت سامعین کچھ دے دیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

وعلى هذا الحداء وقرآءة الشعر وغيره ولا أجر في ذلك هذا كله

عند أئمتنا الثلاثة. (هندية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع.....

زکریا قدیم ۴/ ۴۴۹، جدید ۴/ ۴۸۶، البناية، اشرفیہ ۱۰/ ۲۸۳، حاشیہ چلی، إمدادیہ ملتان ۵/ ۱۲۵، زکریا ۶/ ۱۱۸)

وفي المحيط: إذا أخذ المال من غير شرط يباح له؛ لأنه عن طوع من غير عقد. (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۵۳۳، مصري قدیم ۲/ ۳۸۴، البناية، اشرفیہ دیوبند ۱۲/ ۲۰۹، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۵/ ۱۲۵، زکریا ۶/ ۱۱۹)

آیت شریفہ: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ﴾ کی وعید میں قوالی اور رقص کرنے والے اور موجودہ زمانے کے مشاعرے جن میں شاعرہ عورتوں کی بھی شرکت ہوتی ہے، داخل ہیں، اس لئے ان سے دور رہنا چاہئے۔

(۲) حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو چادر عنایت فرمانے کا ثبوت ہماری نظر سے نہیں گذرا، ہاں البتہ حضرت کعب بن زہیر بھی شاعر تھے، ان کے نعت پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پیش فرمائی ہے، اس حدیث شریف کی روشنی میں جلسہ سیرت النبی وغیرہ میں نعت رسول پڑھنے پر سامعین کچھ دے دیں، تو اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه بردة له. (أسد الغابة،

دارالفکر ۴/ ۱۷۷)

(۳) نعت خوانی اور وعظ و نصیحت کی اجرت باقاعدہ طے کر کے لینا شریعت سے ثابت نہیں ہے، ہاں البتہ اگر بطور خوشی کچھ تحفہ دے دیں تو کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے مطابق لینا جائز ہے۔

(۴) رمضان شریف میں تراویح میں قرآن کریم سنا کر کے اجرت لینا ”وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا“ [البقرة: ۴۱] وعید کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور بطور تحفہ کے لینا بھی اس لئے جائز نہیں ہے کہ اگر قرآن نہ سنایا جاتا تو یہ تحفہ نہیں ملتا، تو معلوم ہوا کہ قرآن سنانے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، جو نام کا تحفہ ہے، اصلاً اجرت ہے۔ اور آیت قرآنی ”وَلَا تَشْتَرُوا“

بِآيَاتِي نَمَنَّا قَلِيلًا“ [البقرة: ۴۱] کی وعید میں شامل ہے۔ اور نعت خوانی اور تقریریں قرآنی آیات نہیں ہوتی ہیں؛ اس لئے نعت خوانی اور تقریر پر تلاوت قرآن کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور تلاوت قرآن کے لئے اللہ نے مستقل حکم نازل فرمایا ہے، اسی وجہ سے ہمارے اکابر اور سلف صالحین سے قرآن سنا کر بطور تحفہ کے لینا بھی ثابت نہیں۔

المعروف عرفا كالمشروط شرعا. (الأشباہ والنظائر، قدیم، ص: ۱۵۶)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ صفر ۱۴۳۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۶۱/۴۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۴/۱۴۳۴ھ

فاتحہ خوانی، تقریر بموقع عید میلاد النبی اور جھاڑ پھونک کی اجرت لینا

سوال [۹۷۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مروجہ فاتحہ خوانی جائز ہے یا ناجائز؟ نیز فاتحہ خواں جو اشیاء لیتے ہیں جب کہ چراغاں اور تبرک سے موسوم کرتے ہیں، نیز میلاد النبی کے نام سے تقریر کرنا قیام کرنا اور فیس مقرر کرنا کیسا ہے؟ نیز قرآنی آیات پڑھ کر جسم پر دم کرنا اور اس کی اجرت لینا کیسا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کر یا پڑھوا کر دعوت کرنا یا کھانا کیسا ہے؟ کیا ان چیزوں میں جواز کی صورت ہے یا نکل سکتی ہے؟

المستفتی: محمد اسلم قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مروجہ فاتحہ خوانی بے اصل ہے، اس کا ثبوت نہ تو قرآن سے ہے اور نہ حدیث سے؛ بلکہ اس کو فقہاء نے بدعت لکھا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/

۲۲۹، جدید ڈائجیل ۳/۶۰)

وقراءة الفاتحة، والإخلاص، والكافرون على الطعام بدعة. (فتاویٰ سمرقندی،

بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۹۳/۳، جدید زکریا ۱۱۵/۲، مجموعۃ الفتاویٰ ۸۱/۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک خواہ ذکر ولادت ہو خواہ جہاد و صلوة و نکاح وغیرہ باعث برکت و موجب ثواب ہے؛ لیکن اس زمانہ میں مجلس میلاد بہت سے منکرات و ممنوعات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرعاً ممنوع ہے اور اس پر اجرت لینا بھی ناجائز ہے، وعظ و تقریر اگر منکرات شرعیہ سے خالی ہو تو اس پر متاخرین فقہاء نے اجرت لینے کی اجازت دی ہے۔ (فتاویٰ محمودہ قدیم ۱۱/۲۸-۵۰، جدید ڈابھیل ۱۸۱/۳)

نیز قرآنی آیات پڑھ کر جھاڑ پھونک کرنے کی اجرت لینا جائز ہے۔

إن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقاً جوزوا الرقية بالأجرة ولو

بالقرآن. الخ (شامی، کتاب الإجارة، تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل، زکریا ۷۸/۹، کراچی ۵۷/۶)

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله، يعني: إذا رقيتم به. (عمدة القاري كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب مكتبة دار الإحياء التراث العربي بيروت ۹۶/۱۲، زکریا دیوبند ۶۲۸/۸)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا، أي أيها الأمة! كتاب الله، قال القاضي: فيه دليل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. (مرقاة المفاتيح باب الإجارة، الفصل الأول مكتبة إمداديه ملتان، ۱۳۶/۶، تحت رقم الحديث: ۲۹۸۵، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۱/۳۲۱، جدید ڈابھیل ۱۰/۱۰۱)

قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایصال ثواب کے لئے خیر و برکت کے لئے فی نفسہ بلاشبہ جائز ہے، مگر آج کل اس کو لوگوں نے رسم بنا لیا ہے، قرآن کریم کے لئے اجتماع کا اہتمام اور ساتھ

ساتھ دعوت وغیرہ کا التزام کرنا یہ سب امور بدعت و ناجائز ہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ / ۳۶۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۴۴/۲۹)

۲۸/۴/۱۴۱۴ھ

قبر کھودنے، کفن کی سلائی، میت کے غسل کی اجرت کا حکم

سوال [۹۷۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: (۱) قبر کھودنے کی اجرت ہونی چاہئے یا نہیں؟

(۲) کفن کی سلائی کی اجرت طے کی جائے یا نہیں؟

(۳) میت کے غسل کی اجرت طے کی جائے یا نہیں؟

ہمارے گاؤں میں یہ دستور ہے کہ قبر کھودنے والا ایک آدمی ہے، جو بوقت ضرورت اس کام کو کرتا ہے، اس کو کفن کی چادر اور اناج جس کی مقدار متعین ہے، قبرستان میں دیا جاتا ہے، علاوہ ازیں وہ ہر جمعرات کو گھر گھر سے روٹی بھی لیتا ہے، فصل کے موقع پر کھیتوں میں سے اناج بھی لاتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ استحقاقاً لیتا ہے، شرعی حیثیت مذکورہ بالا مسائل میں کیا ہے؟ بالذلیل جواب سے مطلع فرمادیں۔ فقط والسلام

المستفتی: باشندگان محلہ چودھریان سلیم پور، ضلع مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱-۲-۳) بہتر یہی ہے کہ قبر کھودنے، کفن سینے، غسل

دینے کی اجرت نہ لی جائے، اگر کوئی اجرت لینے ہی پر آمادہ ہے، تو اس کے لئے اجرت متعین

کر کے لینا بھی درست ہے، نیز اگر محلہ والے اپنی خوشی سے جمعرات کو روٹی دیا کرتے ہیں، تو

وہ اس کے لئے حلال ہے، اسی طرح فصل کے موقع پر اناج بھی کسان اپنی خوشی سے دیا

کرتے ہیں، تو جائز ہے؛ لیکن یہ اس شخص کی اجرت میں شامل نہ ہوگا؛ بلکہ دینے والے کی طرف سے تبرع ہے، اگر نہ دیں تو اس شخص کو بطور حق کے مطالبہ کا حق حاصل نہ ہوگا۔

والأفضل أن يغسل الميت مجانا، فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره، وإلا لا لتعينه عليه، وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك. الخ (الدرالمختار، باب صلاة الجنابة، مطلب: في حديث "كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي"، زكريا ۳/۹۲، كراچی ۲/۱۹۹، ہندیہ، زكريا قديم ۱/۱۵۹، جديد زكريا ۱/۲۲۰، الدرالمنتقى مصري قديم ۱/۱۸۱، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۶۷، البحر الرائق، كوئٹہ ۲/۱۷۳، زكريا ۲/۳۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ شعبان ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۶۷/۲۵)



۶/ باب الاستئجار علی المعصیة

شراب، میثہ وغیرہ کو ٹرک پر لادنے کی اجرت لینا

سوال [۹۷۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید کے پاس ٹرک ہے، اس سے وہ کرایہ وغیرہ کی اشیاء لاد کر، مختلف جگہوں پر لے جاتا ہے اور کرایہ حاصل کرتا ہے، تو کیا وہ شراب، میثہ، خنزیر کو بطور اجرت اپنے ٹرک میں لاد کر کرایہ وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۲) شراب خانہ میں مزدوری کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد قربان، مقیم مدرسہ فیض العلوم تھانہ ٹین، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) شراب، میثہ اور خنزیر کو بطور اجرت اپنے ٹرک پر لاد کر کرایہ وصول کرنے کی امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق تو گنجائش ہے؛ لیکن حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اعانت علی المعصیت ہونے کی وجہ سے یہ کام مکروہ تحریمی ہے اور اس کی کمائی بھی مکروہ ہوگی؛ لہذا مسلمانوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہئے۔

ومن حمل لذمی خمرًا بأجر طاب له عند الإمام، وعندہما یکرہ له

ذلک لوجود الإعانة علی المعصیة. (مجمع الأنهر، کتاب الکراہیة، فصل فی

الکسب، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/ ۱۸۸، مصری قدیم ۲/ ۵۳۰، شامی، زکریا ۹/ ۵۶۲،

کراچی ۶/ ۳۹۲، ہدایة، أشرفی ۴/ ۴۷۳، البحر الرائق، زکریا ۸/ ۳۷۲، کوئٹہ ۸/ ۲۰۳)

(۲) شراب خانہ میں مزدوری باعث لعنت ہے۔

عن أنس بن مالک - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله

عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها،

والمحمولة إليه، وساقبها، وبائعها، واكل ثمنها، والمشتري لها،
والمشترأة له. (ترمذي شريف، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، النسخة الهندية ۱/
۲۴۲، دارالسلام، رقم: ۱۲۹۵، مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم ۶/ ۲۳۳، رقم:
۲۴۴۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۹۸/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰/۴/۱۴۲۱ھ

نائی کی کمائی کا حکم

سوال [۹۷۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید حجامت یعنی نائی گری کا پیشہ کرتا ہے، جو غیر شرعی انگریزی بال بھی کاٹتا ہے اور داڑھی بھی مونڈتا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے حضرات گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر دوکان کئے ہوئے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ یہ پیشہ جائز نہیں ہے اور جو اجرت اس پر لی جاتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اسی وقت سے اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے جو آج تک کمایا ہے وہ سب ناجائز ہے جو خود نے بھی کھایا ہے اور اہل خانہ کو بھی کھلایا ہے، حضرت مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ پیشہ درست ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو بتائیے کہ اس پر لی گئی اجرت کا کیا حکم ہے؟ اس کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو جو اس پیشے سے کمایا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟

المستفتی: محمد جنید صہل پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نائی اپنی دوکان میں شرعی انگریزی شوقیہ ہر طرح کے بال کاٹتا ہے اور لوگوں کے کہنے پر داڑھیاں بھی مونڈتا ہے، اس میں خود اپنی داڑھی منڈوانے

والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور تعاون علی المعصیت کی بناء پر نائی کے لئے یہ عمل مکروہ ہے؛ لیکن اس کی جو اجرت ملتی ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، وہ اس کا حق الحمت ہونے کی وجہ سے حلال ہے، بس زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ کہا جاسکتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ لوگوں کے حکم سے درزی ان کے لئے فساق کا لباس بنا کر دیتا ہے، مگر درزی کے لئے اجرت حلال ہے، اسی طرح دیوار پر تصویری نقش بنانے کے لئے کسی نقاش اور پینٹر کو لگا دیا جائے، تو اس کے لئے یہ عمل مکروہ ہے، مگر حق الحمت ہونے کی وجہ سے اجرت حلال ہے، ایسا ہی نائی کی اجرت بھی حق الحمت ہونے کی وجہ سے حلال ہے؛ لہذا مذکورہ نائی نے اب تک جو کمایا ہے وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، حلال ہے؛ البتہ نائی کے لئے یہی بہتر ہے کہ داڑھی موٹنے سے انکار کر دیا کرے۔

أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل؛ لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، زكريا ۹/ ۵۶۲، كراچی ۶/ ۳۹۲، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۶/ ۲۹، زكريا ۷/ ۶۵، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۱۸۸، مصري قديم ۲/ ۵۳۰)

وعن محمد: رجل استأجر رجلا ليصور له صورة، أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط، فإني أكره ذلك، وأجعل له الأجر. (هندية، كتاب الإجارة، لباس السادس عشر في مسائل الشيوع زكريا قديم ۴/ ۴۵۰، جديد ۴/ ۴۸۶، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۵/ ۱۳۰، رقم: ۲۲۴۳۱) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۳/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۴۹۰)

مورتیوں کی تجارت کا حکم

سوال [۹۷۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید مورتیوں کی تجارت کرتا ہے اور اس کی آمدنی سے دین کی بھی خدمت کرتا ہے، برکت کے لئے سورہ بقرہ کبھی پڑھواتا ہے، تو مورتیوں کی تجارت کرنا اور ایسی جگہوں پر قرآن کا پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟ نیز مسجد کے امام کا ایسی جگہوں پر قرآن پڑھنا اور پھر امامت کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: ولی الرحمن شمسی محلہ عید گاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں جن مورتیوں کی تجارت کا ذکر ہے، اس کی دو شکلیں ہمارے سامنے ہیں:

(۱) اگر وہ مورتیاں مٹی یا پتھر سے بنی ہوئی ہوں، تو ان کو بنانا بھی حرام ہے اور ان کی تجارت خرید و فروخت بھی حرام ہے اور ان کا پیسہ بھی حرام ہے؛ اس لئے کہ مٹی یا پتھر کے ٹوٹ جانے کے بعد پھر وہ کسی کام میں نہیں آتی، اس کی مالیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔

(۲) دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مورتیاں پیتل، تانبہ، اسٹیل، المونیم، لوہا وغیرہ کسی دھات سے بنائی جاتی ہیں، تو ان کا بنانا حرام اور عظیم ترین گناہ ہے اور وہ ”اشد الناس عذاباً“ کی وعید میں شامل ہو جائیں گے؛ لیکن ان مورتیوں کو توڑ دینے کے بعد اور ان کو گلا دینے کے بعد بھی تانبہ، پیتل وغیرہ کی پوری مالیت باقی رہتی ہے؛ اسی لئے ان کی تجارت میں مالیت کی تجارت ہوگی اور ان کا پیسہ حرام نہیں ہوگا، ہاں البتہ تعاون علی المعصیت کی وجہ سے نفس تجارت مکروہ ہوگی؛ لیکن ایک مسلمان کا ایمانی تقاضہ یہ ہے کہ ایسی مورتیوں کی تجارت بھی قطعاً نہ کرے اور قرآن خوانی کے لئے جو لوگ جاتے ہیں، ان کا ایسی جگہوں پر جانا ایمانی غیرت و حمیت کے خلاف ہے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہئے؛ لیکن اگر وہاں جا کر قرآن خوانی کر لی ہے، تو اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر امام صاحب کو احتیاط کرنی چاہئے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر، ص:

عذابا یوم القيامة المصورون . (مسلم شریف، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، النسخة الهندية ۲ / ۲۰۱، بیت الأفكار، رقم: ۲۱۰۹، صحیح البخاری، باب عذاب المصورین یوم القيامة، النسخة الهندية ۲ / ۸۸۰، رقم: ۵۷۱۷، ف: ۵۹۵۰)

اشتری ثوبا أو فرسا من خزف لأجل استیناس الصبي لا یصح ولا قيمة له . (تحتہ فی الشامیة:) لو كانت من خشب أو صفر جاز إتفاقا فیما یظهر لإمكان الانتفاع بها . (شامی، کتاب البیوع، باب المتفرقات، زکریا ۷ / ۴۷۸، کراچی ۵ / ۲۲۶)

و کذا بطل بیع مال غیر متقوم کالخمر و الخنزیر، و یدخل فیہ فرس أو ثور من خزف لاستیناس الصبي . (الدرالمتقی، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، دارالکتب العلمیة بیروت ۳ / ۷۸)

وإن قامت المصعبة بعینه یکره بیعه تحریما و إلا فتنزیهها . (شامی، کتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب فی کراهة بیع ما تقوم المعصية بعینه، زکریا ۶ / ۴۲۱، کراچی ۴ / ۲۶۸)

ثم الأورع أي الأكثر اتقاء للشبهات (درمختار) ویلزم من الورع و التقوی . (شامی، کتاب الصلاة، باب الإمامة، زکریا ۲ / ۲۹۴، کراچی ۱ / ۵۵۷)

فمقصود الحدیث التحرز من أخلاء السود و تجانب أهل الريب لیكون موفور العرض سلیم العیب، فلا یلام بلاغہ غیره . الخ (فیض القدر ۵ / ۲۴۳۲ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۱۱/۱۴۳۲ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/۱۱/۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۲۰/۳۹)

لکڑی کے مندر بنا کر فروخت کرنا

سوال [۹۷۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: زید لکڑی کے چھوٹے چھوٹے مندر بنا کر غیر مسلموں کو فروخت کرتا ہے، جب کہ اس میں کوئی تصویر یا مورتی نہیں ہوتی، کیا لکڑی کے یہ مندر بنانا اور ان کو فروخت کرنا یہ تجارت صحیح ہے؟ فقہاء کرام کی کیا رائے ہے؟

المستفتی: عبدالرشید سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک مسلمان کی طبیعت کیسے گوارہ کر سکتی ہے کہ وہ لکڑیوں کے مندر بنا کر غیر مسلموں کے ہاتھ فروخت کرے اور اس کام کو اپنا روزگار بنائے اور مندروں کی پوجا کرنا شرک ہے، تو اس عظیم گناہ پر یہ تعاون ہے اور شریعت معصیت پر تعاون کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

[المائدہ: ۲] فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴ صفر ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۲۲

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۷۸/۴۰)

خود نہ بنا کر غیر مسلم سے تصویر والے آرڈر بنوانے کی اجرت کا حکم

سوال [۹۷۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: بعض زیورات میں کبھی کسی بت اور مورتی کی تصویر بنانے کا آرڈر ہوتا ہے، تو اس کو ہندو کاریگروں سے بنوا کر گاہکوں کو دیتا ہوں اور گاہک اس کی مزدوری میں روپیہ یا سونا دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اس طرح کی آمدنی جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتی: حبیب الرحمن، گلگتہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بت یا مورتی وغیرہ کی تصویر خود بنانا تو حرام ہے؛ لیکن اگر

تصویر ہندو اور غیر مسلم کاریگروں سے بنوائی جائے تو اس کا گناہ بنوانے والے پر نہ ہوگا؛ بلکہ بنانے والا خود اس کا ذمہ دار ہے، نیز اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام نہیں ہوگی؛ البتہ تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ ہوگی۔

إن بلا لا قال لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم ببيعها وخذوا أتم من الثمن. (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب صرمة بيع الخمر والميتة، كراچی ۱۴ / ۱۱۱، دارالكتب العلمية بيروت ۱۴ / ۱۳۴)

فہذا عمر قد أجاز لأهل الذمة بيع الخمر والخنازير، وأجاز للمسلمين أخذ أثمانهما في الجزية والخراج، وذلك حضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر. (إعلاء السنن، كراچی ۱۴ / ۱۱۳، دارالكتب العلمية بيروت ۱۴ / ۱۳۶)

رجل استأجر رجلا ليصور له صورا، أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط، فإني أكره ذلك، وأجعل له الأجر. (ہندیہ، کتاب الإجارة، الباس السادس عشر فی مسائل الشیوع..... زکریا قدیم ۴ / ۴۵۰، جدید ۴ / ۴۸۶، الفتاویٰ

التاتارخانیہ، زکریا ۱۵ / ۱۳۰، رقم: ۲۲۴۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۴/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۶۶۰/۳۹)

جاندار کی تصویر کی ڈھلائی کا آرڈر لینا

سوال [۹۷۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک فرم سے آرڈر لیتا ہے، کبھی کبھی کسی جاندار کی تصویر بنانے کا آرڈر بھی مل جاتا ہے، مثلاً ہرن، بیل، گھوڑا وغیرہ زید آرڈر لے کر ڈھلائی کر لیتا ہے اور مال تیار کر کر فرم پہنچا دیتا ہے،

کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے؟ یہ جاندار کی تصویر بنانے والے کے گناہ میں شامل ہوگا؟
المستفتی: محمد سلیم رحمت نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جاندار کی تصویر بنانا اور تصویر کے مجسمہ کی ڈھلائی کرنا گناہ عظیم ہے، شرعی طور سے ناجائز اور حرام ہے، کسی مسلمان کے لئے ایسی چیز کا آرڈر لینا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوادر/۱/۱۱۸)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. (بخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة ۲/ ۸۸۰، رقم: ۵۷۱۷، ف: ۵۹۵۰)

اشترى ثورا، أو فرسا من خزف لأجل استيناس الصبي لا يصح ولا قيمة له، فلا يضمن متلفه. (شامي، كتاب البيوع، باب المتفرقات، زكريا ۷/ ۴۷۸، كراچی ۵/ ۲۲۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ رزی الحج ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۳۱/۴۰)

تصویریں اور مجسمے بنانا

سوال [۱۹۷۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک سپورٹر اور ایپو رٹر ہے، فیکٹری میں اکثر جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں اور بیرون ممالک ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، زید کی دائمی تجارت ہے، اس پر بندش بہت ہی دشوار ہے، مزید زید اس تجارت پر ہی حیات و زندگی کا مدار سمجھتا ہے، تو آیا ایسی تجارت کرنا کیسا ہے؟ اور تصویریں بنانا کیسا ہے؟ جواز کی گنجائش ہے یا ممانعت؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد ہارون بھاگلپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تصویریں اور مجسمے بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو کسی جاندار کی تصویر اور شکل بناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم ہی اس میں جان ڈالو اور وہ اس میں جان نہیں ڈال سکیں گے، جس کی وجہ سے ان پر مسلسل سخت ترین عذاب ہوتا رہے گا؛ لہذا مسلم کارگیروں اور ایکسپورٹروں پر لازم ہے کہ ایسا آرڈر لینے سے صاف انکار کر دیں رزق کا مالک خدائے رزاق ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے؛ اس لئے اس کی پرواہ نہ کریں۔ (ایضاح النوادر/ ۷۹-۸۰)

عن عبد اللہ بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ۲/ ۸۸۰، رقم: ۵۷۱۷، ف: ۵۹۵۰، مسلم شريف، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، النسخة الهندية ۲/ ۲۰۱، بيت الأفكار، رقم: ۲۱۰۹)

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ. (صحيح البخاري، باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، النسخة الهندية ۲/ ۸۸۱، رقم: ۵۷۳۰، ف: ۵۹۶۳، صحيح مسلم، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، النسخة الهندية ۲/ ۲۰۲، بيت الأفكار، رقم: ۲۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۵/۱ھ

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

کیم جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۸۰۴)

فوٹو کھینچنے کی اجرت کا حکم

سوال [۹۷۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید ایک مسلمان ہو کر پُجوتہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کا کام فوٹو کھینچنا ہے اور دوکان بھی فوٹو کھینچنے کی ہے، کیا اس کا اس پیسے سے اپنی اولاد کو پڑھانا اور نان و نفقہ میں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کے جواب سے نوازیں۔

المستفتی: عبدالقادر بھگلپوری خادم مدرسہ دینیہ مسلم یتیم خانہ شاہی عید گاہ جونپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: فوٹو اور تصویریں کھینچنا سخت گناہ ہے، حدیث میں سخت وعید آئی ہے، اس کی آمدنی اگرچہ بالکل حرام نہیں ہے؛ لیکن مکروہ ضرور ہے، کراہت کے درجہ کے مال سے فائدہ اٹھانا اور بچوں پر خرچ کرنا بھی مکروہ ہوگا۔

عن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. (المصنف لابن أبي شيبة، في المصورين وما جاء بهم، مؤسسة علوم القرآن ۱۲ / ۶۰۶، رقم: ۲۵۷۱۹)

وعن محمد: رجل استأجر رجلاً ليصور له صوراً، أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط، فإني أكره ذلك، وأجعل له الأجر. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۵ / ۱۳۰، رقم: ۲۲۴۳۱، هندية، كتاب الإجارة، الباس السادس عشر في مسائل الشيوع زكريا قديم ۴ / ۴۵۰، جديد ۴ / ۴۸۶)

إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ۹ / ۵۶۲، كراچی ۶ / ۳۹۲، مجمع الأنهر، دارالكتب

العلمیة بیروت ۴/ ۱۸۸، مصری قدیم ۲/ ۵۳۰، تبیین الحقائق، إمدادیه ملتان ۶/ ۲۹،
زکریا ۷/ ۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ شوال ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/ ۵۴۹۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵/۱۰/۱۴۱۸ھ

فوٹو گرافی اور اس کی اجرت

سوال [۹۷۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: دو بھائیوں میں ان بن ہوئی، ایک بھائی حافظ ہے، دوسرا بھائی فوٹو گرافر ہے، حافظ صاحب کا اپنے بھائی فوٹو گرافر کے یہاں نہ جانا اور نہ کسی کو جانے دینا، نہ فوٹو گرافر کے یہاں کھانا کھانا اور نہ کسی کو کھانے دینا، عید ہو چاہے بقرعید، نہ مسجد میں اس کا مال لینے دینا اور یہ کہنا کہ اس کا کھانا حرام ہے، فوٹو گرافر اور اس کے اہل و عیال کہتے ہیں: اس سے بہتر تو ہم ہندو و غیر مسلم ہی ہو جائیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا مال مسجد و مدرسہ میں لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے گھر کا کھانا جائز ہے؟

المستفتی: محمد یامین، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فوٹو گرافی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کے ذریعہ کمایا ہوا پیسہ مکروہ ہے، ایسے مال کو مسجد یا مدرسہ میں دینا لینا سب ناجائز ہے۔ اور ایسے شخص کے یہاں دعوت کھانا بھی درست نہیں ہے۔

عن عمران بن حصین - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (شعب الإيمان للبيهقي، فصل في طيب

المطعم والمشرّب، دارالكتب العلمیة بیروت ۵/ ۶۸، رقم: ۵۸۰۳)

وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان شديد

التحريم، وهو من الكبائر. (شرح المسلم للنووي ۲ / ۱۹۹)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب، فيكره؛

لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله. (شامي، كتاب

الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساجد، كراچی

۱ / ۶۵۸، زكريا ۲ / ۴۳۱، درر الحکام شرح غرر الأحكام ۱ / ۱۱۱)

صورت مسؤلہ میں حافظ صاحب کو چاہئے کہ وہ فوٹو گرافر کو سمجھا جھا کر دین سے قریب لائیں،

اگر ترک تعلق سے کام چلے تو مناسب ہے، ورنہ زیادہ شدت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔

أذُعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ. [النحل: ۱۲۵] فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۳۲ / ۲۸۱۵)

”فوٹو گرافی“ اور ”ویڈیو سازی“ کا حکم

سوال [۹۷۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: عمر فوٹو کا کام کرتا ہے، جہاں اسے فوٹو کھینچنا، مختلف پروگراموں میں ویڈیو فلم بنانا وغیرہ کا

کام کرنا پڑتا ہے، تو عمر کا یہ کام جائز ہے یا ناجائز؟ شریعت کی روشنی میں جواب دے کر

عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: محمد زکریا دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: فوٹوگرانی یا ویڈیو سازی اگر محض تفریح یا خبر رسائی یا مختلف دنیاوی اور فحش پروگراموں یا خالص اصلاحی و دینی پروگراموں میں کی جائے تو وہ ناجائز ہے؛ البتہ اگر دین کی ضرورت مثلاً باطل فرقوں کے پیر و پیگنڈوں کے خلاف مسلمانوں کی آواز کو مضبوط اور باوزن بنانے کی غرض سے ہو یا پاسپورٹ اور ویزا کے لئے سادی تصویریں کھینچی جائے تو اصلاً ناجائز ہونے کے باوجود ”الضرورات تبیح المحضورات“ کے ضابطہ کے تحت علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ یہی تفصیل فوٹوگرانی یا ویڈیو سازی کا پیشہ اپنانے میں بھی ہے، اگر ان آلات کا جائز استعمال کیا جائے تو یہ پیشہ جائز اور اگر ناجائز استعمال کیا جائے تو ناجائز ہے؛ لیکن بہر دو صورت حاصل ہونے والی آمدنی چونکہ اپنی محنت اور عمل کا بدلہ ہے؛ اس لئے وہ حلال ہے اور اس کا حکم بھی بینک کی تنخواہ کی طرح ہے، تاہم احتیاط یہاں بھی بہتر ہے۔

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. (مسند أحمد بن حنبل ۱ / ۳۷۵، رقم: ۳۵۵۸)

عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي - رضي الله عنه -: ما حفظت من رسول الله؟ قال: حفظت من رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (سنن الترمذي، باب بلا ترجمة، النسخة الهندية ۲ / ۷۸، دارالسلام، رقم: ۲۵۱۸) الأمور بمقاصدها. (الأشباه ۵۳)

رجل استأجر رجلا ليصور له صورة، أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط، فإني أكره ذلك، وأجعل له الأجرة. (هندية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوخ زكريا قديم ۴ / ۴۵۰، جديد ۴ / ۴۸۶)

الأجرة إنما تكون في مقابلة العمل. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، زكريا ۴ / ۳۰۷، كراچی ۳ / ۱۵۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/رجب المرجب ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۶۴/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵/۷/۱۴۳۲ھ

فوٹو گرافی اور اس کے رول کا کاروبار کرنا

سوال [۹۷۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: فوٹو گرافی کے لئے جو رول استعمال کئے جاتے ہیں، جس میں تصویر محفوظ ہوتی ہے، اس کا کاروبار کرنا اور بصورت مجبوری فوٹو گرافی کا کاروبار کرنا جب تک دوسری کوئی کاروبار کی شکل نہ ملے؛ اس لئے یہ کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بیان فرمائیں۔

المستفتی: بشیر احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فوٹو گرافی کے رول کے اندر معصیت استعمال کرنے والے کے فعل سے پائی جاتی ہے کہ اگر خریدار اس کو ناجائز تصویر کشی کے لئے خریدتا ہے تو اس کا یہ فعل ممنوع اور ناجائز ہے؛ لیکن اس کو جائز تصویر کشی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے؛ لہذا اس رول کی نفس تجارت تو جائز ہے؛ لیکن چونکہ اکثر و بیشتر اس کا استعمال ناجائز تصویر کشی ہی کے لئے کیا جاتا ہے؛ لہذا اس کا کاروبار کرنا مکروہ ہوگا۔

وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (شامی، کتاب الحظر

والإباحة، باب الاستبراء وغيره، کراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۵۶۲، تبیین الحقائق، إمدادیہ

ملتان ۶/۲۹، زکریا ۷/۶۴)

بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح إنه جائز؛ لأن الممنوع عنه

نفس الغناء والنوح لا کتابتهما. (بدائع الصنائع، کتاب الإجارة، باب الاستئجار

علی المعاصی، زکریا ۴/۳۹، کراچی ۴/۱۸۹)

اور فوٹو گرائی سخت گناہ ہے، اس کی آمدنی بھی مکروہ تحریمی ہے؛ لہذا اس کا روبا رو کو چھوڑ دینا لازم ہے۔

و علی هذا یخرج الاستئجار علی المعاصی أنه لا یصح؛ لأنه استئجار علی منفعة غیر مقدورة الاستیفاء شرعا کاستئجار الإنسان للعب واللہو، و کاستئجار المغنیة والنائحة للغناء والنوح. (بدائع الصنائع، کتاب الإجارة، باب الاستئجار علی المعاصی، زکریا ۴/ ۳۹، کراچی ۴/ ۱۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۵۳۴)

’ڈش انٹینا‘ کا کاروبار کرنے کا حکم

سوال [۹۷۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زاہد کا کاروبار ’ڈش انٹینا‘ کا ہے، یعنی ٹیلی ویژن پر صرف دو اسٹیشن لگتے ہیں، اگر ڈش انٹینا کا کنکشن لگا دیا جائے تو متعدد اسٹیشن لگتے ہیں، ڈش انٹینا کی وجہ سے بڑھنے والے اسٹیشنوں پر فائیس بھی آتی ہیں، تفریحی ناچائز پروگرام بھی آتے ہیں، اور خبریں بھی آتی ہیں، جائز معلوماتی پروگرام بھی آتے ہیں، ڈش کا کنکشن لینے والے پر یہ ہے کہ وہ اس کا جائز استعمال کرے، جائز چیزوں کے لئے کنکشن دینے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اسٹیشنوں کا مرکز سے کنکشن دے، جس کا وہ کرایہ ادا کرتا ہے اور پھر جن کو کنکشن دیتا ہے ان سے کرایہ وصول کرتا ہے، کنکشن کو جائز کام کے لئے استعمال کریں یا ناجائز کے لئے یہ کنکشن لینے والے پر منحصر ہے، زاہد اسی ڈش انٹینا کا کاروبار کرتا ہے، تو دریافت یہ ہے کہ یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ناجائز ہے؟ تو کیا زاہد کی آمدنی حرام ہے؟ اس کے گھر کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یامین آزاد، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ٹیلی ویزن اور ڈش انٹینا کا کنکشن دوسروں کو دینا اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانا مکروہ اور ممنوع ہے، چاہے کنکشن لینے والے اس کو معلوماتی چیزوں کے لئے استعمال کریں یا فلموں کے لئے؛ کیوں کہ یہ معلوماتی پروگرام دینے سے بڑھ کر عیاشی اور فحاشی کا آلہ ہے؛ اس لئے تعاون علی المعصیت کی وجہ سے ڈش انٹینا کا کنکشن دے کر اس سے روپیہ حاصل کرنا ممنوع ہے۔ اور ایسے شخص کے یہاں اگر دوسری حلال آمدنی نہ ہو تو اس کے یہاں کھانا کھانے سے احتیاط رکھنی چاہئے۔ (احسن الفتاویٰ ۶/۵۳۵)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

[المائدة: ۲]

عن عمران بن حصین - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ۱۸/۱۶۸، رقم: ۳۷۶)

إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا لبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد ولا أجر له عندهما. (مبسوط سرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۱۶/۳۸)

ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل، وشيء من اللهو؛ لأنه معصية والاستئجار على المعصية باطل. (مبسوط سرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۱۶/۳۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۱۷ جب ۱۴۲۳ھ

۱۸/۷۱۳۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۷۵۶)

حرام اور جائز پروگرام والے چینل کی آمدنی کا حکم

سوال [۹۷۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: چینل یہ ایک طرح کا ٹی وی چینل ہے، جس پر ہر قسم کے پروگرام مثلاً ناچ گانے، گندے ڈرامے، فحش و عریاں فلمیں، کھیل کود، نیز اسلامی پروگرام جیسے تلاوت کلام پاک، تقاریر، تفسیر قرآن، رمضان کی تراویح، مکہ معظمہ کے مناظر، حج بیت اللہ شریف وغیرہ سب ہی آتے ہیں، زید بحیثیت کاروبار یہی کام کرتا ہے، یعنی گھر گھر کنکشن بانٹ کر ماہانہ کثیر آمدنی کرتا ہے، اس وقت یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ایسا کاروبار شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

(۲) عدم جواز کی صورت میں حاصل شدہ مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

(۳) صدقہ کرنا اس مال کا کیسا ہے؟ یعنی ثواب کا مستحق ہوگا یا نہیں؟

(۴) ایسے شخص کی دعوت قبول کرنی چاہئے یا نہیں؟ یا صراحتاً انکار کر دے؟

(۵) ایسے شخص سے قرض وغیرہ لینے میں کوئی قباحت ہے یا نہیں؟

المستفتی: قاری شکیل صاحب، ٹائٹلڈ رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) اس میں جائز اور ناجائز دونوں طرح کے پروگرام آتے ہیں، اس لئے یہ کاروبار کراہت تحریمی کے حکم میں ہے اور اس کا پیسہ بھی مکروہ تحریمی اور مشتبہ ہے۔ اور مشتبہ مال سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے؛ لہذا اس سے زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا؛ کیوں کہ اس کو بالکل حرام نہیں کہا گیا ہے، مسلمانوں کو اس قسم کا کاروبار کرنا، حلال کمائی سے اپنے آپ کو محروم کر کے مکروہ اور مشتبہ رزق میں ملوث کرنا ہے، جو کسی وقت بالکل حرام خوری تک پہنچا سکتا ہے؛ اس لئے مسلمانوں کو ایسے کاروبار سے دور رہنا چاہئے اور حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔

عن عبد الله -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (السنن الكبرى للبيهقي، باب كسب الرجل وعمله وبيده، دارالفكر ۹/۵۶، رقم: ۱۱۹۰۷، شعب الإيمان، باب في حقوق الأولاد والأهلين، دارالكتب العلمية بيروت ۶/۴۲۰، رقم: ۸۷۴۱)

(۳) ایسے مال کے صدقہ کرنے میں بالکل حلال اور صاف مال کے صدقہ کی طرح ثواب کی امید نہیں ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

[المائدة: ۲]

(۴) جیسے اس کا مال مشتبہ ہے ایسے ہی اس کی دعوت بھی مشتبہ ہے؛ اس لئے ایسے شخص کے یہاں دعوت قبول نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالفكر ۱/۱۳۸، رقم: ۴۴۱، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ۱۸/۱۶۸، رقم: ۳۷۶، مشکوة ۱/۲۷۹، شعب الإيمان للبيهقي، فصل في طيب المطعم والمشرب، دارالكتب العلمية بيروت ۵/۶۸، رقم: ۵۸۰۳)

وفي هامش المشكوة: ويسقط الإجابة بأعذار نحو كون الشبهة في

الطعام. (مشكوة ۱/۲۷۹)

(۵) بہتر تو یہ ہے کہ جس کے یہاں بالکل پاک و صاف مال ہوتا ہے، اس کے یہاں سے قرض لیا جائے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ضرورت میں اس کے یہاں سے بھی قرض لینے کی گنجائش ہے۔

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه، ص: ۱۴۰، قواعد الفقه أشرفي،

ص: ۸۹، رقم: ۱۷۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/شعبان ۱۴۲۳ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۷۹۰)

’ٹی وی‘ مرمت کرنے کی اجرت

سوال [۹۷۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) زید صرف ’ٹی وی‘ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں جانتا ہے اور وہ ’ٹی وی‘ کی اجرت لے کر اپنا گھر چلاتا ہے، ’ٹی وی‘ کی اجرت لے کر اپنے مصرف میں لانا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) زید کسی عالم کی دعوت کرتا ہے اور اسی پیسہ سے کھانا کھلاتا ہے، تو کیا وہ عالم اس کی دعوت قبول کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر قبول کر کے کھانا کھالیا تو وہ کھانا اس عالم کے لئے حرام ہوگا یا نہیں؟ (۳) ٹی وی میں خبریں سننا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالشکور، متعلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی رقم کے بارے میں حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تعاون علی المعصیت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بلا کراہت حلال ہے؛ لہذا متقی آدمی اگر اس کے یہاں مدعو ہو تو دعوت قبول کر لینے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے قول پر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے قول پر قبول نہ کرنا بہتر ہے؛ لہذا حسب گنجائش احتیاط بہتر ہے۔

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغیره، کراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۵۶۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة

بیروت ۴ / ۱۸۸، مصری قدیم ۲ / ۵۳۰، تبیین الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶ / ۲۹، زکریا
۷ / ۶۴-۶۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۳/۹ھ

۹ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱ / ۳۸۹۷)

”ٹی وی“، ”وی سی آر“ کی فلمیں بنانا اور اس کی اجرت

سوال [۹۷۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید اپنا کام کرتا تھا، جس سے ضروریات کا تکفل ہوتا رہتا تھا، اب ضعف اور مسلسل امراض کی وجہ سے کام کرنے سے بالکل معذور ہے، زید کا ایک لڑکا مزدوری وغیرہ کر لیتا ہے، جو ضروریات کے لئے بالکل ناکافی رہتی ہے، دوسرا لڑکا ٹھیکہ داری کا کام کرتا ہے، اب اس نے یہ کام چھوڑ کر وی سی آر اور ٹی وی کی فلمیں بنانا شروع کر دیں ہیں، اور اب وہ اس آمدنی سے اپنے بوڑھے والدین زید و وجہ زید اور چھوٹے بہن بھائی کی ضروریات زندگی علاج معالجہ، کپڑے وغیرہ میں تعاون کرتا رہتا ہے، اگر اس کا تعاون قبول نہ کیا جائے تو ضروریات پوری ہونے میں بڑی دشواری ہوگی اور مزید مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی، ایسی صورت میں زید اپنے اس لڑکے کا تعاون قبول کر سکتا ہے یا نہیں؟ بصورت دیگر کیا کرے؟

المستفتی: شریف احمد مدرسہ شمس العلوم بریلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ”ٹی وی“، ”وی سی آر“ کی فلمیں بنانا یا اس میں کام کرنا

قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷/۳۰۷)

زید کو چاہئے کہ حلال کسب معاش اختیار کرے، دنیا میں حلال کمائی کے بہت سے ذرائع موجود ہیں۔

عن عبد الله -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (شعب الإيمان، باب في حقوق الأولاد والأهلين، دار الكتب العلمية بيروت ۶/ ۴۲۰، رقم: ۸۷۴۱، السنن الكبرى للبيهقي، باب كسب الرجل وعمله وبيده، دار الفكر ۹/ ۵۶، رقم: ۱۱۹۰۷)

باپ کو چاہئے کہ بیٹے کو حلال ذریعہ معاش اختیار کرنے کی تلقین کرے اور حرام آمدنی سے جو کچھ حاصل ہو اس کو نہ لے۔

كما تستفاد من عبارة الهندية: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب مالا من أمر السلطان، وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمة، وغير ذلك، هل يحل لأخذ عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في دينه أن لا يأكل منه. (هندية، كتاب الكراهية والاستحسان، الباب الخامس عشر في الكسب، زكريا قديم ۵/ ۳۵۰، جديد ۵/ ۴۰۴، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۸/ ۶۴، رقم: ۹۵۹۴، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۱۸/ ۱۵۸، رقم: ۲۸۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸ھ/۷/۱۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ رجب ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۳۸۲)

”ٹی وی“، ”سی ڈی“ کی مرمت کی اجرت

سوال [۷۴۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید الیکٹرانک مستری ہے اور الیکٹرانک سامان کی خرید و فروخت بھی کرتا ہے اور مرمت بھی، مثلاً ”ٹی وی“، ”سی ڈی“، ”ریڈیو“، ”ڈیگ“ وغیرہ کی مرمت بھی کرتا ہے اور خرید و فروخت بھی چارجز، اسٹپلا نزر، ایف ایم ویڈیو گیم، چارجنگ، ٹارچ، وی سی پی کو سدھارتا ہے، دوکان کئے ہوئے تقریباً دس سال کا عرصہ گزر گیا، اب کسی دوست نے صلاح دی کہ

بھائی زید یہ کام دھندہ چھوڑ دو؛ کیوں کہ اس کی آمدنی ناجائز اور روزی حرام ہے، ان باتوں کو سن کر زید کافی غمزدہ ہے کہ اب دوسرا کام سیکھنے کی نہ تو عمر ہے اور نہ ہی وقت اجازت دیتا ہے؛ اس لئے زید مجبوری کے تحت کیا کرے؟ کیا حقیقت میں ان کے کاروبار کی آمدنی ناجائز اور حرام ہے؟ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں، نوازش ہوگی۔

نوٹ: کیا ”ٹی وی“، سی ڈی، ریڈیو، ڈیگ کی ریپرنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: فیضان میڈیکل اسٹور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ”ٹی وی“ کی مرمت جائز نہیں؛ اس لئے کہ اس کا استعمال اصلۃً اور اکثریتِ فلمی پروگرام میں ہوتا ہے اور آلات لہو و لعب کی مرمت تعاونِ علی المعصیۃ کی وجہ سے جائز نہیں۔ اور اس کی اجرت بھی مکروہ ہے حرام نہیں۔

و علیٰ هذا یخرج الاستئجار علی المعاصی أنه لا یصح؛ لأنہ استعمال علی منفعة غیر مقدورة الاستیفاء شرعاً کاستئجار الإنسان للعب والہو، و کاستئجار المغنیة والنائحة للغناء والنوح. (بدائع، کتاب الإجارة، باب الاستئجار علی المعاصی، زکریا ۴/ ۳۹، کراچی ۴/ ۱۸۹)

سی ڈی، ریڈیو، ڈیگ اور کیسٹ، اسٹپلائزر، چارجر وغیرہ اکثر و بیشتر جائز امور میں استعمال ہوتے ہیں؛ اس لئے ان اشیاء کی مرمت کی گنجائش ہے؛ چنانچہ اس سال حج کے موقع پر بڑے بڑے علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث کی سی ڈی لا کر اپنے اپنے کمپیوٹر میں داخل کر لی ہے؛ لہذا مرمت کے بعد جو لوگ ان اشیاء کو ناجائز امور میں استعمال کریں گے انہیں پر گناہ ہوگا، مرمت کرنے والے پر نہیں۔

وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (شامی، کتاب الحظر

والإباحة، باب الاستبراء وغیرہ، کراچی ۶/ ۳۹۲، زکریا ۹/ ۵۶۲، تبیین الحقائق، إمداد بہ

ملتان ۶/۲۹، زکریا ۷/۶۴

بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح إنه جائز؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح لا كتابتهما. (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، باب الاستئجار

على المعاصي، زکریا ۴/۳۹، کراچی ۴/۱۸۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

یکم صفر ۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵/۲/۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷/۸۲۷)

ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کی مرمت اور اس کی اجرت

سوال [۹۷۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: میں ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ اور ٹی وی کی مرمت کرتا ہوں اور مرمت کرنے میں جو پرزے خراب ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے پرزے لگاتا ہوں، تو مرمت کی اجرت اور ان نئے پرزوں کی قیمت وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟

ٹی وی، وی سی آر اور ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ کے صرف پرزے کی دوکان کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: دلشاد احمد البانغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) یہ کام تعاون علی المعصیت ہونے کی وجہ سے مکروہ

ہے، مگر اس کی اجرت اور پرزے کی قیمت حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بلا کراہت حلال

ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ کے نزدیک مکروہ تتریبی ہے۔

آجرہ نفسہ لیرعی له الخنازیر یطیب له الأجر عندہ، وعندہما

یکرہہ۔ (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغیرہ، کراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/

۵۶۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۱۸۸، مصری قدیم ۲/۵۳۰، تبیین

الحقائق، إمدادیہ ملتان ۶/۲۹، زکریا ۷/۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

(۲) تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

[المائدة: ۲] فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۸۷۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۲/۱۴۱۵ھ

ٹی وی کی مرمت پر اجرت لینا اور اس کے استعمال کا حکم

سوال [۹۷۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: آج کل چونکہ ٹی وی ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے، ایک شخص جو ٹی وی کی مرمت کرتا ہے، اور اس سے کما کر کھاتا ہے، اور دوسروں کو بلا کر دکھاتا ہے، جب اس سے کہا گیا کہ یہ کام غلط ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تو میری روزی ہے اور یہی پیشہ ہے، کیا ایسے شخص کے یہاں کھانا کھانا اور تعلیم دینا درست ہے یا نہیں؟ اور اس سے ٹیوشن کا پیسہ لینا کیسا ہے؟ اور اس کے کمرے میں ٹی وی ہے جبکہ وہ مسلمان بھی ہے؛ اس لئے عرض ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ فقط والسلام

المستفتی: محمد یونس مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹی وی کی مرمت کرنا اور اس کو ذریعہ معاش بنانا اور لوگوں کو بلا کر دکھانا یہ سب ناجائز ہے، اس کا ترک لازم ہے۔ اور ٹی وی کی مرمت سے جو آمدنی حاصل ہوئی ہے وہ محنت کا پیسہ ہے، اس لئے وہ حرام نہیں ہے؛ لیکن اعانت علی المعصیت کی وجہ سے وہ آمدنی کراہت کے درجہ میں ہوگی اور اس کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے اور تعلیم دے کر اجرت لینا درست ہے۔

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، كراچی ۳۹۲/۶، زکریا ۵۶۲/۹، ہدایۃ أشرفی ۴/۷۳، البحر الرائق، زکریا ۸/۳۷۲، کوئٹہ ۸/۲۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ شعبان ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۱۲/۲۶)

مندرجہ کی تعمیر میں مزدوری کرنا

سوال [۹۷۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: مستزی رفیق احمد راج گیری کا کام کرتے ہیں، وہ آج کل ایک مندر کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، جب کہ مندر میں پوجا پاٹ اور اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کے کام ہوتے ہیں، ان کو بہت سے لوگوں نے منع بھی کیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم خود تو اس میں پوجا نہیں کر رہے ہیں؛ بلکہ صرف مزدوری کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے، تو دوسرے آدمی سے وہ کام کرائیں گے، ہمارے کام نہ کرنے سے مندر بننا رک نہیں جائے گا، تو کیا ان کے لئے وہاں کام کر کے پیسہ لینا جائز ہے؟ اور ان کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتی: محمد ندیم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مندر وغیرہ کی تعمیر میں مزدوری کرنا تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ و ممنوع ہے اور اس کی اجرت بھی مکروہ ہے؛ اس لئے مسلمانوں کو مندر وغیرہ میں مزدوری سے گریز کرنا ضروری ہے۔

و عندهما يكره؛ لأنه إعاذة على المعصية. (الدرالمستقى، كتاب الكراهية، فصل في الكسب، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۱۸۷، مصري قديم ۲/ ۵۳۰، شامي، زكريا ۹/ ۵۶۳، كراچی ۶/ ۳۹۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/ ۷۰۲۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۱۲/۲۳ھ

انشورنس کمپنی یا بینک کی ملازمت

سوال [۹۷۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: الف: انشورنس کمپنی یا بینک والے کسی فرد کو ایجنٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو لائف انشورنس کا ممبر بنا دیا کسی کو ہمارے بینک سے قرض دلا دو تو تم کو چند فیصد معاوضہ دیں گے، از روئے شرع یہ معاوضہ درست ہے یا نہیں؟

ب: انشورنس کمپنی یا بینک میں ملازمت اور اس کی تنخواہ کیسی ہے؟

ج: کسی کو بینک یا انشورنس کمپنی تک رہنمائی کر کے بینک سے یا انشورنس کمپنی سے طے شدہ رقم لینا کیسا ہے؟

د: موجودہ دور میں بینک سے بغیر کاروبار کئے اور انشورنس کمپنی سے دوکان اور جان کا بغیر انشورنس کئے گزارہ تقریباً ناممکن ہے، انشورنس کمپنی کا اصول ہے، اگر کوئی فرد دوکان یا جان کا انشورنس کرا کے صرف ایک قسط رقم جمع کرے اور ناگہانی موت ہوگئی یا دوکان جل گئی تو مکمل رقم دیتی ہے، یہ رقم لینا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: الف-ب: انشورنس کمپنی یا بینک کا ایجنٹ بننا یا اس کی

ملازمت کرنا ناجائز اور اعانت علی المحصیت ہے، اسی طرح ممبر بنانے کا معاوضہ یا تنخواہ لینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسے شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

عن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربو ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء، وفي التكملة: لأن كتابة الربا إعانة عليه، ومن هنا ظهر أن التوظف في البنوك الربوية لا يجوز - إلى قوله - كذلك حرام لوجهين الأول إعانة على المعصية، والثاني أخذ الأجرة من المال الحرام. (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب لعن أكل الربو ومؤكله، أشرفه ديوبند ۱/ ۶۱۹)

ج: یہ بھی محصیت کی ملازمت ہے، ایسی ملازمت بھی جائز نہیں ہے۔

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة: ۲]

د: یہاں پر دو چیزیں ہیں: (۱) زندگی کا بیمہ کرنا یا ذمہ داری کا بیمہ کرنا، ان کے اندر سود اور قمار دونوں موجود ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مستحق لعنت اور گناہ ہیں، اور اس میں جو رقم ملتی ہے، اس کا کھانا قطعاً حرام ہے اور یہ جو کھا گیا ہے کہ زندگی کا بیمہ کرائے بغیر گزارہ نہیں ہوتا یہ درست نہیں ہے۔

(۲) املاک یعنی دوکان، مکان اور گاڑی وغیرہ کا بیمہ کرنا یہ ضرورت کی بنا پر جائز ہے اور اس میں کسی طرح کا بھی سود نہیں ہوتا؛ بلکہ متعینہ مدت کے لئے جو رقم جمع کی گئی ہے، وہ واپس نہیں آتی ہے؛ اس لئے اس میں سود کے کوئی معنی موجود نہیں ہوتے ہیں، ہاں البتہ کبھی حادثہ پیش آجائے تو منجانب کمپنی اس کی تلافی کی مدد پیش کرتی ہے اور ایسا واقعہ آنا امر متروک فیہ ہے، جو حقیقی قمار نہیں ہے؛ بلکہ شبہہ الشبہ ہے، جس کی کسی درجہ میں ضرورت اور عموم بلوئی کی وجہ سے گنجائش ہے۔

ياذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدى ذلك المستأمن للتجارة بدله تماماً، والذي يظهر لي

أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك. (شامي، كتاب الجهاد، باب المستأمن، مطلب

مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمي سوكره..... زكريا ۶/ ۲۸۱، كراچی ۴/ ۱۷۰)

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه، قديم/ ۱۴۰)

إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

(الأشباه، قديم/ ۱۴۵، مستفاد: إيضاح النوادر ۱/ ۱۴۳-۱۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/ رجب ۱۴۲۷ھ

۱۴۲۷/۷/۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/ ۹۰۲۷)

پتنگ بنانے کی اجرت

سوال [۹۷۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: میں پتنگ بناتا ہوں، ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جیسے پتنگ اڑانا ناجائز

ایسے ہی پتنگ بنانا ناجائز، جب کہ ہمارے کئی رشتہ داروں کا خرچ اسی سے چلتا ہے؟

المستفتی: رئیس احمد مسجد بڑی توڑی پرسدھی دروازہ اوجین، ایم پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پتنگ بنانے کی اجرت تو فی نفسہ جائز ہے؛ لیکن یہ عمل

اعانت علی المعصیت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے اور یہ عمل قابل ترک ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ

قدیم ۶/ ۲۷۲، جدید زکریا ۱۰/ ۱۴۷، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/ ۳۹۱، ڈبھیل ۱۶/ ۱۳۴، احسن الفتاویٰ ۸/ ۱۸۶)

فإن كان يطيرها فوق السطح مطالعا على عورات المسلمين،

ويكسر زجاجات الناس برميها تلك الحمامات عزرا، ومنع أشد المنع، فإن

لم يمتنع بذلك ذبحها. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء

وغیره، فصل في البيع، زكريا ۹/ ۵۷۵، كراچی ۶/ ۴۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/رجب ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۳۴/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/۷/۱۴۲۱ھ

”ویڈیو گیم“ کرایہ پر چلانا

سوال [۹۷۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ”ویڈیو گیم“ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ویڈیو گیم، ٹی وی کی طرح ہوتا ہے اور اس ٹی وی کا تعلق رموٹ کنٹرول سے ہوتا ہے، رموٹ میں چند بٹن ہوتے ہیں، جن کو دبانے سے سامنے رکھے ہوئے ٹی وی پر مختلف قسم کی تصویریں ابھرتی ہیں، جیسے لڑکا، ہوائی جہاز، میزائل، ٹینک، کاروں کی ریس دوڑ ہوتی ہے، اسی طرح میزائل سے حملہ کیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا کھیل ہے، جو زیادہ تر بچے کھیلتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ویڈیو گیم کو کرایہ پر چلانا، مثلاً ایک روپیہ منٹ کیسا ہے؟ اور ویڈیو گیم کی تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: مسعود الظفر معرفت مولانا امام الدین نبینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”ویڈیو گیم“ ایک نیا کھیل ہے، اس میں اگر جاندار تصویر نہیں ہیں، صرف غیر جاندار کی تصویریں ہیں، جیسا کہ سوال نامہ میں درج ہے، تو یہ کھیل لوڈ و اور شطرنج کے مشابہ ہے اور شطرنج کھیلنا ناجائز اور ممنوع ہے: اس لئے کہ اس سے انسان فضول اوقات گزارنے اور وقت ضائع کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس میں جاندار کی تصویریں بھی آتی ہیں تو ناجائز اور ممنوع ہونے میں ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گا: اس لئے مسلمان بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے سے روکنا لازم ہوگا۔

کل لھو ما سوی الشطرنج حرام بالإجماع، وأما الشطرنج فاللعب

بہ حرام عندنا. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء واللہو وسائر

المعاصی والأمر بالمعروف، زکریا قدیم ۳۵۲/۵، جدید ۴۰۷/۵) اور ایسا کاروبار تعاون علی المعصیت کی وجہ سے امام ابو یوسفؒ و محمدؐ کے نزدیک مکروہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے؛ لیکن فتویٰ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، كراچی ۳۹۲/۶، زکریا ۵۶۲/۹، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۸۸/۴، مصري قدیم ۵۳۰/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۸۰۰)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۶/۶ھ

چاول میں ملاوٹ کرنے والے مزدوروں کی مزدوری کا حکم

سوال [۹۷۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید چاولوں میں ملاوٹ کرتا ہے، تو یہ ملاوٹ تو بالاتفاق حرام ہے؛ لیکن جو مزدور اس کو ملاتے ہیں، ان کی مزدوری جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: ظہیر الاسلام، معلم مدرسہ رحمانیہ ٹائڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فی نفسہ ملاوٹ کرنا حرام نہیں ہے؛ بلکہ اعلیٰ قسم کے چاول میں ادنیٰ قسم کا چاول ملا کر اعلیٰ قسم کا چاول کر کے فروخت کرنا ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس طرح فروخت کرنے میں خریدار کو دھوکہ دینا ہے، جو شرعاً ناجائز ہے؛ لہذا بعد میں جب خریدار کو ملاوٹ کا علم ہو جائے گا تو واپس کر دینے کا حق ہوگا۔

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله ﷺ: عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. (صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، النسخة الهندية ۲/۲، بيت الأفكار، رقم: ۱۵۱۳)

هو كل بيع دخله الغرر بوجه من الوجوه. (إعلاء السنن، باب النهي عن بيع الغرر، کراچی ۱۱۶/۱۴، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۴/۱۴۰، رقم: ۴۶۴۷)

وإذا أطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده. (هداية، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، اشرفي ۳/۳۵)
اور جو مزدور چاول میں ملاوٹ کی مزدوری کرتے ہیں، ان کی مزدوری جائز ہے؛ کیوں کہ ملاوٹ کو اسی کے معیار کے مطابق بھاؤ مقرر کر کے فروخت کیا جاسکتا ہے، اور جو غلط بتا کر بیچے گا، گنہگار وہی ہوگا۔

وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في المبيع، کراچی ۶/۳۹۲، زکریا ۹/۵۶۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/رجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۳۶/۲۵)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ